

# فتاویٰ رضویہ

مع تخریج و ترجمہ عربی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ



رضا فاؤنڈیشن

جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ لاہور

پاکستان (۵۳۰۰۰)

## Contents

4 .....	اجمالي فهرست
5 .....	<b>پیش لفظ</b>
9 .....	<b>تیسویں جلد</b>
10.....	<b>محترم قارئین عظام!</b>
13.....	<b>تحدیث نعمت</b>
13.....	از قلم حضرت علامہ مولانا الحاج محمد منشا تابش قصوری .....
13.....	سینئر مدرس جامعہ نظامیہ لاہور .....
14.....	<b>عظمیم ترین کارنامہ</b>
15.....	<b>مجددین و ملت:</b> ایک تعارف، ایک جائزہ .....
25.....	<b>فہرست مضامین مفصل</b>
61.....	<b>فہرست ضمنی مسائل</b>
71.....	<b>کتاب الشتی</b> (حجۃ چشم)
71.....	شرح کلام علماء و صوفیاء .....
93.....	<b>تجوید و قراءت</b>
95.....	<b>رسم القرآن</b>
113.....	<b>تشریح افلاک و علم توقیت و تقویم</b>
125.....	<b>سیرت و فضائل و خصائص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم</b>
129.....	<b>رسالہ</b>
129.....	<b>تجلی اليقین بانٽبیت نبیٰ ناسید المرسلین</b> <sup>۱۳۰۵ھ</sup>
129.....	(یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں) .....
267.....	<b>رسالہ</b>
267.....	<b>شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام</b> <sup>۱۳۱۵ھ</sup>
267.....	(رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء اجداد کرام کا مسلمان ہونا) .....

رسالہ ..... 307.....	<b>رسالہ ..... 307.....</b>
تمہید ایمان بآیات قرآن <sup>۱۴۲۴ھ</sup> ..... 307.....	تمہید ایمان بآیات قرآن <sup>۱۴۲۴ھ</sup> ..... 307.....
رسالہ ..... 359.....	رسالہ ..... 359.....
الامن والعلیٰ لذاعتی المصطفیٰ بدافع البلاء ..... 359.....	الامن والعلیٰ لذاعتی المصطفیٰ بدافع البلاء ..... 359.....
کلمہ دافع البلاء کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت بیان کرنے والوں کے لئے ..... 359.....	کلمہ دافع البلاء کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت بیان کرنے والوں کے لئے ..... 359.....
بلاؤں سے امن اور اُنکے مرتبے کی بلندی ہے ..... 359.....	بلاؤں سے امن اور اُنکے مرتبے کی بلندی ہے ..... 359.....
مسٹی بہ نام تاریخی ..... 359.....	مسٹی بہ نام تاریخی ..... 359.....
اکمال الطامة علی شرک سُوی بالامور العامة <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 359.....	اکمال الطامة علی شرک سُوی بالامور العامة <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 359.....
پوری قیامت ڈھانا (وابیوں کے اس) شرک پر جو امور عامہ کی طرح ..... 359.....	پوری قیامت ڈھانا (وابیوں کے اس) شرک پر جو امور عامہ کی طرح ..... 359.....
(موجود کی ہر قسم پر صادق) ہے ..... 359.....	(موجود کی ہر قسم پر صادق) ہے ..... 359.....
باب اول: ..... 379.....	باب اول: ..... 379.....
باب دوم: ..... 405.....	باب دوم: ..... 405.....
(رسالہ ﷺ) منیۃ اللبیب ان التشريح بید الحبیب <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 500.....	(رسالہ ﷺ) منیۃ اللبیب ان التشريح بید الحبیب <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 500.....
(عقلمند کا مقصد کہ بے شک احکام شرع حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں) ..... 500.....	(عقلمند کا مقصد کہ بے شک احکام شرع حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں) ..... 500.....
رسالہ ..... 637.....	رسالہ ..... 637.....
منہج المنیۃ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیۃ ..... 637.....	منہج المنیۃ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیۃ ..... 637.....
(محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش تک رسائی اور دیدار الہی کے بارے میں مطلوب سے خبردار کرنیوالا) ..... 637.....	(محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش تک رسائی اور دیدار الہی کے بارے میں مطلوب سے خبردار کرنیوالا) ..... 637.....
رسالہ ..... 657.....	رسالہ ..... 657.....
صلات الصفا فی نور المصطفیٰ <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 657.....	صلات الصفا فی نور المصطفیٰ <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 657.....
(نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان میں صفائی باطن کے انعامات) ..... 657.....	(نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان میں صفائی باطن کے انعامات) ..... 657.....
تقریظ ..... 687.....	تقریظ ..... 687.....
رسالہ ..... 695.....	رسالہ ..... 695.....
نفی الفی عمن استنار بنورہ کل شيء <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 695.....	نفی الفی عمن استنار بنورہ کل شيء <sup>۱۴۳۹ھ</sup> ..... 695.....
(اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہر مخلوق منور ہوئی) ..... 695.....	(اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہر مخلوق منور ہوئی) ..... 695.....

رسالہ ..... 715	رسالہ ..... 715
..... 715	..... 715
..... 715	..... 715
رسالہ ..... 737	رسالہ ..... 737
..... 737	..... 737
(سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سایہ کی نفی میں کامل چاند) ..... 737	هدی الحیران فی نفی الفیئ عن سید الکوافن <sup>۱۴۹۹ھ</sup> ..... 737
..... 737	..... 737



## فتاویٰ رضویہ

مع تخریج و ترجمہ عربی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ  
رضا فاؤنڈیشن

جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ لاہور نمبر ۸  
پاکستان (۵۳۰۰۰)

مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ (الحدیث)  
الْعَطَايَا النَّبِيَّةُ فِي الْفَتاوَى الرِّضْوَيَّةِ  
مع تخریج وترجمہ عربی عبارات

تحقیقات نادرہ پر مشتمل چودھویں صدی کا عظیم الشان

فقیہ انسائیکلوپیڈیا

جلد ۳۰

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز

۱۴۲۷ھ — ۱۳۳۰ھ

۱۸۵۶ء — ۱۹۲۱ء

رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ، لاہور، پاکستان (۵۳۰۰۰)

فون: ۰۳۱۳۷۲۵۷۲، ۰۴۲۷۳۱۳۷۲

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب	فتاویٰ رضویہ جلد ۳۰
تصنیف	شیخ الاسلام امام احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ترجمہ عربی عبارات	حافظ عبد التاریخ سعیدی، ناطم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور
پیش لفظ	حافظ عبد التاریخ سعیدی، ناطم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور
ترتیب فہرست	حافظ عبد التاریخ سعیدی، ناطم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور
تخریج و تصحیح	مولانا ناندیر احمد سعیدی، مولانا محمد اکرم اللہ بٹ، مولانا غلام حسین
باہتمام و سرپرستی	مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس الہلسنت، پاکستان
کتابت	محمد شریف گل، کڑیاں کلاں (گوجرانوالا)
پیغام	مولانا محمد منشاۃ بش قصوری معلم شعبہ فارسی جامعہ نظامیہ لاہور
صفحات	۷۷۲
اشاعت	رجب المرجب ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۵ء
طبع	
ناشر	رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوباری دروازہ، لاہور
قیمت	

### ملنے کے پتے

\*رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوباری دروازہ، لاہور

۰۳۰۰ / ۹۳۱۵۳۰۰  
۷۴۴۵۷۷۲

\*مکتبہ الہلسنت جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوباری دروازہ، لاہور

\*ضیاء القرآن پبلیکیشنز گنج بخش روڈ، لاہور

\*شبیر برادرز، ۲۰ بی، اردو بازار، لاہور

## اجمالي فهرست

پیش لفظ	
٥	
تحدیث نعمت	
١٣	
فہرست ضمنی مفصل مسائل	
٢٥	
فہرست مسائل ضمنیہ	
٦١	
شرح کلام علماء و صوفیاء	
٧١	
تجوید و قراءات	
٩٣	
رسم القرآن	
٩٥	
تشریح افلاک و علم توقیت و تقویم	
١١٣	
سیرت و فضائل و خصائص سید المرسلین	
١٢٥	
<b>فہرست رسائل</b>	
٠ تجلی اليقین	
١٢٩	
٠ شمول الاسلام	
٢٦٤	
٠ تمہید الایمان	
٣٠٧	
٠ الامن والعلی	
٣٥٩	
٠ منیۃ اللبیب (رسالہ ضمنی)	
٥٠٠	
٠ منبه المنيۃ	
٤٣٧	
٠ صلات الصفا	
٤٥٧	
٠ نفی الفی	
٤٩٥	
٠ قبر التیار	
٤١٥	
٠ هدی الحیران	
٤٣٧	

بسم اللہ الرحمن الرحيم

## پیش لفظ

الحمد لله! اعلیٰ حضرت امام اسلامین مولانا الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خزانہ علمیہ اور ذخیر فقہیہ کو جدید انداز میں عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق منظر عام پر لانے کے لیے مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث، قدوۃ العلماء، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم قادری ہزاروی علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۰ مئی) کی زیر پرستی دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں رضا فاؤنڈیشن کے نام سے جو ادارہ مارچ ۱۹۸۸ء میں قائم ہوا تھا وہ انتہائی کامیابی اور ررق رفتاری کے ساتھ مجوزہ منصوبہ کے ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تک یہ ادارہ امام احمد رضا کی متعدد تصانیف شائع کرچکا ہے جن میں بین الاقوامی معیار کے مطابق شائع ہونے والی مندرجہ ذیل عربی تصانیف خاص اہمیت کی حاصل ہیں۔

- (۱) الدوّلۃ المکبیۃ بالیادۃ الغیبیۃ (۱۴۳۲۳ھ)
- (۲) انباء العجیان کلامہ المصون تبیان کل شیعی مع التعليقات حasm المفتری علی السید البری (۱۴۳۲۶ھ)
- (۳) کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الداراہم (۱۴۳۲۸ھ)
- (۴) صیقل الرین عن احکام مجاوۃ الحرمين (۱۴۳۰۵ھ)
- (۵) هادی الاضحیۃ بالشاة الہندیۃ (۱۴۳۱۳ھ)
- (۶) الصافیۃ الموحیۃ لحكم جلود الاضحیۃ (۱۴۳۰۷ھ)

## (۷) الاجازات المتبینة لعلماء بکة والمدینۃ (۱۳۲۲ھ)

مگر اس ادارے کا عظیم ترین کارنامہ العطاًیا النبویۃ فی الفتاوی الرضویۃ المعروف بہ فتاویٰ رضویہ کی تحریر تج و ترجمہ کے ساتھ عمده و خوبصورت انداز میں اشاعت ہے۔ فتاویٰ مذکورہ کی اشاعت کا آغاز شعبان المظہم ۱۴۳۱ھ امدادی ۱۹۹۰ء میں ہوا تھا اور بفضلہ تعالیٰ جل مجده و بعنایت رسولہ الکریم تقریباً پندرہ سال کے مختصر عرصہ میں تیسیوں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے قبل شائع ہونے والی انتیس جدلوں کی مشمولات کی تفصیل سنین اشاعت، کتب وابواب، مجموعی صفحات، تعداد سوالات و جوابات اور ان میں شامل رسائل کی تعداد کے اعتبار سے حسب ذیل ہے:

صفحات	سنین اشاعت	تعداد رسائل	جوابات اسئلہ	عنوان	جلد
۸۳۸	شعبان المظہم ۱۴۳۱ھ مارچ ۱۹۹۰ء	۱۱	۲۲	كتاب الطهارة	۱
۷۱۰	رمضان ۱۴۳۲ھ نومبر ۱۹۹۱ء	۷	۳۳	كتاب الطهارة	۲
۷۵۶	شعبان المظہم ۱۴۳۲ھ فروری ۱۹۹۲ء	۶	۵۹	كتاب الطهارة	۳
۷۶۰	ربیع المرجب ۱۴۳۳ھ جنوری ۱۹۹۳ء	۵	۱۳۲	كتاب الطهارة	۴
۶۹۲	رمضان الاول ۱۴۳۱ھ ستمبر ۱۹۹۳ء	۶	۱۳۰	كتاب الصلاۃ	۵
۷۳۶	رمضان الاول ۱۴۳۱ھ اگست ۱۹۹۳ء	۳	۳۵۷	كتاب الصلاۃ	۶
۷۲۰	ربیع المرجب ۱۴۳۱ھ دسمبر ۱۹۹۳ء	۷	۲۶۹	كتاب الصلاۃ	۷
۶۶۳	محرم الحرام ۱۴۳۱ھ جون ۱۹۹۵ء	۶	۳۳۷	كتاب الصلاۃ	۸
۹۳۶	ذی القعده ۱۴۳۱ھ اپریل ۱۹۹۶ء	۱۳	۲۷۳	كتاب الجنائز	۹
۸۳۲	رمضان الاول ۱۴۳۱ھ اگست ۱۹۹۶ء	۱۶	۳۱۶	كتاب زکوة صوم. حج	۱۰
۷۳۶	محرم الحرام ۱۴۳۱ھ مئی ۱۹۹۷ء	۶	۳۵۹	كتاب النکاح	۱۱
۶۸۸	ربیع المرجب ۱۴۳۱ھ نومبر ۱۹۹۷ء	۳	۳۲۸	كتاب نکاح طلاق	۱۲
۶۸۸	ذی القعده ۱۴۳۱ھ مارچ ۱۹۹۸ء	۲	۲۹۳	كتاب طلاق ایمان اور حدود و تحریر	۱۳
۷۱۲	جمادی الاول ۱۴۳۱ھ ستمبر ۱۹۹۸ء	۷	۳۳۹	كتاب السیر	۱۴
۷۳۳	محرم الحرام ۱۴۳۱ھ اپریل ۱۹۹۹ء	۱۵	۸۱	كتاب السیر	۱۵

۲۳۲	جمادی الاولی ۱۹۹۹ ستمبر	۳	۲۳۲	كتاب الشرکة.كتاب الوقف	۱۶
۷۲۶	ذیقعدہ ۱۳۲۰ فروری ۲۰۰۰	۲	۱۵۳	كتاب البيع.كتاب الحوالہ.كتاب الكفالہ	۱۷
۷۳۰	رمضانی ۱۳۲۱ جولائی ۲۰۰۰	۲	۱۵۲	كتاب الشهادۃ.كتاب القضاۃ. الدعای	۱۸
۶۹۲	ذیقعدہ ۱۳۲۱ فروری ۲۰۰۱	۳	۲۹۶	كتاب الوکالت.كتاب الاقرار.كتاب الصلح.كتاب المضاربة.كتاب الامانات.كتاب العاریۃ.كتاب الہبہ.كتاب الاجماع.كتاب الاکراہ.كتاب الحجر.كتاب الغصب	۱۹
۲۳۲	صف المظفر ۱۳۲۲ مئی ۲۰۰۲	۳	۳۳۲	كتاب الشفعہ.كتاب القسیم.كتاب المزارعہ.كتاب الصید و الذبائح.كتاب الاضحیہ	۲۰
۲۷۶	رمضانی ۱۳۲۳ مئی ۲۰۰۲	۹	۲۹۱	كتاب الحظر و لایحة (حصہ اول)	۲۱
۶۹۲	جمادی الآخری ۱۳۲۳ اگست ۲۰۰۲	۶	۲۳۱	كتاب الحظر و لایحة (حصہ دوم)	۲۲
۷۲۸	ذوالحجہ ۱۳۲۳ فروری ۲۰۰۳	۷	۳۰۹	كتاب الحظر و لایحة (حصہ سوم)	۲۳
۷۲۰	ذوالحجہ ۱۳۲۳ فروری ۲۰۰۳	۹	۲۸۳	كتاب الحظر و لایحة	۲۴
۶۵۸	رجب المرجب ۱۳۲۳ ستمبر ۲۰۰۳	۳	۱۸۳	كتاب المداینات.كتاب الاشربہ.كتاب الرہن.باب القسم.كتاب الوصایا	۲۵
۶۱۶	محرم الحرام ۱۳۲۵ امارات ۲۰۰۳	۸	۳۲۵	كتاب الفرائض.كتاب الشقی حصہ اول	۲۶
۶۸۳	جمادی الآخری ۱۳۲۵ اگست ۲۰۰۳	۱۰	۳۵	كتاب الشقی حصہ دوسر	۲۷
۶۸۳	ذیقعدہ ۱۳۲۵ جنوری ۲۰۰۵	۶	۲۲	كتاب الشقی حصہ سوم	۲۸
۷۵۲	رجب المرجب ۱۳۲۶ اگست ۲۰۰۵	۱۱	۲۱۵	كتاب الشقی حصہ چھارم	۲۹

فتاویٰ رضویہ قدیم کی پہلی آٹھ جلدوں کے ابواب کی ترتیب وہی ہے جو معروف و متداول کتب فقہ و فتاویٰ میں مذکور ہے۔  
رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع ہونے والی میں جلدوں میں اسی ترتیب کو

ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مگر فتاویٰ رضویہ قدیم کی بقیہ چار مطبوعہ (جلد نہم، دہم، یازدہم، دوازدہم) کی ترتیب ابواب فقہ سے عدم مطابقت کی وجہ سے محل نظر ہے۔ چنانچہ ادارہ ہذا کے سرپرست اعلیٰ محسن اہلسنت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب اور دیگر اکابر علماء و مشائخ سے استشارة و استفسار کے بعد اداکین ادارہ نے فیصلہ کیا کہ بیسویں جلد کے بعد والی جلد و میں فتاویٰ رضویہ کی قدیم جلد و میں کی ترتیب کے بجائے ابواب فقہ کی معروف ترتیب کو بنیاد بنا لیا جائے، نیز اس سلسلہ میں بحر العلوم حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کی گرانقدر تحقیق اینیں کو بھی ہم نے پیش نظر رکھا اور اس سے بھرپور استفادہ اور راہنمائی حاصل کی۔ عام طور پر فقہ و فتاویٰ کی کتب میں کتاب الااضحیہ کے بعد کتاب الحظروالاباحة کا عنوان ذکر کیا جاتا ہے اور ہمارے ادارے سے شائع شدہ بیسویں جلد کا اختتم چونکہ کتاب الااضحیہ پر ہوا تھا المذاکیسویں جلد سے مسائل حظروالاباحة کی اشاعت کا آغاز کیا گیا۔ کتاب الحظروالاباحة (جو چار جلد و میں پر مشتمل ہے) کی تکمیل کے بعد ابواب مدد اپنات، اشربہ، رہن، قسم اور وصایا پر مشتمل چھیسویں<sup>۲۵</sup>، چھیسویں<sup>۲۶</sup> جلد منضمہ شہود پر آچکی ہے۔ باقی رہے مسائل کلامیہ و دیگر متفرق عنوانات پر مشتمل مباحث و فتاویٰ علمیحضرت جو فتاویٰ رضویہ قدیم کی جلد نہم و دوازدہم میں غیر موبّب و غیر مترتّب طور پر مندرج ہیں، ان کی ترتیب و تبویب اگرچہ آسان کام نہ تھا مگر رب العالمین عز و جل کی توفیق، رحمۃ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی نظر عنایت، علمیحضرت اور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہما کے روحانی تصرف و کرامت سے راقم نے یہ گھائی بھی عبور کر لی اور کتاب الحظروالاباحة کی طرح ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ابواب کی لڑی میں پر و کر مرتب و منضبط کر دیا ہے و اللہ الحمد۔

اس سلسلہ میں ہم نے مندرجہ ذیل امور کو بطور خاص ملحوظ رکھا:

(۱) ان تمام مسائل کلامیہ و متفرقہ کو کتاب الشقی کا مرکزی عنوان دے کر مختلف ابواب پر تقسیم کر دیا ہے۔

(ب) تبویب میں سوال و استفتاء کا اعتبار کیا گیا ہے۔

(ج) ایک ہی استفتاء میں مختلف ابواب سے متعلق سوالات مذکور ہونے کی صورت میں ہر مسئلہ کو مستقیم کے نام سمیت متعلقہ ابواب کے تحت داخل کر دیا ہے۔

(د) مذکورہ بالادوноں جلد و میں (نہم و دوازدہم قدیم) میں شامل رسائل کو ان کے عنوانات کے مطابق متعلقہ ابواب کے تحت داخل کر دیا ہے۔

(ہ) رسائل کی ابتداء و انتہاء کو ممتاز کیا ہے۔

(و) کتاب الشقی کے ابواب سے متعلق علمیحضرت کے بعض رسائل جو فتاویٰ رضویہ قدیم میں شامل

نہ ہو سکے تھے ان کو بھی موزوں و مناسب جگہ پر شامل کر دیا ہے۔

(ز) تبویب جدید کے بعد موجودہ ترتیب چونکہ سابق ترتیب سے بالکل مختلف ہو گئی ہے لذا مسائل کی مکمل فہرست موجودہ ابواب کے مطابق نئے سرے سے مرتب کرنا پڑی۔

(ح) کتاب الشتی میں داخل تمام رسائل کے مندرجات کی مکمل و مفصل فہرستیں مرتب کی گئی ہیں۔

### تیسیویں جلد

یہ جلد ۳۲ سوالوں کے جوابات اور مجموعی طور پر ۷۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد کی عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ رقم الحروف نے کیا ہے البتہ نوروسایہ سے متعلق رسائل اربعہ کی بعض عبارات کا ترجمہ استاذی المکرم مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔

پیش نظر جلد (کتاب الشتی حصہ پنجم) کا زیادہ تر حصہ فضائل و خصائص سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ جمعین پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں اس جلد میں شرح کلام علماء و صوفیاء، تشریح افلاک، علم توقیت، رسم القرآن اور تجوید و قراءۃ کے بارے میں سوالوں کے جوابات بھی شامل ہیں۔ مذکورہ بالاعنوanات کے علاوہ متعدد عنوانات سے متعلق مسائل ضمیماً بیرونی بحث ہیں۔ انتہائی دقیع اور گرانقدر تحقیقات و تدقیقات پر مشتمل مندرجہ ذیل دس رسائل بھی اس جلد کی زینت ہیں۔

۱۔ تجلی اليقین بان نبینا سید المرسلین (۱۳۰۵ھ)

حضر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل الحلق و سید المرسلین ہونے کا قرآن و حدیث سے ثبوت۔

۲۔ شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام (۱۳۱۵ھ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور آباء اجداد کے مسلمان ہونے کا ثبوت۔

۳۔ تمهید ایمان بآیات قرآن (۱۳۲۶ھ)

شان رسالت بنزبان آیاتِ قرآنیہ

۴۔ الامن والعلی لناعقی المصطفیٰ بدفع البلاء (۱۳۱۱ھ)

حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشکل کشا، حاجت رو اور دفع البلاء ہونے کا مدلل ثبوت۔

۵۔ منیۃاللہبیب ان التشريع بید الحبیب (غمی) (۱۳۱۱ھ)

احكام تشریعیہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محترم ہونے کا بیان۔

۶۔ منبہ المینیہ بوصول الحبیب الی العرش والرئیہ (۱۳۲۰ھ)

حضر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرش تک جانے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بیان۔

۷۔ صلات الصفاء فی نور المصطفیٰ (۱۳۲۹ھ)

نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

۸۔ نفی الغیب عن استئنار بنورہ کل شیعی (۱۲۹۶ھ)

مسئلہ نور و سایہ کاروشن بیان۔

۹۔ قبر التیامر فی نفی الظل عن سید الانام (۱۲۹۶ھ)

سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ کی نفی کا بیان۔

۱۰۔ هدی الحبیران فی نفی الغیب عن سید الاکوان (۱۲۹۹ھ)

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا۔

### محترم قارئین عظام!

یہ خبر آپ کیلئے یقیناً خوش کن ہو گی کہ الحمد للہ رضا فاؤنڈیشن کے تحت فتاویٰ رضویہ شریف کی تحریخ و ترجمہ کے ساتھ جدید انداز میں اشاعت پایہ تکمیل کو پہنچ جگی ہے۔ بلا مبالغہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تیس جلدوں پر مشتمل یہ دنیا کا ضغیم ترین فتاویٰ ہے۔ یہ بلند فقہی شاہکار مجموعی طور پر ۲۱۶۵۶ صفحات ۷۲۸۳ سوالوں کے جوابات اور ۲۰۶ رسائل پر مشتمل ہے جبکہ ہزاروں مسائل ضمیگزیر بحث آئے ہیں۔

اس عظیم کارنامے کی تکمیل پر رضا فاؤنڈیشن کے بانی اور اس بے مثال اشاعتی منصوبے کا آغاز فرمانے والے مرد کامل استاذنا الکریم محمد وہ ملت شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللیٰ قادری ہزاروی نور اللہ مرقدہ کی روح پر فتوح انتہائی مسرور ہو رہی ہو گی؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس عظیم فتاویٰ کی بین الاقوامی معیار کے مطابق اشاعت جدیدہ کو ان کے لئے قیامت تک صدقہ جاریہ بنائے۔

رضا فاؤنڈیشن سے وابستہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں خصوصاً ادارے کے سرپرست جانشین مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ قادری ہزاروی ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، فتاویٰ رضویہ کے مترجمین، مخربین، مصححین، کاتب اور ناظم نشر و اشتاعت جگر گوشہ مفتی اعظم مولانا قاری نصیر احمد ہزاروی لائق صد تحسین و تبریک ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام حضرات کو اجرِ جزیل و ثواب عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاءہ سید المرسلین

رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

حافظ محمد عبدالستار سعیدی

ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ

اگست ۲۰۰۵ء

لاہور و شیخوپورہ پاکستان





## تَحْدِيثِ نَعْمَةٍ

از قلم حضرت علامہ مولانا الحاج محمد منشاہ ابش قصوری

سینئر مدرس جامعہ نظامیہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مرکز علم و عرفان جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان جس کی شہرت و مقبولیت چہار دنگ عالم میں بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے باñی و ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ (الم توفی ۲۶ اگست ۲۰۰۳) جنہیں آج دنیاۓ اسلام کی نامور شخصیات مفتی اعظم پاکستان کے عظیم ترین علمی لقب سے یاد کرتی ہیں، ان کی ہر شعبہ علم سے گھری وابستگی اسے بام عروج تک پہنچانے میں عشق کی حد تک لگاؤ ہے، ان کی جمیلہ مسلسل اور مسامی جمیلہ نے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں کہ دنیاۓ سنتیت بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں پاکیزہ انجمان اور ایک متحرک ادارہ تھے۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تصنیف و تالیف اور افقاء سے انتہائی شغف تھا۔ ان کی بصیرت و فراست کے سامنے مستقبل، حال کی طرح نمایاں اور ان کا ماضی ان کے وجود بوجود کی طرح خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر تھا۔

حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ مسلک حق کے صحیح ترجمان اور اس کی ترویج و اشاعت کے پچ مبلغ تھے۔ امانت، دیانت، تقویٰ ان کے فتویٰ کی طرح درست۔ علماء و مشائخ عظام کے لئے دیدہ و دل فرش را کئے ہوتے۔ طلباء کو اپنے فرزندوں سے بڑھ کر نوازتے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کی تعمیر و ترقی کا تصویر آپ پر

ہر وقت غالب رہا۔ بھگہ تعالیٰ اب ان کا مبارک تصور تصدیق بن کر جامعات کی تاریخ میں غالب ہے۔ اس وقت جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخوپورہ میں تقریباً تین ہزار طلباً و طالبات علوم و فنون دینیہ حاصل کر رہے ہیں جن کی تعلیمی پیاس بھانے کی لئے سائٹھ سے زائد قابل، مختصر اور ملخص اسنادہ کرام موجود ہیں۔

انما الاعمال بالذیقات (اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے) اس فرمان مخبر صادق بنی مکرم رسول اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی تشریح کا اگر اس دور میں کسی کو مصدق سمجھا جائے تو بلا تامل راقم السطور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی پیش کرنے میں عار محسوس نہیں کرے گا۔ آپ نے جن ابتلاء و آزمائش اور مصائب و آلام سے گزر کر جامعہ کی آبیاری کی اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ آپ عزیت کے گوہ گراں تھے۔ صبر واستقامت آپ پر ناز کتاب رہا۔ دکھ، درد اور الم کو احباب و رفقاء سے ہمیشہ نہایا رکھا۔ اللہ تعالیٰ اور اسکے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات پر عمل پیرا رہے۔ اہل سنت و جماعت کو نہ صرف جامعہ نظامیہ رضویہ ایسا علوم و فنون کا مرکز مرحمت فرمایا بلکہ تنظیم المدارس اور رضا فاؤنڈیشن ایسے مضبوط ترین ادارے بھی عنایت کئے جن کے قیام سے سنیت کا بھرم قائم ہے۔ ان کا مطیع نظر ہر شعبہ علم و فضل کے لئے افراد کی تیاری رہا، اور اس میں بفضلہ و کرمہ تعالیٰ دیگر شعبہ جات کی طرح خوب کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء ملک بھر میں درس و تدریس کی مندیں سجائے ہوئے ہیں۔ تحریر و افقاء، تصانیف و تالیفات اور ترجمہ میں نام پیدا کر چکے ہیں۔ جامعہ کے تقریباً تمام مدرسین یہیں سے فراغت کی نسبت رکھتے ہیں۔

### عظمیم ترین کارنامہ

حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا ہر کارنامہ عظیم تر ہے مگر رضا فاؤنڈیشن کا قیام ایسا کارنامہ ہے کہ بریلی شریف بھی اگر لاہور پر رشک کرے تو کوئی مصائقہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی ذات ستوودہ صفات کے ایمان افروز، روح پر اور تحقیق آشنا قلم سے جن ہزاروں فتوؤں کو دلائل و برائیں سے مرصع کیا گیا تھا، عوم، خواص کا انکی روح تک پہنچنا مشکل ترین امر تھا۔ مفتی اعظم پاکستان جن کی زندگی کا ہر لمحہ علم و عمل سے عبارت رہا انہوں نے جب اس وقت پر گہرائی اور گیرائی سے سوچا تو اس کا حل یوں ڈھونڈ نکالا کہ اعلیٰ حضرت

مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے فتاویٰ رضویہ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تخریج و ترجمہ کے ساتھ شائع کرنے کی طرح ڈالی جائے۔ چنانچہ آپ نے ۱۹۸۵ء میں عربی و فارسی عبارات کے ترجمہ اور حوالہ جات کی تخریج کے ساتھ کام کا آغاز فرمادیا، مگر اس کے لئے ٹھوس بنیاد کافرا، ہم کرناز حد ضروری تھا، اس لئے ۱۹۸۸ء میں اہل علم و قلم سے مشاورت کے لئے ایک میٹنگ بلائی جس میں بالاتفاق طے پایا کہ اس عظیم ترین کام کے لئے رضا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ ادارے کے بارکت نام کے ظہور پذیر ہوتے ہی منصوبے کو رو بہ عمل لا یا گیا اور باقاعدگی سے تخریج و ترجمہ کا کام شروع ہو گیا۔ الحمد للہ علی منہ و کرمہ واحسانہ کہ فتاویٰ رضویہ جو قدیم بارہ جلدیوں پر مشتمل تھا آج اپنی وسعت و کشادگی کے باعث تیس صفحیں ترین جلدیوں اور تقریباً بائیس ہزار صفحات پر پھیلا ہوا عالم اسلام میں اپنی انفرادی حیثیت سے نمایاں اور ممتاز دکھائی دے رہا ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تو ارجنخ فتاویٰ میں اس سے عظیم اور جامع کوئی دوسرا فتاویٰ نہیں ہے۔ یقیناً حضرت مفتی عظیم علیہ الرحمۃ کی روح اپنے مزار مقدس میں شاداں و فرجاں ہو گی کہ جس کام کا آغاز کیا گیا تھا آج وہ پاپیہ تکمیل تک پہنچا اور وہ اس مسمت بالشان امر سے وابستہ ہر ایک کے لیے انعامی طور پر اپنی مستحبانہ دعاؤں سے نواز رہے ہوں گے۔ اس عظیم ترین میشن کو کامیابی و کامرانی تک پہنچانے کے لئے جن حضرات نے نمایاں خدمات سر انجام دیں ان کے اسماۓ گرامی درج کرنے سے قبل میرا دل چاہتا ہے کہ صاحب فتاویٰ اعلیٰ حضرت مجدد مائیہ سابقہ و حاضرہ مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتو دہ صفات کی حیات مبارکہ کا مختصر ساختا صد درج کیا جائے، گوفتاوی مبارکہ کی پہلی جلد سے لے کر آخری جلد تک کسی نہ کسی طرح بڑے احسن پیرائے میں تعارف لکھا جا پکھا ہے، مگر بغموائے ذکر الحبیب لبیب، محبوب کا ذکر میٹھا لگتا ہے۔ لہذا زیاد مٹھاں حاصل کرنے کے لئے چند کلمات قلم بند کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

### **مجدد دین و ملت: ایک تعارف، ایک جائزہ**

نکل کے صحن گلستان سے دور دور گئی

یہ بُوئے گل بھی کہیں قید رہنے والی ہے

غیر معمولی اشخاص اپنے بیکپن ہی سے اپنی حرکات و سکنات، نشوونما میں ممتاز ہوتے ہیں ان کے ایک ایک خال میں بے پناہ کشش ہوتی ہے، ان کے ناصیہ قبل سے مستقبل کا نور چمک چمک کر نتیجے کا پتہ دینا رہتا ہے، اور لوگ پکارا ہٹتے ہیں:

### ہونہار برداکے کچنے کچنے پات

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام الہست، مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی قسم کی نادر روزگار ہستیوں میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی تھے، بچپن میں ان کے ہر انداز میں سعادت و نیک بخشتی کے آثار نمایاں تھے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ سات آٹھ سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت بریلوی کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ یک سنی، خورد سالی اور کم عمری میں ہو شمندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ساڑھے چار سال کی فتحی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے۔ چھ سال کے تھے کہ ربع الاول شریف کے مبارک مہینہ میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پُر مغز تقریر فرمائے کرام اور مثال نخ عظام سے تحسین و آفرین کی داد و صول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی تھی تادم حیات بلده مبارک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اویٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے، جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں پیچی کرتے ہوئے سر جھکالیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناہ کا آپ پر غلبہ تھا جس کا امہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں۔

پنجی نظروں کی شرم و حیا پر درود  
اوپھی بینی کی رفتت پر لاکھوں سلام

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنالیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ سات سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے، چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا علامہ حاجی محمد نقی علی خان بریلوی علیہ الرحمہ دو پھر کے وقت جبکہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی آپ کو لئے اس کمرہ میں پہنچے جس میں افطاری کے لیے قسم کا سامان موجود تھا، فیرنی کے پیالے بھی تھے، والد صاحب نے کمرہ اندر سے بند کر کے ایک پیالہ آپ کو دیتے ہوئے کھا اسے کھالو، تو آپ نے عرض کیا میر اروزہ ہے کیسے کھاؤ؟ آپ کے والد ماجد نے فرمایا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوکھالو، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے کسی کو

خبر نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جو بجا عرض کیا: ابا جان! جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ گیا اور آپ کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کمرے سے باہر لے آئے۔ سبحان اللہ!

آٹھویں سال میں قدم رکھا تو فنِ نحو کی شہرہ آفاق کتاب "هداية النحو" کی شرح لکھ دیا، اور دسویں سال "مسلم الثبوت"

کی تحقیقی شرح لکھنے کی سعادت پائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جملہ علوم دینیہ عقلیہ و نقیلیہ کی تکمیل تیرہ سال دس ماہ کی عمر میں فرماد کہ اس کا شعبان المظہع ۱۴۲۸ھ/۱۹۶۹ء بروز جمعرات فارغ التحصیل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ بعدہ اپنے والد ماجد کے ارشاد پر درس و تدریس اور مندرجات کو زینت بخشی۔ بفضلہ تعالیٰ آپ کو علم سے خصوصی لگاؤ رہا اور خداداد ذہانت سے علوم و فنون مروجہ کا سراپا بن گئے۔ آپ نے اپنے سال فراعنت کے دو بخاری مادے تحریث فرمائے "تعویذ" اور "غفور" ان دونوں سے ۱۴۲۸ھ کے اعداد لکھتے ہیں۔

قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ ایک بار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا: بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ "حافظ" بھی لکھ دیا کرتے ہیں حالانکہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا ایک پارہ پڑھ کر سنادیا کرے تو وہ دوبارہ مجھ سے سن لے۔ چنانچہ طے پایا اور عشاء کے وضوفرمانے کے بعد جماعت سے قبل اس کیلئے نشت شروع کر دی گئی اور آپ نے تیس دنوں میں تیوسوں پارے زبانی سنادیے، نیز فرمایا، الحمد للہ! ہم نے کلام پاک ترتیب سے یاد کر لیا۔ اور یہ اس لئے کہ بندگان خدا کا ہتنا غلط نہ ہو۔ سبحان اللہ! صداقت شعار بندوں کا کیا کہنا۔ اور یہ مکمل حفظ القرآن کا وقت تجھیں سات گھنٹے بنتا ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے چھوٹی عمر میں سات دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا جبکہ امام شافعی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہما الرحمہ نے تین ماہ کی مدت میں قرآن مجید حفظ کیا، نیز حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے بھی اتنی ہی مدت میں قرآن کریم کو یاد فرمایا جب انہیں جہانگیر بادشاہ نے قلعہ گوالیار میں قید و بند کی مصوبتوں سے دو چار کر رکھا تھا۔

استاذی المکرم فقیہ اعظم علیہ الرحمہ مولانا الحاج ابوالحیر محدث نور اللہ نعیی قادری اشرفی رحمہ اللہ تعالیٰ بانی دارالعلوم حفیۃ فریدیہ بصیر پور، فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کے حافظہ کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حافظہ کی مثال نہیں ملتی، آپ کی قوت حافظہ و اخذ لا جواب تھی۔ تھی ہے ولی راوی می شناسد و عالم راعالم می شناسد، نیز فتاویٰ رضویہ آپ کی قوت حافظہ پر شاہد و عادل ہے۔

فضل بریلوی اساطین علم و فن اور اکابر فضل و کمال کا مرکز بنے، یہ صیر پاک و ہند کے علمائے حقانی کے علاوہ عرب و عجم کے علماء و مشائخ ربانی کے نزدیک ان کی محبت اہل حق و سنت ہونے کی دلیل شہری، ان سے انحراف بدعتی ہونے کی سب سے بڑی پیچان ہوئی۔ اور انہی اکابر نے آپ کو مجدد اسلام کے لقب سے نوازا۔

الله تعالیٰ نے فاضل بریلوی کو فنا فی السنہ ہونے کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کمال استغراق کی وجہ سے خود ان کی ذات یکسر سنت و اتباع سنت کا پیکرو مجسمہ بن گئی، جوان کے قدم قدم چلا اس نے سنت کو پالیا اور جس نے رو گردانی کی اس نے سنت رسول اور منہج اصحاب حضور پر نور سے انحراف کیا۔

آخر یہ کیا تھا کہ بڑے بڑے علمائے اسلام و مفتیان عظام کو اعتراف کرنا پڑا: اذا رأيتم الرجل أحب احمد رضا فأعلم انه صاحب السنّة۔ (اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ احمد رضا سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔) یعرف به المسلم من الزندیق (اسی کسوٹی پر مسلم کو زندیق سے پر کھا جائے گا) اور یہ بالکل حق ہے آج ارباب شر کو فاضل بریلوی کا مسلک و مشرب پسند نہیں آئے گا ان کی محبت سے ایسے لوگوں کے دل کو رے ہیں بلکہ کہیں گے ان کا طریقہ تو تامل و رائے کی عقلمندی سے خالی اور ظاہر پرستی، بے داشی و بے علمی کا مجموعہ تھا، ان کا مشن بدعت و شرک کا پرچار کرنے، مخالف فلسفیانہ بحث میں الجھانی اور مرعوب کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ العیاذ بالله!

جب دین کی قدریں کم ہوتی چلی گئیں دنیاۓ اسلام کے ذریں اصولوں سے انحراف شروع ہو گیا، حضرت سیدنا محبوب سجنی غوث صمدانی حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی "محی الدین" بن کر تشریف لائے اور احیائے اسلام کے لیے اس شان سے خدمات انجام دیں کہ اپنے، پرانے بیگانے سمجھی ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔

جب اکبر نے "دین الہی" کے نام سے بے دینی ایجاد کرنے کے "ہندو مسلم بھائی بھائی" کی بڑیانی، اسلام و کفر کو ایک کرنا چاہا، بدعات نے سر زکانا شروع کیا، اسلام کی صورت منہج ہونے لگی تو حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ تعالیٰ مجدد الف ثانی کی صورت میں نمودار ہوئے اور ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ عالم اسلام خصوصاً بر صیر پاک و ہند کی مسلم اکثریت آج بھی ان کی مقصد نظر آتی ہے۔

مدد دین وقت نے اپنے زمانے میں اسی کام کو اولیت دی جسے انہوں نے نہایت ضروری سمجھا مسائل کے اصول تو سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمادیے تھے انہی کے وضع کردہ اصول

اور احادیث مبارکہ سے استنباط اجتہاد کر کے ائمہ اربعہ نے فقہ کو مدون کیا جس کی امت محمدیہ علیہ التحیۃ والشانہ کو سخت ضرورت تھی پھر یہی قواعد و ضوابط مجددین اسلام کے تجدیدی کارناموں میں جاری و ساری رہے۔

جب انبیاء و اولیاء کی ذوات پر بیانکانہ حملے شروع ہوئے، گتابخیوں سے بھر پور کتابیں شائع ہونے لگیں، ناموس انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو تاریخ کیا جانے لگا، انہیں مجبور محض، بے علم، عام سا معمولی انسان، بلکہ اپنے جیسے بشر ہونے کے دعوے الگئے لگے، اولیائے کرام کے خلاف مجاز قائم ہونے لگے، بتوں کے لیے نازل شدہ آیات اولیائے کرام پر چسپاں کی جانے لگیں، حتیٰ کہ سید عالم، محسن اعظم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مردہ اور روضہ اطہر کو صنم اکبر، گندھ حضراء کی زیارت اور مدینہ طیبہ کی حاضری کو حرام قرار دیا جانے لگا، اکبر کے "دین الہی" کے نفاذ کے لیے "ہندو مسلم بھائی بھائی" کی تحریکیں پھر سے پورے لاہور مکمل ساز و سامان ضالہ کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ "هل من مبارز" کے نعرے لگاتی ہوئیں بر صغیر پاک و ہند دن دن نانے لگیں تو مولانا الشاہ احمد رضا خاں بریلوی امت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والشانہ کے مومن و غمنوار اور محافظ و نگہبان بن کر تشریف فرمایا ہوئے۔ چنانچہ باطل قول قوتیں دم توڑنے لگیں، حق کا بول بالا ہونے لگا، اور سرزی میں بریلوی سے آواز گوئی:

سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی

سب سے بالا و الا ہمارا نبی

غزدوں کو رضا خرد دیج کر ہے

بیکوں کا سہارا ہمارا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

مجددین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تبلیغ عشق و محبت کی تاثیر ہے کہ آپ کے مخالفین میں اب یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ الفاظ بر سر عالم کہہ سکیں جو ان کے اکابر نے اپنی تصانیف میں درج کئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ذات ستودہ صفات کے خلاف بڑی بڑی سازشیں مرتب ہوئیں مگر الحق یعلو ولا یعلیٰ، آپ کو گالیاں دی گئیں مگر آپ کا اعلان آج بھی فضائے بسیط میں گونج رہا ہے کہ:

مجھے ہزار گالیں دو، میرے باپ دادا کورات دن گالیاں دو، جو جی میں آئے کہتے رہو، مجھے بخوشی قبول ہے، میں تمھیں ایک لفظ تک بھی نہیں کہوں گا۔ مگر

خدا امیرے محبوب، حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء و اولیاء کی شان میں بے ادبی چھوڑ دو۔<sup>۱۰</sup>  
 بندہ عشق شدی ترک نسب کن جائی  
 کاندریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

بھی وہ تجدیدی کارنامہ ہے جسے بزرگان سلف کے طریقہ پر مجددین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنی زبان و قلم اور علم و عمل سے سرانجام دیا۔ آپ کے ترجمہ قرآن<sup>۱۱</sup>، کنز الایمان<sup>۱۲</sup> کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج پاک و ہند میں سیکھوں اشاعتی ادارے جن میں زیادہ تر آپ کے مسلک سے قطعاً کوئی وابستگی نہیں رکھتے اس کی طباعت و اشاعت سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ آپ کا یہ لکتابڑا احسان ہے کہ مخالفین کے رزق کا سبب بنا ہوا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کنز الایمان ایک ایسا ترجمہ قرآن ہے جس کی مثال نہیں ملتی، یہ واحد ترجمہ ہے جو عشق و محبت خدا اور رسول کا شاہ کار ہے۔ یوں بھی خدائی کلام کی صحیح ترجمانی وہی کر سکتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے از خود بہرہ مند فرماتا ہے ان الفضل بیلد اللہ یؤتیہ من یشاء بیشک فضل اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وہی بڑے فضائل کا مالک ہے۔

<sup>۱۰</sup> العطاۃ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ "جو قبل ازیں بارہ قدیم مجلدات پر پھیلا ہوا تھا اور جو دنیاۓ اسلام میں سب سے ضخیم و عظیم فتاویٰ ہونے کا شرف حاصل کر چکا تھا، جسے اب جدید دور کے تقاضا کے مطابق ترجمہ و تحریق کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور (پاکستان) کو تیس جلدیوں میں پیش کرنے کی سعادت عظمی نصیب ہو رہی ہے، جس کی اشاعت کا آغاز شعبان المظہر ۱۴۲۰ھ / ۱۹۹۰ء میں ہوا اور بفضلہ و کرمہ تعالیٰ رجب المرجب ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۵ء کو اپنی اشاعتی و طباعتی عمر کے پندرہ سال پورے ہونے پر ہزار ہا عاشقان فتاویٰ کی دیرینہ آرزوں کو تکمیل کا جامہ پہنرا رہا ہے۔ آپ کی یہ ایک تصنیف دنیاۓ اسلام کی ہزار ہا تصنیف پر بھاری ہے جس میں آپ نے اپنے سینے میں محفوظ بچپاس علوم و فنون کو فتاویٰ رضویہ کی صورت میں ایک وسیع و عریض سدا بہار لگشن بنادیا ہے۔

چمن میں پھول کا کھلانا تو کوئی بات نہیں

ز ہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحراء کو

یوں تو علیحضرت امام احمد رضا کی تصنیف اہل تحقیق کے نزدیک ایک ہزار تک پہنچ چکی ہیں، اور بعض

اہل علم و قلم باقاعدہ ان کی فہرست مرتب کر کے شائع کر چکے ہیں۔ اب حیات اعلیٰ حضرت حصہ دوم از قلم ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری تلمیذ و خلیفہ امام احمد رضا، میں تفصیلی تعارف کے ساتھ شائع ہو چکی ہے مگر جس خوش نصیب کے پاس فتاویٰ رضویہ جو تیس ۳۰ جلدوں پر محیط ہے، ہو گا وہ آپ کی سیکڑوں تصانیف سے بیک وقت مستفید ہو سکے گا۔ بات دور چلی گئی آمدم سر مطلب، فتاویٰ رضویہ جدید کے لیے جن علماء کرام، مفتیان اسلام، محققین عظام اور مخصوص اہل علم و فضل نے اس کی تیاری اور اشاعت میں کسی بھی طرح حصہ لیا ان کے اسماء گرامی درج کئے جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کا جامع تعارف قلببند کیا جائے مگر بعض وجوہ کی بناء پر ان عالی مرتبت علمی شخصیت کے نام اور فتاویٰ پر کام کی نوعیت کو پیش کیا جاتا ہے،

حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی سید شجاعتو علی قادری علیہ الرحمۃ بانی دارالعلوم نعیمیہ کراچی ونج و فاقی شرعی عدالت، آپ نے فتاویٰ رضویہ جدید کی جلد نمبر ایک اور دو کا ترجمہ فرمایا۔

○ حضرت مولانا علامہ مفتی محمد احمد مصباحی بھیروی مدظلہ ناظم تعلیمات الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور ائمہ، آپ نے جلد نمبر ۹، ۳، اور جلد چہارم نصف اول کا ترجمہ فرمایا۔

○ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی صدیق ہزاروی مدظلہ سینٹر مدرس و شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور آپ نے جلد نمبر ۲ نصف ثالثی کا ترجمہ فرمایا۔

○ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی عبد الدائم مدظلہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم ربانیہ صدریہ ہری پور ہزارہ، آپ نے جلد ۵ کا ترجمہ فرمایا۔

○ حضرت مولانا علامہ مفتی خان قادری مدظلہ بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ لاہور آپ نے جلد نمبر ۷، ۸، ۶، ۱۰، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۱۱، کا ترجمہ فرمایا۔

○ حضرت مولانا علامہ الحاج الحافظ محمد عبد الشمار سعیدی مدظلہ ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، آپ نے جلد ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ ان چودہ جلدوں کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔

○ حضرت علامہ مفتی قاضی محمد سیف الرحمن ہزاروی مدظلہ آپ نے جلد نمبر ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ کا ترجمہ فرمایا۔

## دیگر ذکر معاون شخصیات

○ حضرت مولانا الحاج محمد شاربیگ صاحب مدظلہ برطانیہ۔

○ حضرت علامہ مولانا الحاج پیر معروف حسین عارف نوری قادری نوشاہی مد ظله بانی ورلڈ اسلامک مشن و سرپرست اعلیٰ مرکزی جمیعت تبلیغ اسلام (یو۔ کے)، آپ اس عظیم الشان اشاعتی منصوبے کے آغاز سے اب تک ہر اعتبار سے مسلسل اور بھرپور تعاوون فرماء رہے ہیں۔

○ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عبدالحکیم شرف قادری مد ظله بانی مکتبہ قادریہ رضویہ لاہور آپ کا شمارہ ادارہ ہذا کے محركین اور بانیوں میں ہوتا ہے۔

○ حضرت علامہ مولانا نذیر احمد سعیدی زید مجده تخریج و تصحیح کا زیادہ تر کام آپ ہی نے فرمایا آپ کے تخریجی کام کو دیکھ کر حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے حسن امتحاب کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ آپ نہایت مخلص، مختنی، مستعد، خدمت دین کے جذبہ سے سرشار، متواضع، مکسر المزاج اور اپنے مشن سے والہانہ لگاؤ رکھنے والے، درویش منش عالم ہیں آپ نے اپنے شباب سے انتہائی قیمتی پندرہ سال فتاویٰ رضویہ کی تخریج کے لئے وقف کئے ہیں۔

○ مکرم و معظم جناب صوفی مولوی محمد شریف گل صاحب خوش نویں وکاتب فتاویٰ رضویہ جدید بقول مفتی اعظم علیہ الرحمہ ۱۰ گر گل صاحب جیسا تجربہ کارکاتب ہمیں دستیاب نہ ہوتا شاید اتنی عمدگی کے ساتھ اس عظیم کام کو ہم جاری نہ رکھ سکتے، یاد رہے کہ فتاویٰ رضویہ جدید کی کتابت کا آغاز کرنے سے قبل موصوف کلین شیوی تھے مگر اب فیضان و برکات رضا کا کرشمہ ہے کہ وہ متشرع اور تبع سنت اور ایک مناظر بن چکے ہیں۔ موصوف کو فتاویٰ رضویہ جدید کی تمام جلدیوں کی کتابت کا شرف نصیب ہوا۔

○ حضرت علامہ مولانا الحاج غلام فرید صاحب ہزاروی مد ظله ناظم امور تعلقات عامہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔

○ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی مد ظله ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔

○ حضرت علامہ الحافظ القاری مولانا صاحبزادہ محمد نصیر احمد ہزاروی زید مجده ناظم نشر و اشاعت فتاویٰ رضویہ۔ رقم الحروف (محمد نشاتا بش قصوری مدرس جامعہ نظامیہ لاہور) کو تقریباً ستمائیں ۷۲ جلدیوں کی پیشگاہ کا موقعہ نصیب ہوا۔

### برسیل تذکرہ

یاد رہے کہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمۃ نے وصال سے دو روز قبل فتاویٰ رضویہ کی پچیسویں<sup>۲۵</sup> جلد کتابت شدہ رقم السطور کے سپرد کی تاکہ کاپیاں پیسٹ کر دوں۔ میں نے عرض کیا: کتنے دن لگاؤں؟ فرمایا: ۲۰۰۳ء کو صاحبزادہ حافظ نصیر احمد ہزاروی زید مجده کی شادی ہے۔

اس وقت تک تیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا طباعت کے لیے پریس کے حوالے کردی جائیگی مگر کے معلوم تھا کہ ۲۴ جمادی الآخری ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۳ء میں مغل کا سورج غروب ہوتے ہی آسمان فناہت کا یہ آفتاب بھی اپنی تمامتر تابنیوں کو ساتھ لئے ہوئے عالم برزخ میں جا طلوع ہو گاتا ہم یچکیوں <sup>۲۵</sup> جلد اکنے چہلم مبارک پرمارکیٹ میں آگئی۔

حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمۃ اس منصوبے کو جلد از جلد <sup>۲۶</sup> میکیل کے مراحل سے گزرنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ آپ کے ذوق و شوق اور دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ اس باق سے قبل اور از فراغ نہایت فتاویٰ رضویہ جدید کی از خود تصحیح فرماتے رہتے، مزید تسلی کے لئے حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری محمد عبدالستار سعیدی مد نظر ناظم تعلیمات و شیخ الحدیث جامعہ کو پروف ریڈنگ کے لئے فرماتے حافظ صاحب قبلہ باوجود علالت کے اپنے مرتبی و محسن اور نہایت شفیق و مہربان استاذ کی خواہشات کے پیش نظر کسی قسم کے عذر کو سامنے لائے بغیر نہایت خندال پیشانی سے ذمہ داری کو باحسن وجوہ نہاتے۔۔۔ نوبت بایس جار سید کہ اب تمام جلدیوں کی تصحیح کے ساتھ ساتھ مجلدات کے ترتیبے کا بار بھی آپ ہی کے کاندھوں پر آپڑا۔

قارئین کرام! آپ ملاحظہ فرمائچے ہیں کہ چودہ <sup>۲۷</sup> جلدیوں کا ترجمہ تمامتر آپ ہی کو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ من وجہ مکمل فتاویٰ رضویہ جدید تیس <sup>۲۸</sup> کی تیس <sup>۲۹</sup> جلدیوں کا ترجمہ کہیں نظر ثانی اور کہیں بالاستیعاب، آپ ہی کے قلم کا مر ہون منت ہے، یہ ایسا نادر، عدیم الشال تاریخی کار نامہ ہے جو سوائے فضل ربی اور عطاۓ محبوب ایزدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصہ شہود پر جلوہ گر ہونا ممکن نہیں تھا۔

آج <sup>۳۰</sup> علیہ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی ذات ستودہ صفات پر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جس تیزی سے کام ہو رہا ہے قابل صد تحسین والاً حق صد افتخار ہے۔ اس وقت جمادی الآخری ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۵ء تک مندرجہ ذیل ممالک اور شہروں میں محققین، اسکالرز اور مفکرین آپ کی بُلند مرتبہ شخصیت پر کام کر کے ڈاکٹریٹ اور ایم فل کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں اور مزید اس نعمت کے حصول میں کوشش ہیں۔

پاکستان میں کراچی، لاہور، حیدر آباد، جام شورو، ملتان، بہاول پور، پشاور اور اسلام آباد کی جامعات سے سات ۷ حضرات نے پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کی ڈگریاں لیں۔ ہندوستان : علی گرہ، پٹنہ، بریلی، بنارس، کانپور، کلہار، راچی، مظفر پور، ممبئی، کلکتہ، آرہ، حیدر آباد (دکن)، رندرو، پونا، دہلی، نیو دہلی سے اکیس ۲۱ حضرات نے پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کیا۔

بغلہ دیش: اسلامک یونیورسٹی کشتیا سے ایک صاحب نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

مصر: جامعہ الانزہر قاہرہ یونیورسٹی سے دو صاحبان نے پی۔ ایچ۔ ڈی کیا۔

نیویارک: کولمبیو یونیورسٹی سے ایک صاحب کو اس اعزاز کا شرف حاصل ہوا۔

عراق: بغداد شریف سے ایک خوش نصیب نے ڈگری حاصل کی۔

یوکے (برطانیہ) یر ملک یونیورسٹی سے ایک صاحب کو یہ عزت نصیب ہوئی۔

دیگر مالک میں اعلیٰ حضرت کی گرانقدر خدمات دینیہ، علمیہ پر تحقیقات کا دائرہ وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات! آپ میری مذکورہ بالا تحریر پر ذرا غور فرمائیے، یہ تقریباً تینتیس ۳۳ وہ محقق، مفکر اور اسکالرز ہیں جنھوں نے امام احمد رضا کے کسی پہلو کو اپنے قلم کا موضوع بنایا ہے۔ اس کے بر عکس فتاویٰ رضویہ جدید جو ہر اپنا موضوع اور عنوان اپنے اندر سمیئے ہوئے ہے جسے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے تصرف خاص کے باعث حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد عبد اللستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے پا یہ تکمیل تک پہنچانے میں جس محنت، کاؤش، جدو جہد، محبت اور جذب درون سے کام لیا ہے یہ اتنا عظیم اور عدیم النظر کارنامہ ہے کہ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو انھیں کم از کم تمیں پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کی ڈگریاں پیش کرتا۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ حافظ صاحب قبلہ جامعہ کے تمام تردیدگر امور کی باحسن وجودہ انجام دہی کے ساتھ ساتھ فتاویٰ رضویہ جدید کو جس نجح سے مکمل کرنے کی مساعی جیلہ فرماتے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کا سایہ عاطفت صحت و تدرستی کے ساتھ اہل سنت پر ہمیشہ قائم رکھے۔

آخر میں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی مدظلہ کی خدمت عالیہ میں بھی خراج محبت پیش کیا جاتا ہے جنھوں نے حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف جامعہ کے تمام شعبہ جات کو رواں دوال رکھا بلکہ انھیں مزید ترقی کی راہ پر گامزن بھی فرمایا، خصوصاً رضا فاؤنڈیشن کے تمام پروگرام جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کے اساتذہ، طلباء، معاونین سبھی کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے، آمین بجاہ طہ و یسٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلام۔

محتاج دعا

رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

اگست ۲۰۰۵ء

پاکستان محمد نشانہ باش قصوری

مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، خطیب مرید کے پاکستان

## فہرست مضامین مفصل

۸۰	ومارمیت از رمیت میں نقی از روئے صورت، اور اثبات از روئے حقیقت ہے۔	۷۲	شرح کلام علماء و صوفیاء
۸۲	مولانا عبدالسمیح را پوری اور شاہ احمد سعید مجبدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی عبارات کے بارے میں مولانا رکن الدین الوری علیہ الرحمہ کے سوال کا جواب۔	۷۴	مصنف علیہ الرحمہ کی چار عبارات کے بارے میں سوال کا جواب
۸۳	مصنف علیہ الرحمہ کے شعر: فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اسے مرتفعِ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو کا مطلب۔	۷۲	مسئلہ زیارت القبور للنساء۔
۸۴	عشاقِ روضہ سجدہ میں سوئے حرم بھکے کا مطلب و شرح۔	۷۳	مسئلہ خطبہ مختار۔
۸۵	تفہیم مسئلہ کے لیے آفتاب اور دھوپ کی تمثیل۔	۷۴	مسئلہ حضرات سادات کرام۔
۸۶	حقیقت کعبہ مثل حقائق جملہ اکوان حقیقتِ محمدیہ کی ایک جعلی ہے۔	۷۷	مسئلہ تسمیہ منیر الدین۔
۸۶	حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کی کتاب "سعی نابل" کے سنبلہ دوم میں بیان کردہ ایک حکایت پر اعتراض کا مصنف علیہ الرحمہ کی طرف سے جواب۔	۷۸	حیوہ الحیوان کی ایک عبارت کا مطلب۔
	جب اسناد حقیقی صحیح ہو تو وہی غالب ہوتی ہے اور اسناد صوری مغلوب۔	۸۰	

۹۵	جمع مذکر سالم اور لفظ کلام کی مانند دیگر کلمات کے لکھنے کے اصول۔	۸۶	جواب اول۔
۹۵	لفظ کلام قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے۔	۸۶	ہر دور میں ایک ولی ہنام حضر ہوتا ہے۔
۹۶	لفظ قیام باثبات الہ لکھا جائے یا بدون الہ۔	۸۶	غوث کا نام عبد اللہ و عبد الجامع اور اس کے دونوں وزیروں کا نام عبد الملک اور عبد الرحمٰن ہوتا ہے۔
۹۷	الولد ان قرآن مجید میں مع الالف لکھا جائے گا یا بغیر الالف۔	۸۶	اوთادار بعہ کا نام عبدالرحیم، عبد الکریم، عبدالرشید اور عبدالجلیل ہے۔
۹۷	سکری کی کتابت کیسے ہوگی۔	۸۶	عہد نقاۃت پر فائز ولی کا نام حضر ہوتا ہے۔
۹۸	سوء تکم وغیرہ کلمات قرآنیہ کو کیسے لکھا جائے گا۔	۸۷	اولیاء اللہ کے ایک دوسرے پر افضیلت کی ترتیب۔
۹۸	ومن خزی یومئذ میں میم مفتوح ہو گایا منکور۔	۸۸	جواب دوم۔
۹۸	تعوذ کن الفاظ کے ساتھ مختار ہے۔	۸۸	جواب سوم۔
۹۹	جواب سوال اول۔	۸۹	غلیظ اور نعل کے متعدد معانی کا بیان۔
۹۹	علم رسم القرآن علم سمع ہے نہ قیاس۔		<b>تجوید و قراءت</b>
۹۹	جمع سالم کی کتابت سے متعلق دو ضابطے ملتے ہیں۔	۹۳	ہر آیت لاپرواٹ جائز ہے۔
۹۹	پہلا ضابط مطرد اور دوسرا اکثری ہے۔	۹۳	سورۃ الناس میں خناس الذی پڑھا جائے گا یا خناس الذی۔
۱۰۱	جواب سوال دوم۔	۹۳	تراتح میں وقت ختم قرآن تین بار سورہ اخلاص پڑھنا مستحسن ہے۔
۱۰۳	جواب سوال سوم۔		<b>رسم القرآن</b>
۱۰۳	کلمہ قیاماً قرآن مجید میں سات جگہ آیا ہے۔	۹۵	آٹھ سوالات پر مشتمل استفتاء۔

۱۲۱	رصدی آله کے مشاہدات سے براہین ہندسیہ کی تردید نہیں ہو سکتی۔	۱۰۳	جواب سوال چہارم۔
۱۲۱	تقویم مطالع کو اکب سے جو تقویم حاصل ہوتی ہے اس کافرق تقویم اصلی سے زیادہ سے زیادہ کس قدر ہو سکتا ہے؟	۱۰۴	جواب سوال پنجم۔
۱۲۲	تیرسے درجہ کے سنبلہ کے طلوع سے متعلق سوال کا جواب۔	۱۰۵	جواب سوال ششم۔
۱۲۳	جدول تحویل تاریخ عیسوی بہ ہجری کے بارے میں ایک سوال جواب۔	۱۰۵	جواب سوال هفتم۔
۱۲۳	گھری کو موجود کون ہے؟	۱۰۶	جواب سوال ہشتم۔
۱۲۳	امہ کرام نے گھریوں کے ساتھ نماز و روزہ کا وقت کیوں مقرر نہیں فرمایا۔	۱۰۷	استعاذه کے لیے تمام قاریوں کا مختار اور پسندیدہ لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ہے۔
۱۲۳	گھری کے ساتھ نماز روزے کا وقت معین کرنے کے لیے گھری پر اعتماد کس کو جائز اور کس کو حرام ہے؟	۱۱۰	ذاتاً واستبیقاً الباب. دعو اللہ اور قالا الحمد کا الف پڑھا جائیگا یا نہیں۔
۱۲۳	دیوبندی علم توقیت سے اسی طرح ناآشنا ہیں جیسے دین سے۔		تشریح افلک و علم توقیت و تقویم
۱۲۳	دیوبندی کے فتوے پر اعتماد کرنا گھری جیسے بے اعتبار آله پر اعتماد کرنے سے بڑھ کر حرام ہے۔	۱۱۳	ہمارے نزدیک نہ زمین متحرك ہے نہ آسمان۔
۱۲۶	شویہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دودھ پلایا۔	۱۱۵	سبع سیارہ کا بیان کس آیت میں ہے۔
۱۲۶	ابوالہب کو کافر ہونے کے باوجود میلاد رسول کی خوشی منانے پر فائدہ کیوں نکر پہنچا۔	۱۱۶	قاعدہ اختراج تقویماتِ کو اکب از المک۔
۱۲۶	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔	۱۱۹	ایک قاعدہ تقویم کے بارے میں سوال کا جواب۔
۱۲۷	قیام مولود شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟	۱۲۱	مطالع استواریہ کو اکب جو المک میں مر قوم ہیں وہ صحیح اور حقیقی مطالع ہیں یا نہیں۔

۱۳۲	تیرسی آیت: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسْانِ قَوْمِهِ۔	۱۳۹	۵ رسالہ تجلی اليقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ (اس بات کا بیان کہ ہمارے آقا تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں)
۱۳۵	تحقیق مصنف کہ آیت مذکورہ پانچ وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی افضیلت مظاہر پر جست ہے۔	۱۳۱	حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا افضل المرسلین ہونا قطعی و ایمانی مسئلہ ہے۔
۱۳۶	انبیاء کو ادائے امانت و ابلاغ رسالت میں کن کن بالتوں کی حاجت ہوتی ہے۔	۱۳۲	تفضیل شیخین پر مصنف علیہ الرحمہ کی نوے جزء پر مشتمل ایک کتاب کا نہ کرو۔
۱۳۹	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عقل مبارک۔	۱۳۳	ترتیب کتاب از مصنف۔
۱۴۰	حضور کعب سے نبی ہیں۔	۱۳۳	فضائل سید المرسلین پر مصنف کی چند کتابوں کے نام۔
۱۵۰	چو تھی آیت: تلک الرسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔	۱۳۳	ہیکل اول آیات قرآنیہ:
۱۵۲	پانچویں آیت: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔	۱۳۳	پہلی آیت واخذ اللہ میثاق النبیین اخ۔
۱۵۳	حضور کا دین تمام ادیان سے اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔	۱۳۶	الله تعالیٰ نے تمام انبیاء سے محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا قدیم سے سب امتنیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی اور حضور کے توسل سے اعداد پر فتح مانگتی آئیں۔
۱۵۴	چھٹی آیت: يَا أَدْمَرْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔	۱۳۷	ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا مام تم میں سے ہو گا۔
	باقی انبیاء اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب میں اسلوب قرآنی۔	۱۳۸	محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل الاصول اور رسولوں کے رسول ہیں۔
۱۵۸	ساتویں آیت: لَعَمِرُكُ أَنَّهُمْ لَفِي سُكْرٍ تَهْمَمْ يَعْمَهُونَ۔	۱۳۹	تحقیق مصنف کہ سید المرسلین کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد کو قرآن عظیم نے دس تاکیدوں سے مؤکد فرمایا۔
۱۵۹	قرآن نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شہر، آپ کی بالتوں، آپ کے زمانے اور آپ کی جان کی قسم کہا۔	۱۴۱	دوسری آیت: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

۱۸۹	پانچیں وحی۔	۱۶۲	خاک پاک کی قسم، شش دہوی کی توجیہ۔
۱۹۰	موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کہ میں منکر احمد کو دوزخ میں ڈالوں گا۔	۱۶۲	آٹھویں آیت۔
۱۹۰	احمد کون؟	۱۶۲	متعدد مثالیں کہ انبیاء کفار کی زبان درازی کا خود جواب دیتے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے رب تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمائے۔
۱۹۰	موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔	۱۶۹	یوسف، مریم اور عائشہ کی براءت میں فرق۔
۱۹۰	چھٹی وحی۔	۱۶۹	نویں آیت: عسیٰ ان بیعثک ربک مقاماً محموداً۔
۱۹۱	آخری نبی اور آخری امت بنانے کی حکمت۔	۱۷۰	مقام محمود کیا ہے۔
۱۹۱	ساتویں وحی۔	۱۷۲	الله تعالیٰ انہیں عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، اس کی توجیہ۔
۱۹۲	تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہو گا۔	۱۷۷	دوسری آیت۔
۱۹۲	آٹھویں وحی۔	۱۷۷	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلیم کے درمیان بین انتیازات۔
۱۹۲	سرکار جبیب اللہ ہیں۔	۱۸۵	ہیکل دوم: احادیث جلیلہ۔
۱۹۲	نویں وحی۔	۱۸۵	تابعیٰ اول: چند وحی رباني۔
۱۹۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو بے جاب دیکھا۔	۱۸۵	پہلی وحی۔
۱۹۳	دوسری وحی۔	۱۸۶	آدم علیہ السلام کی تقویٰت توبہ۔
۱۹۳	حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور آپ کی امت افضل الامم ہے۔	۱۸۶	محبوب خلقِ الہ۔
۱۹۳	گیارہویں وحی۔	۱۸۷	دوسری وحی۔
۱۹۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سرایانور ہیں۔	۱۸۸	عیسیٰ علیہ السلام کو وحی۔
۱۹۳	بارہویں وحی۔	۱۸۸	وہ جو نہ تھے تو پچھنہ وہ جو نہ ہوں تو پچھنہ ہو۔
۱۹۳	آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی نورِ محمدی کو دیکھا۔	۱۸۸	تیسرا وحی۔
		۱۸۹	چوتھی وحی۔

۱۹۹	انسانیہ ولد ادم یوم القیمتہ۔	۱۹۳	تیر ہویں وحی۔
۲۰۰	سب سے پہلے قبرتے میں پاہر آؤں گا۔	۱۹۳	عالم بالا میں حضور کا نام ہر جگہ خدا کے ساتھ مکتوب ہے۔
۲۰۰	پہلا شافع اور پہلا مشتع میں ہوں گا۔	۱۹۵	و سیلہ محمدی کی برکت۔
۲۰۰	تیرا ارشاد۔	۱۹۵	چودہویں وحی۔
۲۰۰	قیامت میں لواہ حمد میرے ہاتھ میں ہو گا اور سب میرے زیر لواہ ہوں گے۔	۱۹۵	جان بیس وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے۔
۲۰۰	چوتھا ارشاد۔	۱۹۵	پندرہویں وحی۔
۲۰۰	سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں۔	۱۹۵	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر عزت والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔
۲۰۰	پانچواں ارشاد۔	۱۹۵	سلطوں وحی۔
۲۰۱	جنت کا روانہ میں کھلواؤں گا۔	۱۹۶	سرکار دعا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اور آپ کی امت سے پہلے سابقہ امتوں پر جنت حرام ہے۔
۲۰۱	چھٹا ارشاد۔	۱۹۶	سترنہویں وحی۔
۲۰۱	حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فناک و خصائص پر نقیص حدیث۔	۱۹۶	اٹھارہویں وحی۔
۲۰۲	ساقتوں ارشاد۔	۱۹۷	احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے فوائد اور ایمان نہ لانے کے نقصانات۔
۲۰۲	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مشتر میں دوبار ہفتہ ہفتہ سر بسجدہوں گے پھر آپ کی عرض مسموع اور شفاعت قبول ہوگی۔	۱۹۷	تمنیل۔
۲۰۳	آٹھواں ارشاد۔	۱۹۸	خدائی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضاۓ محمد۔
۲۰۳	انسانیہ العالیین۔	۱۹۸	تالیش دوم ارشادات سید المرسلین۔
۲۰۳	نواں ارشاد۔	۱۹۸	جلوہ اول۔
۲۰۳	الا وانا حبیب اللہ۔	۱۹۸	نصوص جلیلہ مسئلہ علیہ۔
۲۰۳	دوساں ارشاد۔	۱۹۸	ارشاد اول اناسیہن یوم القیمتہ۔
۲۰۵	میدان محشر میں میں ہی لوگوں کا قائد، خلیف، شفیع اور مبشر ہوں گا۔	۱۹۹	دوسرہ ارشاد۔

۲۰۹	ستر ہواں ارشاد	۲۰۵	اس دن خزانہ رحمت کی چاپیاں اور لواہ حمد میرے ہاتھ میں ہو گا۔
۲۱۰	ابراهیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور میں حبیب اللہ ہوں۔	۲۰۶	گیارہ ہواں ارشاد۔
۲۱۰	حدیث اختصر لی اختصاراً کا معنی	۲۰۶	پیشائے مرسلین و خاتم النبیین میں ہوں۔
۲۱۰	تحقیق مصنف۔	۲۰۶	محشر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خدام ایک ہزار اور جنت میں بے شمار میں ہوں گے۔
۲۱۰	ہر آیت قرآنی کے نیچے ساختہ ساختہ ہزار علم ہیں۔	۲۰۷	بارہ ہواں ارشاد۔
۲۱۱	کل کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو۔	۲۰۷	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الحلق اور آپ کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل ہے۔
۲۱۱	نمایزیں چپاں سے پانچ اور زکوٰۃ چوتھے سے چالیسو ان حصہ ہو گئی مگر ثواب و فضل پہلے والا برقرار ہے۔	۲۰۷	تیرہ ہواں ارشاد۔
۲۱۲	اٹھار ہواں ارشاد۔	۲۰۷	خلوٰق کی تمام تقسیمات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بہترین قسم میں ہوئے۔
۲۱۲	ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ دنیا میں کر کے جبلہ میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے چھپا رکھی ہے۔	۲۰۸	چودہ ہواں ارشاد۔
۲۱۳	انیسو ان ارشاد	۲۰۸	بہترین اولاد آدم پانچ ہیں اور حضور ان سب سے بہتر ہیں۔
۲۱۳	میں ہی حاضر ہوں کہ تمام لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے۔	۲۰۸	جلوہ دوم
۲۱۴	بیسو ان ارشاد	۲۰۸	جلائل مختلفہ باتیں
۲۱۴	خالتوں جنت قیامت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اوٹنی عضباء پر سوار ہوں گی۔	۲۰۹	پندرہ ہواں ارشاد
۲۱۵	حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام برائی پر سوار ہوں گے۔	۲۰۹	ہم زمانے میں پچھلے، قیامت میں ہر فضل میں اگلے ہیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
۲۱۵	حضرت بلال محشر میں ایک جنتی اوٹنی پر سوار ہو کر اس کی پشت پر اذان دیں گے۔	۲۰۹	سولہ ہواں ارشاد
		۲۰۹	نَحْنُ الْأَخْرَوْنُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأُولَوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۲۱۸	احادیث شفاعت	۲۱۳	اکیسوال ارشاد
۲۱۹	ستائیسوال ارشاد	۲۱۵	میں سب سے پہلے زین سے باہر تشریف لے جاؤ گا پھر مجھے بہتی جوڑا پہنایا جائے گا۔
۲۲۰	شفاعت سے متعلق وارد ہونو والی احادیث کی تخلص از مصنف	۲۱۵	میں عرش کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا جہاں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔
۲۲۱	اٹھائیسوال ارشاد	۲۱۵	باکیسوال ارشاد
۲۲۲	قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا امام، ان کا خطیب اور ان کا شفاعت کرنے والا ہوں گا۔	۲۱۵	اگلے پچھلے مجھ پر رشک کریں گے۔
۲۲۳	اتیتیسوال ارشاد	۲۱۵	تینیسوال ارشاد
۲۲۴	میں اپنی امت کا انتظار کروں گا۔	۲۱۵	مجھے عمدہ بہتی لباس پہنایا جائے گا کہ تمام بشر اس کے لائق نہ ہوں گے۔
۲۲۵	حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ محبوب میں حاضری اور الہام	۲۱۵	چوبیسوال ارشاد
۲۲۶	حضور اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت قیامت کے درستہ کو ملائی کسی نبی مرسل نے پایا۔	۲۱۵	حضور اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت قیامت کے دن سب سے بلند ہوں گے۔
۲۲۷	تیسوال ارشاد	۲۱۶	پچیسوال ارشاد
۲۲۸	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے دروازہ جنت کسی کے لئے نہیں کھولا جائے گا۔	۲۱۶	قیامت کے دن ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ ہم سے ہوتا
۲۲۹	اکیتسووال ارشاد	۲۱۶	چھبیسوال ارشاد
۲۲۱	اناول من یہ خل الجنة ولا فخر	۲۱۶	اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال دیے، وہ میں نے کر لئے، تیرا اس دن کے لیے موخر کر دیا جس دن سب کو میری حاجت ہوگی۔
۲۲۸	تیتسووال ارشاد	۲۱۷	قیامت کے دن جناب خلیل اللہ علیہ السلام بھی میری دعا کے خواہشند ہوں گے۔
۲۲۸	میں سب سے پہلا شفع اور میرے بیروکار سب نبیوں کی اموں سے افزود	۲۱۷	ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔

۲۲۳	ارشادات انبیاء عظام و ملائکہ کرام	۲۲۸	پستیسوال ارشاد
۲۲۳	چالیسوال ارشاد	۲۲۸	سب سے بلند نورانی منبر پر جلوہ گری
۲۲۳	شب معراج تمام انبیاء نے حمد و شادابی کے خطبے پڑھے اور آخر میں امام الانبیاء نے خطبہ پڑھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے افضل الانبیاء ہونے کا اعلان فرمایا۔	۲۲۹	قیامت میں نبی امی کا اعزاز
۲۲۴	آنتالیسوال ارشاد	۲۲۹	چوتیسوال کا ارشاد
۲۲۵	قول جبریل کہ میں نے کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل اور کوئی خاندان خاندان نبی ہاشم سے افضل نہ پایا۔	۲۲۹	سب سے پہلے میں پل صراط سے اپنی امت کو لے کر گزروں گا۔
۲۲۵	بیالیسوال ارشاد	۲۲۹	پستیسوال ارشاد
۲۲۵	فرشتہ کا خودہ	۲۲۹	دروازہ جنت کھلانے کے لئے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے۔
۲۲۵	تینتالیسوال ارشاد	۲۳۱	چھتیسوال ارشاد
۲۲۵	قصہ ولادت رسول نبی و والدہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام	۲۳۱	سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں تشریف آوری سے قبل جنت سب پیغمبروں پر حرام ہوگی۔
۲۲۶	چوالیسوال ارشاد	۲۳۱	سیمنتسیسوال ارشاد
۲۲۶	براق کی منہ زوری اور جرائیل علیہ السلام کی تکسیں و توبیخ	۲۳۱	افضیلت مطلقہ کے منکر یہودی کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھپڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس یہودی کو خطاب
۲۲۷	پینتالیسوال ارشاد	۲۳۲	اٹیسوال ارشاد
۲۲۷	محبوب ترین و معزز ترین خلق	۲۳۲	میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو
۲۲۸	احادیث امامۃ الانبیاء	۲۳۲	مقام وسیلہ کیا اور کس کو ملے گا۔
۲۲۸	سیتالیسوال ارشاد	۲۳۳	انتالیسوال ارشاد
۲۲۸	شب اسراء حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا۔	۲۳۳	جنت النعیم کے اعلیٰ غرفہ میں جلوہ گری
		۲۳۳	جلوہ سوم

۲۲۶	تباش سوم	۲۲۲	حضور نے ملائکہ و مرسلین کی امامت فرمائی
۲۲۶	طرق روایات و حدیث خصائص	۲۲۲	فائدہ
۲۲۶	حدیث خصائص متواتر المعنی ہے	۲۲۳	تنسیل
۲۲۶	حدیث خصائص کے راوی چودہ صحابہ کرام ہیں۔	۲۲۳	اڑھا سو انداز ارشاد
۲۲۶	خصائص و نفاسیں کی تعداد	۲۲۳	قیامت میں میراث اثواب سب انبیاء سے بڑا ہوگا۔
۲۲۹	مجھے چھ وجہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھ سے پہلے وہ فضائل کسی کو نہ ملے۔	۲۲۳	انچا سو انداز ارشاد
۲۵۳	امام سیوطی نے خصائص کبری میں تقریباً الراحتی سو خصائص جمع فرمائے ہیں۔	۲۲۳	ابراهیم و عیسیٰ قیامت کے دن میری امت میں ہوں گے۔
۲۵۳	علماء ظاہر سے علماء باطن کو زیادہ معلوم ہے۔	۲۲۳	پچاسو انداز ارشاد
۲۵۳	اے ابو بکر! مجھے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا	۲۲۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام مخلوق سے بہتر اور منتخب ہیں۔
۲۵۳	تباش چارم	۲۲۳	اکاؤنوس ارشاد
۲۵۳	آثار صحابہ	۲۲۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انبیاء و رسول کے خاتم، قائد اور سید ہیں۔
۲۵۳	پہلی روایت	۲۲۳	کل مخلوق کے رسول، موننوں پر مہربان اور شفیق المذنبین۔
۲۵۳	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق سے زیادہ عزت و کرامت والے ہوں گے۔	۲۲۳	بادونوال ارشاد
۲۵۳	دوسری روایت	۲۲۳	لی مع اللہ وقت الحج
۲۵۳	اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ سلم کو اپنی ذات کریمہ کے لئے چن لیا۔	۲۲۵	ترینیتوں ارشاد
۲۵۵	تیسرا روایت	۲۲۵	جرائیل علیہ السلام کا بارگاہ سید المرسلین میں سلام
۲۵۵	عند اللہ تمام مخلوق سے زیادہ وجہت و اعلیٰ ابوالقاسم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	۲۲۵	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اول، آخر ظاہر اور باطن ہیں۔

۲۵۹	سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواب	۲۵۵	چوتھی روایت
۲۵۹	گیارہویں روایت	۲۵۵	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں راہب کی زید بن عمرو بن نفیل کی پیشگوئی۔
۲۵۹	سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک اور خواب	۲۵۵	پانچویں روایت
۲۵۹	بارہویں روایت	۲۵۶	ابوالطالب و راہب کا قصہ
۲۶۰	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پرده عظمت تک پہنچنا، اذان سننا اور اللہ تعالیٰ کا موزون کے کلمات کی تصدیق فرمانا	۲۵۶	حضرت سید العالمین و خدا رسول رب العالمین
۲۶۱	نور المخام (ضروری وضاحت)	۲۵۶	شجر و جرنے سجدہ کیا۔
۲۶۲	تنبیہ (اختصار جواب کا التراجم)	۲۵۶	درخت اور بادل نے سایہ کیا۔
۲۶۲	ان مآخذ کے نام جو ترتیب کتاب کے وقت مصنف کے پیش نظر رہے۔	۲۵۶	چھٹی روایت
۲۶۵	بشرت جلیلہ (متعلقة قبولیت رسالہ)	۲۵۶	تمیم داری کو ہاتھ غبی کی بعثت سید المرسلین کے بارے میں خبر
۲۶۶	بشرت اعظم (مصنف کی مقبولیت بارگاہ رسول میں)	۲۵۷	ساتویں روایت
۲۶۷	رسالہ شمول الاسلام لاصحول الرسول الکرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کے ایمان کا بیان	۲۵۷	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ہاتھ غبی کے اشعار
۲۶۸	عبد مومن مشرک سے بہتر ہے۔	۲۵۷	آٹھویں روایت
۲۶۸	حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قرن و طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیج گئے۔	۲۵۷	بارگاہ رسالت میں ایک کنیز کا واقعہ
۲۶۹	روئے زمین پر ہر زمانے میں کم از کم سات مسلمان ضرور رہے۔	۲۵۸	نویں روایت۔
۲۶۹	واجب ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد و امہات ہر قرن و طبقہ میں بندگان صاحب مقبول ہوں	۲۵۸	سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو حمل کے چھٹے ماہ میں بشارت
۲۶۹	پہلی ولیں	۲۵۹	دویں روایت

۲۷۷	غزوہ حسین کا واقعہ	۲۶۹	دوسری دلیل
۲۸۰	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جذات میں سے نوبییوں کا نام عائکہ تھا۔	۲۷۰	کسی کافر و کافرہ کے لئے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔
۲۸۰	ساقوں دلیل	۲۷۱	تیرسی دلیل
۲۸۰	مسلم و کافر کا نب مفقط ہے۔	۲۷۱	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔
۲۸۱	آٹھویں اور نویں دلیل	۲۷۱	چوتھی دلیل
۲۸۲	زید بن عمرو جنتی ہیں۔	۲۷۱	بارگاہِ عزت میں سرکار کی وجہت و محبوبیت
۲۸۲	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیس پشتون تک اپنا نسب نامہ بیان فرمایا	۲۷۳	ابوطالب کے عذاب میں تنخیف کیوں؟
۲۸۳	دوسیں دلیل	۲۷۵	پانچھیں دلیل
۲۸۳	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے نکاح کا معاملہ فرمایا وہ جنتی ہیں۔	۲۷۵	دوڑخ اور جنت والے برابر نہیں۔
۲۸۳	تبیہات باہرہ	۲۷۶	بعض عقائدِ اہلسنت
۲۸۳	حدیث ابن الہی و اباک " میں باپ سے ابوطالب مراد لینا طریق واضح ہے۔	۲۷۶	حضرت عبدالمطلب داخل بہشت ہو گئے
۲۸۳	آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا۔	۲۷۶	چھٹی دلیل
۲۸۳	استغفار سے نبی معاذ اللہ عدم توحید پر دال نہیں۔	۲۷۷	عزت و کرم مسلمانوں میں مختصر ہے۔
۲۸۳	سید الشفعیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار شفاعت فرمائیں گے۔	۲۷۷	کسی لئیم و دلیل کی اولاد سے ہونا کسی عنیز و کرم کے لئے باعث مدح نہیں۔
۲۸۶	اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا وہ آپ پر ایمان لا کر شرفِ صحابت پا کر آرام فرمائے ہیں۔	۲۷۷	کافر باپ و ادوس کے انتساب سے فخر کرنا حرام ہے۔
		۲۷۷	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان اور مقامِ رجز و مدح میں بارہا اپنے آباء کرام و امہات کرام کا ذکر فرمایا۔

۲۹۳	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حییمہ سعدیہ کے لئے قیام فرمایا اور ان پی چادر بچھا کر اس پر بھایا۔	۲۸۶	حدیث ضعیف دربارہ فضائل مقبول ہے۔
۲۹۴	حضرور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی رضاگی مال حییمہ سعدیہ، رضاگی باپ حارث سعدی، رضاگی بھائی عبد اللہ سعدی اور رضاگی بہن سیما سعدیہ سب کو دولت ایمان نصیب ہوئی	۲۸۶	امام ابن حجر مجکی کی ایک عبارت
۲۹۵	کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نہ پائی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے امثل عطا نہ ہوئی ہو	۲۸۷	احیاء والدین کریمین کی حکمت اور حافظ ابن دجیہ کے زعم کا اندر فاع
۲۹۶	فائدہ ظاہرہ	۲۸۸	مسئلہ مذکورہ میں توقف کرنے والے بعض علماء کا قول
۲۹۷	پیشیں ۱۳۵ نعمہ بکار اور اعظم علماء نامدار کے اسماء گرامی جو ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نجات کا اعتقاد رکھتے ہیں	۲۸۹	آدمی جانب ادب میں خطا کرے تو لا کہ جگہ بہتر ہے اس سے کہ معاذ اللہ اس کی خطاب جانب گستاخی جائے۔
۲۹۹	مسئلہ مذکورہ کی تائید میں عبارات ائمہ و علماء	۲۸۹	امام کامعافی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔
۳۰۱	عائدہ زاہرہ	۲۸۹	مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں
۳۰۱	حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے ایمان افروز اشعار جو آپ نے اپنے وصال کے موقع پر اپنے ابن کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نذر کرتے ہوئے کہے	۲۹۰	نکتہ الہبیہ
۳۰۳	سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان پاک سے لکھے ہوئے آخری پر مفرکلمات	۲۹۰	ظاہر عنوان باطن ہے اور اسم آئینہِ مُمْتَنی
۳۰۳	عربت قاہرہ	۲۹۰	الاسماء تنزل من السماء
۳۰۳	مسئلہ ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں متقرر ہنے والے ایک عالم کا انوکھا واقعہ	۲۹۰	اچھے نام کی اہمیت اور رے نام کی کراہت
۳۰۷	رسالہ نبی مکھید ایمان بآیات قرآن (صرف قرآنی آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم پر ایمان کا مطلب)	۲۹۲	جبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہبیہ کے الطاف خفیہ
۳۰۷	مسلمان بھائیوں سے عاجزان دست بستہ عرض	۲۹۲	آپ کے والدین، مرضعات اور داییوں وغیرہ کے اسماء کا عجب حسن انتخاب

۳۱۳	گستاخ پر دونوں جہان میں اللہ کی لعنت اور سخت عذاب ہے	۳۰۸	آیت ۱
۳۱۴	گستاخوں پر سات کوڑے	۳۰۹	تعظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدار ایمان ہے
۳۱۵	مسلمانوں کو اللہ اور رسول یاد دلا کر بدگویوں کے کلمات کی نسبت استفسار اور روشن بیانوں سے خدا اور رسول کی شان میں ان کے دشام ہونے کا اظہار	۳۰۹	آیت ۲
۳۱۶	دوشامیوں کی پہلی دشام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو	۳۰۹	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور سارے جہان سے زائد ہونی شرط نجات ہے۔
۳۱۷	دوسری دشام	۳۱۰	آیت ۳
۳۱۷	تیسرا دشام	۳۱۰	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا زبانی ادعاء کافی نہیں بلکہ امتحان ہوگا
۳۱۷	چوتھی دشام	۳۱۰	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا امتحان کیا ہے۔
۳۱۸	آیت ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳	۳۱۱	آیت ۴
۳۱۸	قرآن کی بہت آیتیں تھانوی صاحب نے باطل کر دیں	۳۱۲	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اگرچہ اپنا باپ ہو جو اس سے محبت رکھے وہ مسلمان نہیں
۳۱۹	قرآن مجید اور ان کے خود اپنے اقرار سے ثابت کہ یہ بد گوجو پایوں سے بڑھ کر گمراہ ہیں	۳۱۲	رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ سے اگرچہ اپنا باپ ہو جو یک لخت علاقہ توڑ دے اس کے لئے قرآن مجید نے سات فائدے بتائے
۳۲۰	آیت ۱۴	۳۱۳	آیت ۵، ۶، ۷
۳۲۰	آیت ۱۵	۳۱۳	جو ان کے گستاخ سے اگرچہ اپنا باپ ہو علاقہ رکھے اس پر قرآن مجید کے تازیانے
۳۲۱	پانچیں دشام	۳۱۳	جو گستاخ سے دل میں خفیہ میل رکھے اس پر تازیانہ
۳۲۱	اللہ کو دشامیوں کی دشامیں	۳۱۳	جو اس سے میل جوں رکھے خود کافر ہے
۳۲۱	چھٹی دشام	۳۱۳	آیت ۸، ۹

۳۲۸	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا ہیں کلمہ گو ہو کافر ہو جاتا ہے۔	۳۲۱	ساتویں دشنام
۳۲۹	آیت ۲۳	۳۲۲	آٹھویں دشنام
۳۲۹	اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے مکر کو کافر فرمایا اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو۔	۳۲۲	دنیا کے پر دے پر کوئی کافر فرقہ بھی ہر گز ایسا کافر نہیں بنتا
۳۳۰	اس آیت سے مکران علم غیب سبق لیں	۳۲۲	دیکھو ایمان کی خبر لو کہ امتحان سے تمہارے نزدیک اللہ و رسول سے مال باپ، استاذ بڑھ کر ٹھہر تے ہیں
۳۳۰	مسئلہ علم غیب کا جمالی بیان	۳۲۳	آیت ۱۶
۳۳۱	دوسرے مکر کے اہل قبلہ کیوں نکر کافر ہو	۳۲۴	یہاں دو فرقے ان احکام قرآن کے خلاف چلتے ہیں۔ پہلا فرقہ جملاء، ان کا ایک عذر و ہی رشته یا علاقہ استاذی وغیرہ دوسرا عذر فالاں بد گومولوی ہی اسے کیوں نکر رہا گیں
۳۳۱	آیت ۲۴	۳۲۴	آس عذر کے رو میں تین آیتیں
۳۳۲	آیت ۲۵	۳۲۴	آیت ۱۷
۳۳۲	آیت ۲۶	۳۲۴	آیت ۱۸
۳۳۲	آیت ۲۷	۳۲۴	آیت ۱۹
۳۳۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پہلو دار بات سے گستاخی بھی کفر ہے نہ کہ صریح گستاخی	۳۲۵	دوسرے فرقے معاذن دین ان کے پانچ مکر ہیں
۳۳۳	یہ امام اعظم پر افتخار کرتے ہیں امام کا مذہب یہ ہے کہ کسی قطعی بات کا مکر کافر ہے اگرچہ اہل قبلہ ہو	۳۲۶	پہلا مکر: کلمہ گو کیسے کافر ہو سکے اور قرآن مجید کی آیتوں سے اس کا رو
۳۳۴	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونی تنقیص کرنے والے کلمہ گو اہل قبلہ کے باب میں ہمارے امام مذہب کا فتویٰ کہ وہ کافر ہو گیا اس کی عورت نکاح سے نکل گئی	۳۲۷	
۳۳۴	اہل قبلہ کے صحیح معنی	۳۲۸	آیت ۲۰
۳۳۵	اممہ دین کی تصریح کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بد گو کو جو کافرنہ کہے خود کافر ہے	۳۲۸	آیت ۲۱
۳۳۷	ان بد گوئیوں کے احوال شرع میں بت کو سجدہ کرنے سے بدتر ہیں	۳۲۸	آیت ۲۲

۳۵۲		۳۰ آیت	۳۳۸	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بد گوکی توبہ قبول نہ ہونے کا مسئلہ
۳۵۳		۳۱ آیت	۳۳۹	تیرا مکر کہ ننانوے باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی اور قرآن مجید کی آیتوں سے اس کارڈ
۳۵۴	مدقوں کی مطبوعہ کتابوں سے روشن ثبوت کہ یہاں دربارہ تکفیر کس قدر اعلیٰ درج کی احتیاط ہے اور مفتریوں کی تہمت	۳۴۰	ان لوگوں کے نزدیک خدا کی بھاری غلطی کہ اس نے دائرہ اسلام نگ کر دیا	
۳۵۷		۳۲ آیت	۳۴۰	۔ آیت ۲۸۔
۳۵۷		۳۳ آیت	۳۴۱	فقہائے کرام نے فرمایا کیا تھا اور ان مفتریوں نے کیا بنالیا
۳۵۹	رسالہ الامن و العلی لناعقی المصطفی بدافع البلاء (حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشکل کشنا، حاجت روا اور دافع البلاء ہونے کا مدلل ثبوت)	۳۴۱	کسی کے لئے علم غیب ماننے میں لکھتے پہلو ہیں اور ان کے کیا کیا احکام	
۳۵۹	استفتاء از دہلی، مرسلہ مولوی کرامت اللہ صاحب	۳۴۲	فائدہ جلیلہ: کسی کی نسبت ادعائے علم غیب پر بعض متاخرین کی تکفیر کا مطلب	
۳۶۲	مقدمہ	۳۴۲	غیب کے علم نہیں کا دعا کافرنہیں اگرچہ بذریعہ نجوم یار مل ہو	
۳۶۲	عائدہ قابره	۳۴۸	ضروری تنبیہ	
۳۶۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں علماء اور ائمہ دین کا عقیدہ	۳۴۸	اختمال کوں سا معتبر ہوتا ہے	
۳۶۳	وہابیوں کا پیشو اچھ سو ۳۰۰ بر س سے پہلے کے عالموں کو کافر کہتا تھا	۳۴۹	اس فرقہ کا چوتھا مکرا ایکار لیعنی مکر جانا اور اس کے رد میں آیت کریمہ	
۳۶۳	وہابیوں کے نزدیک حضور کی تعریف میں کمی چاہیے۔	۳۵۰	پانچواں مکر: علمائے اہلسنت پر افتراء کہ انہوں نے بڑے بڑوں کو کافر کہہ دیا اور اس کے رد میں آیتیں	
۳۶۳	وہابیوں کے نزدیک درود شریف کی کثرت شرک ہے۔	۳۵۱	توبہ کرنی ہو تو علائیہ چھاپیں	
۳۶۳	وہابیہ کے طور پر شاہ عبد العزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب بد عقی تھے۔	۳۵۲	آیت ۲۹	

۳۷۰	خواجہ نقشبند کی عنایت ان کی حمایت میں اہل و عیال کو سونپنا۔	۳۶۳	ملاحظہ ہو امام الطائفہ (مولوی اسماعیل دہلوی) کا اپنے بڑوں کو صاف نبی اور صاحب شریعت و ولی و معموم مانا خاص دینی کاموں میں خاندان امام الطائفہ کا نئی نئی باتیں نکال کر وہابیہ کے طور پر بدعتی ہو جانا۔
۳۷۰	اولیاء کرام بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں کمال و سعی علم رکھتے ہیں، اس عالم کی توجہ رکھتے ہیں۔	۳۶۵	ذرا تصور شیخ کا حکم ملاحظہ ہو
۳۷۱	اولیاء کرام سے دنیا والوں کو فیض پہنچا ہے۔	۳۶۶	و ظاہر کے التزام کا حکم
۳۷۲	یا علی یا علی یا علی کہہ کر مولی علی کو پکارنا۔	۳۶۶	امام الطائفہ (مولوی اسماعیل دہلوی) کا خود بدعتی ہونا۔
۳۷۳	کنٹیت جلیلہ کو وہابیہ کا مند ہب انبیاء و ملائکہ یہاں تک کہ خود رب جل جلالہ کو (معاذ اللہ) مشرک کہتا ہے۔	۳۶۷	وہابیہ کے طور پر سارا خاندان دہلوی مشرک تھا، ملاحظہ ہوں ان کے عقائد کہ حضور ہی ہر مصیبۃ کے کام آتے ہیں
۳۷۴	نسبت و اسناد کی نفس تحقیق	۳۶۸	حضور سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں
۳۷۵	فرق ذاتی و عطائی	۳۶۸	عابزی کے ساتھ حضور کو ندا کرے۔
۳۷۵	جو معنی شرک ہیں کسی مسلمان کو خواب میں بھی ان کا خیال نہیں گزرتا۔	۳۶۸	حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں۔
۳۷۶	وہابیہ کا خلل کہ جو خاورے خود بولتے ہیں مسلمانوں کے مشرک بنانے کو ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔	۳۶۸	اولیاء کا مشکل کشاہ ہونا۔
۳۷۶	کلمہ گوکی نسبت ارادہ معنی شرک کا اعداء حرام و بکرہ و افتراء ہے۔	۳۶۹	اولیاء کرام کی رو حیں جہاں چاہتیں ہیں جاتی ہیں اپنے متولیین کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔
۳۷۶	قاکل کا موحد ہونا گواہ ہے کہ معنی شرک مراد نہیں۔	۳۶۹	مولی علی سے نیاز
۳۷۷	حضور کو دافع البلاء کہنے کے شرک ہونے کی دو صورتیں ہیں اور جو صورت مراد لوخد اور رسول تک حکم شرک پہنچ گا۔	۳۶۹	بیماری میں مولی علی کی طرف توجہ
۳۷۷	جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے اسے غیر کے لیے بعطائے الی مانا بھی شرک نہیں ہو سکتا۔	۳۶۹	غوث پاک کی توجہ اور عنایت

۳۹۷	بارہ حدیثیں کہ اسلام نے عزت، مسلمانوں نے راحت فاروق اعظم کے سبب پائی	۳۷۹	پہلا باب، اس میں چھ آیتیں اور سانچھ حدیثیں ہیں۔
۳۹۸	ہر بلاء کا دافع ہر نعمت کا حصول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔	۳۷۹	فصل اول، آیت کریمہ میں۔
۳۹۹	اللہ تعالیٰ یوں ہی گناہ بخش سکتا تھا مگر فرماتا ہے کہ قبولِ توبہ چاہو تو نبی کے حضور حاضر ہو۔	۳۷۹	اللہ تعالیٰ یوں ہی گناہ بخش سکتا تھا مگر فرماتا ہے کہ قبولِ توبہ چاہو تو نبی کے حضور حاضر ہو۔
۴۰۰	اللہ تعالیٰ پر وہابیہ کے الزمات۔	۳۸۰	متعدد آیات و احادیث کہ نبیوں کے سبب بلا دفع ہوتی ہے۔
۴۰۱	باب دوم، اس میں ۲۳۲ آیتیں اور ۲۴۰ حدیثیں ہیں۔	۳۸۱	فصل دوم، احادیث عظیمه میں،
۴۰۲	فصل اول، آیات شریفہ میں کہ خدا اور رسول نے دو لمند کر دیا۔	۳۸۱	نبیوں کے باعث مدد ملتی ہے۔
۴۰۳	دینے والے خدا اور رسول ہیں ان کے دینے کی توقع رکھو۔	۳۸۲	اولیاء کے باعث مینہ ارتبا ہے۔
۴۰۴	خدا اور رسول نے نعمت دی۔	۳۸۲	اولیاء کے سبب زمین قائم ہے۔
۴۰۵	حافظ و تکہبان اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔	۳۸۲	اولیاء کے سبب زمین کی تکہبانی۔
۴۰۶	اللہ اور اللہ کے نیک بندے کافی ہیں	۳۸۷	حدیث کی خلق کی موت زندگی سب اولیاء کی وساطت سے ہے۔
۴۰۷	پانچ آیتیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنارب کہنا شرک نہیں جبکہ مجاز مراد ہو۔	۳۸۸	متعدد حدیثیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی پناہ ہیں۔
۴۰۸	یوسف علیہ السلام پر وہابیہ کے الزم۔	۳۹۰	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم کی پناہ ہیں (حدیث)
۴۰۹	عیسیٰ علیہ السلام شفافی ہوئے۔	۳۹۰	ستره حدیثیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اپنی حاجتیں مانگو۔
۴۱۰	عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرنے والے ہوئے۔	۳۹۲	متعدد حدیثیں کہ اللہ کے نیک بندے حاجت روائی کرتے ہیں۔
۴۱۱	عیسیٰ علیہ السلام پر وہابیہ کا الزم۔	۳۹۲	تین حدیثیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوزخ سے بچاتے ہیں۔

۳۱۸	نبی بخش، عطار سول، عطا علی وغیرہ نام رکھنا شرک نہیں۔	۳۰۹	اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنده کہنا شرک نہیں۔
۳۱۸	آیت کہ اللہ اور جبراًئیل اور ابو بکر و عمر مددگار ہیں۔	۳۱۰	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکلیف سے بحاجت دی، مصیبت کاٹ دی۔
۳۱۹	اویاء ہمارے مالک ہیں ہم ان کے مملوک ہیں اس میں کوئی شرک نہیں۔	۳۱۰	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔
۳۲۰	یوسف علیہ السلام پر وہابیہ کا پانچواں اذرام۔	۳۱۱	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک تمام امت کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔
۳۲۰	صرف اللہ اور سول اور اویائے مددگار ہیں (ابن)۔	۳۱۲	محبوبان خدا اللہ کے حضور شفاعت کے مالک ہیں۔
۳۲۲	آیت کہ حضور اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں۔	۳۱۳	بندے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔
۳۲۳	وہابیوں کی جان پر لاکھ من کے پیڑا (یعنی امام الطائفہ مولوی اسٹلیل صاحب اور شاہ عبد العزیز صاحب میں شرک و توجید کا بگاڑ)	۳۱۴	مجاہدین کو فرشتہ ثابت قدم رکھتے ہیں۔
۳۲۳	سب کے ہاتھ حضور کی طرف پھیلے ہیں سب حضور کے آگے گزر گڑاتے ہیں، حضور ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں جو حضور کو اپنا مالک نہ جانے سنت کی حلاوت نہ پائے۔	۳۱۵	دنیا کے تمام کاروبار کی فرشتہ تدبیر کرتے ہیں۔
۳۲۵	امام الطائفہ نے انجانے میں گھر پھونک دیا	۳۱۶	اویائے کرام بعد انتقال تمام عالم کا تصرف کرتے ہیں اور جہاں بھر کے کاروبار کی تدبیر کرتے ہیں۔
۳۲۶	بارہ حدیثیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیارات اور تصرفات کی کنجیاں عطا ہوئیں۔	۳۱۷	مزارات اویائے کرام سے استفادہ کے منکر ملبدے دین ہوئے۔
۳۲۷	مدودینے کی کنجیاں، نفع پہنچانے کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔	۳۱۸	آیات سے ثابت ہے کہ موت فرشتہ دیتا ہے۔
۳۲۹	زمین و آسمان کی سب مخلوق حضور کے قبضہ میں ہے اور ساری دنیا حضور کی مٹھی میں۔		جب رائیل علیہ السلام پر وہابیہ کا اذرام، جبراًئیل نے بیٹا دیا۔

۲۳۸	متعدد حدیثین کے مال کے مالک اللہ و رسول ہیں۔	۲۳۰	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں (حدیث)
۲۳۸	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان و مال کے مالک ہیں۔	۲۳۰	وہابیت کے نزدیک اللہ کا نائب گویا پھر کا نائب ہے۔
۲۳۱	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل کی امید۔	۲۳۰	آخرت میں عزت دینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔
۲۳۱	اعربی صحابی کی بارگاہ رسول میں عرض کر حضور کے سوا ہمارا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں۔	۲۳۰	قیامت میں کل اختیارات حضور کو ہیں۔
۲۳۱	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمور کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔	۲۳۱	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت و نار کی کنجیاں حضور کو عطا ہوں گی، اور حضور کی سرکار سے صدیق و فاروق کو۔
۲۳۲	ابو طالب کے اشعار جن کے سننے کی خود حضور نے خواہش کی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت بڑے بڑے ان کی پناہ لیتے ہیں۔	۲۳۱	جنت و دوزخ کا اختیار خلافے کرام کو دیا جائے گا۔
۲۳۲	اصحاب انصار کی عرض کہ اللہ و رسول کا احسان زائد ہے، اللہ و رسول کا فضل بڑا ہے۔	۲۳۲	مولیٰ علیٰ قسم نار ہیں۔
۲۳۲	تین حدیثیں کہ زمین کے مالک اللہ و رسول ہیں۔	۲۳۶	فصل دوم، احادیث منیف میں۔
۲۳۶	حدیث کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔	۲۳۶	وصل اول
۲۳۶	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ لینے میں یا نجح حدیثیں۔	۲۳۶	اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غنی کر دیا۔
۲۳۸	جان وہابیت پر لاکھ من کا پپڑا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہائی۔	۲۳۷	اللہ و رسول حافظ و نگہبان ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں کار ساز ہیں۔
۲۳۸	غلام کو مارنا، اس غلام کا اللہ کی دہائی دینا۔	۲۳۷	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز قیامت میں اہل سنت کے نگہبان ہیں۔

۳۶۵	عمر فاروق کے تین قول کہ ہمارے سر پر بال نبی نے لگائے۔	۳۳۸	پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور کی دہائی دینا۔
۳۶۷	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہان کی دولت ایک جملہ فرمائے بیخش دیتے ہیں۔	۳۳۸	صحابی کا حضور کی دہائی سن کر مارنے سے ہاتھ روک لینا وغیرہ، وہابی اس کو شرک کہتے ہیں۔
۳۶۹	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خداوند الہی ہونے کا نقش ثبوت۔	۳۳۹	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ لینے والے کے لیے امان کا وعدہ ہے۔
۳۷۰	اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے نعمتوں کے خوان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے ہیں سب تابع فرمان ہیں۔	۳۵۳	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتخاکرنے والا نامہ دہائیں رہتا (صحابی کا قول) کہ اللہ و رسول پر ہی بھروسہ ہے۔
۳۷۰	آٹھ حدیثیں کہ مخلوق کو حشر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیں گے۔	۳۵۴	صحابی عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کریمہ کی طرف ! ہمارے گناہ بیخش دیجئے یا رسول اللہ ! ہم پر سیکھنا اتاریے، یا رسول اللہ ہمیں ثابت قدم رکھئے۔ یا رسول اللہ ! ہم حضور کے فضل کے محتاج ہیں۔
۳۷۳	خدا کی شان میں ملا دینے کا رد	۳۵۷	ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ! حضور انہیں زندہ رکھتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔
۳۷۴	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت سے نار جہنم کا دفع فرمانا۔	۳۶۰	(دو حدیثیں) کہ اللہ و رسول کے لیے صدقہ کرنا
۳۷۶	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے قیدی کی سزا بدل دی۔	۳۶۲	صدیق اکبر کا قول کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ ہوں۔
۳۷۸	(ایک بی بی سے حضور نے فرمایا کہ) پنچ اللہ و رسول کے سپرد ہیں۔	۳۶۲	فاروق اعظم کا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ بتانا۔
۳۷۹	حضور کا ارشاد کہ سخت تر دشمن کے مقابلہ میں اللہ و رسول تمہیں کفایت فرمائیں گے۔	۳۶۳	عمر فاروق اعظم اور تمام صحابہ پر وہابیہ کے متعدد الزامات۔
۳۸۰	گھروں کے لیے اللہ و رسول کو باقی رکھنا (قول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حضور کا ارشاد کہ اللہ و رسول نے نعمت دی۔	۳۶۳	بدعت حسنے کے ماننے پر وہابیہ نے فاروق اعظم کو صاف گراہ کہہ دیا۔

۳۹۰	حضور کارب اپنے محبوب سے مشورہ لیتا ہے۔	۳۸۲	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق دیا
۳۹۱	آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک حضور غوث اعظم محبوب سجنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔	۳۸۲	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غال دل زندہ کر دیئے، اندھی آنکھیں روشن فرمادیں۔ بہرے کان سننے والے اور ٹیڑھی زبانیں سیدھی کر دیں۔
۳۹۲	ایک ایک گھری کے حال کی غوث اعظم کو خبر ہونا۔	۳۸۳	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گمراہی سے پناہ دی، ہلاکت سے بچایا۔
۳۹۲	ہر شقی و سعید کا ان پر پیش کیا جانا لوح محفوظ کا ان کے پیش نظر ہوتا۔	۳۸۳	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا کہ ہم سے استغاثت کرو۔
۳۹۳	(صحابی کی عرض کہ) یا رسول اللہ! حضور جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں۔	۳۸۵	دہبیہ عین ادعائے توحید میں شرک کرتے ہیں
۳۹۳	دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں جسے چاہیں عطا فرمائیں۔	۳۸۵	چاند کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر چلتا۔
۳۹۵	ماکان و ماتکون (یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا) سب کا علم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رسول ہیں اور وہ حضور کے امتی۔	۳۸۷	ملائکہ مدبرات امر بھی حضور کے زیر حکم ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رسول ہیں اور وہ حضور کے امتی۔
۳۹۶	رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلیم فرمانا کہ حاجت کے وقت ہمیں ندا کرو، ہم سے استغاثت اور انجام کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! حضور میری حاجت روا فرمائیں۔	۳۸۷	سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سورج کے چلانے والے فرشتے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس لے آئے۔
۳۹۸	دہبیہ کے نزدیک ندا و استغاثت میں صحابہ پر صریح شرک کا الزام۔	۳۸۸	کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے، اور کوئی شے کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے۔
۳۹۹	پیانوں میں میں نے برکت رکھ دی ہے۔	۳۸۸	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کا ارادہ فرمائیں اس کے خلاف نہیں ہوتا کوئی ان کے حکم کا پھیرنے والا نہیں۔
		۳۸۸	حدیث دیکھو کہ حضور کارب حضور کی اطاعت کرتا ہے۔

۵۱۲	وہاپیوں کا امام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف مجرم اور پیغام رسالہ منیہ اللبیب ان التشریع بید الحبیب (حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک احکام شرع ہیں)	۵۰۰	رسالہ (غمیٰ منیہ اللبیب ان التشریع بید الحبیب (حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک احکام شرع ہیں))
۵۱۵	ایمان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عطا کرتے ہیں	۵۰۰	سولہ حدیثیں کہ مدینہ طیبہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم کر دیا۔
۵۱۵	امام الہابیہ کی دریہ دہنی	۵۰۰	پانچ حدیثیں کہ مکہ معظمه کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم کر دیا
۵۱۷	(اختیارات) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فرض نہ ہو۔	۵۰۰	کہ معظمه کو ابراہیم علیہ السلام نے امن والا کر دیا
۵۱۸	احکام شریعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد ہیں جس بات سے جو چاہیں حکم فرمادیں اپنی طرف سے وہی شریعت ہے	۵۰۹	(فائدہ ممک) کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہ تاکید تمام جس بات کا حکم فرمائیں وہاپیوں کا پیشوں (تفویہ الایمان میں) صراحتہ کہ یہ تو شرک ہے، اب دیکھیں وہابی کس کا لکھ پڑتے ہیں۔
۵۱۹	(حقیقت و مجاز کا فرق) خدا کا فرض رسول کے فرض کئے ہوئے سے اتوی ہے جو ۵۸ حدیثیں جن سے معلوم ہو گا کہ حکم احکام شرع کے حضور کو سپرد ہیں۔	۵۱۰	ذر الماحظہ ہو مدینہ طیبہ کے راستے میں نامعقول باقیٰ کرنا وہابیہ کا جزو و ایمان ہے جونہ کرنے کے نزدیک مشرک ہو جائے۔
۵۲۳	ایک خاص نکتہ کی اصل جس سے مجلس میلاد قیام و فاتحہ و تیجہ و غیرہ تمام مسائل پر دعا ہے ٹھوپ جاتے ہیں۔	۵۱۰	لطیفہ حقہ
۵۲۴	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حکم شرع سے جو چاہتے مستثنی فرمادیتے۔ اس سلسلہ میں ۲۲ و ۳۵ حدیثیں۔	۵۱۰	عجب عجب کہ ہر راستے میں باہم جوتی پیزار ہونا وہابیہ کا جزو ایمان ہے، نہ کریں تو اپنے امام کے حکم سے مشرک ہو جائیں۔
۵۲۵	(۱) حضرت ابو بردہ کے لیے شمشاہہ بکری کی قربانی جائز فرما دی۔	۵۱۱	تنمیل و تکمیل
۵۲۶	(۲) ایک بار عقبہ بن عامر کے لیے بھی اس کی اجازت عطا کی۔	۵۱۱	احکام الہبیہ و قسم ہیں: تکوینیہ و تشریعیہ
		۵۱۱	احکام الہبیہ تشریعیہ تکوینیہ میں کچھ وہاپیوں کا تفرقة محض حکم اور خود اپنے منہب سے اندرھا پن۔

۵۳۷	(۱۵) سراقد کو سونے کے لگن حضور کی اجازت سے پہنائے گئے۔	۵۲۶	(۳) ام عطیہ کو ایک جگہ نوحہ کرنے کی رخصت بخشی۔
۵۳۸	(۱۶) مولیٰ علی کو اپنانام اور کنیت جمع کرنے کی اجازت فرمائی۔	۵۲۷	(۲) ایک بار خواہ بنت حکیم کو نوحہ کی اجازت فرمادی۔
۵۳۹	(۱۷) عثمان غنی کو بے حاضری جہاد سہم غیمت کا مستحق قرار دیا اور عطا کیا۔	۵۲۷	(۵) یہ نبی اسلام بنت زید کو ایک دفعہ کی پروانگی عطا کی۔
۵۴۱	(۱۸) معاذ بن جبل کو اپنی رعیت سے تھاں فرما دیا۔	۵۲۸	(۶) اسلام بنت عمیس کو وعدت کا سوگ معاف فرمادی۔
۵۴۲	(۱۹) ایک صاحب کے لئے بیع میں خیار غبن مقرر فرمادی۔	۵۲۹	(۷) ایک صحابی کو بجائے مہر کے سورۃ قرآن سکھانا کافی کر دیا۔
۵۴۳	(۲۰) ام المؤمنین کو عصر کے بعد دور کعت نقل جائز فرمادی۔	۵۳۰	(۸) خزیمہ بن ثابت کی تہاگوہی کو شہادت کی نصاب کامل کر دیا۔
۵۴۵	(۲۱) ایک بی بی کے لیے احرام میں شرط لگانا جائز فرمادی۔	۵۳۱	(۹) ایک صحابی کے لیے روزہ کافرہ خود ہی کھانا جائز فرمادی۔
۵۴۶	(۲۲) ایک شخص نے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا کہ دونماز سے زائد نہ پڑے گا۔	۵۳۲	(۱۰) ایک صاحب کو جوانی میں ایک بی بی کا دودھ پینے کی اجازت دی اور اس سے حرمت رضاعت ثابت فرمادی۔
۵۴۷	مسح موزہ کی مدت	۵۳۳	(۱۱) دو صاحبوں کو ریشمیں کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔
۵۵۱	مسواک کا حکم	۵۳۳	(۱۲) مولیٰ علی کو بحالت جنابت مسجد اقدس میں رہنا منباخ فرمادی۔
۵۶۲	حرام و قسم ہے: ایک وہ جسے خدا نے حرام کیا، اور ایک وہ جس کو رسول نے حرام کیا، دونوں یکساں ہیں۔	۵۳۵	(۱۳) کہ مخدرات المیبت (پردہ نشین) کو بحالت عارضہ ماہانہ مسجد مبارک میں آنا جائز فرمادی۔
۵۶۳	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے شارع ہیں۔	۵۳۵	(۱۴) براء بن عازب کو سونے کی انگوٹھی پہننی جائز فرمادی۔

۵۶۹	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر امام الوبائیہ کا افتراء	۵۶۳	امام الوبائیہ کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صریح افتراء
۵۶۹	امام الوبائیہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدحواس کھا۔	۵۶۴	امام الوبائیہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و مکالات یکخت الزادیہ۔
۵۶۹	امام الوبائیہ کی اندھی مت۔	۵۶۴	اس کے نزدیک حضور کو کسی نبی سے کچھ امتیاز نہیں اور ابتوں میں فقط جاہلوں میں ممتاز ہیں نہ کی عالموں سے (یہ ہے وہابیوں کا عقیدہ)
۵۷۰	مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع غیب پر قدرت و اختیار ہونے کا حدیث سے ثبوت۔	۵۶۵	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ اور انہمہ کا عقیدہ کہ حضور تھا حاکم ہیں، نہ ان کے سوا کوئی حاکم نہ وہ کسی کے محکوم۔
۵۸۰	امام الوبائیہ اللہ عزوجل کو (معاذ اللہ) صریح گالیاں دیتا اور صاف جاہل مانتا ہے۔	۵۶۶	مسک الختم
۵۸۲	امام الوبائیہ کی صریح خیانت و عیاری	۵۶۶	(حدیث) وفینما نبی اُن کی نفس بحث
۵۸۳	اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اس قول کے متعلق نہایت نقیش بحث اور احادیث کا جمع۔	۵۶۶	(امام الوبائیہ) قرآن کے خلاف دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء کی طرف خدا کے تنانے سے بھی اطلاع غیب کی نسبت شرک ہے۔
۵۸۷	امام الوبائیہ کے نزدیک صحابہ کرام شرک کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع نہ فرماتے۔	۵۶۷	امام الوبائیہ کے نزدیک اس کا معبد کسی کو اطلاع علی الغیب کا رتبہ دینے سے عاجز ہے۔
۵۸۷	امام الوبائیہ کے طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرک سے ممانعت پر اپنے یاروں کے لحاظ کو ترین حیج دیتے تھے۔	۵۶۸	امام الوبائیہ نے صریح قرآن کی مخالفت کی مگر اسے مضر نہیں کہ اس کے نزدیک قرآن کا سچا ہونا ہی ضروری نہیں۔
۵۸۷	امام الوبائیہ کے نزدیک صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کچی توحید (معاذ اللہ) ایک یہودی نے سکھائی۔	۵۶۸	امام الوبائیہ دعوے کے وقت آسمان پر لڑتا ہے اور دلیل لاتے وقت تحت الشری پر بھی نہیں رکتا۔
۵۸۷	امام الوبائیہ کے نزدیک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک سے منع کیا تو صرف اس خیال سے کہ ایک مخالف اعتراض کرتا ہے۔	۵۶۸	قرآن سے ثبوت علم غیب

۶۰۰	موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کو جوانی پھر دی۔	۵۸۷	امام الوبائیہ کے نزدیک بعد اعتراض حضور نے جو تعلیم فرمایا وہ خود شرک ہے۔
۶۰۵	وہابیہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی اے مولیٰ تو خدا بن جا۔	۵۸۸	احادیث مشیت کی نفیس تقریر منیر
۶۰۶	چالیس برس کی عمر آدم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔	۵۸۹	امام الوبائیہ کی تصریح کہ بادشاہوں کو سلطنت امیروں کو امارت ملنے میں مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی ہمت کو دخل ہے۔
۶۰۹	(حدیث) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں ہر مسلمان کے مددگار ہیں۔	۵۹۱	احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ہمارا وہی اعتقاد ہے جو صحابہ کرام کا تھا اور امام الوبائیہ کا وہ خیال جو ایک یہودی کا تھا۔
۶۱۱	حضرت بوق زہرانے اپنے غلاموں کو دوزخ سے آزاد فرمایا۔	۵۹۳	اہم نکتہ
۶۱۲	امیر المومنین حضرت عمر لوگوں کو دوزخ میں گرنے سے روکے ہوئے تھے۔	۵۹۸	وصل دوم
۶۱۳	فاروق عظیم فرماتے ہیں کہ زمین کے مالک ہم ہیں۔	۵۹۹	مانگ جو تیرابی چاہے۔
۶۱۴	عنان غنی سے استعانت فرمانا۔	۵۹۹	موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی عورت کو جنت عطا کی۔
۶۱۵	امیر المومنین عمر کی پناہ میں ایک فریادی کا آنا اور امیر المومنین کا ارشاد فرمانا کہ ہماری بارگاہ سچی جائے پناہ ہے۔	۶۰۰	خود حدیث کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کے تمام خزانہ رحمت پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا ہے جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرمادیں۔
۶۱۶	قط سالمی میں امیر المومنین کا عمر و بن عاص کو لکھنا: ارے فریاد کو پہنچو، ارے فریاد کو پہنچو۔	۶۰۰	بیکی اعتقاد صحابہ کرام کا تھا کہ حضور کا رخانہ اللہ کے مختار ہیں۔
۶۱۷	وہابیہ کے نزدیک مولیٰ علی خدائی بول بول رہے ہیں۔	۶۰۰	موسیٰ علیہ السلام پر وہابیوں کا الزام شرک اللہ اور حبیب اور کلیم علیہما الصلوٰۃ والسلام سے امام الوبائیہ کا بگاڑ۔

۲۲۵	تبارک الذی پڑھنے والے کو فرشتہ ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔	۶۱۷	اپنے آپ کو غفار، ستار، قاضی الحاجات بتارہے ہیں۔
۲۲۶	مسلمان سے غبیت دفع کرنے پر فرشتہ آتش دوزخ سے اس کا نگہبان ہے۔	۶۱۷	حضرت علی کا اپنے آپ کو حاجت روافرمانا۔
۲۲۶	جعفر طیار کو جریل امین نے جنت میں زیادہ مرتبہ عطا کر دیا۔	۶۱۷	حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو شفاء دی۔
۲۲۷	طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جریل امین قیامت کے ہر ہول سے بچائیں گے۔	۶۱۹	اسلام کو انصار نے پالا۔
۲۲۸	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عوف سے فرمایا اللہ تیرے دنیا کے کام بنا دے تیری آخرت کا معاملہ تو میرے ذمہ ہے۔	۶۱۹	وصل سوم
۲۲۹	تمکملہ کاملہ	۶۱۹	جریل علیہ السلام دعائیں قبول کرتے حاجتیں برلاتے ہیں۔
۲۳۰	عنہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان بہشتی کی صانت فرمائی۔	۶۲۰	فرشته روزی پہنچاتے، رزق کا سامان کرتے ہیں اور نیک بندوں کے لیے رزق پاک اور آسان کرتے ہیں۔
۲۳۱	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا پشمہ عنہان غنی کے ہاتھ پنج دلال۔	۶۲۰	متواضعوں کے رتبے فرشتہ بند کرتا ہے۔
۲۳۱	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت عنہان غنی کے ہاتھ پنج دلال۔	۶۲۰	متکبروں کو فرشتہ ہلاک کرتا ہے۔
۲۳۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت دینا اپنے ذمہ کر لیا۔	۶۲۰	سانپ سے فرشتہ پہنچاتا ہے۔
۲۳۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر نیک بندے کے لئے جنت کی صانت فرمائی۔	۶۲۱	فرشته نگہبانی کرتا ہے۔
۲۳۳	امام الوبابیہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) فضولی جانتا ہے۔	۶۲۱	حدیث فرماتی ہے کہ تمام دنیا کے آنکھ، کان، گوشت پوسٹ، صورت سب فرشتوں کے بنائے ہوئے ہیں۔
۲۳۳	حدیث کہ جو شنبہ کو علی الصبح کسی حاجت کی تلاش میں جائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حاجت روائی کے ذمہ دار ہیں۔	۶۲۲	حدیث فرماتی ہے کہ سب کے بدن میں جان فرشتے کی ڈالی ہوئی ہے۔
	تین حدیثیں کہ فرشتے نیک بات کی توفیق دیتے ٹھیک راستے پر قائم رکھتے ہیں۔	۶۲۲	

۶۳۳	قصیدہ بردہ کے چند اشعار اور ان کی شرح میں ملا علی قاری کا کلام۔	۶۳۳	جبکہ میں دور اور حاضری سے معذور ہوں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میری پناہ اور مجھے راحت ملنے کی جگہ ہیں۔
۶۳۵	بعض ائمہ نے کہا کہ شبِ اسری میں دس معراجیں ہوئیں۔	۶۳۷	رسالہ منبیہ المبنیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیۃ (اس بات کا بیان کہ شبِ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا اور یہ کہ آپ عرش سے آگے تشریف لے گئے)
۶۳۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہو اعطاؤ ہوئی جو صبح و شام ایک مہینے کی راہ پر لے جاتی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برائی عطا ہوا جو آپ کو فرش سے عرش تک ایک لمحہ میں لے گیا۔	۶۳۷	احادیث مرفوعہ
۶۳۶	فرش سے عرش تک کی اقل مسافت سات ہزار برس کی راہ ہے۔	۶۳۷	رأیت ربی عزوجل (الحدیث)
۶۳۶	معراج بیداری میں بدن و روح کے ساتھ ہوئی۔	۶۳۹	آثار صحابہ
۶۳۷	معراج کہاں تک ہوئی۔	۶۴۱	اخبار تابعین
۶۳۸	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچے تو عرش نے آپ کا دامن تھام لیا۔	۶۴۲	اقوال من بعد حم من ائمۃ الدین
۶۵۳	سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبِ معراج دائرہ مکان و زمان سے باہر نکل گئے۔	۶۴۳	علمائے کرام نے اپنی تصانیف جلیلہ میں شبِ معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عرش پر تشریف لے جانے کی تصریحات فرمائی ہیں۔
۶۵۴	حدیث مرسل کی تعریف اور حکم۔	۶۴۴	حدیث مرسل و مغضبل باب فضائل میں بالاجماع مقبول ہے۔
۶۵۵	حدیث منقطع فضائل میں بالاجماع قابل عمل ہے۔	۶۴۵	ثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔
۶۵۵	حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ۱۰۱ قسمیم النار ۱۰۱ حکماً مرفوع ہے۔	۶۴۶	عدم اطلاع اطلاع عدم نہیں۔

۶۶۱	باجماعت علماء دربارہ فضائل، مصطلحہ محدثین کی حاجت نہیں۔	۶۵۶	عدم نقل وجود کی نفع نہیں کرتا۔
۶۶۱	تلقی باقبول صحت حدیث کے لئے دلیل کافی ہے۔	۶۵۷	۰ رسالہ صلاة الصفاء في نور المصطفى (اس بات کا بیان کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے اور باقی مخلوقات آپ کے نور سے پیدا ہوتی ہیں۔)
۶۶۱	نور محمدی کی نور خدا سے تحقیق کس اعتبار سے قابل ہے۔	۶۵۸	امام عبدالرازاق کا تعارف
۶۶۲	شمع سے شمع روشن ہونے کے ساتھ تشبیہ نجاست سے آلوہ پیدا ہونے اور مثال چراغ سے متعلق ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۶۵۸	حدیث جابر بن عبد اللہ تعالیٰ عنہ
۶۶۲	مثال سمجھانے کو ہوتی ہے نہ کہ ہر طرح برابری بتانے کو۔	۶۵۸	تمام مخلوقات سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا۔
۶۶۳	علم اہمیات کی رو سے توے ہزار کا مل چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی کے برابر ہے۔	۶۵۸	نور نبی سے کائنات کے پیدا ہونے کی کیفیت
۶۶۳	رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی سے پیدا ہیں یا نور صفاتی سے۔	۶۵۹	حدیث جابر کن کن انہے نے ذکر فرمائی۔
۶۶۳	نور کیا چیز ہے۔	۶۵۹	حدیث جابر حسن صالح مقبول معتمد ہے۔
۶۶۳	درود شریف پورا لکھنا چھا بیٹھے صاد، عم، صلم وغیرہ ہر گز کافی نہیں۔	۶۵۹	تلقی علماء باقبول وہ شیئ عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف کبھی ہو تو حرج نہیں کرتی۔
۶۶۴	اللهم احمدك اللسانين۔	۶۵۹	ہر چیز نور نبی سے بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم۔
۶۶۵	الله عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقیہ ہی نور ہے۔	۶۶۰	ان تعالیٰ نور لیں کالا نوار۔
۶۶۶	مرتبہ ذات میں اللہ تعالیٰ نے صرف حقیقت محدثیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔	۶۶۰	روح نبوی نور الہی کا لمحہ اور ملائکہ شرر ہیں۔
۶۶۶	مرتبہ احادیث کیا ہے۔	۶۶۱	نور محمدی کے نور خدا سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟
۶۶۶	انبیاء اللہ تعالیٰ کے اسماء ذاتیہ سے پیدا ہوئے، اولیاء اسماء صفاتیہ سے اور بقیہ کائنات صفات فعلیہ سے جبکہ سید رسل ذات حق سے۔	۶۶۱	الله عزوجل اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے۔

۶۷۸	مصنف علیہ الرحمہ کی تحقیق	۶۶۷	یا اب اکرم معرفی حقیقتہ غیر ربی۔
۶۷۸	علامہ زرقانی کی عبارت اور اس پر مصنف کا حاشیہ	۶۶۷	حدیث اولاًک۔
۶۸۰	حاصل حدیث	۶۶۸	بغرض تو تحقیق ایک مثال ناقص (آنکیہ کی)۔
۶۸۰	نقل اشتہار (مرسلہ حکیم اظہر علی صاحب تکالیف مرتبہ قاضی عبدالعزیز بن عربا لمیہن)	۶۶۹	تقریر منیر مدنگورہ حاصل شدہ چند فوائد۔
۶۸۱	خلاصہ اشتہار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی یا ذاتی نور کہنا ناجائز ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہے البتہ نور خدا یا نور ذات خدا یا نور جمال خدا کہنا ناجائز ہے۔	۶۷۲	پہلا فائدہ (اولًا)
۶۸۲	جواب اشتہار	۶۷۲	علامہ شریعتی کے اشکال کا اندفاع
۶۸۲	اس پر دلائل کہ نور ذاتی کہنا بھی نور ذات ہونے کی طرح جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں۔	۶۷۳	دوسرہ فائدہ (ثانیاً)
۶۸۲	(دلیل اول) (اولًا)	۶۷۳	تیسرا فائدہ (ثانیاً)
۶۸۲	ذاتی کی یہ اصطلاح کہ عین ذات یا جزء ماهیت ہو خاص ایسا غوئی کی اصطلاح ہے عرف عام میں نہ یہ معنی مراد ہوتے ہیں نہ ہرگز مفہوم۔	۶۷۴	چوتھا فائدہ (رabitًا)
۶۸۳	صفات ذاتیہ سے کیا مراد ہے۔	۶۷۵	وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔
۶۸۳	(دلیل دوم) (ثانیاً)	۶۷۶	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مجی ہے کیونکہ آپ جان جہاں ہیں۔
۶۸۳	ذاتی میں یائے نسبت ہے۔	۶۷۷	جس کامل کو جو خوبی ملی وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد اور آپ کے ہاتھ سے ملی۔
۶۸۳	متغیرین میں ہر اضافت صحیح نسبت ہوتی ہے۔	۶۷۷	کوئی موجود دو نعمتوں سے خالی نہیں، نعمت ایجاد اور نعمتِ امداد۔ دو نوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطہ ہیں۔
۶۸۳	(دلیل سوم) (خامسًا)	۶۷۷	پانچواں فائدہ (خامسًا)
۶۸۳	نور ذات میں اضافت تشریفیہ ہے۔	۶۷۷	نور نبیک من نورہ کی طرح اضافت بیانیہ ہے۔

۶۹۱	علامہ فاضل محمد بن صبان رحمہ اللہ تعالیٰ	۶۸۵	دلیل چہارم (رباعاً)
۶۹۱	مولانا روئی رحمہ اللہ تعالیٰ	۶۸۵	نور کے دو معنی ہیں۔
۶۹۱	بحر العلوم مولانا عبد الحقی رحمہ اللہ تعالیٰ	۶۸۵	جن خیالات سے نور ذاتی کہنا ایک درجہ ناجائز ہو گا تو نور ذات کہنا اور نور اللہ کہنا چار درجے ناجائز ہو گا۔
۶۹۱	حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ	۶۸۵	دلیل پنجم (خامساً)
۶۹۲	امام ابو الحسن الشعیری رحمہ اللہ تعالیٰ	۶۸۵	مضاف و مضاف الیہ میں اگر مغایر شرط ہے تو کیا منسوب و منسوب الیہ میں شرط نہیں؟
۶۹۳	ملائکہ کا سایہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ کیسے ہو گا	۶۸۶	دلیل ششم (سادساً)
۶۹۳	متعدد اشیاء کا ذکر جن کا سایہ نہیں ہوتا۔	۶۸۶	دلیل هفتم (سابعاً)
۶۹۴	جسم عضری کے لئے سایہ ضروری نہیں۔	۶۸۶	ایسا غوجی کہ اصطلاح میں ذاتی بمقابل عرضی ہے جبکہ عام مورہ میں ذاتی بمقابل صفاتی ہے، تو نور ذاتی میں ذاتی سے مراد معنی نافی ہے نہ کہ اول۔
۶۹۴	محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو بیمار دل گوارا نہیں کرتا۔	۶۸۷	لتقطیط جلیل
۶۹۵	رسالہ نبی الفیض عن استنار بن نورہ کل شیعی (نبی انور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ ہونے کا مدلیل بیان)	۶۸۷	مولانا حبیب علی علوی صاحب کی مسئلہ عدم سایہ رسول اللہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق تحریر منیر پر مصنف علیہ الرحمۃ کی زور دار تقطیط۔
۶۹۶	ان علماء وائمه کے اماء گرامی جنہوں نے عدم سایہ کی تصریح فرمائی ہے۔	۶۸۸	اممہ کرام اور علماء اعلام کی عبارات مؤیدہ
۶۹۶	حضور پور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا نہ دھوپ میں نہ چاندی میں۔	۶۸۸	امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ
۶۹۶	و لا کل مؤیدہ	۶۸۸	امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ
۶۹۸	عدم سایہ کی حکمت و سبب	۶۹۰	علامہ سلیمان جمل رحمہ اللہ تعالیٰ
۶۹۹	حضور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔	۶۹۰	علامہ حسین بن محمد یار بکری رحمہ اللہ تعالیٰ
۷۰۶	امام ابن سعیق کے استدلال سے مصنف علیہ الرحمۃ کی ترتیب شدہ دلیل بصورت شکل اول بدیکی الانتاج۔	۶۹۰	علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ

۷۱۵	رسالہ قمر التمام فی نفی الظل عن سید الانام (عدم سایہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی نہیں دلائل باہر ہو صحیح قاہر ہے پر مشتمل تحقیقی رسالہ)	۷۰۶	دلیل کا صغری، کبریٰ اور نتیجہ
۷۱۶	حضر اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ ہونے کا مسئلہ احادیث و قول ائمہ سے ثابت ہے۔	۷۰۶	اثبات صغری پر دلائل
۷۱۶	مفہی عقل و قاضی نقل اس پر متفق ہیں، کسی ایک عالم کا اس پر انکار منقول نہیں۔	۷۰۷	حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۷۱۶	وجود سایہ پر زور دینے والوں پر مصنف علیہ الرحمہ کا اظہار حیرت	۷۰۸	حدیث و صاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۷۱۶	ایمان محبت رسول سے مربوط اور دوزخ سے نجات ان کی الفت پر منوط۔	۷۰۸	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد
۷۱۶	چیزیں کام کا کام ہے نہ کہ دوست کا۔	۷۰۸	سیدہ آمنہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد۔
۷۱۶	وہ کیسا محبوب ہے؟	۷۰۹	سیدہ رجیعۃ بنۃ معوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد
۷۱۸	محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں کسی کے مٹانے سے نہ میں گی۔	۷۱۰	سرکار کے نور سے خانہ تاریک روشن ہو جاتا۔
۷۱۸	ورفعنا لک ذکر ک (بلندی ذکر کی صور تین)	۷۱۰	وہ بشر ہیں مگر عام علوی سے لاکڑ درج اشرف
۷۱۹	فائدہ جلیلہ	۷۱۰	ارواح ولماکنہ سے الطف جسم انسانی
۷۱۹	جب راوی کو شفہ معمتند مانچے تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟	۷۱۰	ان کی مثل کوئی نہیں
۷۲۰	امر مذکور کی چند مثالیں۔	۷۱۱	آدمی ہبھے تن اپنے محبوب کے نظر فضائل و نکشیں مداح میں مشغول رہتا ہے۔
۷۲۰	مثال اول	۷۱۲	ولادت و وصال کے وقت رب ہب لی امتی فرمایا۔
۷۲۰	جسم اقدس و لباس نفس پر مکھی نہ پیٹھتی۔	۷۱۲	قیامت میں ان ہی کے دامن میں پناہ ملے گی۔
۷۲۰	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے کہ مکھی آپ کے کپڑوں پر کبھی نہ پیٹھی، جوئیں آپ کو کبھی نہ ستائی تھیں اور پھر آپ کا خون نہ چوتے تھے۔	۷۱۳	رسالہ مبارک قرآن تمام کا خلاصہ

۷۲۹	پر ظاہر کہ آدمی بلاوجہ کسی بات کے درپے تقیش نہیں ہوتا۔	۷۲۰	محمد رسول اللہؐ کے سب حروف بے نقطہ ہیں۔
۷۲۹	امر مذکور کی چند مثالیں	۷۲۱	علامہ خفاجی کی ایمان افروز عبارت اور روح پروردگاری۔
۷۳۱	صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آگے چلتے اور فرشتے آپ کے پیچے چلتے۔	۷۲۲	دوسری مثال
۷۳۱	مقدمہ ثالثہ	۷۲۲	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خصائص سے ہے کہ جو کیم آپ کے کپڑوں میں نہ پڑتی تھیں۔
۷۳۱	اکثر احادیث حیلہ شریفہ ہندابن ابی ہالہ سے مشہور ہوئیں۔		تیری مثال
۷۳۱	ہندابن ابی ہالہ کا تعارف	۷۲۲	جس جانب پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے عمر بھروسیا ہی رہتا، آپ کی برکت سے بوڑھانہ ہوتا۔
۷۳۳	مقدمہ رابعہ	۷۲۲	چوتھی مثال
۷۳۳	صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے سایہ دار پیغمبر چھوڑ دیتے۔	۷۲۲	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسا روشنی میں ویکھتے ویسا ہی تاریکی میں دیکھتے۔
۷۳۳	قبل از بعثت بر سایہ کے لیے معین تھا۔	۷۲۳	پانچوں مثال
۷۳۳	صدھا مجذرات قاہرہ غزوٰت و اسفار میں واقع ہوئے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا مگر ہم تک تنقیل احادیث پہنچے۔	۷۲۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کریمین زندہ ہو کر آپ پر ایمان لائے۔
۷۳۳	مجرمات مذکورہ کی چند مثالیں۔	۷۲۵	عام علوی سے لاکھ درجہ اشرف بشر اور ارواح ملائکہ سے ہزار درجہ الطف انسان
۷۳۳	تائیعن و علمائے ثقات حدیث کو مرسل اگاہ اور کیوں ذکر کرتے ہیں؟	۷۲۶	القائے جواب
۷۳۷	رسالہ ہدی الحیدران فی نفی الفیی عن سید الاکوان (نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کے باب میں ایک مخالف کارڈ بلینگ)	۷۲۶	بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کا ادب
۷۳۸	فصل اول	۷۲۹	آداب بارگاہ
۷۳۸	ارفاع ترکیع کے لیے چند تمہیدی مقدمات۔	۷۲۹	مقدمہ ثانیہ

۷۴۷	ہر اس خس دخاشاک سے جو ایسا لا احتمالاً یوئے تنقیص رکھتا ہو ساحت نبوت کی تبریت اصول ایمان سے ہے۔	۷۴۸		مقدمہ اولیٰ
۷۴۸	سایہ کو کثافت لازم ہے۔	۷۴۸	بعد ثبوت ملزم تحقیق لازم خود محقق و معلوم اور بحثم دلیل کی حاجت معدوم	
۷۴۹	لطافت کا صدر عدم سایہ کو مستلزم ہے۔	۷۴۹		مقدمہ ثانیہ
۷۵۰	لازم منہب، منہب قرار نہیں یاتا۔	۷۴۹	دعاویٰ و مقاصد خواہش ثبوت میں متساویہ الاقدام نہیں۔	
۷۵۱	احتمالات مجرد جو مناشی صحیح سے ناشی نہ ہوں یکنخت پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔	۷۵۰		مقدمہ ثالثہ
۷۵۲	ضابطہ منہب کو نہ ماننے سے لازم آنیندی خرابیاں اور مفاسد۔	۷۵۰	علماء کی تلقی با تبول کو ایراث قوت میں از عجیب ہے۔	
۷۵۳	محیب کے چار سط्रی جواب میں عجیب تماشے۔	۷۵۱	محیب مخالف کے سارے جواب کا بہتی قصور نظر سے ناشی ایک زعم فاسد پر ہے۔	
۷۵۴	متنکلمین تصریح کرتے ہیں کہ مسائل خلافت اصول دینیہ سے نہیں۔	۷۵۱	حکیم ترمذی کی روایت کردہ حدیث "الله یکن له ظل لافی الشمس ولا فی القمر" پر محمد ثانہ گھشتگو۔	
۷۵۵	فصل دوم	۷۵۳	نه الترام تصحیح صحت کو مستلزم، نہ عدم الترام اس کا مراحم۔	
۷۵۶	فصل خزانی کی پامالی کے لئے شیم ایمانی کی پھر روانی	۷۵۳	اہل الترام تصحیح کی تصانیف میں بہت روایات بالله ہوتی ہیں اور الترام نہ کرنے والوں کی تصنیفوں میں اکثر احادیث صحیحہ۔	
۷۵۷	بنات العرش میں ایک ستارہ جس کو ہمارا کہتے ہیں۔	۷۵۳	مدارکار اسناد پر ہے، الترام و عدم الترام کوئی چیز نہیں۔	
۷۵۸	سایہ کیا شے ہے؟	۷۵۵	مخالف کا قول "مسلمان کو ایک پر اصرار نہ چاہئے" کلمہ عجیب ہے۔	
۷۵۹		۷۵۵	شک کرنے والے کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور بحث ہونے میں تائی ہے یا سایہ کو کثافت لازم ہونے میں تردد بصورت اول قضیہ "اہشداں محمدًا عبدہ ورسوله" کے لازمی احکام سے اپنا حکم دریافت کر لے اور بصورت ثانی مفتی عقل کی بارگاہ سے جنون و دلیوالی کا فتویٰ مبارک۔	

۷۵۹	دائماً کا اثبات مطلقہ عامہ کے اثبات سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔	۷۵۷	سابقہ جزئیہ موجہہ کلیہ کی نقیض ہوتا ہے۔
۷۶۳	قصہ گو واعظوں اور جالل مورخوں نے مجع بڑھانے اور فساد پھیلانے کے لیے اپنی کتابوں میں بے سرو پا حکایات اور فتنہ انگیز انسانے درج کر دیے ہیں۔	۷۵۷	اہل اسلام کو بے راہ فلسفہ کی خرافات اور کردہ ہوا دینگار سے کیا کام؟
۷۶۳	مورخوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔	۷۵۸	حاجب ہونے اور کثیف ہونے میں عموم و خصوص مطلق ہے۔
۷۶۵	مخالف کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ کی طرف سے مخالف پر چند سوالات۔	۷۵۸	جسم مثلث کا سایہ نہیں ہوتا۔
۷۷۰	تعارف عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۷۵۹	بار شوت مدعاً کی گردن پر ہوتا ہے۔
		۸۲	فضائل سید المرسلین (ضمیمه) حقیقت کعبہ مثل حقائق جملہ اکوان حقیقت محمدیہ کی ایک تجھی ہے۔



## فہرست ضمنی مسائل

عقائد و کلام			
۲۶۸	عبد مومن مشرک سے بہتر ہے۔		
۲۷۰	کسی کافروں کا فارہ کیلئے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔	۱۲۶	ابو لہب کو کافر ہونے کے باوجود میلاد رسول کی خوشی منانے پر فائدہ کیوں نکر پہنچا؟
۲۷۳	ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کیوں	۱۲۲	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔
۲۷۵	دو زخ اور جنت والے برابر نہیں۔	۱۳۱	حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا افضل المرسلین ہونا قطعی و اجتماعی مسئلہ ہے۔
۲۷۶	بعض عقائد اہلسنت	۱۳۷	ابن مریم تم میں اتریں گے اور تھہار امام تم میں سے ہو گا۔
۲۷۷	عزت و کرم مسلمانوں میں مختصر ہے۔	۱۳۸	محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل الاصول اور رسولوں کے رسول ہیں۔
۳۱۲	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والاگرچہ اپنا باپ ہو جو اس سے محبت رکھے وہ مسلمان نہیں۔	۲۰۹	تعظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدار ایمان ہے۔
۳۱۲	گستاخ پر دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور سخت عذاب ہے۔	۲۰۹	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماس باپ، اولاد اور سارے جہان سے زائد ہونی شرط نجات ہے۔
۳۲۸	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا ہی کلمہ گوہ کافر ہو جاتا ہے۔		

۲۶۵	الله عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقت و نور ہے۔	۳۲۹	الله تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر فرمایا اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے۔
۲۶۶	مرتبہ ذات میں اللہ تعالیٰ نے صرف حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔	۳۳۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پہلو دار بات سے گستاخی بھی کفر ہے نہ صریح گتائی۔
۲۶۷	مرتبہ احادیث کیا ہے؟	۳۳۵	اممہ دین کی نصرت کے تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بد گو کو جو کافرنہ کہے وہ خود کافر ہے۔
۲۸۲	اس پر دلائل کہ نور ذات کہنا بھی نور ذات کہنے کی طرح جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں۔	۳۳۸	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بد گو کی توبہ قبول نہ ہونے کا مسئلہ۔
۲۸۳	صفات ذاتیہ سے کیا مراد ہے؟	۳۴۶	غیب کے علم غنی کا ادعاء کافر نہیں اگرچہ بذریعہ نجوم یار مل ہو۔
۷۳۷	ہر اس خس و خاشک جو ایسا گا واحتملاً بُوئے تنقیص رکھتا ہو ساحت نبوت کی تحریرت اصول ایمان سے ہے۔	۳۴۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب میں علماء اور ائمہ دین کا عقیدہ
	<b>فضائل و مناقب</b>	۳۷۷	جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے اسے غیر کے لیے بخطے الہی مانا بھی شرک نہیں ہو سکتا۔
۲۱۳	خالوں جنت قیامت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اوپنی عضباء پر سوار ہوں گی۔	۴۰۹	اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ کہنا شرک نہیں۔
۲۱۴	حضرت بلاں محشر میں ایک جنتوں اوپنی پر سوار ہو کر اس کی پشت پر اذان دیں گے۔	۴۰۸	(حدیث) کہ نبی اور علی مددگار و کار ساز ہیں۔
۲۱۵	قیامت کے دن ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ ہم سے ہوتا۔	۴۰۹	(حدیث) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں ہر مسلمان کے مددگار ہیں۔
۲۲۸	میں سب سے پہلا شفیع اور میرے پیروکار سب نبیوں کی امتوں سے افزوں۔	۶۶۱	الله عزوجل اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے۔

۳۸۶	اولیاء کے سبب زمین کی نگہبانی۔	۲۷۶	حضرت عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے۔
۳۸۸	متعدد حدیثیں کہ صحابہ اور اہل بیت امتن کی پناہ ہیں۔	۲۸۳	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے نکاح کا معاملہ فرمایا وہ جنتی ہیں۔
۳۹۷	بارہ حدیثیں کہ اسلام نے عزت، مسلمانوں نے راحت فاروق اعظم کے سبب پائی۔	۲۹۲	آپ کے والدین، مرضاۃ اور دایتوں وغیرہ کے ائمۂ کعب حسن انتخاب۔
۳۹۱	آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک حضور غوث اعظم مجتبی سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔	۲۹۳	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمیمہ سعدیہ کے لئے قیام فرمایا اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا۔
۳۹۲	ایک ایک گھری کے حال کی حضور غوث اعظم کو خبر ہونا۔	۲۹۴	حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی رضاعی ماں حمیمہ سعدیہ، رضاعی باپ حارث سعدی، رضاعی بھائی عبد اللہ سعدی اور رضاعی بہن شیما سعدیہ سب کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔
۳۹۲	ہر شقی و سعید کا ان پر پیش کیا جانا لوح محفوظ کا ان کے پیش نظر ہونا۔	۳۶۸	اولیاء کا مشکل کشا ہونا۔
۴۱۱	حضرت بقول زہرانے اپنے غلاموں کو دوزخ سے آزاد فرمایا۔	۳۶۹	اولیاء کرام کی رو حیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اپنے متولین کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو بلکر کرتی ہیں۔
۴۱۲	امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دوزخ میں گرنے سے روکے ہوئے تھے۔	۳۷۰	اولیاء کرام بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، کمال وسعت علم رکھتے ہیں، اس عالم کی توجہ رکھتے ہیں۔
۴۱۳	فاروق اعظم فرماتے ہیں زمین کے مالک ہم ہیں۔	۳۷۹	اللہ تعالیٰ یہی ہی گناہ بخش سکتا تھا مگر فرماتا ہے کہ قبول توبہ چاہو تو نبی کے حضور حاضر ہو۔
۴۱۳	عثمان غنی سے استعانت فرمانا۔	۳۸۰	متعدد آیات وحدایت کہ نبیوں کے سبب بلا دفع ہوتی ہے۔
۴۱۹	اسلام کو انصار نے پالا۔	۳۸۱	نبیوں کے باعث مدد ملتی ہے۔
۴۲۶	جعفر طیار کو جریل امین نے جنت میں زیادہ مرتبہ عطا کر دیا۔	۳۸۳	اولیاء کے باعث میںہ اترنا ہے۔
		۳۸۶	اولیاء کے سبب زمین قائم ہے۔

۲۸۶	حدیث خصائص کے راوی چودہ اصحاب کرام ہیں۔	۲۲۷	طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جریل امین قیامت کے ہر ہول سے بچائیں گے۔
۲۸۷	حدیث "ان ابی و اباک" میں باپ سے ابو طالب مراد لینا طریق واضح ہے۔	۲۲۸	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عوف سے فرمایا اللہ تیرے دنیا کے کام بنادے تیری آخرت کا معاملہ تو میرے ذمہ ہے۔
۲۸۸	حدیث ضعیف دربارہ فضائل مقبول ہے۔	۲۳۰	عنمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان بہشتی کی عہانت فرمائی۔
۵۶۶	حدیث "وفینانبی اخ" کی نقیش بحث۔	۲۳۱	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا چشمہ عنمان غنی کے ہاتھ پھیڈا۔
۵۸۳	اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا اس قول کے متعلق نہایت نقیش بحث اور احادیث کا جمع۔	۲۳۲	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت دینا پنے ذمہ کر لیا۔
۵۸۸	احادیث مشیت کی نقیش تقریر منیر۔		فوند تفسیر یہ
۶۵۳	حدیث مرسل کی تعریف اور حکم۔	۸۰	"ومارمیت اذرمیت" میں انہی ازروئے صورت اور اثبات ازروئے حقیقت ہے۔
۶۵۵	حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد "انا قسمیم النار" حکماً مرفع ہے۔	۱۰۳	کلمہ قیامتِ آن مجید میں سات جگہ آیا ہے۔
۶۵۸	نور نبی سے کائنات کے پیدا ہونے کی کیفیت۔	۱۱۵	سبع سیارہ کا بیان کس آیت میں ہے۔
۶۵۹	حدیث جابر کن کن انہے نے ذکر فرمائی۔	۲۱۰	ہر آیت قرآنی کے نیچ ساختہ ساختہ ہزار علم ہیں۔
۶۵۹	حدیث جابر حسن صالح مقبول معتقد ہے۔		فوند حدیث یہ
۶۵۹	تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی۔	۲۲۰	شقاعت سے متعلق وارد ہونے والی احادیث کی تلخیص از مصنف۔
۶۶۱	تلقی بالقبول صحت حدیث کے لیے دلیل کافی ہے۔	۲۳۶	طرق روایات و حدیث خصائص۔
		۲۳۶	حدیث خصائص متواتر المعنے ہے۔

۷۴۵	حدیث منقطع فضائل میں بالاجماع قابل عمل ہے۔	۶۶۷	حدیث لولاک۔
۷۴۶	عدم نقل وجود کی نظر نہیں کرتا۔	۷۳۲	تائیعین و علمائے ثقات حدیث کو مرسلا کب اور کیوں ذکر کرتے ہیں۔
۷۴۷	باجماع علماء دربارہ فضائل، مصطلح محدثین کی حاجت نہیں۔	۷۳۱	حکیم ترمذی کی روایت کردہ حدیث "اللہ یکن له ظل لافی الشیس ولا فی القمر" پر محمد بن عاصم گفتو۔
۷۴۸	بعد ثبوت ملزم تحقیق لازم خود محقق و معلوم اور بحث و دلیل کی حاجت محدود۔	۷۳۳	اہل التزام صحیح کی تصانیف میں بہت روایات باطلہ ہوتی ہیں اور التزام نہ کرنے والوں کی تصنیفوں میں اکثر احادیث صحیح۔
۷۴۹	دعاویٰ و مقتضاد خواہش ثبوت میں تساویہ الاقدام نہیں۔		<b>فوائد اصولیہ</b>
۷۵۰	علماء کی تلقی بالقبول کو ایراث قوت میں اٹھ عجیب ہے۔	۳۳۸	احتمال کون سا معتبر ہوتا ہے۔
۷۵۳	نه التزام صحیح صحت کو مستلزم، نہ عدم التزام اس کا مراحم۔	۵۱۷	(اختیارات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے حکم سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ فرض نہ ہو۔
۷۵۳	مدارک اسناد پر ہے، التزام و عدم التزام کوئی چیز نہیں۔	۵۲۲	ایک خاص لکنہ کی اصل جس سے مجلس میلاد، قیام و فاتحہ و تیجہ وغیرہ بالتمام مسائل بدعت وہابیہ طے ہو جاتے ہیں۔
۷۵۷	لازم مذہب، مذہب قرار نہیں پاتا۔	۵۲۲	حرام و قسم ہے: ایک وہ جسے خدا نے حرام کیا، اور ایک وہ جس کو رسول نے حرام کیا، دونوں یکساں ہیں۔
۷۵۷	اختلالات مجرد جو مناثی صحیح سے ناشی نہ ہوں یا کخت پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔	۵۶۳	رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے شارع ہیں۔
۷۵۹	متکلمین قصر تھے کرتے ہیں کہ مسائل خلافت اصول دینی سے نہیں۔	۶۳۳	حدیث مرسل و معضل باب فضائل میں بالاجماع مقبول ہے۔
۷۵۹	بار ثبوت مدعی کی گردن پر ہوتا ہے۔	۶۳۳	ثبت نافیٰ پر مقدم ہوتا ہے۔
۷۶۳	مؤرخوں کے قول کا اعتبار نہیں۔	۶۳۳	عدم اطلاع اطلاع عدم نہیں۔

نام و مذکورہ	غزوہ حسین کا واقعہ	تاریخ و مذکورہ
۲۷۷	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدات میں سے نوبییوں کا نام عائشہ تھا۔	گھڑی کا موجہ کون ہے۔
۲۸۰	آزر بر ایم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا۔	ثوبیہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دودھ پلایا۔
۲۸۱	اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا وہ آپ پر ایمان لا کر شرف صحابت پا کر آرام فرمادی ہے ہیں۔	قدیم سے سب امتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی اور حضور کے توسل سے اعداء پر فتح مانگتی آئیں۔
۲۸۲	پینتیس ۳۵ انہیں کبار اور اعظم علماء نامدار کے اسماء گرامی جو ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نجات کا اعتماد رکھتے ہیں۔	حضور نے ملائکہ مرسلین کی امامت فرمائی۔
۲۹۷	حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان افروز اشعار جو آپ نے اپنے وصال کے موقع پر اپنے ابن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نذر کرتے ہوئے کہے۔	امام سیوطی نے خصائص بُری میں تقریباً الرحمٰن سو خصائص جمع فرمائے۔
۳۰۱	مسئلہ ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں متکفر رہنے والے ایک عالم کا انوکھا واقعہ۔	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں راہب کی زید بن عمرو بن نفیل کو پیشگوئی۔
۳۰۲	ابوطالب کے اشعار جن کے سنتے کی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواہش کی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت بڑے بڑے ان کی پناہ لیتے ہیں۔	ابوطالب و راہب کا قصہ
۳۰۳	امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں ایک فریادی کا آنا اور امیر المومنین کا ارشاد فرمانا کہ ہماری بارگاہ پر جائے پناہ ہے۔	تمیم داری کو ہاتھ غیبی کی بعثت سید المرسلین کے بارے میں خبر۔
۳۰۴	قطح سالی میں امیر المومنین کا عمرو بن عاص کو لکھتا: بارے فریاد کو پہنچو۔	بارگاہ رسالت میں ایک کنیز کا واقعہ۔
۳۰۵	امام عبد الرزاق کا تعارف	روئے زمین پر ہر زمانے میں کم از کم سات مسلمان ضرور رہے۔
۳۰۶	ان علماء و ائمہ کے اسماء گرامی جنہوں نے عدم سایہ کی تصریح فرمائی ہے۔	

۳۷۶	کلمہ گو کی نسبت ارادہ معنی شر کی کا ادعاً حرام کبیرہ و افتراہ ہے۔	۷۲۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کریمین زندہ ہو کر آپ پر ایمان لائے۔
۳۱۸	نبی بخش، عطار سول، عطا علی وغیرہ نام رکھنا شرک نہیں۔	۷۳۱	ہند ابن ابی ہالہ کا تعارف۔
۲۶۳	درود شریف پورا لکھنا چاہیے صاد، عم، صلام وغیرہ ہر گز کافی نہیں۔	۷۷۰	تعارف عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
۷۵۷	اہل اسلام کو بے راہ فلسفہ کی خرافات اور کردہ ہو اونچار سے کیا کام۔		<b>تصوف و طریقت</b>
	<b>پلاعنت و نحو</b>	۸۶	ہر دور میں ایک ولی بنام خضر ہوتا ہے۔
۷۸	حیوقہ الحیوان کی ایک عبارت کا مطلب۔	۸۲	غوث کا نام عبد اللہ و عبد الجامع اور اس کے دونوں وزیر و ول کا نام عبد الملک اور عبد الرحمٰن ہوتا ہے۔
۸۰	جب اسناد حقیقی صحیح ہو تو غالب ہوتی ہے اور اسناد صوری مغلوب۔	۸۶	اوہنادار بعد کا نام عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الرشید اور عبد الجلیل ہے۔
۳۷۳	نسبت و اسناد کی نفس تحقیق۔	۸۷	عہدہ نقابت پر فائز ولی کا نام خضر ہوتا ہے۔
۲۷۷	نور نبیک میں من نورہ کی طرح اضافت بیانیہ ہے۔	۸۷	اولیاء اللہ کے ایک دوسرے پر افضیلت کی ترتیب۔
۲۸۳	ذاتی میں یائے نسبت ہے۔		<b>حظر و باہت</b>
۲۸۳	متغائرین میں ہر اضافت مصحح نسبت ہوتی ہے۔	۲۷۷	کافرباپ دادوں کے اتساب سے فخر کرنا حرام ہے۔
۲۸۳	نور ذات میں اضافت تشریفیہ ہے۔	۲۸۹	آدمی جانب ادب میں خطا کرے تو لا کھ جگہ بہتر ہے اس سے کہ معاذ اللہ اس کی خطاجانب گستاخی جائے۔
۲۸۵	مضاف و مضاف الیہ میں اگر مفارکت شرط ہے تو کیا منسوب و منسوب الیہ میں شرط نہیں۔	۲۸۹	امام کامعانی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔
	<b>لُعْنَة</b>	۲۸۹	مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں۔
۸۹	لغیں اور لعل کے متعدد معانی کا بیان۔	۲۹۰	اچھے نام کی اہمیت اور برقے نام کی کراہت۔

۷۵۷	سابله جزئیہ موجہ کلیہ کی نقیض ہوتا ہے۔	۶۸۵	نور کے دو معنی ہیں۔
۷۵۸	حاجب ہونے اور کشف ہونے میں عموم و خصوص مطلق ہے۔		<b>منطق و فلسفہ</b>
۷۵۸	جسم مثلث کا سایہ نہیں ہوتا۔	۱۱۳	ہمارے تزویک کو اکب کی حرکت نہ طبیعہ ہے نہ تبعیہ۔
۷۵۹	دانہ کا اثبات مطلقہ عامہ کے اثبات سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔	۱۱۲	ہمارے تزویک نہ زمین متحرک ہے نہ آسمان۔
	<b>ہیئت</b>	۶۸۲	ذاتی کہ یہ اصطلاح کہ عین ذات یا جزء مابہیت ہو خاص ایسا غوچی کی اصطلاح ہے عرف عام میں نہ یہ معنی مراد ہوتے ہیں نہ ہرگز مفہوم۔
۶۶۳	علم ہیأت کی رو سے نوے ہزار کامل چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی کے برابر ہے۔	۶۸۶	ایسا غوچی کی اصطلاح میں ذاتی بمقابل عرضی ہے جبکہ عام محاورہ میں ذاتی بمقابل صفاتی ہے، تو نور ذاتی میں ذاتی سے مراد معنی نافی ہے نہ کہ اول۔
۷۵۵	بنات النعش میں ایک ستارہ جس کو سہا کہتے ہیں۔	۶۹۶	جسم عضری کے لئے سایہ ضروری نہیں۔
	<b>ترغیب و ترهیب</b>	۷۰۶	امام اتنی سیع کے استدلال سے مصنف علیہ الرحمہ کی ترتیب شدہ دلیل بصورت شکل اول بدیکی الانتاج۔
۳۱۲	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ سے اگرچہ اپنا باپ ہو جو ایک لخت علاقہ توڑ دے اس کے لیے قرآن مجید نے سات فائدے بتائے۔	۷۰۶	دلیل کا صغیری، بکری اور نتیجہ
۳۳۰	جو ان کے گستاخ سے اگر اپنا باپ ہو علاقہ رکھے اس پر قرآن مجید کے تازیانے اس آیت سے منکران علم غیب سبق لیں۔	۷۰۶	اثبات صغیری پر دلائل
	روقبندہ بہاں و مناظرہ	۷۳۷	سایہ کو شافت لازم ہے۔
۳۱۸	قرآن کی بہت آیتیں تحانوی صاحب نے باطل کر دیں۔	۷۳۷	اطافت کالمہ عدم سایہ کو مستلزم ہے۔
		۷۵۶	سایہ کیا شئے ہے؟

۵۱۰	عجب عجب کہ ہر راستے میں باہم جو تی پیزار ہونا وہابیہ کا جزو ایمان ہے نہ کریں تو اپنے امام کے حکم سے مشرک ہو جائیں۔	۳۱۹	قرآن مجید اور ان کے خود اپنے اقرار سے ثابت کہ یہ بدگو چ پیاویوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔
۵۱۵	امام الوہابیہ کی دریہ دہنی۔	۳۳۷	ان بدگویوں کے اقوال شرع میں بت کو سجدہ کرنے سے بدتر ہیں۔
۵۲۳	امام الوہابیہ کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صریح افراہ	۳۶۳	وہابیوں کا پیشوواچہ سوبرس سے پہلے عالموں کا فارکھتا تھا۔
۵۲۴	امام الوہابیہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و کمالات یکخت اڑا دیے۔	۳۶۶	امام الطائفہ (مولوی اسماعیل دہلوی) کا خود بدعتی ہونا۔
۵۲۵	اس کے نزدیک حضور کو کسی نبی سے کچھ امتیاز نہیں اور امیوں میں فقط جاہلیوں میں متاز ہیں نہ کہ عالموں سے (یہ ہے وہابیوں کا عقیدہ)	۳۰۳	الله تعالیٰ پر وہابیہ کے الزامات
۵۲۶	(امام الوہابیہ) قرآن کے خلاف دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء کی طرف سے خدا کے تنانے سے بھی اطلاع غیب کی نسبت شرک ہے۔	۳۳۸	وہابیہ کی جان پر لاکھ من کے پہاڑ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہائی۔
۵۲۷	امام الوہابیہ کے نزدیک اس کا معبدوں کسی کو اطلاع علی الغیب کا رتبہ دینے سے عاجز ہے۔	۳۶۳	عمر فاروق اعظم اور تمام صحابہ پر وہابیہ کے متعدد الزامات
۵۲۸	امام الوہابیہ نے قرآن کی صریح مخالفت کی مگر اسے مضر نہیں کہ اس کے نزدیک قرآن کا سچا ہو ناہی ضروری نہیں۔	۳۸۵	وہابیہ عین ادعائے توحید میں شرک کرتے ہیں۔
۵۲۸	امام الوہابیہ دعوے کے وقت آسمان پر اڑتا ہے اور دلیل لاتے وقت تحت اُخْرَی پر بھی نہیں رکتا۔	۳۹۸	وہابیہ کے نزدیک ندا و استعانت میں صحابہ پر صریح شرک کا الزام۔
۵۲۹	امام الوہابیہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدحواس کہا۔	۵۰۹	(فائدہ مہر) کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہ تاکید تمام جس بات کا حکم فرمائیں وہابیوں کا پیشووا (تفویہ الایمان میں) صراحتگی کہ یہ تو شرک ہے، اب دیکھیں وہابی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
		۵۱۰	ذرا ملاحظہ ہو مددیہ طیبہ کے راستے میں نامعقول با تین کرنا وہابیہ کا جزو ایمان ہے جو نہ کرے ان کے نزدیک مشرک ہو جائے۔

۷۲۵	مخالف کا قول ۱۰ مسلمان کو ایک پر اصرار نہ چاہیے ۱۰ کلمہ عجیب ہے۔	۵۶۹	امام الوبابیہ کی انہی مت۔
۷۲۵	مخالف کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ کی طرف سے مخالف پر چند سوالات۔	۵۸۲	امام الوبابیہ کی صرتھ خیانت و عیاری
		۷۳۱	مجیب مخالف کے سارے جواب کا مبنی قصور نظر سے ناشی ایک زعم فاسد پڑھے۔



## کتاب الشتی (حصہ چھم)

### شرح کلام علماء و صوفیاء

۷ رب میسان ۱۴۲۱ھ

مسئلہ اتنا ۲: از پئنہ عظیم آباد لود ھی کڑہ مرسلہ قاضی عبدالوحید صاحب  
مندوی و مولائی قبلہ مدظلہ العالی! تسلیم!

امور مفصلہ ذیل کا ازراہ کرم مکمل جواب دیجئے کہ فقیر کو سخت تردہ ہے۔ دوسرے بعض علماء سے بھی گفتگو آئی مگر تنقیح امور نہ  
ہو پائی۔ لہذا فقیر کو بھی شک ہے، اللہ دفع فرمائیے، اور اجر عظیم پائیے:

(۱) زیارت قبور للنساء کو مولانا فضل رسول بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضم تردد الحق وہابی دہلوی جائز فرماتے ہیں نیز علامہ عینی  
بھی۔ جواب مکمل عطا ہو کہ رفع شبہ ہو۔

(۲) تحفہ رجب میں مختلط خطبہ کو آپ غیر مناسب بوجہ عدم توارث بتاتے ہیں حالانکہ تاج الفحول بدایونی رحمہ اللہ اسے درست  
و جائز بتاتے ہیں۔ یہ شبہ بھی رفع ہو۔

(۳) جزا اللہ عدوہ کے آخر میں جناب حضرات ساداتِ کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان پر طریانِ کفر ناممکن، نہ یہ نیچری  
وغیرہ ہو سکیں، حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ دوسرے جملہ سادات کی سیادت پر تیقین اٹھ جائے گا۔ استدلال جناب بہ عموم  
آیت و حدیث شریف تحقیقات دیگر علماء جو اسے مخصوص بحضرات طیبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتاتے ہیں۔ تیسرا پھر سادات  
کرام بھی قطعی جنتی ہوئے انہیں اندیشہ آخرت کیا باقی رہا!

(۴) امامے ذیل مثل ضیاء الدین، منیر الدین وغیرہ کو جناب قطعاً ناجائز بتاتے ہیں، جس شخص نے

براء تفاؤل خیر رکھا، کیا حرج ہے؟ ورنہ کسی کا نام سعید وغیرہ بھی نہیں رکھ سکتے، جواب مرحمت فرمائیے۔

### الجواب:

حاتم سنن، ماجی فتن، ندوہ شکن، ندوی گلن، مولانا وحید زمین، صین عن الفتن وحوادث الز من امین یا ذالمن ! اسلام علیکم  
ورحمة الله ورکاتہ۔

جواب مسائل اجمالاً حاضر، تفصیل کا وقت کہا۔ قرآن مجید سن کر اس وقت آیا ہوں، بارہ بجا چاہتے ہیں، گیارہ کر ساڑھے باون  
منٹ آئے ہیں کہ یہ نیاز نامہ لکھ رہا ہوں اور اگر کسی میں تفصیل طلب فرمائیں گے تو انتہا امر کے لیے ہوں اور بارگاہ عزت  
سے امید ایسی ہی ہے کہ آپ کا ذہن سلیم بحمد اللہ تعالیٰ اسی اجمال سے ہی، بہت کچھ تفصیل پیدا فرمائے گا۔

### مسئلہ زیارت القبور للنساء:

جبیٰ اکرم کم اللہ تعالیٰ ! شے کے لیے حکم دو قسم ہے: ذاتی کہ اس کے نفس ذات کے لحاظ سے ہو۔ اور عرضی کہ بوجہ عروض  
عوارض خارجیہ ہو۔ تمام احکام کہ بنظر سد رائج دیے جاتے ہیں جو منہبہ حنفی میں بالخصوص ایک اصل اصیل ہے، اسی قسم دوم  
سے ہیں۔ یہ دونوں فقیہیں باآنکہ نفی و اثبات میں مختلف ہوتی ہیں ہر گز تنافی نہیں کہ مناثی جدا جدا ہے۔ اس کی مثل حضور  
نساء فی المساجد ہے کہ نظر بذات ہر گز منوع نہیں کہ ان کا روکنا منوع ہے۔ صحیح حدیث میں ارشاد ہوا:

الله کی باندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے نہ روکو۔	لاتینعوا اماء الله مساجد الله <sup>۱</sup>
---	--

اور نظر بحال زنان منوع کیا صرح به الفقهاء الکرام (جیسا کہ فقہاء کرام اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ت)

ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں نے جو نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اگر	وقد قالَت ام المؤمنين الصديقة رضي الله تعالى عنها لورا رسول الله
---	---

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب الجمعة باب هل على من لا يشهد الجمعة الخ تدیکی کتب خانہ کراچی ۱۴۲۳ھ

<p>رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انھیں دیکھتے تو ان کو ایسا ہی مسجدوں سے روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں روکی گئیں۔</p>	<p>صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما حدث النساء لمنعهن المساجد کیا منعت نساء بنی اسرائیل<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

یونہی دخول نساء فی الحمام کہ پرده و ستر و عدم فتنہ کے ساتھ ہو تو فی نفسہ اصلاح و جماعت نہیں رکھتا بلکہ طیب و نظافت میں داخل ہے: بنی الاسلام علی النظافة<sup>۲</sup> (اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔ ت) مگر نظر بحال کہ باہم کشف عورات کے عادی ہیں۔ امام ابن ہمام وغیرہ اعلام نے فرمایا کہ سبیل اطلاق منع ہے، یہ حکم اسی قسم دوم کا ہے۔ یعنیم یہی لفظ آپ نے اس حکم میں پائے ہوں گے جو فقیر نے مسئلہ زیارت میں اختیار کیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے حرام لکھا ہو بلکہ غالباً تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی طرف اشارہ کیا اور نظر بحال سبیل اطلاق منع بتایا ہے، آپ میرے فتویٰ کو ملاحظہ فرمائیں، مجھے اس وقت بارہ "انج" کردس "امن" آگئے اپنے مجموعہ سے نکالنے اور دیکھنے کی فرصت نہیں۔

<p>ظاہر ہو گیا کہ کوئی تعارض نہیں اور دونوں حکم علیحدہ علیحدہ درست ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم (ت)</p>	<p>فظہر ان لا تعارض و ان الحکمین کلاهما صواب علیحدۃ اللہ تعالیٰ اعلم۔</p>
---	---

### مسئلہ خطبہ مختلط

بوجہ عدم توارث نامناسب ہونے کی نہایت کراہیت تنزیہ ہی ہے کیا نص علیہ فی حاشیة الطحاویۃ و رد المحتار (جیسا کہ اس پر حاشیہ طحاویہ اور رد المحتار میں نص کی گئی ہے۔ ت) اور کراہت تنزیہ ہی قسم مباح سے ہے وہ منافی جواز درستی و باحت نہیں بلکہ باحت کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔

<p>جیسا کہ علامہ شامی نے اس کی تحقیق فرمائی ہے، اس مسئلہ کی تحقیق میں ہمارا ایک مقالہ ہے جس کا نام ہم نے "جمل محلیہ ان المکروہہ تنزیہاليس بمعصیۃ" اقینا مکروہہ تنزیہاليس بمعصیۃ" رکھا ہے اس میں ہم نے لکھنی کے اس قول پر بڑی مصیبت قائم کی ہے جو اس نے شرب دخان (تمباکونوشی) سے متعلق اپنے رسالہ</p>	<p>کیا حققه العلامہ الشامی و لنافی تحقیقہ مقائلہ سینیناها "جمل محلیہ ان المکروہہ تنزیہاليس بمعصیۃ" اقینا فیہا الطامة الكبرى علی ما زعم الکھنوی فی رسالته فی شرب الدخان ان المکروہہ تنزیہا من الصغار</p>
--	---

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الاذان باب خروج النساء الى المساجد الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۴۰۱

<sup>2</sup> اتحاف السادة المتلقين کتاب اسرار الطهارة دار الفکر بیروت ۲۰۱۲، کشف الخفاء حدیث ۹۲۰ دار الكتب العلمية بیروت ۲۵۸

میں ذکر کیا کہ مکروہ تنزیہی بھی گناہ صغیرہ ہے جو تکرار و اعادہ سے کبیرہ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے جس کی موافقت نہ تو عقل کرتی ہے نہ ہی نقل۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ (ت)	فَإِذَا اعْتَدْتَ صَارَ مِنَ الْكُبَيْرَ، وَهَذَا جَهْلٌ عَظِيمٌ لَا يُسَاعِدُ نَقْلًا وَلَا عُقْلًا نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ۔
---	---

تو ان دونوں حکموں میں بھی اصلاحی نہیں۔ ہاں فتویٰ لکھنؤی نے کہ خلط کو مکروہ تحریکی ٹھہرایا وہ ضرور حکم تاج الفحول قدس سرہ الشریف کے خلاف اور غلط و باطل عند الانصار ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

### مسئلہ حضرات سادات کرام

فاش میگوییم وا زگفتہ خود دشادم      بندہ عشقتم وا ز هر دو جہاں آزادم

(میں کھل کر بات کرتا ہوں اور اپنے کہے ہوئے پر میرا دل خوش ہے، میں عشق کا غلام ہوں اور دونوں جہانوں سے آزاد ہوں۔ ت) سادات کرام (جعلنا اللہ تعالیٰ فی الدنیا و الاخرة مِنْ مَوْلَیِّنَمْ فَانْ مَوْلَیُّ الْقَوْمِ مَنْنَمْ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں ان کے غلاموں میں رکھ کیونکہ کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اسی قوم سے شمار ہوتا ہے۔ ت) پر عدم طریان کفر (کہ اسی قدر کا فقیر مدعا نہ عدم امکان جس سے جبیسی آپ نے تعبیر کیا، اور رفض و نیچریت کی میں نے لنگی کی تصریح کر دی کہ اس سے وہی بد مند ہی مراد جس میں انکار بعض ضروریات دین ہو اس کا حاصل بھی وہی سلب کفر ہے نہ سلب بدعت غیر کفر یہ جو آپ کی تعبیر میں عطف سے موہوم ہیں خصوصاً غیرہ کی زیادت کہ اور توسعیج کی راہ دے کما عبر تم کہ ان پر طریان کفر نا ممکن نہ یہ راضی نیچری وغیرہ ہو سکیں فقیر بحمدہ تعالیٰ اس مسئلہ میں مبتدع نہیں تھیں تھیں، اس کا بیان جزا اللہ عدوہ میں ضمناً آیا الہذا اختصار سے کام لیا ۱۱۶ ص ۱۰۱ سے جو کچھ کلمات مختصرہ معروض ہوئے ہیں ان پر دوبارہ نظر فرمائیں تو بعونہ تعالیٰ ان تمام شبہات کا جواب ان میں پائیں۔ آیت و احادیث کہ فقیر نے ذکر کیں اس میں شک نہیں کہ ضرور عام و مطلق ضرور اپنے عموم و اطلاق پر رہیں گے جب تک دلیل صحیح سے تخصیص و تقید نہ ثابت ہو۔ اور شک نہیں کہ بلا دلیل محض اپنے خیال کی بنابر ادعائے تخصیص و تقید ہر گز تحقیق نہ قرار پاسکے گا بلکہ تفسیق۔ اور شک نہیں کہ مسئلہ باب مناقب سے ہے نہ باب فقة سے جو افعال مکلفین من حيث

الحل والحرمة والصحة والسلام

عَلَى: وَفِي الْاَصْلِ "الصَّهَامَ"۔

اتباع لازم ہو۔ اور یہ بھی سہی تواتر ائمہ مذہب کا ہو گانہ بعض متاخرین کے کلام کو ان اکابر کے کلام پر کیا جو جہ ترجیح ہے جن سے فقیر نے استاد کیا سوا اس کے کہ یہ اطلاق آیت و احادیث سے متمک ہیں جو یقیناً دلیل شرعی ہے اور وہ بلا دلیل مدعیٰ تخصیص و تقيید یہ اور اس کے امثال بہت نکات اس تحاور میں زیر نظر آئے مگر فقیر دیکھ رہا ہے کہ جہاں تک میں نے دعویٰ کیا ہے ان تجاذبات عَلَيْهِ کے لیے مساغ ہی نہیں۔ جزاء اللہ پر نظر تازہ فرمائیے ص ۱۰۲ اپر اشعار کر دیا ہے کہ آیت کریمہ و احادیث مذکورہ کے دو محمل ہیں ہیں: نفی خلود و نفی دخول۔ ثانی کو ظاہر لفظ سے متبادل اور اسی طرف کلمات اہل تحقیق کو ناظر بتایا ہے مگر اپنادعویٰ یعنی نفی کفر دونوں تقدیر پر ثابت ظہر ہایا ہے کلمات بعض دیگر علماء میں تخصیص سبطین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی ظاہر متبادل اعني نفی دخول کی نظر سے ہے وہ یہاں میراد دعویٰ نہ تھا بلکہ دونوں اختمال گزارش کر دیئے تھے اگرچہ ایک طرف تباہ و ظہور ہے اور اسی طرف میرابیلکہ ان اکابر کامیلان قلوب اور اس میں ہمارا انتشار حصر در ہے۔ رہی نفی خلود، کیا کہیں کلمات دیگر علماء میں اس کی تصریح کہیں ملاحظہ فرمائی ہے کہ مخلد فی النار نہ ہونے کی نفی حضرات ریحاتین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خاص ہے باقی سعادت کرام کے لیے نہیں تو میرے دعویٰ کار داں تخصیص و تحقیق دیگر اس میں بھی نہیں۔ غایت یہ کہ یہاں عدم ذکر ہے نہ کہ ذکر عدم۔ رہا وہ دوسرا پہلو جس کی طرف ہمارے قلوب ارکن و امیل ہیں اور ہمیں اپنے رب جل و علا سے اس کی امید ہے اس میں حق ناصح یہ ہے کہ نظر علماء ایسے موقع میں دو وجہ پر منشعب ہو جاتی ہے اور دونوں کے لئے شرع میں اصل اصول ہے:

ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے (ت)۔	"لِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُولِّيهَا" <sup>۱</sup>
---	---

ایک حفظ عامہ و سدا کہ تکال نہ کر بیٹھیں جس طرح سیدنا مام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہوا اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بھی توجیہ فرمائی یہ تخصیص کرتے ہیں اور اس کا حاصل خصوص جزم ہے نہ جزم خصوص کہ معاذ اللہ بلاد لیل تخصیص عموم شرع لازم آئے۔ یہ نفی تفرقہ محفوظ رکھنے کا ہے۔ جزم خصوص یہ کہ دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ حکم انہیں کے ساتھ خاص ہے ان کے ماؤراء عَلَيْهِ:

عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ هَكُذَا۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۳۸ / ۲

کے لئے ہر گز ثابت نہیں۔ اور خصوص جزم یہ کہ بالجسم والیقین اس کا حکم مانایہ نہیں کے ساتھ خاص ہے ان کے ماءِ راء میں اس کے بثوت پر قطع و یقین نہیں اگرچہ ظن و رجاء ہے۔

دوسرے بیان مفاد شرع و اظہار ما یعطی الدلیل و کل ذی حق حق خصوصاً جہاں محل و سعت و رجاء ہے کہ حدث عن بالحر و لاجرم خصوصاً محل مناقب جہاں ضعاف بالاجماع مقبول خصوصاً اپنے سرکار میں محبت و بندگی و نیاز و غلامی کا تقاضا کہ یہ سب پر بالا ہے یہ ظاہر و تبادر کا افادہ فرماتے ہیں اور جرم و قطع کو اس کے محل اور ظن و رجاء کو اس کے محل پر رکھتے ہیں۔ یہ مسلک تحقیق ہے اور وہ مسلک تحقیف اور دونوں صواب ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق ععظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ عمل کریں، فرمایا تو چھوڑ دو۔ امید کرتا ہوں کہ اس بیان سے ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اس طریق میں جو امام ابن حجر عسقلانی اور امام ابن حجر مکی و علامہ محمد زرقانی و حضرت امان الطریقۃ الشیخ اکبر وغیرہم محققین رضی اللہ عنہم کا مختار ہے اور اسے طریق تخصیص سے اصلاً تنافس نہیں۔ ہر ایک منشاء صحیح سے ناشی اور اپنے محل پر حق ہے وباللہ التوفیق۔

مخالفت مشاہد کا جواب جزا اللہ میں ص ۱۰۵ پر بالقصد مذکور تھا۔ وہ سارا صفحہ اسی بیان میں ہے، کیا مشاہد یہ ہوا کہ جو سید کہا جاتا تھا اس سے صدور ہوا تو ہمارے دلنوی کے کب منافی۔ یا یہ مشاہد ہوا تھا کہ فلاں کہ فی الواقع سید ہے نہ انتساب میں کبھی ادعاء نہ \_\_\_\_\_ اور پھر اس نے کفر کیا تو ایسا مشاہدہ روئے زمین پر نہ ملے گا۔ پھر اس کے باعث جملہ سادات کی سیادت سے ارتقائیقین میری فہم قاصر میں نہ آیا، یقین سے مراد یقین کلامی ہوتا وہ تو یوں ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول بالتعیین کسی کا نام لے کر فرمائیں کہ یہ فلاں نسب کا ہے ایسا یقین آج کل کیونکر ممکن۔ اور یقین فقہی مقصد ہو کہ نسب میں شہرت مانی جائے گی و الناس امناء علی انسابهم (لوگ اپنی نسبوں پر امین ہوتے ہیں۔ ت) تو جس خاص سے معاذ اللہ صدور منافی ہو اس سے ارتقائیقینی ہو گا کہ دلیل اس کے خلاف پر پائی گئی باقیوں سے کیوں ارتقائ ہو جائے گا حالانکہ دلیل اعنی شہرت موجود اور منافی اعنی صدور کفر متفقہ۔

تیرا شبہ کہ سادات کرام جنتی ٹھہریں گے، حسیبی اس قضیے کے موضوع و مجمل دونوں میں دو احتمال ہیں۔ سادات کرام یعنی وہ جو عند اللہ سادات کرام یا وہ جو بیان سیادت مشہور ہیں عام ازیں کہ نفس الامر اور علم الہی میں کچھ ہو اور قطعی جنتی یعنی بلا سبقت عذاب جس سے دخول نار کی نفی ہو یا قطعی جنتی بعاقبت و انجام جس سے خلود نار کی نفی ہو۔ اب یہ چار محمل ہیں اور فقیر کے دلنوی سے ایک کو بھی مس نہیں۔ پہلے عرض کرچکا کہ غیر حسین میں نفی دخول بطور رجا نظر بظہور و تبادر ہے پھر قطعیت ہماں، یہ لکھ نفی خلود بھی مسلکہ ظنیہ ہے اگرچہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ ظن غالب۔ اکثر رائے متحقق برحد یقین ہے جسے فقهاء یقین ہی کے پلے میں رکھتے ہیں،

مگر نہ یقین کلامی کہ مسئلہ عقائد قطعیہ سے قرار پائے اور اس میں ادنیٰ شک کوراہ دینے والا گمراہ خارج از الہست ٹھہر جائے۔  
جزاء اللہ صفحہ ۱۰۷ میں امام ابن حجر کے الفاظ ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔

لأنى اكاد ان اجزمان حقيقة الكفر لاتقع <sup>۱</sup> الخ۔	اس لئے کہ بے شک میں اس بات پر جزم کرتا ہوں کہ صحیح النسب سید سے حقيقة کفر کا وقوع نہیں ہوتا۔ اخ (ت)
---	--

اور بالفرض نفی خلود بیکہ بغرض غلط نفی دخول ہی قطعی مان لی جائے تو کس کے لئے، ان کے لیے جو عند اللہ سادات کرام ہیں، نہ ہر اس شخص کے لئے جو سید کملاتا ہو اگرچہ واقع میں نہ ہو اور اب کسی معین میں حصول و صرف عنوانی پر قطع و یقین کی طرف را نہیں تو ثبوت و صرف محمول کیونکر مقطوع بہ ہو جائے گا اور کسی معین کو اندیشہ آخرت کیوں اٹھ جائے گا کہ ہر ایک میں عدم علم نفس الامر کے سبب احتمال لگا ہوا ہے۔ جزاء اللہ ص ۵۰ میں عبارت اسعاں ملاحظہ ہو کہ:

من این تحقق ذلك لقيام احتيال <sup>۲</sup> الخ۔	جب احتمال قائم ہے تو یہ کیسے متحقیق ہو گا اخ۔ (ت)
--	---

اور اندیشہ آخرت تو انہیں بھی نہ اٹھ گیا جنہیں تعیین نام لے کر ارشاد ہو گیا کہ تم جنتی ہو۔ اعنی عشرہ مبشرہ و نظرائهم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نہ انہیں اٹھ گیا جن سے بالتحقیق فرمایا گیا۔

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم <sup>۳</sup> ۔	جو چاہو عمل کرو بے شک میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ (ت)
--	--

اعنی اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ تسییہ منیر الدین

حیبی اکرم اللہ تعالیٰ! ہاں یہ مسئلہ فقہیہ ہے، اس میں خواہی خواہی وہی حکم ہے کہ:

يجب اتباع المنقول و ان لم يظهر للعقل ك MAVI	اس میں منقول کا اتباع واجب ہے اگرچہ عقل پر اس کی وجہ ظاہر نہ ہو، ایسے ہی
---	--

<sup>۱</sup> جزاء اللہ عدوہ بباب ائمہ ختم النبوة نوری کتب خانہ لاہور ص ۱۲۲

<sup>۲</sup> جزاء اللہ عدوہ بباب ائمہ ختم النبوة نوری کتب خانہ لاہور ص ۱۲۳

<sup>۳</sup> کنز العمال حدیث ۳۷۹۵ ص ۲۷ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۱۲

رِدَالْمُحْتَارِ وَغَيْرُهُ مِنْ كِتَابِ الْفَحْولِ <sup>۱</sup>
--

فقیر نے اپنی رائے سے یہ حکم استنباط کیا ہوتا تو ضرور محل مواخذہ تھا۔ اب کہ علماء کی کتابوں میں لکھا ہے۔ عبارات فقیر نے فتویٰ میں نقل کر دیں کہ اسی قدر عہدہ مفتی تھا تو اب سوائے اتباع چارہ کیا ہے۔ تفاؤل ضرور حسن ہے جب تک مخالفت شرعیہ نہ وہ اور نبی عذر تفاؤل اصلًا مسموع نہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "فَلَا تُرْكُوا آنَّفُسَكُمْ"<sup>۲</sup> (آپ اپنی جانوں کو صاف سترہ انہ بیتاو۔) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کریم تھی کان یحب الفال الحسن<sup>۳</sup>۔ (اچھی فل کو پسند فرماتے تھے۔ ت) بڑہ نام سے منع فرمایا اور اسے بدلت کر جیلہ کر دیا۔ اور اس میں مذور شرعی وہی تزکیہ نفس ارشاد کیا کیا بڑہ کو تفاؤل پر حمل نہیں کر سکتے تھے، ضرور محظوظ ہو سکتا تھا مگر اس کا ظاہر تزکیہ نفس تھا اور وہ حرام ہے لہذا منع فرمایا اور بدلت دیا۔ پھر منیر الدین و امثالہ میں بڑہ سے کہیں زیادہ تزکیہ ہے نکو کاری ایک عام بات ہے کہ فساق کے سواب کو حاصل۔ مگر اس مرتبہ عظیمہ پر پہنچا کہ دین ان صاحب کے نور سے منور ہو جائے سخت مشکل۔ تو ایسا شدید تزکیہ نفس کیونکر جائز ہو گا خلاف سعید و امثالہ کہ ان کا حاصل صرف مسلم ہے ہر مسلمان سعید ہے اور ہر سعید مسلمان ہے، آیہ کریمہ فَعَيْنُهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ<sup>۴</sup>۔ (ان میں کوئی بدجنت اور کوئی نیک بجنت ہے۔ ت) میں دو ہی فتنمیں ارشاد ہوئیں اور ان سے کافر مومن مراد ہوئے تو سعید نام رکھنا ایسا ہی ہے جیسے مسلم اور اس میں تزکیہ نہیں۔ نظر بحال بیان واقع ہے اور نظر بمال تفاؤل۔

والله تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۵:** از جزیرہ کلبیو، مرسلہ حاجی محمد رئیس بوساطت سید حسین ابن سید عبد اللہ بغدادی قادری۔ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ

علامہ دمیری علیہ الرحمہ کی کتاب "حیۃ الحیوان الکبریٰ" <sup>۱</sup> کے جزء ثانی باب العلق میں ہے۔ ت) جب بندہ اپنے رب کاذکر یا حمد کرتا ہے تو اللہ کاذکر نہیں کرتا مگر اللہ اور اس کی حمد نہیں کرتا مگر وہی۔	فی حیۃ الحیوان الکبریٰ للعلامة الدمیری رحمہ اللہ تعالیٰ الجزء الثاني ص ۱۳۱ باب العلق، اذا ذكر العبد ربہ او حمدہ فما ذکر اللہ الا اللہ ولا حمد اللہ الا اللہ <sup>۲</sup>
--	--

<sup>۱</sup> رد المحتار باب التصرف في الربين والجنائية عليه دار احياء التراث العربي بيروت ۵/۳۳۱

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۵۳/۳۲

<sup>۳</sup> مسند احمد بن حنبل عن ابی هریرہ المکتب الاسلامی بيروت ۲/۳۳۲

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۱۱/۱۰۵

<sup>۵</sup> حیۃ الحیوان الکبریٰ تحت اللفظ "العلق" مصطفی الباجی مصر ۲/۷

## الجواب:

<p>اے اللہ: تیرے لئے تعریف ہے کوئی تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی۔ تعریف کا حق معرفت کے بعد ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کہ اور اس کے کمال، جلال کے سوائے خدا کے اور کون جان سکتا ہے اسی لئے توجب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو کہا تو ہم نے بات اسی کی طرف لوٹا دی اور حکم کی بجا آوری یوں کی کہ یا اللہ تو ہی اپنے رسول پر درود بھیج، اس لئے کہ ان کے شایان درود تو ان کا رب کریم ہی بھیج سکتا ہے۔ جان لو کہ جو کام بھی بندے سے صادر ہوتا ہے اس کی دو وجہیں ہیں: ایک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ ہر شیئ کا خالق وہی ہے بندے کو خلق سے کوئی حصہ نہیں اور ایک رخ کا سب کی طرف کیونکہ وہ فعل خدا کی قدرت سے اسی بندہ سے ظاہر ہوا۔ عام طور پر افعال کی نسبت کی بنیاد شریعت، نعمت اور عرف عام میں یہی آخری وجہ یعنی اکتساب کی ہے۔ تو قیام کے خالق کے لیے قام نہیں کہا جائے گا اس کے مباشر کے لیے کہا جائے گا لیکن بعض افعال ایسے ہیں کہ ان کا صدور رب تبارک و تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے تو اس کی نسبت رب اور بندے دونوں کی طرف ہو سکتی ہے جس کو ہم نے اسناد عام سے تعبیر کیا کیونکہ یہاں کسی قسم کا ایہام پیدا</p>	<p>اللهم لك الحمد لا يحصى احد ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك فأن حق الثناء بحق المعرفة ولا يحيط بكنه الله وصفات الله وكمال الله وجمال الله و جلال الله الا الله ولذلك لما امرنا ان تصلي على نبينا صلی الله تعالیٰ عليه وسلم ردنا الامر اليه وكان امتنال امرة بقولنا اللهم صل وسلم عليه اذلاطفى بقدرة العظيم الا صلوة ربه الكريم۔ اعلم ان لكل فعل يصدر من العبد و جهتين وجهته الى خالقه عز وجل اذلا وجودله الابه وليس للعبد من خالقه شيئاً - ووجهته الى كاسبه اذ منه ظهر بااظهار المولى سبحانه و تعالى وهذه الاخري هي مناط الاستناد العام لغة و عرفا و شرعاً۔ فلا يقال قام الالين قام به القيام لا لمن خالقه لكن من الافعال ما يصح صدوره من الخالق عزوجل فيسوغ اسنادها اليه لارتفاع الايهام و الى العبد على وجهه العام</p>
---	---

نہیں ہوتا اس کی مثال حمد، شکر، توحید بیان کرنا، ذکر کرنا، ہدایت کرنا اور یاد دلانا۔ صلوات، سجدہ، روزہ، عبادت، قیام و قعود ان افعال سے نہیں۔ جیسا کہ ہم اپر بیان کر آئے۔ پہلی نسبت حقیقی اور دوسری صوری ہے۔ توجب اسناد حقیقی صحیح ہو تو وہی غالب ہو جاتی ہے اور اسناد صوری مغلوب مضھل۔ ایسی صورت میں کاسب سے اس فعل کی نفی کر کے خالق کی طرف نسبت کر دیجاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "کافروں کو تم نے قتل نہیں کی اہم نے قتل کیا۔" یا رسول اللہ آپ نے کنکری نہیں چینکی ہم نے چینکی۔ پس نفی از روئے صورت ہے اور اثبات از روئے حقیقت ہے۔ اسی طرح ماتوفیقی الا بالله و ماتشاؤن الا ان یشاء اللہ ہے۔ یہ لکھ نگاہ حقیقت یہی سے دیکھو گے تو اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں۔ "اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔" وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ "ہمارے سردار سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں اور آپ ہر غائب پر مامون ہیں۔

و ذلك كحمد و شكر و وحد و ذكر لا كصلبي و سجد و صام و عبد و قامر و قعد لما تقدم وال اوّل الحقيقة والآخر الصورة فإذا صحت الحقيقة غلبت واضيفت عنده الصورة فصح نفيه عن كاسبه و قصر اسنادة على خالقه و ذلك قوله تعالى "فَإِنْ تَعْثِثُوهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ قَاتِلُهُمْ" <sup>۱</sup>، "وَمَا رَأَيْتَ إِذْ هَمِيتَ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَافِعُهُ" <sup>۲</sup>، فأشبت و نفي صورة و معنى و ماتوفيقى الا بالله و ماتشاؤن الا ان یشاء اللہ۔ بل اذا نظرت بعين الحقيقة فلا وجود الا لله عز جلاله كل شيعي هالك الا وجهه هو الاول هو الآخر والظاهر والباطن۔ وهذا سببنا سواد ابن قارب رضي الله تعالى عنه قائلًا في ما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم۔

فأشهد ان الله لا رب غيره  
وانت مامون على كل غائب <sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۱/۸

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۱/۸

<sup>۳</sup> الاستيعاب في معرفة الاصحاح ترجمة سواد بن قارب الدوسي ۲/۲ دار الكتب العلمية بيروت ۲۳۳

<p>غور کیجئے کلمہ کا نام کلمہ توحید ہے نہ کلمہ وجود، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں تو عبادت کرنے والے کہتے ہیں لا معبود الا اللہ اور سالکین کہتے ہیں لامشہود الا اللہ اور کاملین کہتے ہیں کہ لاموجود الا اللہ سب درست ہے اور سب توحید ہے اتحاد کے بغیر کیونکہ وہ تو احادیث ہے ہم اللہ سے ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں، پس غور کرو۔ واللہ تعالیٰ اعلم</p>	<p>وصار کلمۃ التوحید لا وجود فلا الله الا الله للناسکین لا معبود الا الله وللسالکین لا مقصود الا الله و للواصليين لا مشهود الا الله و للكاملين لا موجود الا الله والكل سديدو والكل توحيد من دون اتحاد فانه الحاد نسئل الله سبيل الرشاد فافهم - واللہ تعالیٰ اعلم۔</p>
---	---

مسئلہ ۲: از جے پور مکان نواب واحد علی خان صاحب مرسلہ جناب مولوی محمد رکن الدین صاحب الوری مورخہ ۱۳۳۶ھ تاج العلماء مایہ ناز ماسنیان مخزن علوم حضرت مولانا الحاج مولوی احمد رضا خان صاحب مداللہ خلا لکم، السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ ایک مدت سے گوذریعہ مراسلت دریافت مزاج وہاں سے قاصر ہوں مگر الحمد للہ کہ مردمان آئندگان کی زبانی خیریت معلوم ہونے سے مسرت ہوتی رہتی ہے، ایک عرصہ کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کے دربار دُربار میں حاضری کا لقاق ہوا، واپسی میں جے پور بھی نواب واحد علی خان صاحب کے طلب کرنے پر قیام کرنا پڑا۔ ایک مولوی وہابی سے گفتگو ہوئی اثنائے گفتگو میں مولوی عبدالسمیع صاحب مرحوم و مغفور کی اس عبارت پر کہ جوانوں نے حدیث نبوی:

<p>(جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ت)</p>	<p>من احدث فی امرنا هذاما مالیس منه فهورد<sup>1</sup>۔</p>
---	--

کی نسبت لکھا ہے کہ شارحین نے مالیس منہ کی شرح میں یہ لکھا ہے:

<p>فیہ اشارۃ الی ان احادیث مالا ینازع الكتاب والسنۃ اس میں اشارہ ہے کہ جو نئی بات کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اس کو ایجاد کرنا قابل مذمت نہیں ہے۔ (ت)</p>	<p>لیس بمذموم<sup>2</sup></p>
---	-------------------------------

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الاقضیۃ باب نقض الاحکام الباطلۃ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۷۷/۲

<sup>2</sup> انوار ساطعہ وربیان مولود وفاتح بدعت کی اصل تحقیق مکتبہ حامدیہ گنج بخش روڈ لاہور ص ۷۳

یہ اعتراض کیا کہ یہ الفاظ کسی شرح میں نہیں ہیں اس وقت صحیحین کو وجود لیکا گیا تو نہ مولوی احمد علی سہاری کی شرح میں اور نہ نووی میں اس کا پتہ لگا۔ ہذا گزارش ہے کہ جناب اس عبارت کو تحریر فرمادیں کہ کون سی شرح میں ہے؟ کیونکہ مولوی عبدالسیع صاحب مرحوم نے بھی کسی شرح کا حوالہ نہیں دیا، دوسرے شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق حق المسائل کے اندر ثبوت سوم و چھتم میں بحوالہ حاشیہ یہ عبارت نقل فرمائی ہے:

<p>ہر دور اور ہر زمانے کے لوگ جمع ہو کر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو بخش دیتے ہیں، مالکیہ و شافعیہ وغیرہ ہر منذهب کے صالحین اور دیانتداروں کا یہی موقف ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، تو اہلسنت و جماعت کے نزدیک اس پر اجماع ہے۔ خلاف معتزلہ کے۔ (ت)</p>	<p>ان المسلمين يجتمعون في كل عصر وزمان يقرأون القرآن ويهدون ثوابه لموتاهم وعلى هذا اهل الصلاح والديانة من كل مذهب من المالكية والشافعية وغيرهم ولا ينكر ذلك منكر فكان اجماعاً عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة۔</p>
--	---

شاہ صاحب موصوف نے بھی کسی شرح کا حوالہ نہیں دیا اس کے بارے میں بھی عرض ہے کہ جناب تحریر فرمادیں کہ یہ عبارت کون سی شرح میں موجود ہے۔ وہابی صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ سنی یونہی جھوٹے حوالے دیتے ہیں فقیر کی بھی نظر سے نہیں گزر۔ جواب باصواب الور و روانہ فرمایا جائے، بفضل تعالیٰ یہاں سے تو اس وہابی کو نکلوادیا ہے، مگر ہم کو بھی تو ان عبارتوں کی اصلاحیت معلوم ہونا چاہیے۔

#### الجواب:

مولانا المکرم ذی المجد والکرم اکرم الکرم تعالیٰ و تکرم، و علیکم والسلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ پہلی عبارت مرقة<sup>۱</sup> شرح مشکوہ علی قاری طبع مصر جلد اول ص ۷۷۷ اس طریقہ شروع باب الاعتصام بالكتاب والسنۃ میں ہے، اور دوسرا بنا یہ<sup>۲</sup> شرح ہدایہ للامام محمود العینی طبع لکھنؤ جزء ثانی از جلد اول اوائل ص ۱۶۱۲ آغاز باب الحج عن الغیر میں۔ جناب مولانا ! اہلسنت آئینہ ہیں، وہابی کو آئینے میں اپنا ہی منہ دکھادیا، یہ شیوه وہابیہ کا ہے کہ تماں دل سے گھڑ لیں علماء دل سے تراش لئے، پھر عبارت گھڑنی کیا مشکل ہے۔  
والسلام۔

<sup>۱</sup> مرقة المفاتیح بباب الاعتصام بالكتاب والسنۃ حدیث ۳۰ المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ ۱/۳۲۲

<sup>۲</sup> البناۃ فی شرح الہدایۃ کتاب الحج بباب الحج عن الغیر المکتبۃ الامدادیہ مکہ المکرمة المجلد الاول الجزء الثانی ص ۱۶۱۲

۱۳۳۸ھ ار مesan

مسئلہ ۷: از شہر محلہ کڑہ چاند خاں مسّولہ منظور حسن صاحب قادری رضوی

اس وقت حضور کادیوان پیش نظر ہے اس میں اس شعر کا مطلب سمجھنہ آیا ہے

فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مر قلی عقیق و عمر کو خبر نہ ہو<sup>۱</sup>

الجواب:

یہ شعر ایک حدیث کا ترجمہ ہے:

ابوبکر و عمر سب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں اور تمام آسمان والوں اور سب زمین والوں سے بہتر ہیں سوانحیاء و مرسلین کے، اے علی! تم ان دونوں کو اس کی خبر نہ دینا۔	ابوبکر و عمر خیر الاولین و خیر الاخرين و خير اهل السموات و خير اهل الارضين الا الانبياء والمرسلين لاتخبرهم اي على <sup>۲</sup> ۔
---	--

علامہ مناوی نے تیسیر<sup>۳</sup> میں اس کے یہ معنی بتائے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے اے علی (کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) تم ان سے نہ کہنا یہ لکھ ہم خود فرمائیں گے تاکہ ان کی مسرت زیادہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۸: از کانپور فیلچانہ قدیم مکان مولوی سید محمد اشرف صاحب و کیل مسّولہ مولوی سید محمد آصف صاحب ۲رمدان ۱۳۳۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحيم طنحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم ط

یا حبیب محبوب اللہ رو جی فدا ک قبلہ کونین و کعبہ دارین مجی الملّۃ والدین دامت فیو خضم بعد تسلیمات فدویانہ و تمنا، حصول سعادت آستانہ بو سی ایکلے بفضلہ تعالیٰ فدوی بخیریت ہے ملازمان سامی کی صحوری مدام بارگاہ احادیث مطلوب۔ حدائق بخشش کے صفحہ ۸۰ مصروع:

عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے<sup>۴</sup>

کی شرح مطلب میں تحریر ہے کہ:

<sup>۱</sup> حدائق بخشش مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی ص ۵۹<sup>۲</sup> کنز العمال حدیث ۳۲۶۵۲ و ۳۲۶۳۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۹۵۶ء، تاریخ بغداد ترجمہ عبداللہ بن ہارون ۵۳۳۱ دارالکتاب العربي بیروت ۱۰/۱۹۲<sup>۳</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث ابو بکر و عمر سیدنا کھول ابل الجنة مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۱/۱۸<sup>۴</sup> حدائق بخشش حاضری درگاہ ابدی پناہ و صل دوم رنگ عشقی مکتبہ رضویہ کراچی حصہ اول ص ۱۰۰

۱۰) کعبہ بھی انہیں کے نور سے بنا، انہیں کے جلوے نے کعبہ کو کعبہ بنادیا، تو حقیقت کعبہ وہ جلوہ محمدیہ ہے جو اس میں تجلی فرمائے ہے، وہی روح قبلہ اور اسی کی طرف حقیقت سجدہ ہے، اتنا یاد رہے کہ حقیقت محمدیہ ہماری شریعت میں مسجدو الدین ہے۔<sup>۱۱</sup>

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کعبہ جلوہ محمدیہ ہے جس کی طرف حقیقت سجدہ ہے۔ آخر عبارت کے الفاظ کہ حقیقت محمدیہ ہماری شریعت میں مسجدو الدین ہے۔<sup>۱۲</sup> ان الفاظ سے اس ناقص الایمان والعلم والعقل کی ناقص فہم میں یہ آتا ہے کہ جلوہ محمدیہ ہی کو حقیقت محمدیہ کہا گیا ہے اور جب حقیقت کعبہ جلوہ محمدیہ بتائی گئی اور اسی کی طرف حقیقت سجدہ کہا گیا اور حقیقت محمدیہ کو مسجدو الدین کا تو حقیقت کعبہ کا حقیقت محمدیہ ہونا لازم آتا ہے۔ والسلام مع الکرام۔

### الجواب:

بسم اللہ الرحمن الرحيم طنحمدہ ونصبی علی رسولہ الکریم ط

بملاحظہ مولانا المکرم ذوالیمجد والکرم مولیٰ نا مولوی سید محمد آصف صاحب دامت فضالہم، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته۔ اگر آپ آفتاب اور دھوپ کو دیکھیں تو فرق حقیقت و تجلی کی ایک ناقص مثال پیش نظر ہو۔ آفتاب گویا حقیقت شمس ہے اور دھوپ اس کا جلوہ۔ حقیقت صفات کثیر رکھتی ہے اور اپنے مجالی میں متفرق صفات سے تجلی کرتی ہے ان صفات کے لحاظ سے جو آثار ان مجالی کے ہیں وہ حقیقت حقیقت کے اور معاملات ان مجالی سے بحیثیت مجالی ہیں وہ حقیقت حقیقت سے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نسبت فرمایا:

<p>من احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فبغضی ابغضهم<sup>۱</sup>۔</p>	<p>جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ (ت)</p>
---	---

حقیقت کعبہ مثل حقائق جملہ اکوان حقیقت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوۃ والتحیۃ کی ایک تجلی ہے کعبہ کی حقیقت وہ جلوہ ہے مگر وہ جلوہ عین حقیقت محمدیہ نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،

<sup>۱</sup> جامع الترمذی ابواب المناقب سب اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم امین کپنی دہلی ۲/۲۲۶، مسنند احمد بن حبیل حدیث عبداللہ بن

مخفل المکتب الاسلامی بیروت ۵/۵۴، ۵۵، ۵۶

بیکار اس کے غیر متناہی خلاں سے ایک ظل، جیسا کہ اسی قصیدہ میں ہے۔  
 کعبہ بھی ہے انہیں کی تجھی کا ایک ظل  
 روشن انہیں کے عکس سے پتلی حجر کی ہے<sup>۱</sup>

حقیقت کریمہ نے اپنی صفت مسحودیت الیہا سے اس ظل میں تجھی فرمائی ہے الہذا کعبہ جس کی حقیقت یہی ظل و تجھی ہے مسحود  
 الیہا ہوا اور حقیقت وہ مسحود الیہا ہے کہ اسی کی اس صفت کے ساتھ اس پر تجھی نے اسے مسحود الیہا کیا۔ والسلام  
 مسئلہ ۹: (ماخوذ از ۱۱ مہر درختان، تصنیف مولانا مظفر احمد قادری)

اعتراض: یہ کہ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب "سبع سنابل" سنبلہ دوم ص ۶۱ میں حکایت لکھی ہے کہ:

<p>ایک شخص حضرت سلطان المشائخ کے احوال کا منکر آپ کی راہ          وروش سے تنفر اور ایک دوسرے درویش کا معتقد تھا، ایک          روز اس درویش سے کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت          حضرت علیہ السلام سے ملاقات کروں اگر سرکار کے کرم سے          ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو۔ درویش          نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائخ کے یہاں          مجلس سرود و سماع ہوتی ہے اس روز حضرت حضرت علیہ السلام          تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی تگہبائی فرماتے          ہیں۔ وہ شخص اب اپنے انکار پر پریشان ہوا اور قوالي والے دن          آپ کی خانقاہ میں حاضر ہو گیا، حضرت حضرت علیہ السلام سے          ملاقات کی اور ان سے خوب فیض حاصل کیا۔ (ت)</p>	<p>مردے بودا ز سلطان المشائخ منکر وزراہ وروش ایشان تنفر          واعتقاد بدر ویتے دیگر داشت روزے ازاں درویش پر سید کہ          مرآ آرزوئے ملاقات حضرت علیہ السلام بسیار است اگر          بعنایت شمل ملاقات میسر شود غایت بندہ نوازی و سرفرازی باشد          آس درویش گفت روزے کہ درخواستہ سلطان المشائخ          سرود و سماع درمید ہند آس روز حضرت علیہ السلام آنجا حاضر می          شود لگا ہبائی نعلین و کفشاۓ مردم می کند آس مردا ز انکار          خود پیشیاں گشت در روز سماع در خانقاہ ایشان آمد و با حضرت علیہ          السلام ملاقات کردا زوے فائدہ ہا گرفت<sup>۲</sup>۔</p>
--	--

<sup>۱</sup> حدائق بخشش حاضری بارگاہ بیسیں جاہ و صل دوم رنگ علمی حصہ اول ص ۹۲

<sup>۲</sup> سبع سنابل سنبلہ دوئم در بیان پیری مریدی مکتبہ قادریہ رضویہ اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۶۱

تو حاصل اعتراض یہ کہ اس حکایت میں حضرت خضر کی (جو ایک قول پر نبی تک ہیں) تو ہین کی کہ انہیں حضرت سلطان المشائخ کا خدمت گار اور وہ بھی ایسا کہ ان کی مجلس سماع کے حاضرین کی نعلیں (جو تیوں) کا نگہبان بتایا۔

اس اعتراض پر بحکم شریعت و پاس حمایت جانب محبوبان خدا جو جوابات حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام الہست علامہ الحاج مولانا الشاہ مفتی عبدالصطفیٰ احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ نے تحریر فرمائے ملاحظہ ہوں۔

### جواب اول:

اولیائے کرام قدست اسرار ہم کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت خضر جو اکثر اکابر سے ملتی ہوتے ہیں آیا وہ خضر مولیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے اور صحابیت میں شبہ نہیں یا ہر دورے میں ایک ولی بنام خضر ہوتا ہے یعنی مناصب ولایت سے ایک عہدے کا نام "حضر" ہے کہ جو اس عہدے پر قائم ہوگا اسی نام سے پکار جائے گا، جیسے غوث کا نام عبد اللہ و عبد الجامع اور اس کے دونوں وزیر دست چپ و راست کا نام عبد الملک و عبد الرّب جن کو امامین کہتے ہیں اور اوتادار بعدہ کا نام عبد الرحیم و عبد الکریم و عبد الرشید و عبد الحلیل، یونہی جو عہدہ نقابت پر ہوا سے "حضر" کہا جائے گا اس کا اپنانام کچھ ہو۔ ایک جماعت عظیم صوفیہ کرام اسی قول پر ہے اور بہت حکایات سے اس کا پتہ ملتا ہے۔ حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کی تائید کی، اصحابہ فی تبییز الصحابة، میں فرماتے ہیں:

بعض اولیاء کا قول کہ ہر زمانے کے لیے ایک خضر ہوتا ہے اور وہ نقیب اولیاء ہوتا ہے، جب ایک نقیب کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نقیب مقرر کر دیا جاتا ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ قول صوفیاء کی ایک جماعت سے حاصل کیا۔ اس کے بارے میں ان سے کوئی اختلاف نہیں اس قول کی موجودگی میں اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اعتراض میں منقول خضر سے مراد وہی خضر ہیں جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں یہ لکھ اس سے مراد اس زمانے کا خضر ہے اور صفت خضر کے بارے میں دیکھنے والوں کا

قول بعضهم ان لکل زمان خضرا وانه نقیب الاولیاء وكلما مات نقیب اقيم نقیب بعده مكانه ویسی الخضر وهذا قول تداولته جماعة من الصوفية من غير نکير بینهم ولا يقطع مع هذا بان الذى ينقل عنه انه الخضر هو صاحب موسى عليهما الصلوٰۃ والسلام بل هو خضر ذلك الزمان ویؤیده اختلافهم فی صفتہ فمنهم منیرا

<p>اختلاف بھی اس قول کا مورید ہے۔ چنانچہ کسی نے انکو بوڑھا، کسی نے ادھیڑ عمر والا اور کسی نے جوان دیکھا یہ دھکائی دینے والے اور اس کے زمانے کے تغیری پر محظوظ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔</p> <p style="text-align: right;">اعلم (ت)</p>	<p>شیخاً او کھلاً او شاباً وہ محوٰ علی تغایر المرئی و زمانه<sup>۱</sup> واللہ تعالیٰ اعلم۔</p>
---	--

اس ولی مسیٰ بحضرت کا جمیع اولیاء درکنار اپنے دورے کے اولیاء سے بھی افضل ہوتا ضرور نہیں بلکہ افضل نہ ہونا ضرور ہے۔ غوث بالیقین اس سے افضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دورے میں سلطان کل اولیاء ہے۔ یوں نہیٰ امامین، یوں نہیٰ افراد، یوں نہیٰ اوتاد، یوں نہیٰ بدلہ، یوں نہیٰ ابدال کہ یہ سب یکے بعد دیگرے باقی اولیائے دورہ سے افضل ہوتے ہیں۔ امام عبدالواہب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب الیوقیت والجوہر فی بیان عقائد الاقابر میں فرماتے ہیں:

<p>صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد سب سے بڑا ولی قطب ہوتا ہے، پھر افراد، اس میں اختلاف ہے، پھر امامان، پھر اوتاد، پھر ابدال اور۔</p> <p>میں کہتا ہوں ابدال سے مراد سات بدلاء ہیں اس دلیل کی وجہ سے جو اس کے بعد مذکور ہے کہ بے شک ابدال سات ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں نہ کم اور یہی بدلاء ہیں۔ رہے ابدال تو وہ چالیس<sup>۲</sup> بلکہ ستر<sup>۳</sup> ہیں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ (ت)</p>	<p>ان اکبر الاولیاء بعد الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم القطب ثم الافراد على خلاف في ذلك ثم الامامان ثم الاوتاد ثم الابدال<sup>۴</sup> اه</p> <p>اقول: والمراد بالابدال البخلاف السبعة لما ذكر بعده ان الابدال السبعة لا يزيدون ولا ينقصون وهؤلاء هم البخلاف اما الابدال فاربعون بل سبعون كما في الاحاديث۔</p>
---	---

تو کیا ضرور ہے کہ عہد کرامت مہد حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حضور سے افضل ہو بلکہ ممکن ہے کہ حضور کا خادم ہو۔ حضور کا لقب ساقِ عرش پر "قطب الدین"<sup>۵</sup> لکھا ہے اور یہ قطب اور غوث شیٰ واحد ہے نہ وہ قطب کہ ہر شہر ہر قریب یہ لشکر کا جدہ ہوتا ہے۔ غالباً اس لئے حضور نام سلطان المشائخ ہوا کہ قطب سلطان اولیائے دورہ ہے، واللہ

<sup>۱</sup> الاصابة في تمييز الصحابة ذكر خضر صاحب موسى عليه السلام دار صادر بيروت ۱/۲۳۳

<sup>۲</sup> الیوقیت والجوہر المبحث الخامس والاربعون دار احیاء التراث العربي بيروت ۲/۳۳۶

تعالیٰ اعلم۔ اور خادم کہ اپنے مخدوم کے مہمانوں کی خدمت کرے وہ درحقیقت مخدوم ہی کی خدمت ہے اور اس سے خادم کی کوئی اہانت نہیں ہوتی کہ ممکن ہے کہ اس دورے کا حضر خود حضرت سلطانی کامرید ہوا اور مرید تو کوچہ شیخ علیؒ کے کتوں کی بھی تعظیم کرتا ہے اور اس کی اہانت نہیں بیلکہ اور ترقی عزت و بیلندری مرتب ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اس کو رفت	من تواضع اللہ رفعہ اللہ - اللہم ارزقنا حسن الادب
عطافرمانا ہے۔ اے اللہ ہم کو اپنے ولیوں سے حسن ادب عطافرمانا اس مرتبے کے صدقے جوان کا تیرے ہاں ہے۔ ہماری دعاقبول فرماؤ اور تو مانگنے والوں سے محبت فرمانیوala ہے۔ (ت)	من اولیاءک بجاہمہم عندک امین وانت محب السائلین۔

### جواب دوم:

حکایت مذکورہ میں صرف ذکر نگہبانی ہے یہ بیان نہیں کہ وہ حفاظت بطور خدمت تھی نہ حفاظت معنی خدمتگاری میں متعین، باپ اپنے بچوں یا استاد اپنے شاگروں کو تعلیم شناوری کے لیے کہ سنت ہے اگر دریا میں بیچجے اور خود کنارے بیٹھا ان کے لباس و نعال کی حفاظت کرے کوئی عاقل اسے خدمتگار نہ کہے گا بلکہ رحمت و شفقت و نوازش پر ورش۔ حکایت میں یہ صورت ہونا کس نے محال کیا فاکن واقعۃ عین یتطرق الیہا کل احتیال کیا نص علیہ العلماء فی غیر مامقال (کیونکہ "معین واقعہ" میں ہر اختیال راہ پاتا ہے جیسا کہ علماء نے اس پر نص فرمائی ہے۔ بغیر کسی قیل و قال کے۔ ت)

### جواب سوم :

یہ دونوں جواب اہل ظاہر کے مدارک پر تھے ورنہ لسان حقائق کے طور پر معالمہ بالکل معکوس ہے۔ وہم کرنے والا اصطلاح قوم سے ناواقفی کے باعث کمال عظمت کو معاذ اللہ موجب اہانت گمان کرتا ہے اور اہل ظاہر پر انکار کلمات اہل اللہ میں اکثر بلا اسی دروازے سے آتی ہے ان کی اصطلاح کو اپنے مفہوم پر حمل کرتے اور خطاب میں گرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ

ہندیاں راصطلاح ہند مدرج سند مدرج

در حق او مدرج در حق تو ذم

در حق او در و در حق تو خار

تو چہ دانی زیاں مرغیاں را

کہ نہ دیدی گہ سلیمان را

عَلَهُ بِخُودِ حضور سلطان المشریع کی اس بارے میں حکایت ہے۔ (تاج العلما، محمد میاں علیہ الرحمہ)

(ہندیوں کے ہند کی اصطلاح مرح ہے سندھیوں کے لیے سندھ کی اصطلاح مرح ہے اس کے حق میں مرح اور تیرے حق میں مذمت، اس کے حق میں شہداور تیرے حق میں زہر اس کے حق میں گلاب کا پھول اور تیرے حق میں کانٹا۔ اس کے حق میں نور اور تیرے حق میں نار، تو کیا جانے پرندوں کے نقسان کو، کہ تو نے سلیمان کے زمانے کو نہیں دیکھا۔ (ت) محمد شاہ بادشاہ دہلی کے حضور مجع علامہ تھا بعض کلمات منسوبہ باولیاء پر رائے زنی ہو رہی تھی، ہر ایک اپنی سی کہتا اور اعتراض کرتا ایک صاحب کہ اس جماعت میں سب سے اعلم تھے خاموش تھے، بادشاہ نے عرض کی: آپ کچھ نہیں فرماتے، فرمایا: یہ سب صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں تو میں کچھ کہوں۔ سب ان عالم کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے فرمایا: آپ حضرات بولی کتے کی سمجھتے ہیں؟ سب نے کہا: نہ کہا بلی کی؟ کہا: نہ۔ کہا: سبحان اللہ تم مقرر ہو کہ ارزل خلق اللہ کی بولی تم نہیں سمجھتے اولیاء کہ افضل خلق ہیں ان کا کلام کیونکر سمجھ لو گے۔

امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علمائے مصر جمع ہو کر ایک مجدد کی زیارت کو گئے انہوں نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا:

مرحباً بعبد العبدی <sup>۱</sup>
---------------------------------

سب پریشان ہو کر لوٹ آئے، ایک صاحب جامع ظاہر و باطن سے ملے اور شکایت کی، انہوں نے فرمایا: ٹھیک تو ہے تم سمجھتے نہیں، تم خواہش نفس کے بندے ہو رہے ہو اور انہوں نے خواہش نفس کو اپنا بندہ کر لیا ہے تو انکے بندے کے بندے ہوئے۔ اب سنئے اصطلاح قوم میں "تعلیم" و "کوئین" کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندے موسلی علیہ السلام سے فرمایا:

اپنے دونوں جو تے اتار ڈالو کہ تم پاکیزہ جنگل طوی میں ہو۔	فَأَخْلَمُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَّى <sup>۲</sup>
--	---

مفسر علام نظام الدین حسن بن محمد تی غرائب القرآن و رغائب الفرقان معروف تفسیر نیشاپوری میں اس آیہ کریمہ کی تاویل یعنی بطور اہل اشارات و حقائق میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی نعلین سے "دونوں جہان" مراد ہیں انہیں اتار ڈالو یعنی ان کی طرف التفات نہ کرو کہ تم بارگاہ قدس میں پہنچ گئے۔</p>	<p>اترک الالتفات الى الكونين انك واصل الى جناب القدس<sup>۱</sup></p>
<p>اقول: نعل قطع راہ میں معین ہوتی ہے اور مقصد اولیاء وصول بحضرت کبریا ہے اور دنیا آخرت دونوں اس راہ کی قطع میں معین دنیا یوں کہ اس میں اعمال سبب وصول جنت ہیں، اور آخرت یوں کہ وہیں وعدہ دیدار ہے معدن اطالبہ مولیٰ لذات کو نین کو زیر قدم رکھتے ہیں، جو زیر قدم ہو اسے نعل کہنا مناسب ہے۔ حدیث میں ہے:</p>	<p>الدنيا حرام على اهل الآخرة والآخرة حرام على اهل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام على اهل الله -رواية الدليلى<sup>۲</sup> عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما۔</p>

نیز نعل "زوجہ" کو کہتے ہیں کما فی القاموس وغيره<sup>۳</sup> (جیسا کہ قاموس وغیرہ میں ہے۔ ت) اور دنیا و آخرت دونوں سوتیں ہیں۔

فَإِنْ مَنْ جُودَكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ الْلَّوْحِ وَالْقَلْمَ<sup>۴</sup>

کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہیں۔ ت)

اسی طرف اشارہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے فرماتے ہیں:

<p>جو اپنی دنیا کو پیار کرے گا اس کی آخرت کو نقصان ہو گا اور جو اپنی آخرت کو پیار کرے اس کی دنیا کو ضرر ہو گا تو باقی کو فانی پر ترجیح دو۔</p>	<p>من احباب دنیا اضر بآخرته ومن احب اخرته اضر بدنیا ه فأشر و اما يبقى على ما يفني</p>
--	---

<sup>۱</sup> غرائب القرآن تحت آیۃ ۱۲/۲۰ مصطفیٰ الباجی مصر ۱۶/۱۹

<sup>۲</sup> الفردوس بسماویں الخطاب حدیث ۳۱۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۲۳۰

<sup>۳</sup> القاموس المحيط باب اللام فصل النون مصطفیٰ الباجی مصر ۳/۵۹

<sup>۴</sup> تصدیقہ برده شریف مطبع انصار دہلی ص ۷۹



(اس کو امام احمد و حاکم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا۔ ت)	<b>رواہ احمد و الحاکم عن ابی موسیٰ الاشعراًی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ بسند صحیح<sup>۱</sup>۔</b>
---	--

اور مدار دنیا بنیہ بشری پر ہے اور مدار مثبتات آخرت عقل تکلیفی پر اور وجود و سماع کے غلبے میں ان کے زوال کا اندریشہ، خصوصاً جب قوت ضعف ہو اور برکت صاحب مجلس سے تجلی اشد واقعی واقع ہو تو بدین فنا یا عقل زائل ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ حضور پنور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے جب سجدے میں گئے مقتدیوں میں سے ایک مرید کا جسم گلننا شروع ہوا یہاں تک کہ گوشت، پوست، استخوان کسی کا نام و شان نہ رہا صرف ایک قطرہ پانی رہ گیا۔ حضور نے بعد سلام روئی کے پھونے میں اٹھا کر دفن فرمایا اور فرمایا: سبحان اللہ! ایک تجلی میں اپنی اصل کی طرف پلٹ گیا۔ لہذا سیدنا حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوت و مدد سے انکی دنیا و آخرت کی یعنی بنیہ بشری و عقل تکلیفی کی حفاظت فرماتے تھے، کہنے یہ کمال عظمت ہے یا معاذ اللہ! اہانت! لخ، مختصر گ۔

<sup>۱</sup> مستند احمد بن حنبل حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ المكتب الاسلامی بیروت ۳/۲۰۱۲

## تجوید و قراءت

۱۳۳۱ھ ربيع الآخر شریف ۲۹

از بندہ درمانہ فدوی محمد عمر

مسئلہ: ۱۰:

آیہ کریمہ:

"وَمَنْ دُونْهَا جَنَّثِينَ ﴿٧﴾ قِيمَاتِ الْأَعْمَالِ كُلَّهُنَّ لِبِنِ ﴿٨﴾  
مُدْهَاهَمَّثِنَ ﴿٩﴾ قِيمَاتِ الْأَعْمَالِ كُلَّهُنَّ لِبِنِ ﴿١٠﴾".<sup>1</sup>

اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاوے گے۔ نہایت سبزی سے سیاہی کی جملک دے رہی ہیں تو اپنے رب کی کون سے نعمت کو جھٹلاوے گے۔ (ت)

کیا فرماتے ہیں قراءہ شریعت اس میں کہ آیہ مذکورہ بالا میں جو آیت "لا" ہے اس پر تہہ ناجائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا اختلافات ہیں؟

الجواب:

ہر آیت "لا" پر وقف جائز ہے، یوں بھی سنت سے ثابت ہے۔ قراءہ میں بھی دونوں طریقے ہیں اور سب قراءہ میں حق ہیں۔  
والله تعالیٰ اعلم۔

<sup>1</sup> القرآن الحکیم ۵۵ / ۶۲۵

مرسلہ سید اشرف علی صاحب محدث ذخیرہ بریلی  
۲۶ جمادی الثانی ۱۴۳۷ھ

مسئلہ ۱۱: مسئلہ ۱۱: مسئلہ ۱۱:

خدمت شریف جناب اعلیٰ حضرت صاحب قبلہ سلامت۔ عرض یہ ہے کہ سورہ ناس میں خَنَّاسٌۤ الَّذِي ہے یا خَنَّاسٌۤ الَّذِي، کس طرح پڑھنا چاہیے؟ حضور دیگر عرض یہ ہے خَنَّاسُ الَّذِي میں الف آگیا یا نہیں؟  
الجواب:

دونوں طرح جائز ہے، اور اصل وہی ہے کہ خناس کا سین الذی کے لام میں ملا کر پڑھیں اس میں الف گر جائے گا، اور بحالت وصل اس کے گرانے کا ہی حکم ہے اور "اس" پر وقف کر کے "الذی" مع "ا" پڑھے جب بھی کچھ حرج نہیں، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۲: از کانپور محلہ بانس منڈی مدرسہ امداد العلوم مسؤولہ ابوالہادی محمد عبدالكافی روز یک شنبہ ۲۱ ذی الحجه ۱۴۳۳ھ  
دربارہ اس مسئلہ میں کہ وقت ختم قرآن تراویح میں تین بار سورہ اخلاص شریف کا پڑھنا مکروہ ہے یا مستحسن بینوا توجروا  
(یہاں فرمائیے اجر پائیے۔ ت)

الجواب:

مستحسن ہے، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

<p>ختم قرآن کے بعد تین مرتبہ قل هو اللہ احد اخ پڑھنے کو بعض مشائخ نے مستحسن قرار دیا ہے تاکہ اس نقصان کا ازالہ ہو جائے جو بعض کے پڑھتے وقت پیدا ہوا ہے، مگر جب ختم قرآن فرض نماز کے اندر ہو تو صرف ایک ہی بار سورہ اخلاص پڑھے زائد نہ پڑھے۔ (ت)</p>	<p>قراءة قل هو اللہ احد ثلاث مرات عقب الختم يستحسنها بعض المشائخ لغير نقصان دخل في القراءة البعض الا ان يكون ختم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيد على مرة واحدة<sup>۱</sup></p>
---	---

عقود الدریہ میں ہے: والعمل بما عليه الاكثر<sup>۲</sup>۔ اس پر عمل کیا جائے جس پر اکثریت کا عمل ہو۔ (ت) واللہ تعالیٰ اعلم

<sup>۱</sup> الفتاویٰ الهندیۃ کتاب الکراہیہ الباب الرابع نورانی کتب خانہ پشاور ۵/۳۷

<sup>۲</sup> العقود الدریہ مسائل وفائد شقی من الحظر والاباحة العمل بما عليه الاكثر گزارش افغانستان ۲/۳۵۶

## رسم القرآن

۱۳۲۲ھ صفر مظفر ۲۵

مسئلہ ۱۳ تا ۲۰: مسئولہ حافظ میر عبدالجلیل صاحب مارہروی

الفاظ جمع مذکر سالم مانند خاسین، قانتون، کڑھین، خیر الفاتحین و امثالہ

(۱) جن کو مشی اشرف علی نے اپنے مصحف میں مخدوف الالف لکھا ہے اور اکثر جگہ حوالہ شمع القراءت اور خلاصۃ الرسوم وغیرہ کا دیا ہے۔ اور مولوی احمد علی سہار پوری نے الفاظ موصوفہ کو باثبتات الاف اپنے مصحف میں لکھا ہے بلکہ ایسے الفاظ قلیل الدور کی ایک نہرست اپنے مصحف کے ابتداء میں لکھ دی ہے کہ وہ باثبتات الاف ہیں۔ ان کی بابت آپ کا حکم کیا ہے؟

(۲) لفظ "کلام" ملک العلام میں صرف چار جگہ ہے، ایک جگہ سورہ بقرہ میں "بِسْمَعُونَ كَلْمَةَ اللَّهِ" <sup>۱</sup> (الله کا کلام سنتے ہیں)۔

ت) دوم سورہ اعراف میں:

فرمایا: اے موٹی! میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی  
رسالتوں اور اپنے کلام سے (ت)

"قَالَ يَهُوَ لَئِنِي إِلِي أَصْطَعْفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكَلَامِي" <sup>۲</sup>۔

سوم سورہ توبہ میں: "فَأَرْجُواهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَةَ اللَّهِ" <sup>۳</sup>۔ (تو اسے پناہ دو کہ الله کا کلام سنے۔ت)

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۷۵/۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱۳۳/۷

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۶/۹

چہارم سورۃ الفتح میں ہے:

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ (ت)	"بَيْرِيدُونَ أَنْ يَبْلُوَا كَلَامَ اللَّهِ طَّ" <sup>۱</sup>
---	--

ان سب کو بعض مصاحف و کتب رسم الخط میں باشتاب الف لکھا ہے اور بعض میں مخدوف الالف اور بعض نے بعض کو مع الاف اور بعض کو بغیر الف لکھا جاتا ہے۔ آپ کی ان کے باب میں کیا رائے ہے؟

(۳) لفظ قیام و مقام پر سورۃ نساء میں، اولًا:

بے عقولوں کو انکے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے۔ (ت)	"وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ قِيمًا" <sup>۲</sup>
--	---

دوم:

اللہ کی یاد کرو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ (ت)	"فَإِذْ كُرُوَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُوْدًا عَلَى جُنُوْنِهِ" <sup>۳</sup>
--	--

سوم سورۃ الملائکہ میں:

اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا۔ (ت)	"جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَ اللَّثَّاسِ" <sup>۴</sup>
---	--

چہارم سورہ فرقان:

اور وہ جورات کا شتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔ (ت)	"وَالَّذِينَ يَبْيَسُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَدًا وَقِيَامًا" <sup>۵</sup>
---	---

پنجم سورہ زمر میں:

پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ (ت)	"ثُمَّ فَخَرَجَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ" <sup>۶</sup>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۱۵/۳۸

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۵۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۱۰۳/۳

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۹۷/۵

<sup>۵</sup> القرآن الكريم ۲۳/۲۵

<sup>۶</sup> القرآن الكريم ۲۸/۳۹

## ششم سورہ ذاریات میں:

"هَمَا سَتَّطَلُوْا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا امْتَصَرِينَ ﴿١﴾"

عام مصاحف میں یعنی مولوی احمد علی صاحب سہارنپوری اور ان کے مقلدین نے سورہ نباء کے پہلے اور سورہ ملائکہ والے کو بدھوں الف لکھا ہے۔ اور باقی سب جگہ مع الف۔ اور یہی رسالہ مرتع الغزلان سے ثابت ہے مگر مشی اشرف علی نے صرف آخر کے تینوں کو باشناں الف اور اول کے تینوں کو بدھوں الف لکھا ہے۔

(۲) ”لِلرَّجَالِ صَيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ وَلِلْمَسَاءِ<sup>۱</sup>  
 صَيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ مَنَاقِلُهُ أَوْ كُثُرٌ<sup>۲</sup>“

اور

لِكُلِّ جَعْلَنَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ<sup>۳</sup> الآية۔

ہم نے سب کے لئے مال کے مستحق بنادیے ہیں جو کچھ چھوڑ  
جا سکیں مال بپ۔ (ت)

یہ سب مصاہف مروجہ ہندی میں الف اول موجود اور ثانی مفقود ہے مگر مؤلف خلاصۃ الرسوم دونوں کا حذف فرماتے ہیں اور والدین یا و نون سے سب جگہ مع الاف ہے۔

(۵) "لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ"۔<sup>۴</sup>

سورة حج میں:

اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں  
گے۔ (ت) وَتَرَى النَّاسُ سُكْرًا وَمَا هُم بِسُكُرٍ۝<sup>۵</sup>

١ القرآن الكريم / ٥٥ / ٣٥

القرآن الكريم / ٣٧<sup>٢</sup>

٣٣ / ٣ القرآن الكريم<sup>٣</sup>

٤ القرآن الكريم / ٣ / ٢٣

٢٢/القرآن الكريم<sup>٥</sup>

تینوں کو منشی اشرف علی اور مولوی ہادی علی صاحب نے اپنے مکتوب مصاحف میں مخدوف الالف لکھا ہے، اور عام مصاحف میں خاص سورہ نساء میں بدوں الف اور باقی دونوں کو مع الالف، خلاصۃ الرسوم اور رسالہ نور سرمدی سے قول اول ثابت ہے مگر مرتع الغزلان میں لکھا ہے: ع

گیر از حج و جاسکڑا یاد<sup>۱</sup>

یعنی مخدوفات میں دو کاذک کیا تیسرے سے کچھ تعریض نہ کیا۔

(۲) علامہ ابو عمر والداني ارشاد کرتے ہیں:

<p>یعنی ان سب کا ہزارہ بدوں مرکز ہے لیکن کل مصاحف ہندی میں سواتکم وغیرہ الف سے مرقوم ہیں بالاتفاق کسی نے اس میں خلاف بھی بیان نہیں کیا۔</p>	<p>کذلک سُئَةٌ وسُوءٌ تَكْمِ و سَبَعٌ و سِيَّئَتٌ و بَرِيَّةٌ و هَنْيَّةٌ مریئاً و بَرِيَّاً و شَبَهَهَا<sup>۲</sup></p>
---	--

(۷) "وَمَنْ خَذَلَ يَيْمَنْ مِهِيدِ ط"<sup>۳</sup>۔ سورہ ہود میں قراءت مفتوح الیم کو کتاب تیسیر میں نافع اور ابن عامر کے نام سے لکھا ہے، اور خلاصۃ الرسوم میں مرقوم ہے:

<p>سوی کے غیر کی قراءۃ میں میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ (ت)</p>	<p>بکسر میم سے بقراءت غیر سوی<sup>۴</sup></p>
--	---

(۸) اعوذ بالله کے باب میں روایت کتاب تحفہ نذریہ مؤلفہ قاری عبد الرحمن پانی تپی یہ ہے کہ:

<p>اعوذ بالله من الشیطون الرجیم مختار جمع قراء است<sup>۵</sup>۔</p>
---

آگے بیان کرتے ہیں کہ:

<p>اگر کسے لفظ دیگر در تقدیم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازاں لفظ منع فرمود۔</p>	<p>اگر کسی نے کوئی دوسر الفاظ تعوڈ میں کہا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لفظ سے متع فرمایا ہے۔ (ت)</p>
---	---

<sup>۱</sup> مرتع الغزلان فی رسم الخط القرآن

<sup>۲</sup> التیسیر فی قواعد علم التفسیر للإمام محمد بن سلیمان

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۲۶/۱۱

<sup>۴</sup> خلاصۃ الرسوم

<sup>۵</sup> تحفہ نذریہ

<sup>۶</sup> تحفہ نذریہ

پھر لکھتے ہیں:

<p>اس منع و تعلیم کے باوجود کچھ دوسرے الفاظ بھی مروی ہیں، چنانچہ ان الفاظ کے ساتھ بھی تعوذ جائز ہے اگرچہ مختار نہیں ہے۔ تخفہ نذریہ کی عبارت ختم ہوئی جس قدر ضرورت تھی۔ (ت)</p>	<p>باوجود اس منع و تعلیم الفاظ دیگر ہم مردوی شدہ اند، پس تنفظ تعوّذ باں الفاظ ہم جائز است اگرچہ مختار نیست، انتہی عبارتہ بقدر ضرورت<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

اس کے باب میں آپ کا یہ حکم ہے؟

الجواب:

(۱) یہ علم سمع ہے نہ قیاس۔ کلمات علمائے کرام سے دو ضابطے ملتے ہیں:

اول: مطرده کہ ہر جمع مذکور سالم کثیر الدور محفوظ الالف ہے جبکہ اس الف پر مدنہ ہو۔

دوم: اکثری یہ کہ الف پر مدنہ ہو یعنی اس کے بعد ہمزہ یا حرفاً مشدداً آئے تو ثابت الالف ہے مگر ذوات الہزہ میں حذف بھی بکثرت پایا گیا ہے۔ اور جمع مونث سالم تو مطلق محفوظ الالف والا لغین ہے اگرچہ قلیل الدور ہو، اگرچہ الف مددود ہو مگر گنتی کے حروف جیسے سورہ شورا میں روپت الجنۃ، یونس میں آیاتنا بیینت، اسی میں مکرفی ایاتنا، حُم سجدہ میں سلوات، فاطر میں علی بیینات علی الخلاف الی غیر ذلك من حروف قلائل۔ امام عمرو دافی رحمۃ اللہ علیہ متعین میں فرماتے ہیں:

<p>تمام لوگوں نے جمع مذکور مونث سالم کثیر الدور سے الف کے حذف کرنے پر اتفاق کیا، جیسے صبرین، صدقین، قتنین، شیطین ظالموں، سحرون، طیبیت، خبیثت، متصدق، ثیبیت، تائبیت، غرفت اور جواس کے مثل ہو اور الف کے بعد ہمزہ یا حرفاً مشدداً آئے جیسے سائلین، قائلین، ظالین،</p>	<p>اتفاقوا على حذف الالف من جمع السالم الكثير الدور من المذکر والمونث جميعاً الصبرين والصدقين والقتنين والشیطین والظالموں والسحرون والطیبیت والخوبیت والمتصدق و الشیبیت والغرفت و مکان مثله۔ فَأَنْ جَاءَ بَعْدَ الْأَلْفِ هِمْزَةً أَوْ حِرْفًا مَضْعُفًا نَحْوِ السائلين والسائلین</p>
---	--

<sup>۱</sup> تحفہ نذریہ

عادین، حافین اور اس کے مشابہ۔ مگر میں نے اہل مدینہ اور اہل عراق کے قدیم مصاحف کا تتبع کیا تو بہت سے مقامات پر جہاں الف کے بعد ہمزہ تھا وہاں سے بھی الف حذف کر دیا ہے اور ایسا اکثر جمع مونث میں اس کے ثقل کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور مذکور میں زیادہ طور پر الف کا اثبات ہے۔ امام ابو عمر فرماتے ہیں جہاں جمع مونث سالم میں دونوں الف جمع ہو جائیں وہاں عام طور سے دونوں الف کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمزہ اور حرف مشدہ ہو یا نہ ہو، جیسے لفظت، صدقۃ، نُزُغَتْ، صَفَّتْ، عَدِيلَتْ، صَعِيلَتْ، غَيْلَتْ، سَعِيلَتْ اور اس کے اشباہ۔ میں نے اہل عراق کے اصل مصاحف میں غور سے دیکھا جہاں مجھے کوئی تصریح نہ ملی تو ہر جگہ انہیں کو محذوف پایا۔

محمد بن عیسیٰ اصفہانی اپنی کتاب "هجاء المصاحف" میں فرماتے ہیں کچھ ذاریات اور طور میں طاغون کو اور روضات البنۃ الف سے لکھتے ہیں۔

ابو عمرو فرماتے ہیں مصاحف اہل عراق میں کڑا کاتین کو الف اور بغیر الف دونوں طرح تحریر

والظانین والعادین وحافین وشبہه اثبۃ الالف علی انی تتبع مصاحف اہل مدینہ و اہل عراق القديمة فوجدت فيها مواضع كثيرة منها بعد الالف فيه همسة قد حذف الالف منها واكثر ما وجدته في جميع البونث لشقله والاثبات في المذكر اكثرا قال ابو عمرو ما اجتمع فيه الفان من جمع المونث السالم فان الرسم في اكثرا المصاحف بحذفها جميعاً سواء كان بعد الالف حرف مضعن او همسة نحو الحفظ والصدقۃ والنُّزُغَتْ والصَّفَّتْ والعَدِيلَتْ والصَّعِيلَتْ وغَيْلَتْ سَعِيلَتْ وشبہه قد امعنت النظر في ذلك في مصاحف اهل العراق اهلية اذ عدمت النص في ذلك فلم ارها مختلف في حذف ذلك۔

وقال محمد بن عيسى اصفہانی في كتابه هجاء المصاحف قوم طاغون والذاريات والطور وفي روضات الجنّت في عشق مرسومه بالالف۔

وقال ابو عمرو كذا رأيتها أنا في مصاحف اهل العراق ورأيت في بعضها كراماً كاتبين بالالف

پایا۔ انتہی مختصر۔

فی بعضها بغير الالف<sup>۱</sup>۔ اهم مختصر۔

اس کے سوا جمع مذکور سالم قلیل الدور عدیم المد کے لئے کوئی ضابطہ نہیں اور خاص خاص الفاظ میں اختلاف مصافح ثابت۔  
مقطوع میں ہے:

بعض مصافح میں فارہین بالف اور بعض بغير الف۔ اسی طرح حاذرون بھی دونوں طرح تحریر پایا گیا۔

فی بعضها فارہین و فی بعضها فرہین بغير الف و كذلك حاذرون و حذرون<sup>۲</sup>۔

اسی طرح دخان و طور و مطففين فاکھیں اور لیس کے فاکھون سب کو فرمایا کہ فی بعضها بالف و فی بعضها بغير الف تو مطلقاً ایک حکم کلی اثبات خواه حذف کا لگا دینا ہرگز صحیح نہیں، بلکہ ہر کلمہ میں رجوع بنقل پھر بحالت اتفاق اس کا اتباع لازم اور بحالت اختلاف اکثر واشهر کی تقلید کی جائے اور تساوی ہو تو حذف و اثبات میں اختیار ہے۔ اور احسن یہ کہ جہاں اختلاف قراءت بھی ہو جیسے فکھیں اور فاکھیں وہاں حذف معمول ہے رکھیں لیکن اقل القراء تین۔ اور اگر نقل اصلانہ ملے تو ناچار رجوع به اصل ضرور، اور وہ اثبات ہے کہ اصل کتابت میں اتباع ہجاء ہے۔

علامہ علم الدین سناؤی شرح عقایہ میں زیر قول مصنف قدس سرہ و بالذی غافر عن بعض الف فرماتے ہیں:

جس کی اصل نہ معلوم ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح بالف پڑھا جاتا ہے اسی طرح لکھا جائے۔

اصل ما جهل اصلہ ان یکتب بالالف على ما ينطبق<sup>۳</sup>۔  
والله تعالیٰ اعلم۔

(۲) امام الاتقاصی والادانی فی الرسم القرآنی ابو عمر و دانی فرماتے ہیں:

غازی بن قیس فرماتے ہیں کہ عذاب، عقاب، حساب، بیان، غفار، جبار، ساعۃ، نہار مصافح میں الف کے ساتھ مرقوم ہے۔ جیسا کہ لفظ ہے۔ ابو عمر فرماتے ہیں یوں ہی

قال الغازی بن قیس العذاب والعقاب والحساب والبيان والغفار والجبار والساعۃ والنہار بالالف يعني فی المصافح وذلك على اللفظ قال ابو عمرو

<sup>۱</sup> المقنع فی رسم المصحف لعثمان بن سعید

<sup>۲</sup> المقطع فی رسم المصحف

<sup>۳</sup> (شرح عقلیہ) الوسیلة فی کشف العقیلہ

<p>تحریر کیا ہر وہ لمحہ جو فعال اور فعل کے وزن پر ہو یا فاعل کے وزن پر ہو جیسے ظالم یا فعال کے وزن پر ہو جیسے خوار اور فعلان کے وزن پر ہو جیسے بیان اور فعلان کے وزن پر ہو جیسے رضوان، اور ایسے ہی میعاد، میقات، میزان اور اس کے مشابہ الفاظ جس میں الف زائد بباء کے لیے ہو۔ ایسے ہی یا اور واو سے بدلا ہوا بھی جہاں کہیں ہو مثالوں میں اختصار کر دیا ہے۔</p>	<p>کذلک رسواکل مکان علی وزن فعال و فعل بفتح الفاء و کسرها و علی وزن فاعل نحو ظالم و فعل نحو خوار و فعلان نحو بینیان و فعلان نحو رضوان و کذلک البیعاد والبیقات والبیزان وما اشبهه مما الفه زائد البناء و کذلک ان کانت منقلبة من ياء او واء حيث وقعت<sup>۱</sup> اهباختصار الامثلة۔</p>
---	---

یہ مبارک کلام مفید عام کل سے ابتداء اور حیث و قعٰت پر انتہا ہو کرتا کید الافادہ عموم لایا، اگرچہ بحکم:

<p>کوئی عام نہیں کہ اس سے بعض کی تخصیص نہ ہو خاص اس قضیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے قول ہو بلکہ شیئِ علیم کی طرح جیسا کہ عقل سلیم پر ظاہر ہے۔</p>	<p>ما من عام الا وقد خص منه البعض حق هذه القضية لنفسها بمثل قوله سبحانه "وَهُوَ يُكْلِّي شَيْءًا عَلَيْهِمْ" <sup>۲</sup>۔</p>
---	--

بعض مستثنیات رکھتا ہے، جنہیں خود امام مددوح نے موقع میں مواضع متفرقہ پر افادہ فرمایا ہے، مثل علم الغیب ولبلغ وبلغوا الضلل ومن خللهم وظلله وغيرها<sup>۳</sup>۔

والہذا "مرتع الغزلان في رسم خط القرآن" میں فرمایا:

<sup>۱</sup> المقنع في رسم المصحف

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۲۹/۲

<sup>۳</sup> المقنع في رسم المصحف

فعال اور فاعل اور فعلان کا وزن فعال اور فعال اور فعلان کا وزن فعلان اور مفعل اور فعال بھی فعال اور مفاعل اور افعال بھی مفاعیل اور مفعل اور مفعال بھی فعالیٰ فواعل اور فعال اور افعال اور تمام مصادر جن کا الف و او سے بدلا ہو یا یاء سے بدلا ہو ا تمام مقامات میں ایسا الف باقی اور ثابت رہے گا البتہ چند حروف اس قاعدہ سے مستثنی ہیں۔	وزن فعال و فاعل و فعلان هم فعال و فعال و هم فعلان نیز فعلان و مفعل و فعل هم فعال و مفاعل و افعال هم مفاعیل و مفاعل و مفعال بافعالیٰ فواعل و فعال جملگی فعلهاً و مصدرها الف منقلب ز واو و زیا ہمہ گی ثابت است در ہمہ جا جزوئے کے گشته مستثنی <sup>۱</sup>
---	---

مگر شک نہیں کہ وہ ہمیں ایک صابط نافعہ بتاتا ہے کہ مستثنیات کے سوالیے سب کلے ثابتات الاف ہیں۔ توجہ تک بالخصوص نقل معتمد سے خلاف ثابت نہ ہو ثابت ہی رکھیں گے کہ وہی اصل اور خود اصل رسم میں اصل۔ خلاصۃ الرسوم سے بلکی اور یہ دلواہکم اللہ بالخذف مترخ ہے۔ اخیر کی وجہ ظاہر ہے کہ امام حمزہ و امام کسائی نے یہاں کلم۔ بر وزن کنف پڑھا ہے مگر کلامی میں مثل دو باقی فقیر کے نزدیک اثبات ارجح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) یہ کلمہ سات جگہ آیا ہے، سب سے پہلے سورہ آل عمران میں:

نشانیاں ہیں عقائد و کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹیے۔ (ت)	لَا يَتِي لِأُولَئِكَ الْأَنْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ <sup>۲</sup>
---	--

عام مصاحف میں یہاں بھی مع الاف ہے۔ صاحب خلاصۃ الرسوم علامہ عثمان طالقانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مائدہ کو ذکر کیا کہ:

قلیماً بحذف الف مرسم است از جهت اشتمال برہر دو قراءات یا ہونے کی وجہ سے یا اختصار کیلئے۔ (ت)	قلیماً بحذف الف مرسم است از جهت اشتمال برہر دو قراءات یا بنام اختصار <sup>۳</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> مرتع الغزلان فی رسم خط القرآن

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۹۰/۳ و ۱۹۱

<sup>۳</sup> خلاصۃ الرسوم

اور حرف اول نساء کو اگرچہ لفظانہ بتایا مگر سماں بحذف لکھا جس سے ظاہر باقی پانچ میں اثبات ہے اور یہی قول مرتع عقیباً و زابتداء نسائے آخر مائدہ قیئاً دال<sup>۱</sup> کا مفاد ہے۔ اور اس کی وجہ واضح ہے کہ امام نافع اور امام اجل ابن عامر نے حرف نسائے "جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَّاً" <sup>۲</sup> اور ابن عامر نے حرف مائدہ "قِيَّاٰ لِتَسَاسٍ" <sup>۳</sup> کو بے الف پڑھا فی التیسیر، باقی سب میں اثباتِ الف ہے باقیاتِ قراء سمعیہ والرسم یتبع اللفظ لاصیباً و هو فعال کیا مام۔ والله تعالیٰ اعلم۔

(۵) فعالی کا قاعدہ مرتع سے گزرا اور بعضی یہی شخص موضعیں جو مفاد مقنع ہے۔ مخذوفات نافہ پہان کر کے فرماتے ہیں:

فهذا جميع ما في رواية عبدالله بن عيسى عن قالون  
عن نافع مما حذفت منه الالف الرسم وحدثنا ابو  
الحسن بن غلبون قرأه مني عليه حدثنا ابو حدثنا  
محمد ابن جعفر حدثنا اسعييل ابن اسحق القاضي  
القالون عن نافع

مرتع الغزلان في رسم خط القرآن<sup>١</sup>

القرآن الكريم / ٣٥<sup>٢</sup>

٣ القرآن الكبير ٩٧/٥

<p>نے امام نافع سے یہ سب روایت کی۔ اور سورہ کہف میں فلاتصبنی اور حج میں سکری و مأہم بسکری کا اضافہ کیا۔</p>	<p>بعامة هذة الحروف وزادفي الكهف فلا تصحبني وفي الحج سکری و مأہم بسکری<sup>۱</sup> الخ۔</p>
---	---

اور وہ واضح الوجہ ہے کہ حرفین حج کو امام حمزہ اور امام کسائی نے سکری بروزن سلسلی پڑھا ہے جخلاف حرف نساء کہ قراءت سبعہ میں بالاتفاق سکری بروزن فعلی ہے تو قول مرتع ہی اوخخ اور اوجہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) مصاحف ہند نے اتباع "الخلافۃ الرسموم"<sup>۱</sup> کیا مگر کلام الامام امام الكلام ولا اقل دونون مجوز ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۷) تیسیر میں ھود و معراج کے "خُذْمِيَّةَ مَمِينٍ"<sup>۲</sup> اور "عَذَابٍ يَوْمَ مَمِينٍ"<sup>۳</sup> میں فتح میم کو نافع اور کسائی کی طرف نسبت فرمایا اور اسی طرح دیگر ائمہ نے تصریح فرمائی۔ تیسیر میں ہے:

<p>نافع اور کسائی نے من خزی یومئذ اور سورہ معراج میں من عذاب یومئذ ببنیہ کو میم کے فتح کے ساتھ اور باقیوں نے کسرہ کے ساتھ پڑھا۔</p>	<p>نافع والكسائي ومن خزي يومئذ وفي المعراج من عذاب يومئذ ببنيه بفتح الميم والباقيون بكسرهـ<sup>۴</sup>۔</p>
---	---

شاطبیہ میں ہے:-

<p>یومئذ کو اس سورۃ معراج میں فتح میم سے پڑھ کر وہ وہ لپسندیدہ ہو کر آیا ہے اور سورۃ نمل میں فتح میم کو فیضیں اور نافع کیلئے ایک قلعہ ہے اور اس لفظ سے پہلے نون تنوین نے فتح کو سنوار دیا۔</p>	<p>ویومئذ مع سال فافتتح (ا) ق (ر) ضا و ف النمل (حصن) قبلہ النون (ث) ملا<sup>۵</sup>۔</p>
--	--

شرح میں ہے:-

<p>الله تعالیٰ کے قول من خزی یومئذ اور</p>	<p>امر بفتح الميم في قوله تعالیٰ ومن خزی</p>
--	--

<sup>۱</sup> المقنع فی رسم المصحف

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۶/۱۱

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۷/۱۱

<sup>۴</sup> التیسیر فی قواعد علم التفسیر للإمام محمد بن سلیمان

<sup>۵</sup> حرزاً الامان ووجه التہانی سورۃ بود مصطفی الباجی الحلبي مصرص ۲۲

<p>من عذاب یومِ دنیہ میں جو سورہ معارض میں ہے میم کے فتح کا حکم دیا اور ہمزہ اور راء سے مصنف کے قول "اقی رضا" میں نافع اور کسائی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ بتایا کہ لفظ حسن سے کوفیوں اور نافع کی طرف اشارہ ہے۔ ان لوگوں نے سورہ نمل کے من فزع یومِ دنیہ کو یومِ دنیہ پڑھا۔ تو یہ ثابت ہو گئی کہ دونوں ترجموں میں جن لوگوں کا ذکر نہیں ہے وہ اصل حقیقی پر تینوں جگہ مکور پڑھتے ہیں۔</p>	<p>یومِ دنیہ و من عذاب یومِ دنیہ ببنیہ فی المعارض المشار الیہما بالہمزة والراء فی قوله اقی رضا وهما نافع و الکسائی۔ ثم اخبر ان المشار اليهم بحسن وهم من فزع یومِ دنیہ یومِ دنیہ فتعین لمن لم یذکرہ فی الترجیتین القراءة بكسراً اماً اصله وهو علی الحقيقة الخفاض فی الموضع<sup>۱</sup>۔ الخ</p>
---	--

غیث النفع میں ہے:

<p>خری یومِ دنیہ کو نافع اور علی نے بفتح میم اور باقی القراءے نے بالکسر پڑھا۔</p>	<p>خری یومِ دنیہ قرآنًا فَعَ وَعَلَى بِفَتْحِ الْيَمِ وَالْبَاقُونَ بالکسر<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

بعینہ اسی طرح اس کی سورۃ سائل میں ہے ان اجلہ اکابر کی تصریحات جلیلہ پر اعتماد لازم ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم۔

(۸) تعود میں یہ صیغہ مختار قراءہ کرام ہو نا ضرور صحیح ہے، امام ابو عمر و دانی تیسیر میں فرماتے ہیں:

<p>ادائے قرآن میں ماہر قاریوں میں استعاذه کیلئے یہ الفاظ مستعمل ہیں اور نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ قرآن و حدیث نبوی کے موافق ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، جب قرآن پڑھنا ہو تو اعود باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ تعالیٰ علیه الرحمۃ الرحمیۃ</p>	<p>المستعمل عند القراء الحذاق من اهل الاداء في لفظها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دون غیره و ذلك لموافقة الكتاب والسنۃ فاما الكتاب ماجاء في تنزيل العظیم قوله عزوجل لنبیه الکریم صلی الله تعالیٰ علیه الرحمۃ الرحمیۃ</p>
--	--

<sup>۱</sup> سراج القاری لعلی بن عثمان المعروف بابن القاصع

<sup>۲</sup> غیث النفع

<p>والد سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک سے قبل خاص انہیں الفاظ میں اعوذ بالله پڑھتے یہ حدیث سے ثبوت ہوا۔ امام ابو عمر و فرماتے ہیں میں ایسا یہی پڑھتا ہوں اور یہی میرا منہب ہے۔</p>	<p>علیہ وسلم وہ اصدق القائلین "فَإِذَا قرأتُ القرآن فَاستعدْ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ" وَمَا السُّنَّةُ فِيمَا رَوَاهُ نَافعٌ بْنُ جَبِيرٍ أَبْنُ مَطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ استَعْذَ بِقِبْلَةِ قِرْأَةِ الْقُرْآنِ بِهَذَا الْلَّفْظِ بِعِينِهِ وَبِذَلِكِ قِرْأَتُ وَبِهِ أَخْذٌ<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

غیث النفع میں ہے:

<p>صیغہ استعاذه کے لیے تمام قاریوں کا مختار اور پسندیدہ لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ہے، اس کے باوجود ان دوسرے صیغوں کو بھی سمجھی جائز قرار دیتے ہیں جو اس باب میں وارد ہیں جیسے اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم وغیرہ۔<sup>۲</sup></p>	<p>اماً صيغتهاً فالمختار عند جميع القراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلهم يجيئ غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة نحو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم<sup>۳</sup>۔</p>
--	--

حرز الامانی امام محمد قاسم شاٹھیؒ قدس سرہ میں ہے:-

<p>زمانہ میں جب بھی قرآن شریف پڑھنا چاہو تو اعوذ بالله علی الاعلان پڑھو، یہ سب قاریوں کا مسلک ہے۔ جیسا کہ سورہ نحل شریف میں وارد جو آسان ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ تnzیہات بھی بڑھاد تو تم جاہل نہ ہو گے۔</p>	<p>اذاً ارادت الدُّهُر تقرأ فاستعد جهاراً من الشيطان بالله مسجلاً على ما أني في النحل يسراً وان تزد لربك تزنيها فأستعذ مجھلاً<sup>۴</sup></p>
---	---

<sup>۱</sup> التيسير في قواعد علم التفسير للإمام محمد بن سليمان

<sup>۲</sup> غیث النفع

<sup>۳</sup> حرز الامانی ووجه التہانی بباب الاستعاذه مصطفی الباجی مصر ص ۱۰

سراج القاری میں ہے:

<p>ماتن کا قول مجھلا کا مطلب یہ ہے کہ تمام قراءۃ القرآن کی قراءت میں ہر جگہ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔ علی مالکی فی النحل کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نحل شریف میں استعاذه کے جو الفاظ وارد ہیں انہیں پڑھو، اور یہ را کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ اس استعاذه میں کلمات کم ہیں اس لئے ان کا پڑھنا آسان ہے اور تزییہ کے اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ اور رواۃ میں جو سمعیع العلیم وغیرہ تعریف الہی کے کلمات وارد ہیں ان کا اضافہ کرو فاست مجھلا کا مطلب یہ کہ ایسا کرنے پر تم جاہل نہ قرار نہ دیے جائے گے کیونکہ وہ زائد کلمات بھی درست اور مردوی ہیں۔</p>	<p>قوله مسجلاً ای مطلقاً لجیبِ القراءة في جميع القرآن (علی ما اتی فی النحل) ای استعد علی اللفظ الذی نزل فی سورۃ النحل جاعلاً مکان استعد اعوذ بالله من الشیطُن الرَّجِيمِ وَمَعْنَیٰ یسِرًا ای مسیراً وَتِیسِرَة قلة کلماته وَزِيادة التَّنْزِيْهِ ان تقول اعوذ بالله من الشیطُن الرَّجِيمِ انہ هو السَّمِيعُ الْعَلِیِّ، وَاعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطُن الرَّجِيمِ وَنحو ذلک وقوله فلست مجھلا ای لست منسوباً الى الجهل لان ذلک کلہ صواب و مروی <sup>1</sup>۔</p>
--	---

مگر دیگر الفاظ مردوی سے بھی منع ہرگز نہیں۔ وہ سب بھی باجماع قراءۃ جائز ہیں۔ غیث و شاطبیہ و شروع کی عبارات ابھی گزریں۔ امام جلال الدین سیوطی اتقان میں فرماتے ہیں:

<p>حوالی نے اپنی جامع میں لکھا کہ استعاذه کی کوئی حد نہیں ہے کہ اسی پر بس ہے۔ تو جو چاہے اضافہ کرے اور جو چاہے کم کرے۔</p>	<p>قال الحلواني في جامعه ليس للاستعاذه حد ينتهي إليه، من شاء زاد و من شاء نقص <sup>2</sup>۔</p>
--	---

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیگر الفاظ سے منع فرمانا ہرگز ثابت نہ ہوا، اور اگر ثابت ہو جاتا تو کیا معنی تھے کہ بعد منع اقدس پھر بھی دیگر الفاظ جائز رہتے۔ قاری صاحب نے یہاں عجیب بین المتن فیں کیا ہے اور الفاظ سے منع فرمانا بالحروف

<sup>1</sup> سراج القاری لعلی بن عثمان المعروف بابن القاصع

<sup>2</sup> الاتقان في علوم القرآن النوع الخامس والثلاثون دار أحياء التراث العربي بيروت ۲۰۱۴

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف کی بہ صیغہ جزم نسبت روانہ نہیں۔ پھر ان الفاظ کو بھی جائز رکھا حالانکہ بعد مانعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواز کی طرف راہ اصلًا نہیں، بلکہ جواز وہی ہے کہ ممتع ثابت نہ ہو۔ امام شاطیؒ بعد کلام مذکور فرماتے ہیں:

حضرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ میں استعاذه میں اضافہ نہیں ہے، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو حکم قرآنی مجمل نہ ہوتا۔	وقد ذکروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لهم يبق مجلا <sup>۱</sup> ۔
---	--

شرح علامہ ابن قاصع میں ہے:

مصنف نے اپنے قول سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور تلاوت کی تو اعوذ بالله السميع العالیم من الشیطون الرجیم کہا تو مجھ سے آپ نے فرمایا: اے ام عبد کے لڑکے! صرف اعوذ بالله من الشیطون الرجیم کہو، اور نافع نے جبیر ابن مطعم سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت سے قبل اعوذ بالله من الشیطون الرجیم پڑھتے تھے اور یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ اور مصنف نے اپنے قول ولو صح هذا النقل سے دونوں ہی حدیثوں کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے اور مصنف کے قول ۱۰۰ مجمل نہ رہتی کا مطلب یہ ہے	اشارہ ای قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأ على رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقلت اعوذ بالله السميع العالیم من الشیطون الرجیم فقال لي قل يا ابن ام عبد اعوذ بالله من الشیطون الرجیم و روى نافع عن ابن جبیر ابن مطعم عن ابیه رضی الله تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشیطون الرجیم وكل الحديثين ضعیف وأشار بقوله ولو صح هذا النقل الى عدم صحة الحديثين و قوله لم يبق مجمل ای لو صح نقل ترك الزیادة لذهب
--	--

<sup>۱</sup> حرزاً الامان ووجه التهانى بباب الاستعاذه مصطفى الباجي مصر ص ۱۰

کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی کہ زیادتی کو تزک کیا تو آیت قرآنی کا جمال ختم ہو جاتا اور اس کے معنی واضح ہو جاتے اور سورہ نحل میں وارد الفاظ ہی متعین ہو جاتے لیکن جب حدیث صحیح نہیں تو آیت محمل ہی رہی۔ اس کے باوجود راجح اعوذ بالله من الشیطون الرجیم ہی ہے کیونکہ یہ قرآنی الفاظ کے موافق بھی ہے اور حدیث بھی ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے، تو اگر روایت صحیح ثابت نہ ہو احتمال صحت تو ہے۔

اجمال الایة واتضح معناها وتعین لفظ التحل دون غیرہ ولكنہ لم یصح فبقی اللفظ مجملاً و مع ذلك فالیختار ان یقال اعوذ بالله من الشیطون الرجیم لمواقة لفظ الایة وان كان مجملاً لورود الحديث به على الجملة وان لم یصح لاحتیال الصحة <sup>۱</sup> والله سبحانه وتعالی اعلم

مسئلہ : ۲۱ از دھرم پور ضلع بیاند شہر مرسلہ سید پرورش علی صاحب شعبان ۸ ۱۴۲۳ھ

کتاب مبین کے علماء کیا فرماتے ہیں کہ ذائق، واستبقا الباب، دعوا الله اور قالا الحمد خواندہ شود یا نہ؟ بیان فرمائیے اجردئے جائے گے۔ (ت)

چہ می فرمائید عالمان کتاب مبین کہ الف ذائق، واستبقا الباب اور دعوا الله اور قالا الحمد خواندہ شود یا نہ؟ بیان تو جروا۔

### الجواب:

سجاوندی میں ان چار فتوح میں ہاکسا اشیاع فرمایا گیا ہے تاکہ الف تام کی حد تک نہ پہنچے، سجاوندی معتبر کتاب ہے۔ دوسرا کتابوں میں اگرچہ اس کی تصریح نہیں ہے مگر مخالفت بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تثنیہ مفرد سے ممتاز ہو جائے گا۔ لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس

در سجاوندی ایں چہار فتح رابقدر خفیف کہ تا الف تام نہ رسد اشیاع فرمودہ است، سجاوندی کتاب معتبر است و در دیگر کتب از تصریح بدال نیست خلاف نیز نیست و بحش مواجه است که تمیز تثنیہ از مفرد است پس عمل بدال محدود رے ندارد و نظریر ش فضل خفیف در قال الله تعالیٰ "علی ما

<sup>۱</sup> شرح الشاطبیہ سراج القاری للعلامة لعلی بن عثمان المعروف بابن القاصع

<p>کی نظیر اللہ تعالیٰ کے ارشاد "عَلَى مَا نَقُولُ وَ كَيْنُولَ ؓ" ،<sup>۱</sup>      "قَالَ اللَّهُمَّ مَثُوا لَكُمْ" اور اس جیسی دیگر مثالوں میں ہے کہ سا      فصل ہے تاکہ مبتداء کا فاعل کے ساتھ التباس لازم نہ آئے،      وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ۔ (ت)</p>	<p>نَقُولُ وَ كَيْنُولَ ؓ"<sup>۲</sup> "قَالَ اللَّهُمَّ مَثُوا لَكُمْ" وَامثالها است      تا مبتداء بفاعل ملتبس نہ شود۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ</p>
---	--



<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۸/۲۸

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۲۸/۲



## تشریح افلاک و علم توقیت و تقویم

مسئلہ ۲۲: از ملک بگالہ ضلع فرید پور موضع پٹورا کاندے مر سہ محمد نشس الدین صاحب کو اکب خود باطن ع آسمان میں گھومتے ہیں یا حرکت قمری بالتعجیچ کر کھاتے ہیں؟  
الجواب:

ہمارے نزدیک کو اکب کی حرکت نہ طبیعی ہے نہ تبعیہ، بلکہ خود کو اکب بامر الہی و تحریک ملائکہ آسمانوں میں دریا میں مجھلی کی طرح تیرتے ہیں۔

<p>الله تعالیٰ فرماتا ہے ہر ستارہ ایک آسمان میں تیرتا ہے اور اللہ عزوجل فرماتا ہے سورج اپنے منتظر کیلئے جاری ہے یہ غالب علم والے کا حساب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر فرمایا جو مسلسل چل رہے ہیں۔ اور فرمایا ایک مقررہ وقت کیلئے سب حرکت میں ہیں۔</p>	<p>قال اللہ تعالیٰ "كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ" <sup>۱</sup> - وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَالشَّمْسُ تَبَغْرِي لِيَسْقِفَنَّهَا إِذْلِكَ نَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيُّمُ" <sup>۲</sup> - وَقَالَ تَعَالَى "وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآءِيَيْنِ" <sup>۳</sup> - وَقَالَ تَعَالَى "كُلُّ يَبَغْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ" <sup>۴</sup> -</p>
---	---

<sup>1</sup> القرآن الكريم ۳۶/۳۰

<sup>2</sup> القرآن الكريم ۳۶/۳۸

<sup>3</sup> القرآن الكريم ۱۳/۳۳

<sup>4</sup> القرآن الكريم ۷۷/۲۹

ہمارے نزدیک نہ زمین متحرک نہ آسمان۔

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا) بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو کہ ہٹ نہ جائیں اور جو وہ ہٹیں تو خدا کے سوا انہیں کون روکے۔	قال اللہ تعالیٰ "إِنَّ اللَّهَ يُسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرْوُ لَهُ وَلَيْنَ رَأَيْتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ قُبْلَ بَعْدِهِ" <sup>۱</sup>
---	--

سعید بن منصور اپنی سنن، اور عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر اپنی تفاسیر میں شفیق سے راوی،

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت کعب کا کہنا ہے کہ آسمان پھلی کے پاٹ کی طرح ایک کیل میں جو ایک فرشتے کے کندھے پر گھوم رہا ہے، آپ نے فرمایا، کعب غلط کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان وزمین کو ٹلنے سے روک رکھا ہے اور حرکت کے لیے ٹلنا ضروری۔	قال قیل لابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کعباً يقول ان السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحال في عبود على منكب ملك قال كذب كعب "إِنَّ اللَّهَ يُسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرْوُ لَهُ" وَ كفى بهما زوالا ان تدور <sup>۲</sup>
---	--

عبد بن حمید قادہ سے راوی:

حضرت کعب اخبار فرماتے تھے کہ آسمان پھلی کی طرح کیلے پر گھوم رہا ہے - حدیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو ٹلنے سے روک رکھا ہے۔	ان کعباً كان يقول ان السماء تدور على نصب مثل نصب الرحاف قال حذيفة بن الیمان رضي الله تعالى عنهما كذب كعب "إِنَّ اللَّهَ يُسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرْوُ لَهُ" <sup>۳</sup>
--	--

ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرت افقہ الصحابة بعد الخلفاء الاربعہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود حضرت صاحب سر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم سے عرض کی گئی: کعب کہتے ہیں کہ آسمان گھومتا ہے۔ دونوں صحابوں نے کہا: کعب غلط کہتے ہیں۔ اور وہی آیۃ کریمہ اس کے رد میں تلاوت فرمائی۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۵/۳۱

<sup>۲</sup> الدر المنشور تحت آیۃ ۳۵/۳۱ دار احیاء التراث العربي بيروت ۷/۳۲

<sup>۳</sup> الدر المنشور تحت آیۃ ۳۵/۳۱ دار احیاء التراث العربي بيروت ۷/۳۲

<p>میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ زوال تو حرکت اینیہ کو کہتے ہیں لیکن بزرگ ترین صحابہ ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کے جانے والے تھے کہ انکے کہے ہوئے کو (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وہ شخص رد نہیں کرے گا جسے خدا نے نور بصیرت دیا۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی انہیں کے ساتھ کرے آمین۔</p>	<p>اقول: وَإِنْ كَانَ الْزَّاعِمُ أَنْ يَزْعُمَ إِنَّ الزَّوَالَ بِمَعْنَى الْحَرْكَةِ الْأَيْنِيَةِ وَلَكِنْ كَبْرَاءُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَعْرَفُ مِنَ الْمُنَّا بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ الْإِسْتِدْرَاكُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا عَنْ دُنْدُنَ اللَّهِ بِصَيْرَتِهِ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِحَرْمَتِهِمْ عَنْدَهُ أَمِينٌ۔</p>
--	--

مسئلہ ۲۳: ایضاً

سبع سیارہ کا بیان کس آیت میں ہے:

الْجَواب:

<p>اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے فرمابردار ہیں۔</p>	<p>قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجَوْمُ مُسَخَّرٌ بِأَمْرِهِ" <sup>۱</sup>۔</p>
--	--

اور "كُلُّ فِلَكٍ" <sup>۲</sup> سے بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں سات حرف ہیں۔ اپنے نفس پر دائر اور یزین کا بیان تو بکثرت فرمایا، خاص متغیرات خمسہ کا ذکر "فَلَمَّا قُسِّمَ بِالنُّخْشِ لِلْجَوَارِ الْكُلُّكُسِ" <sup>۳</sup> میں ہے، میں قسم یاد فرماتا ہوں دُبک جانے والوں، چلنے والوں کی۔ یہ انکے وقوف، استقامت و رجاعت کا بیان ہے کہ سیدھے چلتے ہیں، پھر ٹھہر جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ٹھہرتے ہیں، پھر سیدھے ہوجاتے ہیں۔ اس لئے ان کو متغیرہ کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم تفسیر امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اکرمیم سے فلا اقسام بالخنس کی تفسیر میں راوی:

<p>فرمایا: وَهُوَ يَأْنَجُ ستارے ہیں: زَ حل، عَطَارُد، مُشَتَّرِي، مُرْتَخِي، زَهْرَة، کوئی ستارہ ان کے سوا کہکشاں کو قطع نہیں کرتا۔</p>	<p>قَالَ خَمْسَةً أَنْجَمْ زَحلَ وَعَطَارَدَ وَالْمُشَتَّرِيَ وَبَهْرَامَ وَالْزَهْرَةَ لَيْسَ فِي الْكَوَاكِبِ شَيْءٍ يَقْطَعُ الْمَجْرَةَ غَيْرُهَا۔ <sup>۴</sup></p>
--	---

<sup>1</sup> القرآن الكرييم ۱۲/۱۲

<sup>2</sup> القرآن الكرييم ۲۰/۳۶

<sup>3</sup> القرآن الكرييم ۱۵/۸۱

<sup>4</sup> الدر المنشور بحواله ابن ابی حاتم تحت آیۃ فلا اقسام بالخنس دار احیاء التراث العربي بيروت ۸/۴۹۵

یعنی ثوابت میں جو کہشاں پر ہیں وہ وہیں ہیں جو اس کے ادھر ادھر ہیں، وہ وہیں ہیں ان کی حرکت طبیعہ خفیہ خفیہ ایسی نہیں کہ ابھی کہشاں سے ادھر تھے چند ہی مدت میں اس پار چلے گئے۔ یہ شان انہیں پانچ نجوم کی ہے۔ واللہ اعلم

مسئلہ ۲۲: از میرٹ لال کرتی بازار مرسلہ جناب حاجی شیخ علاء الدین صاحب ربع الآخر شریف ۱۳۳۰ھ

قاعدہ استخراج تقویمات کو اکب ازمین

کوکب مطلوب کے صفات میں سے ماہ مطلوبہ کے مقابلہ کے خانہ اپرینٹ رائٹ اسینشن یعنی مطالع استوار سے رقم گھنٹہ منٹ سینٹ لے کر اس کی تحویل اجزاء میں بموجب جدول پنجم کی دوسرے حصے کے کر لیں بعد تحویل کے جدول نمبر دوم یعنی جدول مطالع البر و بوج بخط الاستوار المبداءں اول الحمل میں دے کر مطالع کی تحویل میں طالع میں کر لیں جو حاصل ہو گا وہ درجہ تقویٰ کوکب یعنی منطقۃ البر و بوج یونانیہ کو ہندی بروج کی تقویٰ میں تحویل کرنا ہو تو یونانی تقویٰ میں سے ۲۲ درجہ اد قیقرہ گھنڑا و حقيقة تقویٰ حاصل ہو جائیگی یعنی مشاہدہ جس برج پر اور جس درجہ میں وہ کوکب ہو گا وہ درجہ ان کا آئے گا اور یہ وہ فرق ہے جو نقطہ حمل کے اپنے مرکزاً صلی کے ہٹ جانے سے پیدا ہو گیا ہے۔

### الجواب:

یہ قاعدہ محض باطل ہے۔ واضح نے جزء عاشر کو جزء تقویٰ سمجھ لیا۔ اس عمل سے فلک البر و بوج کا وہ جز حاصل ہو گا کہ ہنگام طلوع کوکب دائرة نصف النہار پر ہو، یہ عاشر ہے نہ کہ تقویٰ۔ فقیر غفرلہ نے المک سے تقویمات کو اکب نکالنے کے چار طریق رکھے ہیں، نیز اس سے استخراج طالع وقت کے چار طریق اور ان کے بیان میں رسالہ مسفل المطالع للتفویم والطالع لکھا اس کے طریق سوم کا سب میں پہلا ابتدائی خفیف عمل یہ ہے جس کا نام واضح نے "قاعدہ استخراج تقویٰ" رکھا، ہم اس مقام سے اپنے رسالہ کے چند سطور نقل کریں کہ حال واضح ہو۔

<p>تیریق سوم استعلام تقویٰ کوکب از مطالع مرد میل او</p> <p>اقول: (۱) ساعات مطالع مررادر نہ زدہ در جدول مطالع استواریہ مقوس کنند تاعاشر بدست آید۔ ( واضح صاحب کا</p> <p>قاعدہ یہیں ختم ہو گیا، اس کے بعد ملاحظہ ہو کیا کیا درکار ہے کہ</p> <p>تقویٰ</p>	<p>طریق اول طریقہ ستاروں کی گزرگارہ اور اس کے میل سے تقویٰ</p> <p>کوکب (ستارے کے حال) کے معلوم کرنے کا ہے۔ میں کہتا ہوں: (۱) گزرگارہ کے مطالع کی ساعتوں کو نو (۹) سے ضرب دے کر مطالع استواریہ کے جدول (نقشے) میں تقویٰں (جبکہ</p>
--	---

<p>مقابل آنے والی تقویں یعنی دائرے کے حصے کا معلوم) کریں تاکہ عاشر (دسواں حصہ) ہاتھ آئے ( واضح صاحب کا قاعدہ یہیں ختم ہوا) اس کے بعد ملاحظہ ہو کیا درکار ہے کہ تقویم حاصل ہو (۲) اس کا میل نکالیں ( دائرة معدّل النہار سے آفتاب کی دوری کو میل اور دوسرا سے ستاروں کی دوری کو بعد کہتے ہیں، اس عبارت میں ستارے کی دوری کو بھی میل کہا گیا ہے) (۳) پھر اگر میل، جہت میں موافق ہو میل کو اکب کے تو اس وقت میل عاشر کو تمام میل کوکب پربڑھائیں گے اور اگر جہت میں موافق نہ ہو تو کم کر دینے گے، اگر زیادہ کرنے کی صورت میں صہ (سائٹھ درجوں سے زائد ہو تو تمام میل قف (ایک سو اسی <math>^{180}</math> درجے) تک لیں، یہ عاشر کا ارتقائے ہو گا۔ (۴) اس کا کا ظلِ تمام لے کر کم کریں اور باقی محفوظ کر لیں۔ (۵) پھر گزراہ کے مطلع پر چوتھائی حصے کو زائد کر کے مجموع کا اعتبار کر کے اس کے بعد کا جیب اعتدال سے قریب لیں۔</p> <p>(۶) اس جیب کو میل کل سے کم کر کے محفوظ میں ضرب دیں ظلِ تعديل طالع حاصل ہو جائے گا۔ (۷) ظل کے جدول میں اس کی تقویں کریں کہ تعديل ہے۔ (۸) پس اسی مجموع کو مطالع استوائیہ سے لیں (۹) پھر دیکھیں کہ ستارے کا میل شمائلی ہے یا جنوبی، اگر شمائلی ہے اور عاشر نصف جدوی یعنی بر ج جدی کی ابتداء سے جوزاء کے آخر تک ہے تو تعديل کو ان مطالع استوائیہ پر زیادہ کریں گے، مگر اس صورت میں کہ عاشر کا میل منطقہ کے ربع اول میں میل کوکب سے زیادہ ہو</p>	<p>حاصل ہو) (۲) میلش بر آرند (۳) پس اگر موافق الجهة باشد یا میل کوکب آنگاہ میل عاشر را بر تمام میل کوکب افراید ورنہ کاہنڈ را گردر فزودن از صہ بیرون رو دتماش تاقف گیرند ارتقائے عاشر باشد (۴) ظلِ تماش گرفته منحط گردہ محفوظ دارند (۵) یا زیر مطالع مر مخلوم ربع در فزودہ مجموع رادر ج سوا اعتبار کردہ جیب بعدش از اعتدال اقرب گیرند (۶) ایں جیب رادر جیب میلی کلی منحط زده حاصل رادر محفوظ زند ظل تعديل طالع بدست آید (۷) در جدول ظل مقوس کنند کہ تعديل است (۸) لیس ہاں درج سواز امر مطالع استوائیہ گیرند (۹) باز نظر کنند کہ میل کوکب شمائلی است یا جنوبی بحال شمائلیت اگر عاشر در نصف جدوی اعني ازاول جدی تا آخر جوزا باشد تعديل رابریں مطالع استوائیہ افزاید مگر میل عاشر در ربع اول منطقہ از یاز میل کوکب باشد و اگر در نصف سلطانی اعني ازاول سلطانی تا آخر قوس بود تعديل را لازم مطالع مذکورہ کاہنڈ مگر انکہ عاشر زائد المیل در ربع دوم منطقہ بود بحال جنوبیت اگر عاشر در نصف سلطانی است تعديل افزاید مگر انکہ زائد المیل در ربع سوم باشد و اگر در منطقہ بود بحال نصف جدوی است۔ کاہنڈ مگر انکہ بازیادت میل در ربع باشد (۱۰) عمل معلوم حسب حاجت کنند کہ تقویم است۔</p>
---	---

اور اگر نصف سرطانی یعنی برج سرطان کی ابتداء سے لے کر برج قوس کے آخر تک ہو تو تعدلیں کو مطالع مذکورہ سے کم کر دیں گے مگر اس صورت میں کہ عاشر کا میل منطقہ کے ربع دوم میں زیادہ ہو میل کو کب سے اور اگر ستارے کا میل جنوبی ہے اگر عاشر نصف سرطانی میں ہے تو تعدلیں کو زیادہ کر دیں گے مگر اس صورت میں کہ عاشر کا میل کو کب کے میل سے زیادہ ہو۔ اور اگر نصف جدوى میں ہو تو تعدلیں کو مطالع مذکورہ سے کم کر دیں گے، مگر اس صورت میں کہ عاشر کا میل کو کب کے میل سے زیادہ ہو۔ اور اگر نصف جدوى میں ہو تو تعدلیں کو مطالع مذکورہ سے کم کر دیں گے، مگر اس صورت میں کہ میل زیادہ ہو اور ربع میں ہو (۱۰) عمل معلوم حاجت کے مطابق کر دیں کہ یہی تقویم ہے۔ (ت)

زندگی بہادر خانی سے مطالع استوائیہ کا ایک جدول یعنی نقل کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے محاسبہ خاصہ سے اس کی تجدید کی ہے، تاہم یہ بھی تقریب کو کافی ہے۔ بروج یونانیہ و ہندیہ میں ۱۰۲۲ کافر ق بشدت غلط ہے بلکہ اسی سال کے آغاز یعنی یکم محرم ۱۳۳۰ھ کو مالٹ م لومہ فرق تھا یعنی ۷۲۰۲ سے کچھ زائد اور روزانہ ترقی پر ہے۔ یہاں تک دنیا باتی رہی تو رجب ۹۲۷ھ میں پورے ایک برج کا تناولت ہو جائے گا اس التھر سے ہندی سیکھ کی شنکرات ہو گی۔ اس ہندی حساب کو حقیقی تقویم کہنا ٹھیک نہیں۔ حقیقی تقویم یہی ہے جو محل تقاطع سے ہے، اسی سے حساب فضول ہے، اسی سے حساب کی بیشی روزو شب ہے، اسی سے حساب مطالع ہے، اسی سے حساب طلوع غروب و سائر اوقات ہے، ہندی تقویم تقویم صوری ہے کہ صورت پرستوں نے صورت کو اکب پر اس کی بنار کی ہے<sup>۱</sup>۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۲۵: از میر ٹھہ بازار لال کرتی مرسلہ شیخ علاء الدین صاحب ۱۳۳۰ھ ا Shawal مکرم

حایی سنت، ماجی بدعت، مندوی و معمظی حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب مدظلوم العالی، بعد تقدیم، بہیہ سلام و مراسم نیاز مندی عرض ہے کہ مولوی عبد اللہ صاحب جنبوں نے قاعدہ استخراج تقویم کو اکب از مطالع استوائیہ مرقومہ المینک مکترین کوتیا تھا ان سے جب مکترین نے ان کے قاعدہ کی غلطی کاظہ کیا اور جناب والا کی تحریر دھائی اس سے اطمینان نہ ہوا اور جناب والا کی تحریر کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اپنی ولائی ستارہ میں مشاہدہ کو اکب کو دکھا کر آپ کا اطمینان کر سکتا ہوں، چنانچہ مکترین نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ بعد رمضان المبارک چند روز کے واسطے مع ستارہ میں کے یہاں تشریف لا کر میرا اطمینان کر دیں۔ لہذا امید

<sup>1</sup> مسفر المطالع للتفويم والمطالع

کے اس وقت تک رسالہ مسfer المطالع کے طبع کرنے میں توقف کیا چاہئے۔ زبادہ حدادب!

## الجواب:

اس قاعدہ تقویم کی نسبت گزارش ہے کہ:

(۱) ستارہ بیل کے آنے پر کیوں مجموع فرمائیے خود المینک ایک اعلیٰ ستارہ بیل ہے۔ اس سے ملاحظہ کیجئے جس وقت اس نے دو کوکبوں کا قرآن لکھا ہے اگر ان میں ایک تمہرے تو اس کی تقویم وقت قرآن کے لئے تعديل مابین السطرين سے لیجئے اور دوسرا کی اس قاعدہ سے ملاحظہ ہو کر دونوں میں کتنا فرق آتا ہے؟

(۲) یہ بھی نہ سکی نہایت سہل امکان گزارش کروں قمر کی تقویم نصف النہار و نصف اللیل روزانہ مکتب ہے اور ہر گھنٹے کے مطالع مر بھی ان مطالع کو تحویل و تقویں کر کے دیکھ لیجئے کس قدر تقاضت پڑتا ہے مثلاً ایک مثال گزارش، اس سال اکتوبر ۱۲ بجے کے مطالع لکھے ہیں۔ ۱۵<sup>۴</sup> ۲۵۳۵۵۵۷ درجات ہیں اس کی تحویل ہوئی۔ تھنٹ بط جدول مطالع استوائی میں اس کے طواں ہوئے ۰۲۳۸<sup>۵</sup> احالائیک اس وقت تقویم قمر ہے ۱۰ ۲۸۱۰ نصف درجہ کافر قہ ہوا کہ ہر گز مخفی نہیں اور کہیں اس سے بھی زائد آئے گا کہیں کم کہیں قریب تطابق۔ یہ عظم قاعدہ کی دلیل روشن ہے یہی حال ہر کوکب میں ہو گا مگر مشمش اس میں حاجت نہیں کہ اس کی جس وقت کے مطالع مر لکھے اسی وقت کی تقویم ضو بھی مکتب ہے۔

(۳) اہل میانت جدیدہ سہولت کے کمال حریض ہیں حتیٰ کہ اس کے لیے مسہلت گوارا کرتے ہیں جیسا کہ ان کے اعمال و تھاٹق اعدائی کے مطالع پر مخفی نہیں یہاں بھی جو قواعد برہانیہ کے فقیر نے استنباط کئے ایسے نہ تھے ان کی فکر وہاں تک پہنچنی مگر طول اصل و کثرت عمل کے باعث ان سہل انگاروں نے ان سے گزیز کر کے یہ آسان قاعدہ رکھا جو میں نے آپ سے یہاں گزارش کیا تھا۔ اسی کی خاطر روزانہ ہر کوب کا طول بفرض مرکزیت ستم اور عرض بفرض مذکور اور لوگار ثم بُعد کے خانے دیے اور اتنے اعمال گوارا کئے اگر وہ سہل سی مات کافی ہوتی تو کہا انکا سر پھرا تھا کہ تحقیق و تدقیق چھوڑ کر تطول میں ڈرتے۔

(۲) صرف دو خط افق و نصف النہار تو کیا کام دے سکتے ہیں ہاں ایسے آلات میں ارتقائے بنانے کو اور خطوط بھی ہوتے ہیں مگر مقنطرات دو اور عربیہ میں بون بعید ہے ہاں یہ کہ کوکب اول الملوک پر ہوا اور عرض اقلیم رویت متفقی وہ نادر ہے اور یہ بر لیلی و میرٹھ اور ان سے شمال میں آخر تک اور جنوب میں تقریباً ساڑھے تین سو میل تک عادۃ ناممکن ہے اگرچہ قدرت میں سب کچھ ہے۔

(۵) ایک قول فیصل عرض کروں، دو حال سے خالی نہیں، ستارہ میں سے جو تقویم نظر آئی تقویم محسوب بقاعدہ مولوی صاحب سے مطابق ہو گی یا مخالف، اگر مخالف ہو جب تو صحت قاعدہ کا ثبوت ہی نہ ہوا، اور مطابق ہو تو اور الٹی غلطی، قاعدہ کا ثبوت ہو گیا کہ انسار کدھر جائے گا اور اختلاف منظر کدھر جائے گا تقویم مریٰ کبھی تقویم حقیقی کے مطابق نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس وقت بھی کہ کوکب دائرہ نصف النہار پر ہو مگر صرف اس حالتِ نادرہ میں کہ عین سمت الراس پر ہو۔

جناب نے طبع رسالہ ابھی ملتوی رکھنے کافر مایا ہے وہ خود ملتوی ہے۔ ردِ ہبایہ خذ لزم اللہ تعالیٰ کے دس رسائلے زیر طبع ہیں:

(۱) سلی التبوت (۲) ایجادِ النکیر (۳) سبھن السبوح (۴) مزق تلبیس (۵) الہیۃ الجباریہ (۶) دامان باع (۷) پیکان

جانگداز (۸) القمع المبین (۹) تعالیٰ السبوح (۱۰) تازہ عطیہ

پھر ان کے بعد ان شاء اللہ الکریم الدوّلۃ المکیہ، الغیوض الملکیہ، حاسم المفتری، القثم الخاصم، الکاری فی العادی والغادی، الجسم الثانوی، اش الدیاس، ادخال السنان، اقامۃ البوانۃ، نور الفرقان کی باری ہے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔

ہبایہ کی خدمت گزاری سے فرصت ہو تو اور طرف توجہ ہو لیکن اگر یہ فرمان اس بناء پر ہے کہ شاید ستارہ میں قواعد رسالہ کی غلطی ثابت کرے تو کس سے اطمینان فرمائیں، سواس قاعدہ کے جو میں نے جناب سے گزارش کیا اور معمول ہیات جدید ہے کہ تقریب قریب ہوتا ہے مگر تحقیق سے دقیقہ تک تقاضت لاتا ہے۔ قواعد کہ فقیر نے استنباط کئے مبرہن، برائیں ہندسیہ ہیں، اگر ان کے خلاف بتائے تو یقیناً آہ غلط ہے نہ کہ برائیں۔ بعض آلات خود ناقص ہوتے ہیں بعض کو بنانے والا غلط بنلاتا ہے، بعض وقت صحیح آہ غلط لگایا جاتا ہے، بعض وقت مدلول آہ کو لگانے والا غلط اور اک کرتا ہے، آہ اپنے منتباۓ کارکے بعد بھی حساب کا محتاج ہے اور حساب اکثر محتاج آہ نہیں، آہ کیسا ہی دلیق ہو دلیق حساب تک نہیں پہنچ سکتا، حساب تو ای ٹوالث بنلاتا ہے اور عام آلات صرف درجات یا یا نیت درجہ انصاف درجہ اگر دقاًق بتائے تو اجوبہ دہر ہے مگر تو ای ضرور نامتصور آخریہ تو قاعدہ کے متعلق سمع خراشی تھی اتنا فقیر کو مامول کہ اس ستارہ میں کی قیمت اور جائے وجہ ان سے مطلع کیا جاؤں۔

جناب فرماتے ہیں بہت بیش قیمت ہے تو میں کہا پاسکوں، مولوی صاحب نے کہاں سے حاصل فرمائی، کس طرح ملی، جب ایسی بیش قیمت ہے تو ز حل کے حلے مشتری کے چاروں قمر جو لوڈ سلطاؤ غیرہما کو اکب جد ہدہ بھی دکھاتی ہو گی۔ والسلام مع الاکرام

## مسئلہ ۲۶: از میر ٹھہ محل مذکور ۱۳۳۰ھ شوال

حامی دین متین، ناصر شرع مبین مد ظلکم العالی۔ بعد تقویم ہدیہ سلام و مراسم نیاز مندی مطالع استواریہ کو اکب جو المنک میں مرقوم ہیں وہ صحیح اور حقیقی مطالع ہیں یا نہیں، اور باعتبار مرکز زمین استخراج کئے گئے ہیں یا نہیں؟ امید کہ جواب سے جلد سرفراز بخشی جائے، نہایت مشکور امر باعث ہو گا۔ زیادہ نیاز۔ عریضہ مکترین علاوہ الدین۔

## الجواب:

رکیس دین پر و دامت حالیہ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته۔ المنک میں جو مطالع مر شمش و قردہر کو کب کے لے ہیں سب بخلاف مرکز زمین حقیقی اور بقدر کافی تحقیق و صحیح ہیں مگر ان سے طوال حاصل کرنا شمش میں ہمیشہ تقویم سے مطابقت لائے گا اور دیگر کو اکب میں نادر، اکثر اختلاف دے گا، جس کی مقدار نصف درجہ سے بھی زائد تک ہو گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مطالع حقیقتہ مطالع اجزاء منطقہ البر و حج ہیں کہ انہیں کے میل و بعد عن الاعتدال الاقرب سے اخذ کئے جاتے ہیں۔ شمش و انہا ملازم منطقہ ہے تو اس کی تقویم ہمیشہ نفس منطقہ پر ہوتی ہے اور وہی طوال مطالع ہیں۔ خلاف دیگر کو اکب کے کہ اپنے تمام دورہ میں صرف دوبار منطقہ پر آتے ہیں جب کہ اپنے راس و ذنب پر ہوں یا تمحیرات کے باعث دوچار بار اور اسی وقت تقویمی مطالع ان کی تقویم ٹھیک بتائے گی یا اس وقت کہ کوکب مارہ بالا قطب الاربعہ پر ہو کہ اب میلیہ و عریضہ متعدد ہو جائیں گے باقی اوقات اختلاف دے گی۔ والسلام

## مسئلہ ۲۷: از میر ٹھہ محلہ حاجی صاحب مذکور ۱۳۳۰ھ شوال

مکترین کوئی الحال بعد ملاقات مولوی عبد اللہ صاحب کے پیش کی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اس ستارہ میں کے مشاہدے سے مولوی صاحب مددوح کے قاعدہ کی تصدیق ہو جائے گی تو اس صورت میں رسالہ معلومہ کے قاعدہ میں کچھ سہو سمجھنا پڑے گا مگر چونکہ حضور والا کی تحریر سے معلوم ہو گیا کہ رصدی آله کے مشاہدات سے بر این ہندسیہ کی تردید نہیں ہو سکتی لہذا ایسی صورت میں ستارہ میں کے مشاہدات سے استدلال ہی فضول ہے۔ قبل ازیں مکترین کو یہ نگان تھا کہ آل و صدر کے مشاہدات سے جو بات ثابت ہوئی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے مکترین نے رسالہ مسفر المطالع کے متعلق اتوکی درخواست کی تھی مگر اب چونکہ حقیقت اس کے خلاف نکلی لہذا اس کے طبع کرنے میں اتوکی ہرگز ضرورت نہیں ہے صرف ایک بات دریافت طلب رہ گئی ہے کہ تقویمی مطالع کو اکب سے جو تقدیم حاصل ہوتی ہے اس کا فرق تقویم اصلی سے زیادہ کس قدر ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک درجہ سے زیادہ فرق ہو سکتا ہے یا

نہیں؟ امید کہ جواب سے سرفراز بخشی جائے۔ حضور کے دوسرے والانام سے یہ بالکل تحقیق ہو گئی کہ تقویں مطالعہ مرمر سے دوسرے کواکب کی تقویم اصلی سوائے چند خاص نادر موقوعوں کے نہیں نکل سکتی۔ اس قدر سمع خراشی اور تکلیف دہی کی جوان تحریرات وغیرہ میں حضور والا کو ہوئی نہایت ادب سے معافی چاہتا ہوں۔ عریضہ مکترین علاء الدین عنی عنہ

**اجواب:**

وَالسَّلَامُ مَعَ الْكَرَامِ فَقِيرٌ غَفْرَلَهُ ازِيرٌ بَلِي شَوَالٌ المَكْرُمُ ١٣٣٠ هـ جَرِيَةٌ

مسئلہ ۲۸: از شهر بہار پیور مرسلہ نواب سلطان احمد خان صاحب  
۱۳۲۶ھ شوال

آج کل تیسرا درجہ کا سنبلہ کس وقت طالع ہوتا ہے؟

## الجواب:

آج کل درجہ سوم سنبلہ کا طلوع صبح کے آٹھ بجے کے بعد اس تفصیل سے ہے:

پنجشنبہ	جمعہ	شنبه	جمع	سکنڈ	گھنٹے منٹ	ا جولائی ۱۸۲۰ء	شوال ۱۳۳۶ھ	پنجشنبہ	یوم
۲۳	۲۳	۸	۲۷	۲۸	۸				
۲۷	۲۹	۸	۵۱	۲۳	۸		۱۹		۹
۳۱	۲۵	۸	۵۵	۲۰	۸		۲۰		۱۰

وقت ریلوے دیا ہے جو آجکل گھڑیوں میں رانچ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلہ نوبہ نواب امیر احمد خان صاحب ۱۳۳۶ھ

حضرت عالیٰ! جدول تحویل تاریخ عیسوی بہ ہجری میں میرے پاس مقابل چھ سو سال کے اہاب ل ہے۔ حضور نے اہاب ل لکھا ہے کیا اس جدول میں تبدیلی کی گئی ہے تو مجھ کو از سر نو نقل لینی ہو گی؟

**الجواب:**

اہاب ل ہی ہے صحیح و بجا یہ نب لہ کسی الہ نے لکھا وادیا، اس جدول میں ترمیم کا ضرور خیال ہے مگر ابھی ہوئی نہیں، وہ ترمیم اسے بالکل کاپلٹ کر دے گی حتیٰ کہ مداخل شہرو سنین بھی بدل جائیں گے اور وہی صحیح واضح ہوں گے، اس وقت نہ یہ اہاب ل ہو گا نہ نب ل کچھ اور ہی ہو گا۔ غالباً اہاب اللہ ہو، فقط

مسئلہ ۳۰: از نسوانہ قادر یہ جو نیر مدرسہ ضلع چائکام مرسلہ مولوی جمال الدین صاحب ۷۲ رمضان ۱۳۳۸ھ

<p>نماز و روزہ کا وقت گھڑی سے معین کرنا سورج اور چاند سے قطع نظر کرتے ہوئے جائز ہے یا نہیں؟ بعض دیوبندی اس کے قائل ہیں، ناجائز ہونے کی صورت میں اس پر کون سی عقلی و نقلی دلیل ہوگی، گھڑی کا موجود کون ہے اور کون سے زمانے میں ایجاد ہوئی، اور ائمہ کرام نے اس کے ساتھ نماز اور روزے کا وقت کیوں مقرر نہیں فرمایا۔ (ت)</p>	<p>وقت نماز و صوم از گھڑی معین نہودن قطع نظر از آفتاب و ماہتا ب آیا جائز شود یا چنانچہ بعض دیوبندی قائل آئست بر تقدیر عدم جائز چہ دلیل عتنقاً و نتناً باید و موجہ گھڑی کیست و کدام وقت ایجاد ش گردید و چرا ائمہ ازوے وقت صوم و صلوة مقرر نہ نہودند۔</p>
---	---

**الجواب:**

<p>گھڑی کا موجود ہارون الرشید کے زمانے کا ایک نجومی مرد بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ائمہ کرام کے زمانے میں یہیکہ ہمارے زمانے سے چند سو سال پہلے تک اس کا رواج نہ تھا۔ علم توثیقیت نہ جانے والے شخص کے لئے اس</p>	<p>موجہ آله سماعت مردے از منجان زمانہ ہارون رشید را گفتہ اند واللہ اعلم بہ فاما تازمانہ ائمہ یہیکہ تاچند صد سال پیش از زمان ماروا جش نبود و اعتماد بر و آنکس را کہ علم توثیقیت نداند حرام سنت، ہمچنان بریک آله سماعت اعتماد تثاید کہ</p>
---	--

<p>آلہ پر اعتماد کرنا حرام ہے۔ اسی طرح صرف ایک گھری پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ بعض اوقات خود بخود آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ہاں جو شخص علم توقیت جانتا ہے اور گھری کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے جیسا کہ درختار میں اس کا افادہ فرمایا ہے۔ دیوبندی تہذیب علم توقیت سے اسی طرح نااشنا ہیں جیسے دین سے۔ ان کے فتوے پر اعتماد کرنا گھری جیسے بے اعتبار آلہ پر اعتماد کرنے سے بڑھ کر حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (ت)</p>	<p>دفعۃِ خود بخود پیش و پس می شود آرے ہر کہ علم توقیت داندہ آلہ ساعت را حافظت تو اندر برکار میتوال کرد کہا افادہ فی الدر المختار دیوبندیاں خود از توقیت، ہمچنان بیگانہ اند کہ از دین و اعتماد بر فتوائے آنہا حرام تراز آنست کہ بر ساعت بے تمکین۔</p> <p>واللہ تعالیٰ اعلم</p>
---	---

## سیرت و فضائل و خصائص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

مسئلہ ۳۱: از مقام گنڈارہ تحصیل گنج ضلع بہرائچ مرسلہ عبد اللہ میاں جی صاحب معرفت سید سلطان احمد صاحب ۰ ارمضان المبارک ۷۱۳۳ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب ثوبیہ جاریہ ابو لہب نے ابو لہب کو سنائی اس وقت ابو لہب نے خوش ہو کر ثوبیہ کو آزاد کر دیا پھر کئی دن تک ثوبیہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا: کیا حال ہے تیرا؟ بولا: آگ میں ہوں لیکن تخفیف ہوتی ہے۔ ہر دو شنبہ کی رات اور چوتھا ہوں دو انگلیوں سے پانی، جن کے اشارے سے آزاد کیا تھا ثوبیہ کو۔ یہ قصہ اکثر معتبرین سے سنایا ہے، اور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلاد شریف میں اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے:

<p>جب یہ حال ابو لہب جیسے کافرا ہے جس کی مذمت میں قرآن نال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلتے دیا گیا تو آپ کے موحدو مسلمان</p>	<p>اذاكان هذَا ابو لہب الْكَافِرُ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِذَمَّهِ جُوزِي فِي النَّارِ بِفَرْحَةِ لِيلَةِ مولَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فِي أَحَدِ الْمُسْلِمِ الْمُوحَدِ</p>
--	---

امتی کا کیا حال ہو گا اخ - (ت)	من امته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی آخرہ <sup>۱</sup>
--------------------------------	---

اس پر ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے جبکہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ خبر دیتا ہے ابو لہب کی نسبت "مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ط" <sup>۲</sup> کہ نفع دیا اس کو اس کے مال اور اس کے فعل نے۔ پس مال لوئڈی اور فعل اس کا آزاد کرنا۔ ورنہ خواب خیال کی باتیں آیات قرآنیہ کے مقابل میں کیونکر صحیح ہوں گی، پس اس کی تطیق کیونکر صحیح ہو گی۔ بیان فرمائیے۔

### ابجواب:

یہ روایت صحیح بخاری شریف میں ہے، ائمہ نے اسے مقبول رکھا اور اس میں قرآن عظیم کی اصل مخالفت نہیں۔ قطع نظر اس سے یہ اغنانہ ہوا اس کا سبب حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علاقہ۔ حضور کی ولادت کریمہ پر خوشی کہ یہ نہ اس کامال ہے نہ اس کا کسب و فعل اختیاری۔ یہ تو کیا ایسا فائدہ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علاقہ ابو طالب کو ایسا کام آیا کہ سر اپا آگ میں غرق تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پایا بآگ میں کھینچ لیا کہ اب صرف تلووں میں آگ ہے حالانکہ کفار کے حق میں اصل حکم یہ ہے کہ:

نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ کوئی ان کی مدد کرے۔	"لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظَرُّونَ" <sup>۳</sup>
--	--

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہاں وہ تھوڑی سے آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کو جہنم کی	نعم هو في ضحاص من نار ولو لانا لكان في الدرك الاسفل من النار <sup>۴</sup> - وفي رواية وجداته في غبرات من النار
---	--

<sup>۱</sup> الموابد اللدنیہ المقصد الاول المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۷

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱/۱۱۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱/۱۲۲

<sup>۴</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب الخ تدبی کتب خانہ کراچی ۱/۱۵، صحیح البخاری کتاب الادب باب کنینہ المشترک قریبی کتب خانہ کراچی ۹/۲

گھر ایسیوں میں پایا تو اس کو تھوڑی سے آگ کی طرف نکال لیا۔	فاحر جتہ الی ضحضاح <sup>۱</sup>
اسی طرح صحیحین میں ابو سعید خدری اور منذر بزار و ابو یعلی و ابن عدی و تمام میں حضرت جابر بن عبد اللہ اور مجعم کبیر طبرانی میں امام المومنین ام سلمہ سے ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین امام عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں:	فَإِنْ قَلْتُ أَعْمَالُ الْكُفَّارِ هَبَاءً مَنْشُورًا لَا فَائِدَةَ فِيهَا، قَلْتُ هَذَا النَّفْعُ مِنْ بَرَكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصُهُ <sup>۲</sup>
اگر تو کہے کہ کافروں کے اعمال تو بکھرے ہوئے غبار کے ذرور کی طرح ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں کہوں کا یہ نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے خصائص سے ہے۔ (ت)	فَإِنْ قَلْتُ أَعْمَالُ الْكُفَّارِ هَبَاءً مَنْشُورًا لَا فَائِدَةَ فِيهَا، قَلْتُ هَذَا النَّفْعُ مِنْ بَرَكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصُهُ <sup>۲</sup>

امام ابن حجر کی فتح الباری شرح بخاری میں ہے:

اس خصوصیت کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایمان لانے سے انکار کے بعد بھی آپ نے اس کے لئے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کے عذاب میں دوسروں کی بُنْسُتْ تخفیف کر دی گئی۔ (ت)	يؤيد الخصوصية انه بعد ان امتنع شفع له حق خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره <sup>۳</sup> ۔
---	--

اسی طرح صحیح بخاری انوار وغیرہ میں ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفع کافر کے عمل سے نہ ہوا بلکہ حضور رحمۃ للعالمین کی برکت سے، اور یہ خصائص علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۲: از بار پور، مرغی محل، مسجد حافظ محمد جعفر صاحب مرسلہ پیش امام صاحب ۰۴ رمضان المبارک ۷۳۳ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قیام مولود شریف فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب شفاعة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۱۵/۱

<sup>۲</sup> عمدة القارى شرح صحیح البخاری کتاب المناقب بباب قصة ابی طالب ادارۃ الطباعة المنیبریۃ بیروت ۱/۱۷

<sup>۳</sup> فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ القصص مصطفی البانی مصر ۱۰/۱۲۳

عمر و کہتا ہے کہ قیام مولود شریف ہاتھ باندھ کر ہونا چاہیے اور زید کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر ہونا چاہیے، تو بتلائیے کہ کس کی بات پتّ چکھے؟

### الجواب:

ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بہتر ہے جیسا کہ حاضری روضہ اور کے وقت حکم ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: یقیناً کما یقین فی الصلاۃ<sup>۱</sup> ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ (ت) اسی طرح لباب و شرح لباب و اختیار شرح مختار وغیرہ اکتب معتبرہ میں ہے \_\_\_\_\_ قیام مجلس مبارک مستحب ہے اور مجلس کھڑی ہو تو سنت، اور ترک میں فتنہ یا الزام وہیت ہو تو واجب کیافی رد المحتار فی قیام النّاس بعضهم بعض۔ (جیسا کہ رد المحتار میں بعض لوگوں کے بعض کی خاطر کھڑے ہونے کے بارے میں ہے۔ ت) واللہ تعالیٰ اعلم

<sup>۱</sup> الفتاویٰ الہندیۃ کتاب المذاکر مطلب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی کتب خانہ پشاور / ۲۶۵

## رسالہ

### تجلی المیقین بان نبیّنا سید المرسلین<sup>۱۴۰۵ھ</sup>

(یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں)

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

مسئلہ ۳۳ : از منگیر لعل دروازه معرفت حضرت مرا زاغلام قادر بیگ غره شوال ۱۴۰۵ھ  
 حضرت اقدس دام ظلہم ! بیہاں وہابیہ نے ایک تازہ ٹنگوفہ اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے سے انکار کیا۔ ہر چند کہا گیا کہ مسئلہ واضح ہے، مسلمانوں کا ہر بچہ جانتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل لاو۔ بیہاں کو شش کی، قرآن و حدیث میں دلیل نہ پائی، لہذا مسئلہ حاضر خدمت والا ہے، امید ہے کہ بہ ثبوت آیات و احادیث مسلمانوں کو ممنون فرمائیں گے، فقط

الجواب:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

سب خوبیاں اسے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کر اسے سب دنیوں پر غالب کرے اور پڑے بُرا مانیں مشرک، بیڑی	الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الديين كلہ طولو کرہ المشرکون
--	--

<p>برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا کہ وہ سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ اور سب رسول خاص اپنی ہی قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بھیجا، تو ان کے دامن رحمت کے نیچے انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقریبین اور تمام مخلوقِ الہی کو داخل فرمایا، اور ان کو سب نبیوں کا خاتم کیا، تو انہوں نے اور دین نسخ فرمائے، اور ان کے دین کا کوئی حرف منسوخ نہ ہوا۔ اللہ نے ان کی امت میں تمام رسولوں کو داخل کیا، جبکہ خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے گیا مسجدِ اقصیٰ تک بُلند آسمانوں تک عرشِ اعلیٰ تک، پھر نزدیک ہوا تو تجلی فرمائی، تو دو کمانوں بلکہ اس سے کم کا فاصلہ رہا۔ پس اپنے بندے کو وحی کی، دل نے جو دیکھا اس میں شک نہ کیا تو کیا تم ان کے دیدار میں جھگڑتے ہو۔ اور قسم ہے بے شک انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ آنکہ یہاں چلی اور نہ حد سے بڑھی۔ اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اور بے شک اسے سب کو دوبارہ پیدا کرنا ضرور ہے جس دن کوئی شفیع نہ پائیں گے سوائے مصطفیٰ کے، تو دنیا اور آخرت میں انہیں کیلئے فضیلت ہے اور سب سے پر لے سرے کی نہایت اور سب سے بڑا اوسیلہ اور سب سے</p>	<p>تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیر اوالی اقوامهم خاصۃ ارسل المرسلون هو الذی ارسل نبینا رحمة للعلمین فادخل تحت ذیل رحمة الانبیاء والمرسلین، والملائکة المقربین وخلق الله اجمعین، وجعله خاتم النبیین فنسخ الا دین ولا ينسخ له دین، وادخل في امته جميع المرسلین اذ اخذ الله ميثاق النبیین، سبحن الذی اسرى بعده لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى السموّات العلی الى العرش الاعلی، ثم دنا فتدلى فكان قب قوسین او ادنی، فلأوحى الى عبدہ ما اوحی ما كذب الفؤاد مارای افتتمرونہ على ما يزدی ولقد رأه نزلة آخری، مازاغ البصر و ماطغی و ان الى ربک المنتهى و ان عليه النشأة الاخیری يوم لا يجد ون شفیعًا الا المصطفی فله الفضل في الاولی والاخیری، والغاية القصوی والوسیلة العظیی والشفاعة الكبیری</p>
--	---

اعظم شفاعت اور وہ مقام جس میں سب اگلے پچھلے ان کی حمد کریں اور وہ حوض جس پر تشنجان امت آکر سیراب ہوں گے اور بے گنتی بلند صفتیں اور سب سے اوپر خضراب، تو اللہ تعالیٰ درود و برکت اتنا رے ان پر اور ان کے آل واصحاب اور ہر ان کے نام لیوا پر ہمیشہ ہمیشہ جیسی انہیں اور ان کے بلند و بالاتر رب کو پسند و محبوب ہے۔

والْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَالْحَوْضُ الْمُوْرُودُ وَمَالٌ لَا يَحْصُى مِنَ الصَّفَاتِ الْعُلَى وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَيَّاءِ فَصَلِّ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهٖ وَصَاحِبِهِ وَكُلِّ مَنْتَمْ إِلَيْهِ دَائِمًا أَبَدًا كَمَا يُحِبُّ وَيُرِضِّي هُوَ رَبُّ الْعُلُوِّ الْأَعُلُوِّ۔

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہونا قطعی ایمانی، یقینی، اذعانی، اجماعی، ایقانی مسئلہ ہے جس میں خلاف نہ کرے گا مگر مگر اہ بدوین بندہ شیاطین والعیاذ باللہ رب العلمین کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے، آج نہ کھلا تو کل قریب ہے، جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے، سارے مجمع کا دلحا حضور کو بنائیں گے، انیائے جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے، موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہیں کی جانب بلند ہوں گے، انہیں کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، انہیں کی حمد کا ذکر کا بجا ہوگا، جو آج بیاں ہے کل عیاں ہے، اس دن جو مومن و مفتریں نور بار عشر توں سے شادیاں رچائیں گے، "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهُدَاءٍ" <sup>۱</sup> (سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی۔ ت) اور جو مبطل و منکر ہیں دلفگار حسر توں سے ہاتھ چبائیں گے،

ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔

اے اللہ! ہم کو ہدایت پانے والوں میں سے بنادے اور ہمیں خالموں کے لئے آزمائش نہ بنا۔ (ت)

"لَيَكُنْتَنَا أَطْعَنَّا اللَّهَ وَأَخْعَنَّا الرَّسُولَ" <sup>۲</sup>۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمَهْتَدِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا فَتَنَةً لِّلنَّاسِ  
الظَّالِمِينَ۔

گروہ مفترزلہ کہ ملائکہ کرام کو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل مانتے ہیں وہ بھی حضور

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۷/۳۳

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۳۳/۶۶

سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلهٗ اجمعین کو بالیق مخصوص و مستثنی جانتے ہیں۔ انکے نزدیک بھی حضور پر نور انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین و خلق اللہ اجمعین سب سے افضل و اعلیٰ و بلند و بالا علیہ صلواتہ المولیٰ تعالیٰ۔ کلماتِ علماء کرام میں اس کی تصریح اور فقیر کے رسالہ<sup>۱</sup> "اجلال جریل بجلد خادماً للمحبوب الجميل" میں تحقیق و توضیح۔

<p>راہز مختری، تو وہ دل کا حمن، اپنی نفسانی خواہش کا پیر و کار، اپنے مذہب سے جاہل اور گمراہی میں انتہاء کو پہنچا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کے مشرب کا پانی نہیں جیسا کہ اہل تحقیق نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور اللہ سب سے نعم و تعالیٰ توفیق کا مالک ہے۔ (ت)</p>	<p>اما الزمخشرى فقد سفه نفسه وتبع هواه وجهل مذهبة وتناهى في الضلال حتى لم يعلم مشربه كما نبه عليه أهل التحقيق، والله سبحانه ولي التوفيق۔</p>
---	--

فقیر کو جہاں ایسے صریح مسئلے پر طلب دلیل نے تجھب دیا وہاں اس کے ساتھ ہی طرز سوال کو دیکھ کر یہ شکر بھی کیا کہ الحمد لله عقیدہ صحیح ہے، صرف اطمینان خاطر کو خواہش توضیح ہے، مگر اس لفظ نے بیشک حیرت بڑھائی کہ قرآن و حدیث میں دلیل نہ پائی۔ سبحان اللہ مسئلہ ظاہر، دلیلیں وافر، آیتیں متکاثر، حدیثیں متواتر۔ پھر سائل ذی علم ہوتا تو اطلاع نہ ملنے کی کیا صورت۔ اور جاہل بے علم ہوتا اپنے نہ پانے کی بیجا شکایت۔ فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے مسئلہ تفضیل حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دلائل قرآن و حدیث سے جواہر بحمد اللہ استخراج فقیر ہیں نوے<sup>۱</sup> جز کے قریب ایک کتاب مسمیٰ بہ "منتہی التفصیل لیبحث التفضیل"، لکھی جس کے طول کو ملیخ خواطر سمجھ کر، مطلع القبرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین (۱۲۹۷ھ) میں اس کی تخلیص کی، پھر کہاں وہ بحث متناہی المقدار اور کہاں یہ بحر نایبید اکثار، اللہ اللہ العظیۃ اللہ

<p>اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قائمین بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے سات سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں (ت)</p>	<p>"وَلَوْاَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يُبِرِّئُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْرُرٍ مَّا تَفَدَّثَ كَلِيلٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" ۱</p>
--	--

بلامبالغہ اگر توفیق مساعد ہو اس عقیدے کی تحقیق مجلدات سے زائد ہو، مگر بقدر حاجت و

وقت فرصت، قلب مومن کی تسلیم و تثبیت اور منکر بد باطن کی تحریک و تبکیت کو صرف دس آیتوں اور سو حدیثوں پر اقصار مطلب اور اس مجرز عجالہ مسمیٰ بہ "قلائد نحور الحور من فرائد بحور النور" کو بلحاظ تاریخ "تجلی الحقیقین بان نینا سید المرسلین" سے ملقب کرتا ہے۔

<p>الله تعالیٰ کے بغیر میرے لیے کسی کی توفیق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے اس پر جو اس کی تمام خلائق سے بہتر اور اس کے افق کا سراج ہے، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور اس کے تمام پیر و کاروں پر اور اس کی جماعت پر، بے شک وہ سننے والا، قریب، دعاوں کو قبول کرنے والا ہے۔ (ت)</p>	<p>وما تو فيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب . وصلى الله تعالى على خير خلقه وسراج افقه وأله وصحبه و متبعيه وحزبه انه سميع قريب مجيب۔</p>
---	--

یہ قلائد فرائد دو ہیکل پر مشتمل:  
ہیکل اول: میں آیات جلیلہ۔

ہیکل دوم: میں احادیث جلیلہ۔ یہ ہیکل نور افغان چارتباشوں سے روشن:  
تابش اول: چند وحی ربانی علاوہ آیات کریمہ قرآنی۔

تابش دوم: ارشادات عالیہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین۔  
اگر بعض کلمات انبیاء وملائکہ دیکھنے متوجع کی رکاب میں تابع سمجھئے۔

تابش سوم: محض و خالص طرق و روایات حدیث خصائص۔

تابش چہارم: صحابہ کرام کے آثار رائقة، اقوال علمائے کتب سابقہ، بشرائے ہوافق رؤیائے صادقه۔ واللہ سبحانہ هو المعین و الحمد للہ رب العالمین (اور اللہ سب جنہ و تعالیٰ ہی مد دگار ہے اور تمام خوبیاں اللہ کو جو تمام جہاںوں کا پروردگار ہے۔ ت) ان کے سوا اقوال علماء پر توجہ نہ کی کہ غرضِ انصار کے منافی تھی۔ جسے ان کے بعض پر اطلاع پسند آئے۔ فقیر کے رسائل "سلطنة المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری" و "قمر التیام لنفی الظل عن سید الانام" و "اجلال جبریل بجعله خادماً للمحبوب الجمیل" کی طرف رجوع لائے۔ واللہ الہادی و ولی الایادی (اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا اور نعمتوں کا مالک ہے۔ ت)

## ہیکل اول میں جواہر زواہ آیات قرآنیہ

<p>بھلی آیت: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرائے محظوظ! جب خدا نے عہد لیا پھر ہمروں سے کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا، اور بہت ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ اب جو اس کے بعد پھرے گا تو ہی لوگ بے حکم ہیں۔</p>	<p>آیت اولیٰ: قالٰ تبارک و تعالیٰ: "وَإِذَا حَدَّ اللَّهُ مِنَّا تِبْيَانَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَحِكْمَةً شَهَدَ اللَّهُ رَسُولُهُ مُصَدِّقٌ لَهَا مَعْلُومٌ تَتَوَمَّنُ إِلَيْهِ وَلَكَتْصُرُونَهُ قَالَ إِنَّهُمْ وَأَهْدَاهُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِنَّهُمْ لَقَالُوا أَقْرَبُنَا قَالَ فَأَشْهَدُهُمْ وَأَنَا مَعْلُومٌ مِنْ الشَّيْءِ بَيْنَ رَفِيْقِيْنِيْنَ فَمَنْ تَوَثِّي بَعْدَ لِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ" <sup>۱</sup>۔</p>
---	---

امام اجل ابو جعفر طبری وغیرہ محدثین اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولیٰ امسکین امیر المومنین جناب مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اکرمیم سے راوی:

<p>یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا گیا کہ اگر یہ اس نبی کی زندگی میں مب尤ث ہو تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد فرمائے اور اپنی امت سے اس مضمون کا عہد لے۔</p>	<p>لم يبعث الله نبياً من أدم فمن بعده إلاخذ عليه الهدى في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لئن بعثه هو حى ليؤمن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه <sup>۲</sup>۔</p>
--	--

<sup>1</sup> القرآن الكرييم ۸۱/۳

<sup>2</sup> المواهب الدنية عن على المقصد الاول اخذ العهد على الانبياء المكتب الاسلامي بيروت ۲۶، جامع البيان (تفسير الطبرى) تحت آية

۳۸۷/۳ دار احياء التراث العربي بيروت

اسی طرح جبراں ائمہ عالم القرآن حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہوا، رواہ ابن جریر<sup>۱</sup> وابن عساکر وغیرہما (اس کو ابن جریر اور ابن عساکر وغیرہ نے روایت کیا۔ ت) بلکہ امام بدر زر کشی وحافظ عماد بن کثیر وامام الحفاظ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسے صحیح بخاری<sup>۲</sup> کی طرف نسبت کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور اس کی مثل امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں سدی سے روایت کیا جیسا کہ امام ابی جال سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبری میں وارد کیا ہے۔ (ت)	ونحوه اخراج الامام ابن ابی حاتم فی تفسیرہ عن السدی کیا اور دہ الامام الاجل السیوطی فی الخصائص الکبڑی <sup>۳</sup> ۔
--	---

اس عہد رباني کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناٰ نشر مناقب و ذکر مناصب حضور سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین سے رطب اللسان رہتے اور اپنی پاک مبارک مجالس و محافل ملائک منزل کو حضور کی یاد و مدح سے زینت دیتے، اور اپنی امتوں سے حضور پر نور پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لیتے یہاں تک کہ وہ پھلا مژده رسال کنواری بتول کا ستر ایٹا مسح کلمۃ اللہ علیہ صلوات اللہ "مُبَيِّسًا إِبْرَهُسْوَلِ يَبِيِّنِ مِنْ بَعْدِي أَسْمَكَهُ أَحْمَدُ" <sup>۴</sup> (اس رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لا کیں گے ان کا نام احمد ہے۔ ت) کہتا تشریف لایا۔ اور جب سب ستارے روشن مہ پارے مکمن غیب میں گئے افتاب عالمتاب ختمیت آب نے باہزار اس ہزار جاہ و جلال طوع اجلال فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین وبارک وسلم دھر الداھرین (اللہ تعالیٰ آپ پر اور دیگر تمام رسولوں پر ہمیشہ ہمیشہ درود وسلام اور برکت نازل فرمائے۔ ت)

ع۴: قال الزرقانی قال الشامي ولم اظفر به فيه <sup>۴</sup> زرقانی نے کہا: شامي نے فرمایا ہے کہ میں اس کو صحیح بخاری میں نہیں پاسکا۔ (ت) منه۔

<sup>۱</sup> جامع البیان (تفسیر الطبری) تحت آیۃ ۸۱/۳ دار احیاء التراث العربي بيروت ۳/۷۸

<sup>۲</sup> الخصائص الکبڑی بباب خصوصیۃ باخذ البیثاق علی النبیین الخ مکراہیں سنت برکات رضا گرات ہند ۱/۸

<sup>۳</sup> القرآن الکدیم ۲/۲۱

<sup>۴</sup> شرح الزرقانی علی المواهب الدنییۃ المقصود الاول دار المعرفہ بيروت ۱/۴۰

ابن عساکر سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

<p>بھیشہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے پیشگوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے سب امتنیں تشریف آوری حضور کی خوشیاں مناتیں اور حضور کے توسل سے اپنے اعداء پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہترین امم و بہترین قرون و بہترین اصحاب و بہترین بلاد میں ظاہر فرمایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>لم ينزل الله يتقدّم في النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الى ادم فمن بعده ولم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به حق اخرجه الله في خير امة وفي خير قرون وفي خير اصحاب وفي خير بلد<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

اور اس کی تصدیق قرآن عظیم میں ہے:

<p>یعنی اس نبی کے ظہور سے پہلے کافروں پر اس کے وسیلہ سے فتح چاہتے، پھر جب وہ جانا پیچا نا ان کے پاس تشریف لا یا منکر ہو پیشے تو خدا کی پھٹکار منکروں پر۔</p>	<p>"وَ كَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَغْوِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِيْنَ"<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

علماء فرماتے ہیں: جب یہود مشرکوں سے لڑتے دعا کرتے:

<p>اللهم انصرنا علیہم بالنبوٰۃ فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورۃ<sup>۳</sup>۔</p>	<p>اللهم انصرنَا علیہم بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ فِي أَخْرَ الزَّمَانِ الَّذِي نَجَدَ صَفَتَهُ فِي التُّورَةِ۔</p>
---	--

اس دعا کی برکت سے انہیں فتح دی جاتی۔

اسی پیان الہی کا سبب ہے کہ حدیث میں آیا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

<sup>۱</sup> الخصائص الكبيری بحوالہ ابن عساکر باب خصوصیت باخذ المیثاق الخ مرکز اہلسنت گجرات ہند ۸۹/۸۹

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲/۸۹

<sup>۳</sup> الدر المنشور تحت الآية ۲/۸۹ دار احیاء التراث العربي بيروت ۱۹۶۱

نے فرمایا:

<p>فقط اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو گنجائش نہ ہوتی (اس کو امام احمد، دارمی اور شعب الایمان میں بیہقی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور لفظ ابو نعیم کے ہیں۔ ت)</p>	<p>والذی نفی بیبدہ لوان موسیٰ کان حیاً الیوم ماؤسعه الا ان یتبغی - اخرجه الامام احمد<sup>1</sup> والدارمی و البیهقی فی شعب الایمان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو نعیم فی دلائل النبوة واللفظ له عن امیر المؤمنین<sup>2</sup> - عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

اور یہی باعث ہے کہ جب آخر الزمان میں حضرت سیدنا علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے باگہ بدستور منسوب رفع نبوت و رسالت پر ہوں گے، حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کے ایک امتی و نائب یعنی امام مهدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>کیسا حال ہوا تمہارا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا (اس کو شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>كيف انتم اذا نزل ابن مریم فيكم واما مکم منكم - اخرجه الشیخان<sup>3</sup> عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

اور اس عہد والاثر کی پوری تائید و تکید حق عز جلالہ نے توریت مقدس میں فرمائی جس کی بعض آیتیں ان شاء اللہ تابعہ اول ہیکل دوم میں مذکور ہوں گی۔

امام علامہ تقی الملة والدین ابو الحسن علی بن عبدالکافی سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل عن جابر رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳/۳۸۷

<sup>2</sup> دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الاول عالم المکتب بیروت الجزء الاول ص ۸

<sup>3</sup> صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۹۰۴، صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ

بن مریم قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۸۷۸

تفسیر میں ایک نفیس رسالہ ﷺ التعظیم والمنہ فی لتومن بہ ولتصرنہ ﷺ لکھا۔ اور اس میں آیت مذکورہ سے ثابت فرمایا کہ ہمارے حضور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی۔ حضور کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابوالبشر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روز قیامت تک جمع خلق اللہ کو شامل ہے، اور حضور کا ارشاد ۱۱ و کنت نبیا و ادم بین الروح والجسد ۱۲ (میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے۔ ت) اپنے معنی حقیقی پر ہے۔

اگر ہمارے حضور حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے زمانہ میں ظہور فرماتے، ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور کے مددگار ہوتے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور حضور کے نبی انبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسر اتمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتداء کی، اور اس کا پورا ظہور اروز نشور ہو گاجب حضور کے زیر لو اآدم و من سوا کافہ رسول و انبیاء ہوں گے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ و علیہم اجمعین۔ یہ رسالہ نہایت نفیس کلام پر مشتمل ہے امام جلال الدین نے خصائص کبریٰ اور امام شہاب الدین قسطلانی نے مواہب لدنیہ اور انہمہ مابعد نے اپنی تصاویف منیعہ میں نقل کیا اور اسے نعمت عظیمی و مواہب کبریٰ سمجھا من شاء التفصیل فلیرجع الی کلماتہم رحمة اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین (جو تفصیل چاہتا ہے وہ ان کے کلام کی طرف رجوع کرے ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ت)

با جملہ مسلمان بہ نگاہ ایمان اس آیہ کریمہ کے مقادات عظیمه پر غور کرے، صاف صریح ارشاد فرمادی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل الاصول ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں، اتنیوں کو جو نسبت انبیاء و رسول سے ہے وہ نسبت انبیاء و رسول کو اس سید الکل سے ہے، اتنیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ، اور رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گردیدگی فرماؤ۔ غرض صاف جدار ہے ہیں کہ مقصود اصلی ایک وہی ہیں باقی تم سب تابع و طفیلی ع

مقصود ذات اوست د گر جمکنی طفیل  
(مقصود ان کی ذات ہے باقی سب طفیل ہیں۔ ت)

<sup>1</sup> المستدرک للحاکم کتاب الایمان دار الفکر بیروت ۲۰۹/۲، کنز العمال بحوالہ ابن سعد حدیث ۷۶۹۱۸ م مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۸

آیہ لتو من بہ ولتنصر نہ کے بعض اطائف:

**اقول:** وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ (میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہتا ہوں۔ ت) پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مضمون کو قرآن عظیم نے کس قدر متم بالشان ٹھہرایا اور طرح طرح سے مؤکد فرمایا۔

**اولاً:** انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناٰء موصویں ہیں۔ زنہار حکم الٰہی کا خلاف ان سے محتمل نہیں۔ کافی تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ بطریق امر انہیں ارشاد فرماتا اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، مگر اس قدر پر اکتفاء نہ فرمایا بلکہ ان سے عہد و بیان لیا، یہ عہد عہد "اللَّٰهُ أَكْبَرُ" <sup>۱</sup> (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ت) کے بعد دوسرا بیان تھا، جیسے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ت) کے ساتھ محمد رسول اللہ (محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ت) تاکہ ظاہر ہو کہ تمام ماسوائے اللہ پر پہلا فرض ربوبیت اللہ یہ کا اذعان ہے۔ پھر اس کے برابر رسالت محمد یہ پر ایمان، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک و شرف و بجل و عظم۔

**ثانیاً:** اس عہد کو لام قسم سے مؤکد فرمایا:

تم ضرور اس کی مدد کرنا اور ضرور اس پر ایمان لانا۔ (ت)	"لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَصِّرُنَّ" <sup>۲</sup>
---	--

جس طرح نوابوں سے بیعتِ سلاطین پر فرمیں لی جاتی ہیں۔ امام سعکی فرماتے ہیں: شاید سو گند بیعت اسی آیت سے ماخوذ ہوئی ہے۔

**ثالثاً:** نون تاکید۔

**رابعاً:** وہ بھی ثقلیہ لا کر ثقل تاکید کو اور دو بالا فرمایا۔

**خامساً:** یہ کمال اہتمام ملاحظہ کیجئے کہ حضرات انبیاء ابھی جواب نہ دینے پائے کہ خود ہی تقدیم فرمائ کر پوچھتے ہیں: اقر رتم کیا اس امر پر اقرار لاتے ہو؟ یعنی کمال تعجیل و تجیل مقصود ہے۔

**سادساً:** اس قدر پر بھی بس نہ فرمائی بلکہ ارشاد ہوا:

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷/۱۷۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۳/۸۱

"وَأَحَدُنُمْ عَلَى ذِلْكُمْ إِصْرِيٌّ"<sup>۱</sup>۔ خالی اقرار ہی نہیں بلکہ اس پر میرا بھاری ذمہ لو۔

سابقاً: علیہ یا علی هذا کی جگہ "عَلَى ذِلْكُمْ"<sup>۲</sup> فرمایا کہ بعد اشارت عظمت ہو۔

ھامناً: اور ترقی ہوئی کہ "فَاشَهَدُوا"<sup>۳</sup>۔ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ حالانکہ معاذ اللہ اقرار کر کے مگر جانا ان پاک مقدس جنابوں سے معمول نہ تھا۔ تاسعاً: کمال یہ ہے کہ فقط ان کی گواہیوں پر بھی التفانہ ہوئی بلکہ ارشاد فرمایا:

"وَأَنَّا مَعَكُمْ تِبْيَانُ الشَّهِيدِينَ"<sup>۴</sup>۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ عاشرًا: سب سے زیادہ نہایت کاری ہے کہ اس قدر عظیم جلیل تاکیدوں کے بعد بالآخر انبیاء کو عصمت عطا فرمائی، یہ سخت شدید تہذید بھی فرمادی گئی کہ

اب وجوہ اقرار کے بعد پھرے گا فاسق تھہرے گا۔	"فَمَنْ تَوَلَّ يَعْذَذُ لَكُفَّارُ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقُونَ" <sup>۵</sup>
---	--

الله، اللہ! یہ وہی اعتمانے تام و اہتمام تمام ہے جو باری تعالیٰ کو اپنی توحید کے بارے میں منظور ہوا کہ ملائکہ معصومین کے حق میں ارشاد کرتا ہے:

جو ان میں سے ہے کہ میں اللہ کے سوا معبدوں ہوں اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستیگاروں کو۔	"وَمَنْ يَقْلُلْ مِنْهُمْ إِلَيْ رَبِّهِ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهُ كَجَهَّنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ" <sup>۶</sup>
---	--

گویا اشارہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ایمان کے جزا اول لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہے یوں نبی جز دوم محمد رسول اللہ سے اعتمانے تام ہے، میں تمام جہان کا خدا کہ ملائکہ مقررین بھی میری بندگی سے سرنہیں پھیر سکتے اور میرا محبوب سارے عالم کا رسول و مقتدا کہ انبیاء و مرسلین بھی اسکی بیعت و خدمت کے محیط و ائمہ میں داخل ہوئے۔

سب تعریفین اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے	والحمد لله رب العلمين. وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد و
---	--

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۸۱/۳

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۸۱/۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۸۱/۳

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۸۱/۳

<sup>۵</sup> القرآن الكريم ۸۲/۳

<sup>۶</sup> القرآن الكريم ۲۹/۲۱

<p>رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی لاکوٰ عبادت نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ اس کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں میں آخری نبی اور اگلوں اور پچھلوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود وسلام ہوں ان پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔ (ت)</p>	<p>الله وصحابہ اجمعین اشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له وان سيدنا محمدا عبدہ ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبیین واكرم الاولین والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الله واصحابه اجمعین۔</p>
--	--

اس سے بڑھ کر حضور کی سیادت عالم و فضیلت تام پر کون سے دلیل درکار ہے۔ وَلِلّهِ الْحَجَّةُ الْبَالَغَةُ (اور اللہ کی جدت پوری ہے۔ ت)

<p>دوسری آیت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب! ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔</p>	<p>آیت ٹانیہ: قَالَ عَزَّ مَجْدَهُ: "وَمَا أَنْهَا سَلْيَكَ إِلَّا هَاجَمَهُ لِلْعَالَمِينَ" <sup>۱</sup></p>
---	---

علم ماسوائے اللہ کو کہتے ہیں جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لاجرم حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالیٰ مدار سے بہرہ مند و فیضیاب۔ اسی لئے اولیائے کامیں و علمائے عالیین تصریح کیسی فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سماء میں اولیٰ و آخرت میں دین و دنیا میں روح و جسم میں چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی سب حضور کی بارگاہ میں جہاں پناہ سے مٹی اور ٹینی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ کما یتیاہ توفیق اللہ تعالیٰ فی رسالتنا سلطنتہ المصطفیٰ فی ملکوت کل الورزی۔ (جیسا کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے رسالہ "سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت الورزی" میں بیان کیا ہے۔ ت) امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا:

<p>جب حضور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں واجب</p>	<p>لما كان رحمة للعالمين لزمان</p>
---	------------------------------------

<sup>1</sup> القرآن الكريمه ۲۱/۱۰۷

علماء فرماتے ہیں: یہ آپ کریمہ دلیل ہے کہ انسیائے سالقین سب خاص اینی قوم پر رسول کوکے بچھ جاتے۔

اگلے انبیاء صرف اپنی قوم کے رسول ہوئے اور ہمارے رسول پر فرد مخلوق کے لئے

**اقول:** (میں کہتا ہوں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ اور فرمایا کہ شمود کی طرف انکی برادری سے صالح کو بھیجا۔ اور فرمایا: اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ اور فرمایا: مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ اور فرمایا: پھر ان کے بعد ہم نے موئی کو اپنی نشانیوں کے ساتھ

<sup>١</sup> مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) تحت الآية ٢٥٣/٢ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٥/٢

القرآن الكريم ٣/٣

القرآن الكريم / ٥٩

٤ القرآن الكريم / ٦٥

القرآن الكريم / ٣٧٥

٨٠ / الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ<sup>٦</sup>

القرآن الكريم / ٢٥

<p>اور فرمایا: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ اور فرمایا: اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ۔ اور عیلیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: اور رسول ہو گابنی اسرائیل کی طرف۔ (ت)</p>	<p>"إِلَيْكُمْ فِرَعَوْنُ وَمَلَأُهُمْ" <sup>۱</sup> وَقَالَ تَعَالَى "وَتَلَكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ" <sup>۲</sup> وَقَالَ تَعَالَى فِي يُونُسٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَآمَّرْنَا لَهُ إِلَيْكُمْ أَنْفُكَ أُوَيْنِيُّونَ" <sup>۳</sup> - وَقَالَ تَعَالَى فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَرَأَسْوَلًا إِلَيْنِي إِسْرَاءَعِيلَ" <sup>۴</sup> -</p>
---	---

اسی لئے صحیح حدیث میں فرمایا:

<p>نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا۔ (اس کو شیخین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ۔ رواہ الشیخان <sup>۵</sup> عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

دوسری روایت میں آیا:

<p>نبی ایک بستی کی طرف مبعوث ہوتا جس کے آگے تجاوز نہ کرتا۔ (اس کو ابو یعلیٰ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>کان النبی یبعث الی قریتہ ولا یعدوہا۔ رواہ ابو یعلیٰ عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	--

اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے فرماتا ہے:

<p>نہ بھیجا ہم نے تمہیں مگر سب لوگوں کیلئے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہے پہ بہت لوگ بے خبر ہیں۔</p>	<p>"وَمَا أَمْرَسْنَاكَ إِلَّا كَفَةً لِّتَنَاهِ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الظَّالِمِينَ لَا يَعْلَمُونَ" <sup>۶</sup></p>
--	--

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۷/۱۰۳

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۲/۸۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۷/۳۷

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۳/۲۹

<sup>۵</sup> صحیح البخاری کتاب التیمہ و موضع الصلوٰۃ قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۱۸۳، صحیح مسلم کتاب المساجد و موضع الصلوٰۃ قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۱۸۳

<sup>۶</sup> الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان بحوالہ ابی یعلیٰ حدیث ۲۳۲۵ مؤسسه الرسالہ بیروت ۱۹/۱۰۳

<sup>۷</sup> القرآن الكريم ۳۳/۲۸

<p>الله تعالیٰ نے فرمایا: تو فرما اے لوگو! میں خدا کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔</p> <p>الله تعالیٰ نے فرمایا: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتنا قرآن اپنے بندے پر کہ ڈرانے والا ہو سارے جہان کو۔</p>	<p>وقال تعالیٰ: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَأَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَئِيْعًا" <sup>۱</sup></p> <p>وقال تعالیٰ: "تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْرَدِكَ لَيْكُونَ لِلْعَلَمَيْنَ نَذِيرًا" <sup>۲</sup></p>
--	--

اسی لئے خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>میں تمام مخلوق الہی کی طرف بھیجا گیا (اس کو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>ارسلت الی الخلق کافۃ۔ اخر جه مسلم <sup>۳</sup> عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

حضور کی افضیلت مطلقہ کی یہ دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات سے ہے۔ دارمی، ابو یحییٰ، طبرانی، یہقیٰ روایت کرتے ہیں اس جانب نے فرمایا:

<p>بیشک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و ملائکہ سے افضل کیا۔</p>	<p>ان اللہ تعالیٰ فضل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الانبیاء و علی اہل السیاء۔</p>
--	---

حاضرین نے وجہ تفضیل پوچھی، فرمایا:

<p>یعنی اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کے لیے فرمایا ہے ہم نے نہ بھیجا کوئی رسول مگر ساتھ زبان اس کی قوم کے۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا: ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رسول سب لوگوں کیلئے تو حضور کو تمام انس و جن کا رسول بنایا۔</p>	<p>ان اللہ تعالیٰ قال: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِإِلْيَسَانِ قَوْمَهُ" ، وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ صلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةَ النَّاسِ فَأَرْسَلْهُ إِلَى الْأَنْسَ وَالْجَنِ <sup>۴</sup></p>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷/۱۵۸

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۵/۱

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوٰۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۹۹

<sup>۴</sup> الدر المنشور تحت الآية ۲/۱۳ دار احیاء التراث العربي بيروت ۵/۵ و ۲، شعب الایمان حدیث ۱۵۱ دار الكتب العلمية بيروت ۱/۳۷، سنن الدارمی باب ما اعطی النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الفضل حدیث ۲/۳۰ دار المحاسن للطباعة القاهرة ۱/۲۹۰

علماء فرماتے ہیں: رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے، اور محققین کے نزدیک ملکہ کو بھی شامل، کما حققناہ بتوفیق اللہ تعالیٰ فی رسالتہ "اجلال جبریل"۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر وارض و سماء و جبال و بحار تمام ماسوال اللہ اس کے احاطہ عالم و دائرہ تھا میں داخل، اور خود قرآن عظیم لفظ علمین، اور روایت صحیح مسلم میں لفظ خلق وہ بھی موکد بلکہ کافی۔ اس مطلب پر احسن الدلائل طبرانی مجتمع کبیر میں یعلیٰ بن مرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ لا کفرة الجن و الانسان <sup>۱</sup>	کوئی چیز نہیں جو مجھے رسول اللہ نہ جانتی ہو، مگر بے ایمان جن و آدمی۔
---	---

اب نظریجھ کر یہ آیت کتنی وجہ علیٰ سے افضلیتِ مطلقة حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جحت ہے: اولاً: اس موازنہ سے خود واضح ہے کہ انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم ایک ایک شہر کے ناظم تھے۔ اور حضور پر نور سید المرسلین صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ و علیہم اجمعین سلطان ہفت کشور، بلکہ بادشاہ زمین و آسمان۔ ثالثاً: اعباء رسالت سخت گرانبار ہیں۔ اور ان کا تحمل بغاوت دشوار "إِنَّ أَسْنَانَكُنَّ تُنَجِّلُ بَلَقَنَقِيلًا" <sup>۲</sup> (بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ت) اسی لیے موسیٰ وہارون سے عالی ہمتوں کو پہلے ہی تاکید ہوئی "لَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي" <sup>۳</sup> دیکھو میرے ذکر سے ست نہ ہو جانا۔ پھر جس کی رسالت ایک قوم خاص کی طرف اس کی مشقت تو اس تدریجس کی رسالت نے انس و جن و شرق و غرب کو گھیر لیا اس کی مؤنثت کس قدر۔ پھر جیسی مشقت ویسا ہی اجر، اور جتنی خدمت

علیٰ: ان میں بعض وجود افادہ علماء ہیں اور اکثر محمد اللہ تعالیٰ استخراج فقیر امنہ

<sup>۱</sup> المعجم الكبير حدیث ۶۷۲ المکتبة الفیصلیة بیروت ۲۲/۲۲، کنز العمال بحوالہ الطبرانی عن یعلیٰ بن مرحہ حدیث ۳۱۹۲۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۱/۳۱۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۵/۷۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۰/۲۲

اتنی ہی قدر افضل العبادات احمد زہا (سب سے افضل عبادت سب سے سخت ہوتی ہے۔ ت)

**ثالث:** جیسا کام جلیل ہو ویاہی جلالت والا اس کے لئے درکار ہوتا ہے۔ بادشاہ چھوٹی چھوٹی مہبوں پر افسران ماتحت کو بھیجتا ہے اور سخت عظیم مہم پر امیر الامراء سردار اعظم کو لاجرم رسالت خاصہ و بعثت عامہ میں جو تفرقہ ہے وہی فرق مراتب ان خاص رسولوں اور اس رسول الکل میں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین۔

**رابعًا:** یونہی حکیم کی شان یہ ہے کہ جیسے علوی شان کا آدمی ہو اسے ویسے ہی عالیشان کام پر مقرر کریں کہ جس طرح بڑے کام پر چھوٹے سردار کا تعین اس کے سرانجام نہ ہونے کا موجب، یونہی چھوٹے کام پر بڑے سردار کا تقرر نگاہوں میں اس کے ہلکے پن کا جالب۔

**خامسًا:** جتنا کام زیادہ اتنا ہی اس کے لیے سامان زیادہ۔ نواب کو اپنے انتظام ریاست میں فوج و خزانہ اسی کے لا اُن دیکار۔ اور بادشاہ عظیم خصوص اسٹولن ہفت اقلیم کو اس کے رتق و فتن و نظم میں اسی کے موافق۔ اور یہاں سامان وہ تائیدِ الہی و تربیتِ ربانی ہے جو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والشَّکر پر مبذول ہوتی ہے۔ تو ضرور ہے کہ جو علوم و معارف قلب اقدس پر القاء ہوئے معارف و علوم جمیع انبیاء سے اکثر واوی ہوں۔ افکارہ الامام الحکیم الترمذی و نقلہ عنہ فی الکبیر الرازی (امام حکیم ترمذی نے اس کا افادہ فرمایا ہے اور اس سے امام رازی نے کمیر میں نقل کیا ہے۔ ت)

**اوقل:** پھر یہ بھی دیکھنا کہ انبیاء کو ادائے امانت و ابلاغِ رسالت میں کن کن باقی کی حاجت ہوتی ہے۔  
(۱) حلم، کہ گستاخی کفار پر تنگ دل نہ ہوں۔

ان کی ایذ اپر در گز فرماؤ اور اللہ پر بھروسار کھو۔ (ت)	"وَدَعْنَآذَهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ " <sup>۱</sup>
تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ (ت)	(۲) صبر، کہ ان کی اذیتوں سے گھبرانہ جائیں۔
فَاصْبِرْ گَصَبَرْأُولُو الْعَزْمٍ مِنَ الرُّسُلِ " <sup>۲</sup>	

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۳۳/۷۸

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۳۶/۳۵

(۳) تواضع، کہ ان کی صحبت سے نفور نہ ہوں۔

اپنی رحمت کا بازو بچاؤ اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے۔ (ت)	"وَاحْفُظْ جَنَاحَكَ لِيَنَ اشْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" <sup>۱</sup>
---	---

(۴) رفق و لینت، کہ قلوب ان کی طرف راغب ہوں۔

تو کسی کچھ اللہ کی مہربانی کے اے محبوب ! تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ (ت)	"فِيمَا سَرَّ حُمَّةً مِّنَ اللَّهِ لِئَنَّهُمْ" <sup>۲</sup>
--	---

(۵) رحمت، کہ واسطہ فاضہ خیرات ہوں۔

اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں۔ (ت)	"وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ أَمْسَأْلُوكُمْ" <sup>۳</sup>
--	--

(۶) شجاعت، کہ کثرت اعداء کو خیال میں نہ لائیں۔

بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا۔ (ت)	"إِنَّمَا لَا يَخَافُ لَدَنِّيَ الْمُرْسَلُونَ" <sup>۴</sup>
--	--

(۷) محبود و سخاوت، کہ باعث تالیف قلوب ہوں۔

کیونکہ انسان احسان کا غلام ہے اور دلوں میں خلقی طور پر احسان کرنے والوں کی محبت ڈال دی گئی ہے اور اپنا ہاتھ اپنی گردan سے بندھا ہوانہ رکھ۔ (ت)	فَإِنَّ الْإِنْسَانَ عَبِيدُ الْأَحْسَانِ وَجَبَلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مِنْ أَحْسَنِ الْيَهَا。 "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوَةً إِلَى عُقْدَكَ" <sup>۵</sup>
--	--

(۸) عفو و مغفرت، کہ نادان جاہل فیض پا سکیں۔

تو نہیں معاف کر دو اور ان سے در گزر کرو بے شک احسان کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ (ت)	"فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" <sup>۶</sup>
--	--

(۹) استغنا و قیامت، کہ جہاں اس دعویٰ عظیٰ کو طلب دنیا پر محمود نہ کریں۔

اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے	"لَا تَسْتَدِّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَعَنَّاهُ" <sup>۷</sup>
---	--

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲۱۵ / ۲۲۶

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۱۵۹ / ۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۶۱ / ۹

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۱۰۹ / ۲۷

<sup>۵</sup> القرآن الكريم ۲۹ / ۱۷

<sup>۶</sup> القرآن الكريم ۱۳ / ۵

کچھ جوڑوں کو برتنے دی۔ (ت)	اَزْوَاجًاٰ قِمْمُهُمْ <sup>۱</sup> ۔
اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ (ت)	وَإِنْ حَكِيمٌ فَاحْكُمْ بِيَهُمْ بِالْقُسْطِ <sup>۲</sup> ۔
اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ (ت)	وَمَا آتَنَا سَنَاءً مِّنْ فَتْيَلَكَ إِلَّا بِرَجَالًا <sup>۳</sup> ۔
نہ کبھی اہل بادیہ و سکان وہ کو نبوت ملی کہ جفا و غلطت ان کی طینت ہوتی ہے:	
جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے (ت)	إِلَّا بِرَجَالٍ ثُوْجَّى إِلَيْهِمْ قِنْ أَهْلِ الْفَرْقَانِ <sup>۴</sup> ای اہل المصادر۔
<p>حدیث میں ہے: من بدأ جفا<sup>۵</sup>۔ (جس نے دیہات میں رہائش اختیار کی اس نے ظلم کیا۔ ت) اسی نظافتِ نسب و حسن سیرت و صورت سب کی صفاتِ جیلہ کی حاجت ہے کہ ان کی کسی بات پر نکتہ چیتی نہ ہو۔ غرض یہ سب انہیں خزان سے ہیں جو ان سلاطین حقیقت کو عطا ہوئے ہیں، پھر جس کی سلطنت عظیم اس کے خزان عظیم۔ حدیث میں ہے:</p>	
بے شک اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے مطابق معاونت نازل فرماتا ہے اور آزمائش کے مطابق صبر نازل فرماتا ہے۔ (ت)	انَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزُلُ الْمَعْوَنَةَ عَلَى قَدْرِ الْبَؤْنَةِ وَيَنْزُلُ الصَّبَرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ <sup>۶</sup> ۔
<p>تو ضرور ہوا کہ ہمارے حضور ان سب اخلاق فاضلہ و اوصافِ کاملہ میں تمام انبیاء سے اتم و اکمل و اعلیٰ و اجل ہوں۔ اسی لئے خود ارشاد فرماتے ہیں:</p>	

<sup>۱</sup> القرآن الكريمة ۸۸/۱۵

<sup>۲</sup> القرآن الكريمة ۳۲/۵

<sup>۳</sup> القرآن الكريمة ۱۰۹/۱۲

<sup>۴</sup> القرآن الكريمة ۱۰۹/۱۲

<sup>۵</sup> مسنند احمد بن حنبل عن البراء المكتب الاسلامي بيروت ۲/۲۹۷، المعجم لکبیر حدیث ۱۰۳۰ الکتبۃ الفیصلیۃ بيروت ۱/۷۵

<sup>۶</sup> کنز العمال بحوالہ عدوابن لال عن ابی هریرۃ حدیث ۱۵۹۹۲ مؤسسة الرسالہ بيروت ۲/۳۲۷

میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبسوٹ ہوا۔ (اس کو بخاری نے ادب میں اور ابن سعد، حاکم اور نیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ت)	انہاً بعثت لاتِمِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ۔ اخرجه البخاری فی الادب <sup>۱</sup> وابن سعد والحاکم والبیهقی عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسنده صحيح۔
--	--

وہب بن منبه فرماتے ہیں: میں نے اکہتر کتب آسمانی میں لکھا دیکھا کہ روز آفرینش دنیا سے قیام قیامت تک تمام جان کے لوگوں کو جنتی عقل عطا کی ہے وہ سب مل کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے ایسی ہے جیسے تمام ریگستان دنیا کے سامنے ریت کا ایک دانہ<sup>۲</sup>۔

ساوچا: ہم اپر بیان کر آئے کہ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ سب کو حادی۔ ترمذی جامع میں فائدہ تحسین واللفظ لہ، اور حاکم و نیہقی وابو نعیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور احمد مسنداً اور بخاری تاریخ میں، اور ابن سعد و حاکم و نیہقی وابو نعیم میسرة الفجر<sup>۳</sup> - رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابزار و طبرانی، ابوجعیم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ابوجعیم بطريق صنائی امیر المومنین عمر الغاروقي لا عظيم رضي الله تعالى عنه، اور ابن سعد ابن أبي الجعفر، و مطرف بن عبد اللہ بن الشنزير و عامر رضي الله تعالى عنهم سے باسانید تبیینہ والفاظ متقاربہ راوی حضور پر نور سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی: "مُقْوِجَبَتُ لِكَ النَّبُوَةُ" حضور کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ فرمایا: "وَأَدْمَرَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ"۔ جبکہ آدم در میان روح اور جسد کے تھے۔ جبل الحفظ امام عسقلانی نے کتاب الاصابہ

<sup>۱</sup> الادب المفرد حدیث ۱۲۷۳ المکتبۃ الاثریۃ سانکھہ ہل ص ۸۷، السنن الکبیڈی کتاب الشہادات بباب بیان مکارم الاحلaco دار صادر بیروت

<sup>۲</sup> ۱۹۲/۱۰، الطبقات الکبیڈی لابن سعد ذکر مبیعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ دار صادر بیروت ۱۹۲/۱۹۳

<sup>۳</sup> سبل الهدی والرشاد بباب الثالث دار الكتب العلمية بیروت ۱/۲۷۲

<sup>۴</sup> التاریخ الکبیر ترجمہ ۱۶۰۶ میسرة الفجر دار البیازمکہ المکرمة ۲/۳۷۲، الجامع الصغیر حدیث ۲۳۲۳ دار الكتب العلمية بیروت ۲/۲۰۰

<sup>۵</sup> جامع الترمذی کتاب المناقب بباب فضل النبي صلی اللہ علیہ وسلم امین کمپنی دہلی ۲/۲۰۱، المستدرک للحاکم کتاب التاریخ دار الفکر

<sup>۶</sup> بیروت ۲/۲۰۹، کنز العمال بحوالہ ابن سعد حدیث ۱۹۱/۳۲۱ و ۷۰۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۲۰۹

میں حدیث میرہ کی نسبت فرمایا: سندھ، قوی<sup>۱</sup> (اس کی سند قوی ہے۔ ت) ہے

آدم ستر و تن آب و گل داشت کو حکم بملک جان چان و دل داشت

(آدم علیہ السلام ابھی کارے کا مجسمہ تھے کہ آنحضرت کی حکومت دل و جان کی مملکت میں تھی۔ ت)

اسی لئے اکابر علماء تصریح فرماتے ہیں کہ جس کا خدا خالق ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النسوۃ میں فرماتے ہیں:

چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیدائش تمام مخلوق سے اعظم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبجوت فرمایا۔ آپ کی رسالت کو انسانوں میں منحصر نہیں فرمایا بلکہ جن و انس کے لیے عام کر دیا بلکہ جن و انس میں بھی انحصار نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لئے عام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کا پروردگار ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ (ت)

اب تو یہ دلیل اور بھی زیادہ عظیم و جلیل ہو گئی کہ ثابت ہوا جو نسبت انبیاء سے سابقین علیہم الصلوٰۃ والتساٰیم سے خاص ایک بستی کے لوگوں کو ہوتی وہ نسبت اس سرکار عرش وقار سے ہر ذرہ مخلوق وہر فرد ماسو اللہ یہاں تک کہ خود حضرات انبیاء و مرسلین کو ہے، اور رسول کا اپنی امت سے افضل ہونا بدیکی، والحمد لله رب العالمین (اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ت) اب تو یہ دلیل اور بھی زیادہ عظیم و جلیل ہو گئی کہ ثابت ہوا جو نسبت انبیاء سے سابقین علیہم الصلوٰۃ والتساٰیم سے خاص ایک بستی کے لوگوں کو ہوتی ہے وہ نسبت اس سرکار عرش وقار سے ہر ذرہ مخلوق وہر فرد ماسو اللہ یہاں تک کہ خود حضرات انبیاء و مرسلین کو ہے، اور رسول کا اپنی امت سے افضل ہونا بدیکی، والحمد لله رب العالمین (اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ت)

آیت رابعہ: "تَلَّكَ الرَّسُولُ قَصْلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُّنْهُمْ  
چو تھی آیت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان  
میں بعض کو بعض پر فضیلت دی

<sup>١</sup> الاصابة في تمييز الصحابة حرف البیم ترجمة ميسرة الفجر ٨٢٨٢ دار الفكر بيروت ٢١٧/٥

<sup>2</sup> مدارج النبوة بآب دوم درا خلاق عظیمه مکتبه نورہ رضوہ سکھر ۳۲/۱

<p>کچھ ان میں وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا، اور ان میں بعض کو درجوں بلند فرمایا۔</p>	<p>مَنْ لَّمْ أَلْهُ وَرَأَقَعْ بِعَضَهُمْ دَرَاجَتٍ <sup>۱</sup></p>
<p>انہم فرماتے ہیں یہاں اس بعض سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں کہ انہیں سب انبیاء پر رفت و عظمت بخشی۔</p> <p>جیسا کہ اس پر نص فرمائی ہے بغونی، بیضاوی، نسفی، سیوطی، قسطلانی، زرقانی، شامی اور حلبی وغیرہ نے، اور جلالین میں اس پر اقتصار اس بات کی دلیل ہے کہ یہی اصح ہے کیونکہ جلالین میں اس کا التزام کیا گیا ہے (کہ اصح پر ہی اقتصار کیا جاتا ہے)۔</p> <p>(ت)</p>	<p>کما نص علیہ البغوی <sup>۲</sup> والبیضاوی <sup>۳</sup> والننسفی <sup>۴</sup> والسبوطي والقسطلانی والزرقاوی والشامی والحلبی وغیرہم واقتصار الجلالین <sup>۵</sup> دلیل انہ اصح الاقوال للتزام بذلك في الجلالین۔</p>

اور یوں مبہم ذکر فرمانے میں حضور کے ظہور افضیلت و شہرت سیادت کی طرف اشارہ تامہ ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ نام لو یا نہ لو انہی کی طرف ذہن جائے گا، اور کوئی دوسرا خیال نہ آئے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فقیر کہتا ہے اہل محبت جانتے ہیں کہ ابہام تام میں کیا لطف و مزہ ہے۔ ع

اے گل بتو خرسند تو بوئے کے داری

(اے پھول اتجھ پر شادمانی ہے کہ تو کسی کی خوشبو کھتا ہے۔ ت)

۔ خودہ اے دل کی مسیحانے مے آید کہ زانفاسخونوش بش بوئے کے می آید

(اے دل! خوشخبری ہو کہ مسیح آتا ہے، جس کے عمده سانسوں سے کسی کو خوشبو آتی ہے۔ ت)

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲/۲۵۳

<sup>۲</sup> معالم التنزيل (تفسير البغوی) تحت الآية ۲/۲۵۳ دار الكتب العلمية بيروت ۱/۷۷

<sup>۳</sup> انوار التنزيل (تفسير البیضاوی) تحت الآية ۲/۲۵۳ دار الفكر بيروت ۱/۵۳۹ ۵۵۰

<sup>۴</sup> مدارك التنزيل (تفسير النسفی) تحت الآية ۲/۲۵۳ دار الكتاب العربي بيروت ۱/۷۲

<sup>۵</sup> تفسير جلالين تحت الآية ۲/۲۵۳ صح المطابع دلى ص ۳۹

## ع کسی کا دو قدم چلنا یہاں پامال ہو جانا

پانچویں آیت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہی ہے جس نے بھیجا پنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اسے غالب کرے سب دنیوں پر۔ اور خدا کافی ہے گواہ۔	آیت خمسہ: قال تبارک عَلَيْهِ اَسْمَاءُ وَالْمَنْدَابُ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَنَا رَسُولَكَ بِإِنْهَاكِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَ كَمَّا أَنْهَاكَ الْمُرْسَلِينَ كُلَّهُ طَوْ گُفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ <sup>1</sup>
--	---

اور اس است مر حومہ سے فرماتا ہے:

تم سب سے بہترامت ہو کہ لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔	۲۴- لَئِنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلشَّائِسَ <sup>2</sup>
--	---

امام ابن سبع نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ ہماری شریعت تمام شریعتوں کیلئے ناتھ ہے جیسا کہ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس کو ذکر فرمایا اور یہ افادہ کیا کہ اس آیت میں دین اپنے حقیقی عموم پر ہے جو سابقہ تمام ادیان حقہ کو شامل ہے اور زمانہ اسلام میں پائے جانے والے ادیان کفار کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ لام پورا ہو امنہ (ت)

اس آیت کریمہ سے امام الرازی، تفتازانی، قسطلانی اور ابن حجر مکی وغیرہ نے استدلال کیا اور عبد ضعیف نے اس کے ساتھ پہلی آیت کو ملایا تو یہ جدال سے سلامت ہوئی جیسا کہ غور کرنے والا جانتا ہے۔ منہ

۱: حاشیہ استدلل الامام ابن سبع بهذه الاية على ان شرعنان اسخ الشرائع كما ذكره في الخصائص الكبرى ففداد ان الدين في الاية على عمومه الحقيقي شامل الاديان الحقة السابقة غير مختص باديان الكفار الموجودة في زمن الاسلام فتم الكلام <sup>3</sup> منه.

۲: استدلل بهذه الاية الرازى و التفتازانى و القسطلانى و ابن حجر المکى و غيرهم و العبد الضعيف ضم اليها الاية الاولى فسلمت من الجدال كما يعرفه البتأمل <sup>4</sup> منه.

<sup>1</sup> القرآن الكريم ۲۸/۲۸<sup>2</sup> القرآن الكريم ۱۱۰/۳<sup>3</sup> الخصائص الكبرى بباب اختصاصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ مکرزاں سنت برکات رضا گجرات ہند ۱۸۷/۲

آیات کریمہ ناطق کہ حضور کا دین تمام ادیان سے اعلیٰ و اکمل اور حضور کی امت سب امم سے بہتر و افضل، تو لاجرم اس دین کا صاحب اور اس امت کا آقاب دین و امت والوں سے افضل و اعلیٰ امام احمد و ترمذی بافادہ حجیسین و ابن ماجہ و حاکم معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

<p>تم ستر امتوں کو پورا کرتے ہو کہ اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر و بزرگ تر تم ہو۔</p> <p><b>چھٹی آیت:</b> اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ (ت)</p> <p>اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام۔</p> <p>اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم بے شک تو نے خواب بھ کر دکھایا۔</p> <p>اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ہی ہوں اللہ (ت)۔</p> <p>اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ (ت)</p> <p>اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا۔ (ت)</p>	<p>انکم تتبیون سبعین امة انتم خیرها و اکرمها علی اللہ<sup>۱</sup>۔</p> <p><b>آیت سادوسہ:</b> قَالَ جَلَتْ عَظِيمَتُهُ: "يَا أَدَمُ إِسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" <sup>۲</sup>۔</p> <p>وَقَالَ تَعَالَى "يَئُؤْمُحُّ أَهْبِطُ بِسَلَامٍ مَّا" <sup>۳</sup>۔</p> <p>وَقَالَ تَعَالَى: "يَأَبْرَاهِيمُ لَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّءُبَيْعَ" <sup>۴</sup>۔</p> <p>وَقَالَ تَعَالَى "لَيْلُوَّسِي إِلَيَّ أَنَّا اللَّهُ" <sup>۵</sup>۔</p> <p>وَقَالَ تَعَالَى "لَيْعِيسَى إِلَيْكَ مُؤْمِنُكَ" <sup>۶</sup>۔</p> <p>وَقَالَ تَعَالَى "لَيْدَأُدْرَاكَأَجَعَلْنَكَ حَلِيقَةً" <sup>۷</sup>۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> جامع الترمذی ابواب التفسیر تحت الآية ۳/۱۰۰، مسنون امام احمد حنبل عن ابی سعید الخدري المكتب الاسلامی بیروت ۱/۳، کنز العمال حدیث ۳۳۲۶۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲/۱۵۷

<sup>۲</sup> القرآن الكريمه ۲/۳۵

<sup>۳</sup> القرآن الكريمه ۱۱/۳۸

<sup>۴</sup> القرآن الكريمه ۷/۱۰۵

<sup>۵</sup> القرآن الكريمه ۲۸/۳۰

<sup>۶</sup> القرآن الكريمه ۳/۵۵

<sup>۷</sup> القرآن الكريمه ۳۸/۲۶

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ز کریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں۔ (ت) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیجی کتاب مصبوط تھام۔ (ت)	<b>وقال تعالیٰ "لَيْسَ كُرِيَّا إِنَّا نَبِيَّكُمْ" ۱</b> <b>وقال تعالیٰ "بِيَحِيٍ حُذَّلَ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ" ۲</b>
---	--

غرض قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کو نام لے کر پکارتا ہے مگر جہاں محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے حضور کے اوصاف جلیلہ والقب حمیدہ ہی سے یاد کیا ہے۔ "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْرَسْلَنَاكَ" <sup>۳</sup>۔ اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔ "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلِهِ مَا أَنْزَلْتِ إِلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ" <sup>۴</sup>۔ اے رسول پہنچا جو تیری طرف اتر۔ "يَا أَيُّهَا الْمَرْرُمُلُ قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا" <sup>۵</sup>۔ اے کپڑا اوڑھے لینے والے رات میں قیام فرم۔ "يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ قُمْ فَانْدِسْ" <sup>۶</sup>۔ اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو، لوگوں کو ڈر سن۔ "لِيَسْ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ لَعِنَ الْمُرْسَلِينَ" <sup>۷</sup>۔ اے لیں یا اے سردار مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں سے ہے۔ "طَهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِقَ" <sup>۸</sup>۔ اے ط! یا اے پاکیزہ رہنماء! ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔

ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جوان نداوں اور ان خطابوں کو سننے کا بالبداہت حضور سید المرسلین و انبیائے سابقین کا فرق جان لے گا ع

یاد مsst با پدر انبیاء خطاب	یا یکہ الْبَنِی خطاب محمد است
-----------------------------	-------------------------------

(۱) اے آدم! "نبیوں کے باپ کے لیے خطاب ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے۔" (اے نبی) (ت)  
 امام عز الدین بن عبد السلام وغیرہ علمائے کرام فرماتے ہیں بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے اے مقرب حضرت

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۷/۱۹

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱۲/۹

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۳۵/۳۳

<sup>4</sup> القرآن الکریم ۲۷/۵

<sup>5</sup> القرآن الکریم ۲۱/۷۳

<sup>6</sup> القرآن الکریم ۲۱/۷۳

<sup>7</sup> القرآن الکریم ۳۶/۳۶

<sup>8</sup> القرآن الکریم ۲۱/۲۰

اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت تو کیا کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عائد وار کین سے بڑھ کر پیارا ہے۔

فقیر کہتا ہے غفر اللہ تعالیٰ لہ، خصوصاً "يَأَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" <sup>۱</sup>، اے کپڑا اور ہے لینے والے۔ (ت) "يَأَيُّهَا الْمُذَكَّرُونَ" <sup>۲</sup>۔ اے جھرمٹ مارنے والے۔ (ت) تو وہ پیارے خطاب ہیں جن کامزہ اہل محبت جانتے ہیں ان آئیوں کے نزول کے وقت سید عالم صلی تعالیٰ علیہ وسلم بالا پوش اور ہے، جھرمٹ مارے لیٹے تھے، اسی وضع و حالت سے حضور کو یاد فرماء کرنا کی گئی، بلا تشییہ جس طرح سچا چاہنے والا اپنے پیارے محبوب کو پکارے: او بائی ٹوپی والے، او دھانی دوپٹے والے ع او دامن اٹھا کے جانے والے

فسیحان اللہ و الحمد و الصلوٰۃ الزہراء علی الحبیب ذی الجاہ۔ اللہ تعالیٰ کو پا کی ہے اور تمام تعریفِ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور روشن درود و جہت والے محبوب پر۔ (ت)

ثم اقول: (پھر میں کہتا ہوں۔ ت) نہایت یہ ہے کہ اشقیائے یہود مدینہ و مشرکین مکہ جو حضور سے جاہلانہ گفتگو میں کرتے۔ ان مقالات خیشہ کو بغرض رد و ابطال و خروجہ رسانی عذاب و نکال بارہا نقل فرمایا کیا مگر ان گستاخوں کی اس بے ادبانہ ندکا کہ نام لے کر حضور کو پکارتے۔ محل نقل میں ذکر نہ آیا۔ ہاں جہاں انھوں نے وصف کریم سے ندا کی تھی، اگرچہ ان کے زعم میں بطور استہزا تھی، اسے قرآن مجید نقل کر لایا کہ:

بولے اے وہ جس پر قرآن اتر۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،	"قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَرَّلَ عَلَيْهِ الْدِّيْنُ" <sup>۳</sup>
---	---

بخلاف حضرات انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ و التسلیم کہ ان کے کفار کے مخاطبے ویسے ہی منقول ہیں۔

اے نوح تم ہم سے جھگڑے، کیا تم نے ہمارے	"يُؤْحُّ قَدْ جَدَلْنَا" <sup>۴</sup> ۔ "أَنْتَ فَعَلْتَ
--	--

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷۳

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۷۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۵

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۳۲

خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم! اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ اے صالح ہم پر لے آو جس تم وعدہ دے رہے ہو۔ اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتیں تمہاری بہت سی باتیں (ت)

هذا إِلَيْكُمْ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ<sup>①</sup>۔ "إِيُّوسَى اذْعُنْ لَنَّا رَبُّكَ إِنَّا عَاهَدْتُمْ عِنْدَكَ"<sup>②</sup>۔ "إِلَصْلِحْ أَنْتَنَا إِنَّا تَعْدُنَا"<sup>③</sup>۔ "إِشْعَيَّبْ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا قَمَّا تَعْوَلْ"<sup>④</sup>۔

بلکہ اس زمانہ کے مطیعین بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یونہی خطاب کرتے ہیں اور قرآن عظیم نے اسی طرح نقل فرمائی، اسپاٹ نے کہا:

اے موسیٰ! ہم سے تو ایک کھانے پر ہر گز صبر نہ ہو گا۔	"إِيُّوسَى لَنْ نُصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَاحِدٍ" <sup>۵</sup>
---	--

حوالیوں نے کہا:

اے عیسیٰ بن مریم! کیا آپ کارب ایسا کرے گا۔ (ت)	"إِيُّوسَى ابْنَ مَرْيَمَ هُلْ يَسْتَهِنُ بِرَبِّكَ" <sup>۶</sup>
--	---

یہاں اس کا یہ بندوبست فرمایا کہ اس امت مرحومہ پر اس نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کا نام پاک لے کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرایا:

الله تعالیٰ نے فرمایا: رسول کا پکارنا آپس میں ایسا نہ ٹھہرالو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔	قالَ اللَّهُ تَعَالَى: "لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَذَّابَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا" <sup>۷</sup>
--	--

کہ اے زید، اے عمرو۔ بلکہ یوں عرض کرو: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سدی المرسلین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین، صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم و علی الکاجمعین۔

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲۱/۴۲

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۷/۱۳۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۷/۷۷

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۱۱/۹۱

<sup>۵</sup> القرآن الكريم ۲/۶۱

<sup>۶</sup> القرآن الكريم ۵/۱۱۲

<sup>۷</sup> القرآن الكريم ۲۳/۷۳

ابو نعیم حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں راوی:

یعنی پہلے حضور کو یا محمد یا بالقاسم کہا جاتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کو اس سے نہی فرمائی، جب سے صحابہ کرام یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہا کرتے۔	قال کانوا یقولون یا مُحَمَّدٌ یا ابا القاسم فَهُمْ اَهُوَ عَن ذَلِكَ اعظَمًا لَنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ <sup>۱</sup>
--	--

یہیق امام علقہ و امام اسود اور ابو نعیم امام حسن بصری و امام سعید بن جبیر سے تفسیر کریمہ مذکورہ میں راوی:

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہو۔	لَا تَقُولُوا يَا مُحَمَّدٌ وَلَكُنْ قُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ <sup>۲</sup>
--	--

اسی طرح امام قادہ تلمیذ انس بن مالک سے روایت کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہذا علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔

اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کامالک و مولیٰ تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے غلام کی کیا مجال کہ راہِ ادب سے تجاوز کرے بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا: گریہ لفظ کسی دعاء میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی جیسے دعائے یا محدثانی توجہت بلکہ الی ربی<sup>۳</sup>۔ اے محمد! میں آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ (ت) تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ چاہیے، حالانکہ الفاظ دعاء میں حتیٰ الوضع تغیر نہیں کی جاتی۔ کما یدل علیہ حدیث نبیک الذی ارسلت ورسولک

<sup>۱</sup> دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الاول عالم الكتب بيروت الجزء الاول ص ۷، الدر المنشور تحت الآية ۲۳/۲۳ دار احياء التراث العربي

۲۱۱/۲۱۱

<sup>۲</sup> تفسیر الحسن البصري تحت الآية ۲۳/۲۳ المكتبة التجارية مكة المكرمة ۲/۲۳، الدر المنشور بحواله عبد بن حبید عن سعید بن جبیر والحسن تحت الآية ۲۳/۲۳ دار احياء التراث العربي بيروت ۲۱۱/۲۱۱

<sup>۳</sup> المستدرک للحاکم کتاب صلوٰۃ التطوع دعاء رد البصر دار الفکر بيروت ۱/۳۱۳، سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ بباب ماجہ فی حاجة الصلوٰۃ ایم سعید کپنی کراچی ص ۱۰۰

الذی ارسلت (جیسا کہ اس پر دلالت کرتی ہے حدیث مبارک ۱۱ تیر انبی جس کو تو نے بھیجا اور تیر ارسول جس کو تو نے بھیجا ۱۱ ت) یہ مسئلہ ممّہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں نہایت واجب الحفظ ہے۔ فقیر غفر اللہ تعالیٰ لئے نے اس کی تفصیل اپنے مجموعہ فتاویٰ مسمیٰ به العطاۃ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں ذکر کی۔ و باللہ التوفیق۔ خیر یہ ت خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ حضور کے صدقہ میں اس امت مرحومہ کا خطاب بھی خطاب امم سابقہ سے ممتاز ٹھہرا۔ اگلی اموتوں کو اللہ تعالیٰ یا ایہا المساکین<sup>۱</sup> فرمایا کرتا۔ توریت مقدس میں جا بجا یہی لفظ ارشاد ہوا ہے، قاله خیشیة رواہ ابن ابی حاتم اور دہ السیوطی فی الخصائص الکبڑی (یہ خیثہ نے کہا جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں وارد کیا ہے۔ ت) (یہ خیثہ نے کہا جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں وارد کیا ہے۔ ت) اور اس مت مرحومہ کو جب ندا فرمائی ہے "یا یہاں لذینِ امّؤا"<sup>۲</sup> فرمایا گیا ہے، یعنی اے ایمان والو! امتی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا خصیلت ہو گی۔ سچ ہے پیارے کے علاقہ والے بھی پیارے۔ آخر نہ سنائے فرماتا ہے:

میری پیر وی کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ ساتویں آیت: حق جل جلالہ اپنے حبیب کریم علیہفضل الصلوٰۃ والتسلیم سے فرماتا ہے: تیری جان کی قسم وہ کافر اپنے نش میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں قسم یاد کرتا ہوں اس شہر کی کہ تو اس میں جلوہ فرمابے۔	<b>فَإِنَّهُ عُوْنَىٰ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ۝</b> <sup>۳</sup> آیت سابعہ: قال جل جلالہ "لَعَمْرَاكَ إِنَّهُمْ لَغُافِلُونَ ۝ سَكَرٌ تَهْمُمُ يَعْمَهُونَ ۝" <sup>۴</sup> ۔ وَقَالَ تَعَالَى: لَا أُقْسِمُ بِلِهَدِ الْبَكَدِ ۝ وَأَنْتَ حَلٌّ بِلِهَنَا الْبَكَدِ ۝ <sup>۵</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> نسیم الریاض البیاب الاول الفصل الثالث مرکزہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۱۸۸/۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۸۳/۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۳۱/۳

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۷۲/۱۵

<sup>۵</sup> القرآن الکریم ۲۱/۹۰

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے قسم ہے رسول کے اس ہننے کی کہ اے رب میرے! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم زمان برکت نشان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔	<b>وقال تعالیٰ عَزَّ:</b> "وَقَبِيلهِ يَرِتْ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا <b>يُؤْمِنُونَ</b> " <sup>۱</sup> ۔ <b>قال تعالیٰ:</b> "وَالْعَصِيرُ" <sup>۲</sup> ۔
---	--

اے مسلمان! یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں اے مسلمان! محبوبیت کبری کے یہی معنی ہیں **وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ (اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پور دگار ہے تمام جہانوں کا۔ت)

ابن مردویہ اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کو قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ آیہ: لعمرک میں فرمایا تیری جان کی قسم اے محمد عَزَّ	<b>مَاحَافِ اللّٰهِ بِحَيَاةِ احَدِ الْأَبْحَيَاةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</b> قال تعالیٰ: "لَعَمْرُكَ إِنَّكُمْ لَفِي سَكُونٍ تَّيْمُونُ <b>يَعْجِمُونَ</b> " وَحِيَاةِكَ يَا مُحَمَّدٌ <sup>۳</sup> ۔
---	---

ع۱: قلت اغفل الامام القسطلانی نے مواعیب میں اس کی طرف توجہ نہ فرمائی جبکہ تفسیر مدارک میں امام نسفی نے اس آیہ کریمہ میں اس معنی کو روایت کھا منہ (ت)۔

ع۲: ذکر هذه التأویل في التفسیر الكبير ثم القاضی علیه و سلم قال تعالیٰ: "لَعَمْرُكَ إِنَّكُمْ لَفِي سَكُونٍ تَّيْمُونُ يَعْجِمُونَ" وَحِيَاةِكَ يَا مُحَمَّدٌ<sup>۳</sup>۔

اس تاویل کو (امام رازی نے) تفسیر کبیر میں پھر قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا امام قسطلانی نے ان کی اتباع کی اور زرقانی نے اس کو برقرار رکھا۔ت)

البیضاوی فی تفسیرہ و تبعہما القسطلانی و اقرہ الزرقانی نے اس منہ۔

۱۲ منہ۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۸۸/۳۳

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱/۱۰۳

<sup>۳</sup> الدر المنشور بحوالہ ابن مردویہ تحت الایہ ۱۵/۲۷ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۸۰

ابو یعلیٰ، ابن جریر، ابن مردویہ، ابن بیهقی، ابو نعیم، ابن عساکر، بغوی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

<p>اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے تیری جان کی قسم وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔</p>	<p>ما خلق اللہ و مَا ذرَاء و مَا براء نفساً اکرم علیہ من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و مَا حلف اللہ بحیاتِ احد الاحیاءَ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَعَمَّا رَأَيْتُمْ لَعْنَ سَكُونٍ تَقْدِيمَ يَعْمَلُونَ<sup>①</sup> ۔</p>
--	--

امام حجۃ الاسلام عَلیٰ محدث عَلیٰ احیاء العلوم اور امام محمد بن الحاج عبد ربی مکی مد خل اور

اس کو احیاء العلوم اور مد خل میں مفصل ذکر کیا ہے جبکہ موابہب و نسیم میں اس سے کلمات ذکر کیے گئے ہیں۔ اور یونہی امام تقاضی عیاض نے شفاء میں ذکر فرمایا۔ امام سیوطی نے اس کو مناہل صفائح صاحب اقتباس الانوار کی طرف منسوب کیا۔ ابن الحاج نے اپنی کتاب مد خل میں کہا کہ اس کی مثل کے لیے یہ سند کافی ہے کیونکہ اس کے ساتھ شرعی احکام متعلق نہیں ہوتے اور اس کو نسیم میں ذکر کیا ہے۔ (بات اگلے صفحہ پر)

عَهْ ذَكْرَهُ فِي أَحْيَاءِ الْمَدِّخَلِ بِطُولِهِ وَفِي الْمَوَاهِبِ وَالنَّسِيمِ كَلِمَاتُهُ مِنْهُ، وَكَذَا الْإِمَامُ الْقَاضِي عَيَاضُ فِي الشَّفَاعَةِ وَعِزَّةِ الْإِمَامِ الْجَلَلِ السِّيَوْطِيُّ فِي مَنَاهِلِ الصَّفَا صَاحِبُ اقْتِبَاسِ الْأَنوارِ وَلَابْنِ الْحَاجِ فِي مَدِّخَلِهِ قَالَ وَكَفِي بِذَلِكِ سِنَدُ الْمِثْلِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ اهْوَ ذَكْرَهُ فِي النَّسِيمِ<sup>۲</sup> ۔

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحوالہ ابی یعلیٰ و ابن جریر و ابن مردویہ و البیهقی تحت الآیہ ۱۵/۲۷، جامع البیان تحت الآیہ ۱۵/۲۷ دار

احیاء التراث العربي ببیروت ۵۳/۱۳، ۵۵ دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الرابع عالم الكتب ببیروت الجز الاول ص ۱۲

<sup>۲</sup> نسیم الریاض فی شرح فاء القاضی العیاض الفصل السابع مرکز اصل السنن گرجات ہند ۲۲۸/۱

امام احمد محمد خطیب قسطلانی مواہب لدنیہ اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں ناقل حضرت امیر المومنین عمر فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث طویل میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں:

<p>یار رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان پیش حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی۔ اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی</p>	<p>بابی انت و امی یا رسول اللہ لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالیٰ ان اقسام بحیاتک دون سائر الانبياء ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسام بترا بقدمیک فقال:</p>
--	---

اقول: میں کہتا ہوں وہ طویل و نفیس کلام ہے جس کے ساتھ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرثیہ ہماجکہ ان کے لیے صدقیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے آپ کی موت ثابت ہو گئی جیسا کہ طویل حدیث کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی کی شرح مواہب کے مقصد سادس میں آیت کریمہ "لا اقسام بھذا البلد" کے تحت جو واقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہی اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے جس پر متنبہ کرنا چاہیے (۱۲ منز)

اقول: وہ کلام نفیس طویل جلیل رثی بہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین تحقق لہ موتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخطبۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما یظهر بمراجعۃ الحدیث بطلہ فیما وقع فی شرح المواہب للعلامة الزرقانی فی المقصد السادس تحت آیۃ "لا اقسام بھذا البلد" ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقرہ علیہ <sup>۱</sup> اہ سہو یعنی التنبیہ له <sup>۲</sup> منه۔

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ المقصد السادس النوع الخامس الفصل الخامس المکتبہ الاسلامی بیروت ۲۳۳/۶

کہ ارشاد کرتا ہے مجھے قسم اس شہر کی۔ (ت)

"لَا أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلْكِيرِ" <sup>۱</sup>

شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ مدارج میں فرماتے ہیں:

یہ لفظ ظاہری نظر میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف نسبت کرنے میں سخت ہیں۔ جب یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت رسالت مآب کی خاک پاکی قسم ارشاد فرماتا ہے اور نظر حقیقت میں معنی بالکل پاک و صاف ہے کہ اس پر غبار نہیں اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم یاد فرمانا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک لوگوں کے نسبت اس چیز کا شرف، فضیلت اور ممتاز ہونا ظاہر ہو جائے تاکہ وہ جان لیں کہ یہ چیز عظمت و شرف والی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی نسبت اعظم ہے ان (ت)

ایں لفظ در ظاہر نظر سخت مے در آید نسبت بجانب عزت چوں گویند کہ سو گندے خورد بجا کپائے حضرت رسالت و نظر بحقیقت معنی صاف و پاک است کہ غبارے نیست برآں تحقیق ایں سخن آنست کہ سو گند خوردن حضرت رب العزت جل جلالہ بچیزے غیر ذات و صفات خود برائے اطمینان شرف و فضیلت و تمیز آں چیز است نزد مردم و نسبت بایشان تا بد انند کہ آں امر عظیم و شریف است، نہ آنکہ اعظم است نسبت بوئے تعالیٰ ان <sup>۲</sup>۔

آیت قامنة (آٹھویں آیت): قرآن عظیم میں جا بجا حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناٰ سے کفار کی جاہلیۃ جدال مذکور جس کے مطالعہ ظاہر کہ وہ اشقياء طرح طرح سے حضرات انبیاء میں سخت کلامی و بیہودہ گوئی کرتے اور حضرات رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے حلم و عظیم و فضل کریم کے لائق جواب دیتے۔ سید ناوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ان کی قوم نے کہا:

بیشک ہم تمھیں کھلا گراہ سمجھتے ہیں۔

"إِنَّ الَّذِينَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينُونَ" <sup>۳</sup>

فرمایا:

اے میری قوم! مجھے گمراہی سے کچھ علاقہ نہیں

"إِيَّوْمَ لَيْسَ فِي ضَلَالٍ تَّوَّ"

<sup>۱</sup> المواهب الدینیہ المقصد السادس النوع الخامس الفصل الخامس المكتب الاسلامی بیروت ۳/۲۱۵، نسیم الریاض فی شرح شفاء

القاضی عیاض الباب الاول الفصل الرابع مركز الہستہ ہند ۱۹۶۱

<sup>۲</sup> مدارج النبوة باب سوم دریان فضل و شرافت مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۱/۶۵

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۷/۲۰

میں تو رسول پروردگار عالم کی طرف سے۔

لِكَيْنِ رَسُولُّ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ① "۔

سیدنا ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عاد نے کہا:

یقیناً ہم تمحیص حماقت میں خیال کرتے ہیں، اور ہمارے گمان میں تم بے شک جھوٹے ہو۔

"إِنَّ الْكَرِبَلَةَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّكَ لَكَذَّابٌ مِنَ الْكُذَّابِينَ ② "۔

فرمایا:

اے میری قوم! مجھ میں اصلاً سفاہت نہیں، میں تو پیغمبر ہوں  
رب اعلیٰ میں کا۔

"إِنَّكُمْ لَيْسُونَ بِسَفَاهَةٍ وَ لِكَيْنِ رَسُولُّ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ③ "۔

سیدنا شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مدین نے کہا:

ہم تمحیص اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے ساتھ کے یہ چند آدمی نہ ہوتے تو ہم تمحیص پھر وہ سے مارتے، اور کچھ تم ہماری نگاہ میں عزت والے نہیں۔

"إِنَّ الْكَرِبَلَةَ فِي سَفَاهَةٍ أَعْلَمُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَ لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجُلُكَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْنَا لِأَعْزَى يَوْمَيْنِ ④ "۔

فرمایا:

اے میری قوم! کیا میرے کنبے کے یہ معدود لوگ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ زردست ہیں اور اسے تم بالکل بھلانے بیٹھے ہو۔

"إِنَّكُمْ أَرَهَطُنَّ أَعْذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَ رَأَءْتُمُوهُ كُمْ ظَهْرِيَّاً ⑤ "۔

سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرعون نے کہا:

میرے گمان میں تو اے موسی! تم پر جادو ہوا۔

"إِنِّي لَكُذَّابٌ يَوْمَ لِي مَسْحُورًا ⑥ "۔

فرمایا:

تو خوب جانتا ہے کہ انھیں نہ اتنا مگر آسمان و زمین کے مالک نے دلوں کی آنکھیں کھولنے کے، اور میرے یقین میں تو اے فرعون! تو ہلاک

"لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ لَكَ هُنْوَ إِلَهُ الْمُلْكُ السَّلَوَاتِ وَ الْمُرْضِ بَصَارَهُ وَ إِنِّي لَكَ مُؤْكِذٌ لِي فِي قَعْدَهٖ ⑦ "۔

<sup>1</sup> القرآن الكريمه ۷۶/۱۹

<sup>2</sup> القرآن الكريمه ۷۶/۲۲

<sup>3</sup> القرآن الكريمه ۷۶/۲۷

<sup>4</sup> القرآن الكريمه ۹۱/۹

<sup>5</sup> القرآن الكريمه ۹۲/۱۱

<sup>6</sup> القرآن الكريمه ۱۰۱/۱

ہونے والا ہے۔	مَنْتَهُوْرًا ﴿۱﴾
---------------	-------------------

مگر حضور سید المرسلین افضل المحبوبین محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی خدمت والا میں کفار نے جوز بان درازی کی ہے ملک السماوات والارض جل جلالہ خود متنکفل جواب ہوا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ مدافعہ فرمایا ہے۔ طرح طرح حضور کی تنزیہ و تبریت ارشاد فرمائی۔ جا بجا رفع الزام اعدائے ایام پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی مغنی عزیز مددوہ نے ہر جواب خطاب سے حضور کو غنی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور کے خود جواب دینے سے بد رجہا حضور کے لیے بہتر ہوا۔ اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے کہ نہایت نہیں رکھتا۔

"ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتَيْهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلَاتِ الْعَظِيمَ" <sup>①</sup> (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ت) (۱) کفار نے کہا:

اے وہ جن پر قرآن اترا، بیشک تم مجھوں ہو۔	"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُرِثْلَ عَلَيْهِ الْأُذُنُ كُمْ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ" <sup>۲</sup> ۔
--	--

حق جل وعلانے فرمایا:

فقط قلم اور نوشته ہائے ملائک کی تو اپنے رب کے فضل سے ہر گز مجھوں نہیں۔ اور بے شکنی رے لیے اجر بے پایا ہے۔	"نَ وَالْقَلْمَنْ وَمَا يَسْطُرُونَ لِمَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَاجْنُونٍ" <sup>۴</sup> ۔ "وَإِنَّكَ لَا جُرَاحَ عَيْدَ مَمْسُونٍ" <sup>۵</sup> ۔
--	---

کہ تو ان دیوالوں کی بذریعی پر صبر کرتا اور حلم و کرم سے پیش آتا ہے۔ مجھوں تو چلتی ہوا سے الجھا کرتے ہیں، تیرسا حلم و صبر کوئی تمام عالم کے عقلاء میں تو بتا دے۔

اور بے شک تو ہرے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے۔	"وَإِنَّكَ تَعْلَى حُكْمَ كَظِيمٍ" <sup>۶</sup> ۔
---	---

کہ ایک حلم و صبر کیا تیری خصلت ہے اس درجہ عظیم و باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہان

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۷/۱۰۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۷/۵۲

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۱۵/۲

<sup>4</sup> القرآن الکریم ۲۸/۲۱

<sup>5</sup> القرآن الکریم ۲۸/۳

<sup>6</sup> القرآن الکریم ۲۸/۳

مجمع ہو کر اس کے ایک شہر کو نہیں پہنچتے۔ پھر اس سے بڑھ کر اندر ہا کون جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے، مگر یہ ان کا اندر ہاپن بھی چند روز کا ہے۔

عنقریب تو بھی دیکھے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسے جنون ہے۔

**۱۔ ﴿سَيْدِرٌ وَيُصْرُونَ لِلْيَقِنُونَ﴾**

آج اپنی بے خردی و دیوانگی و کور باطنی سے جو چاہیں کہہ لیں، آنکھیں کھلنے کا دن قریب آتا ہے، اور دوست و دشمن سب پر کھلا جاتا ہے کہ مجنون کون تھا۔

(۲) وجہ اترنے میں جو کچھ دنوں در لگی کافر ہوئے:

ان محمد اودعه ربہ وقلہ<sup>۲</sup>۔ پیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور دشمن پکڑا۔

حق جل وعلانے فرمایا:

"وَالضَّجُّ لِلْأَيْلَنِ إِذَا سَجَىٰ" ۖ<sup>۳</sup>

پا فلم اے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور فلم تیری زلف کی جب چکتے رخساروں پر بکھر آئے۔

"ماوَدَّعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَّا طَلْبٌ" ۖ<sup>۴</sup>

اور یہ اشقولہ بھی دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجوہ پر کسی مہر ہے، اس مہر ہی کو دیکھ دیکھ کر جلے جاتے ہیں، اور حسد و عناد سے یہ طوفان جوڑتے ہیں اور اینے جلد کے پھچپولے چھوڑتے ہیں مگر خر نہیں کہ:

"وَلَا يَحْرُجُهُ حِيَّزُكُمْ مِنَ الْأَوْدَىٰ" ۖ ۵ -

وہاں جو نعمتیں تھیں کو ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سینیں، نہ کسی بشر بالکل کے خطرے میں آئیں، جن کا اجمالی ہے:

١ القراءان الكرييم

<sup>2</sup> معالم التنزيل(تفسير البغوي) تحت الآية ٩٣/٣٦٥ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠١٥

٣ القرآن العظيم / ٢١٩٣

٤- القرآن العظيم / ٩٣

٥ العظيم آن القـ

قریب ہے تجھے تیر ارب اتادے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔

"وَلَسْوَفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضُفِي ط" <sup>۱</sup>۔

اس دن دوست دشمن سب پر کھل جائے گا کہ تیرے برادر کوئی محبوب نہ تھا۔ خیر، اگر آج یہ اندھے آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو تجھ پر خدا کی عظیم، جلیل، کثیر، جزیل نعمتیں آج کی تو نہیں قدیم ہی سے ہیں۔ کیا تیرے پہلے احوال انہوں نے نہ دیکھے اور ان سے یقین حاصل نہ کیا کہ جو نظر عنایت تجھ پر ہے ایسی نہیں کہ کبھی بدل جائے، "أَلَمْ يَجْدُكَ يَتِيمًا فَأَوَى" <sup>۲</sup> الی آخر السورة <sup>۳</sup> کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی (سورت کے اخیر تک۔ت)

(۳) کفار نے کہا: "لَسْتَ مُرْسَلًا" <sup>۴</sup>۔ تم رسول نہیں ہو۔ حق جل و علانے فرمایا:

اے سردار! مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی تو پیشک  
مرسل ہے۔

"بَيْسَ اللَّهُ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ لَمَنِ الْمُرْسَلِينَ" <sup>۵</sup>۔

(۴) کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعری کا عیب لگایا۔ حق جل و علانے فرمایا:

نہ ہم نے انھیں شعر سکھایا اور نہ وہ ان کے لائق تھا۔ وہ تو نہیں  
مگر نصیحت اور روشن بیان والا قرآن۔

"وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا شِعْرًا وَمَا يَكْبِنُ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ وَفُؤْدَانٌ  
مُّبِينٌ" <sup>۶</sup>۔

(۵) منافقین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے اور ان میں کوئی کہتا ایسا نہ ہو کہیں ان تک خبر پہنچے۔ کہتے: پہنچے گی تو کیا ہو گا، ہم سے پوچھیں گے ہم مکر جائیں گے، فتمیں کھالیں گے، انھیں یقین آجائے گا، کہ "هُوَ أُذْنٌ" <sup>۷</sup>۔ وہ تو کامان ہیں جیسی ہم سے سنیں گے مان لیں گے۔ حق جل و علانے فرمایا: "أُذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ" <sup>۸</sup>۔ وہ تمہارے بھلے کے لیے کام ہیں۔ کہ جھوٹے

<sup>۱</sup> القرآن العظيم ۵/۹۳

<sup>۲</sup> القرآن العظيم ۲/۹۳

<sup>۳</sup> القرآن العظيم ۲۳/۱۳

<sup>۴</sup> القرآن العظيم ۳۲/۳۲

<sup>۵</sup> القرآن العظيم ۲۹/۳۲

<sup>۶</sup> القرآن العظيم ۲۹/۳۲

<sup>۷</sup> القرآن العظيم ۲/۱۹

عذر بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور بکمال حلم و کرم چشم پوشی فرماتے ہیں۔ ورنہ کیا انھیں تمہارے بھیدوں اور خلوت کی چھپی بالتوں پر آکاہی نہیں۔ "يَوْمٌ مِنْ بِاللَّهِ خَدَا پَرِ ايمان لاتَّهُ ہے۔ اور وہ تمہارے اسرار سے انھیں مطلع کرتا ہے، پھر تمہاری جھوٹی قسموں کا انھیں کیوں نکر لیتیں آئے۔ ہاں "وَيُوْمٌ مِنْ لِمُوْمِنِيْنَ" ۲۔ ایمان والوں کی بات واقعی مانتے ہیں۔ کہ انھیں ان کے دل کی سچی حالتوں پر خبر ہے۔ اس لیے "وَرَاحِمَةُ اللِّيْلَيْلِيْنَ اَمْسُوْا مِنْهُمْ" ۳۔ مگر بانی ان پر جو تم میں ایمان لائے کہ ان کے طفیل سے انھیں ہمیشگی کے گھر میں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ بھی ان کی رحمت ہے کہ دنیا میں تم سے چشم پوشی ہوتی ہے۔ مگر اس کا نتیجہ اچھا نہ سمجھو، کہ تمہاری گستاخیوں سے انھیں ایسا پہنچی ہے۔ "وَالَّذِيْنَ يُوْمَ دُوْنَ رَسُوْلِ اللِّيْلَهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ" ۴۔ اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیں ان کیلئے دکھ کی مار ہے۔

(۶) ابن ابی شقی ملعون نے جب وہ کلمہ ملعونہ کہا:

اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو ضرور نکال باہر کر گیا عزت والا ذلیل کو۔	"لَيْلَنَّ رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ يَعِرِّجَنَّ إِلَّا عَزْمُهَا إِلَّا ذَلَّ" ۵۔
--	---

حق جل وعلا نے فرمایا:

عزت تو ساری خدا و رسول و مومنین ہی کے لیے ہے، پر منافقین کو خبر نہیں۔	"وَيَوْلِيْلَهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَلِكَنَّ الْسُّفِيقِيْنَ لَا يَعْمَلُوْنَ" ۶۔
---	---

(۷) عاص بن واکل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال پر حضور کو ایتھر یعنی نسل بریدہ کہا۔ حق جل وعلا نے فرمایا: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ" ۷۔ پیش ہم نے تمھیں خیر کثیر عطا فرمائی۔ کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفتہ ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری شناہ کا ذکر کا تو قیام قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق

<sup>1</sup> القرآن العظيم ۶/۱۹

<sup>2</sup> القرآن العظيم ۶/۱۹

<sup>3</sup> القرآن العظيم ۶/۱۹

<sup>4</sup> القرآن العظيم ۶/۱۹

<sup>5</sup> القرآن الكرييم ۲۳/۸

<sup>6</sup> القرآن الكرييم ۲۳/۸

<sup>7</sup> القرآن الكرييم ۱۰۸/۱

زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمحیص نفس و طیب عطا ہوگی جن کی بقاء سے بقاء عالم مربوط رہیگی اس کے سواتام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سامنہ بان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجیے تو تمام عالم تمہاری اولاد معنوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابوالبشر آدم تمحیص یاد کرتے تو یوں کہتے یا اپنی صورۃ وابای معنی<sup>۱</sup>۔ اے میرے ظاہر بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بیغاہیت تم پر مبذول ہو۔ تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملوں ہو بلکہ "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأُحْرُّ<sup>۲</sup>"۔ رب کے شکرانہ میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ "إِنَّ شَانِئَكُ هُوَ الْأَنْتَرُ<sup>۳</sup>"۔ جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے۔ کہ اور تمہارے دین حق میں آکر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کئے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا۔ تو یہی سہی کہ نام نہ چلتا۔ اس سے نام بدکا باقی رہنا ہزار درجہ بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ بالله تعالیٰ۔

(۸) جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قریب رشتہ داروں کو جمع فرمایا کرو ععظ و نصیحت اور اسلام و اطاعت کی طرف دعوت کی۔ ابوالہب شفیق نے کہا:

لوٹا اور ہلاک ہونا تمہارے لیے ہمیشہ کوہ کیا ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا۔	تبالک سائر الیوم لهذا جمعتنا <sup>۴</sup> ۔
---	---

حق جل وعلا نے فرمایا: "تَبَّتْ يَدَا آآبِي أَهَبٍ وَتَبَّ<sup>۵</sup>" ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابوالہب کے۔

<sup>۱</sup> المدخل لابن الحاج فصل في مولد النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار الكتب العربي بيروت ۲/۳۳

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۱۰۸/۲

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۱۰۸/۳

<sup>۴</sup> صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ تب یدا ابی لهب ۱۱۱، قریبی کتب خانہ ۲/۷۳، صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان من مات على اکفر الخ قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱۱، تفسیر المراغی تحت الآیة ۱۱۱/۱ دار احیاء التراث العربي بيروت ۳۰/۲۶۰

<sup>۵</sup> القرآن الكريم ۱۰۸/۱۱۱

اور وہ خود ہلک ورباد ہوا، "مَا أَغْنِيَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ط".<sup>۱</sup> اس کے کچھ کام نہ آیا اس کام اور جو کمایا۔ "سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ تَهْبِطْ".<sup>۲</sup> اب بیٹھا چاہتا ہے بھڑکتی آگ میں۔ "وَأَمْرَأُ ثَمَّةٍ حَمَالَةً لِّعَطَابٍ".<sup>۳</sup> اور اس کی جو روکنڑیوں کا گٹھا سر پر لئے۔ "فِي جَيْدِهَا حَمْلٌ مِّنْ مَسَدٍ".<sup>۴</sup> اس کے گلے میں مونخ کی رسی۔ بالجملہ اس روشن کی آیتیں قرآن عظیم میں صد بائیں تکیں گی۔ اسی طرح حضرت یوسف و بتول مریم اور ادھرام المومنین صدیقه علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اس مضمون پر شاہدِ عدل ہیں۔ حضرت والد ماجد "سرور القلوب فی ذکر المحبوب" میں فرماتے ہیں: "حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے، اور حضرت مریم کو حضرت عیلیٰ کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب حضرت عائشہ پر ہبتان اٹھا خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور سترہ آیتیں نازل فرمائیں، اگرچہ تا ایک ایک درخت اور پھر سے گواہی دلوں تماگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائیں۔<sup>۵</sup> "انتهی۔

محل غور ہے کہ اراکین دولت و مقربان حضرت سے باغیان سر کش بگتنا خی و بے ادبی پیش آئیں۔ اور بادشاہ ان کے جوابوں کو انہیں پر چھوڑ دے۔ مگر ایک سردار بدن اوقار کے ساتھ یہ برتابہ ہو کہ مخالفین جوزبان درازی اس کی جانب میں کریں۔ حضرت سلطان اس مقرب ذی شان کو کچھ نہ کہنے دے، بلکہ ب نفس نفس اس کی طرف سے تکفل جواب کرے۔ کیا ہر ذی عقل اس معاملہ کو دیکھ کر یقین قطعی نہ کرے گا کہ سرکار سلطانی میں جو اعزاز اس مقرب جلیل کا ہے دوسرے کا نہیں، اور جو خاص نظر اس کے حال پر ہے اور وہ کا حصہ اس میں نہیں۔ وَالحمدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

نویں آیت: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قریب ہے تجھے تیرا رب بھیجے کا تعریف کے	آیت تاسع: قال تعالیٰ عظیته: "عَسَىٰ أَنْ يَعْثَثَ رَبُّكَ مَقَاماً"
--	--

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲۳/۱۱۱

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۲۳/۱۱۱

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۲۳/۱۱۱

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۵۶/۱۱۱

<sup>۵</sup> سرور القلوب فی ذکر المحبوب

مقام میں۔	مَقَامًا مَحْمُودًا <sup>①</sup> ۔
صحیح بخاری و جامع ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرمایا:	
حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا: مقام محمود کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: شفاعت۔	سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فَقَالَ هُوَ الشَّفَاعَةُ <sup>۲</sup> ۔

اسی طرح احمد و نبیہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے قول "اقریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں" کے بارے میں سوال کیا گیا تو اپنے فرمایا وہ شفاعت ہے۔ (ت)	سُئِلَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قُولَهُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا طَفَقَالَ هُوَ الشَّفَاعَةُ <sup>۳</sup> ۔
--	--

اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی و مسطور، جن کی بعض ان شاء اللہ تعالیٰ ہیکل دوم میں مذکور ہوں گی۔

اُس دن آدم صَفِی اللہ سے علیٰ کلمتہ اللہ تک سب انبیاء اللہ علیہم الصَّلَاۃُ وَ السَّلَامُ نفسی نفسی فرمائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان [لہا] ان [لہا]<sup>۴</sup> میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقریبین سب ساکت ہوں گے اور وہ متكلّم۔ سب سر برگزیدان، وہ ساجد و قائم۔ سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم۔

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۷/۶۱/۱

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ ۷۱ باب قوله علیٰ ان یبعثک الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۸۲/۲، جامع الترمذی ابواب التفسیر سورۃ بنی اسرائیل امین کپنی دہلی ۱۳۲/۲

<sup>۳</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ابی ہریرۃ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۲۳۲، نسیم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض بحوالہ احمد و البیهقی فصل فی تفضیلہ بالشفاعة

<sup>۴</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل فی تفضیلہ بالشفاعة المطبعة الشرکة الصحافیة ۱۸۰/۲

سب اپنی فکر میں، انہیں فکر عوالم۔ سب زیر حکومت، وہ مالک و حاکم،۔ بارگاہِ الٰہی میں سجدہ کریں گے۔ ان کا رب انہیں فرمائے گا: یا  
محمد ارفع رأسک وقل تسمیع وسل تعطہ و اشفع تشفع<sup>۱</sup>۔ اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے  
گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی حمد و ثناء کا غلغہ پڑ جائے گا اور دوست، دشمن، موافق، مخالف، ہر شخص حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی افضلیت،  
کبریٰ وسیادت عظیٰ پر ایمان لائے گا۔ والحمد لله رب العلمین۔

مقام محمود و نامت محمد      بہ نیساں مقامے و نامے کہ دارو<sup>۲</sup>

آپ کامقام محمود و نام محمد ہے، ایسا مقام اور نام کون رکھتا ہے۔ ت)

امام حجی بنی بغوي معاجم التنزیل میں فرماتے ہیں:

یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی پیش ک  
الله عزوجل نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلیل بنیا۔ اور  
پیش تمہارے آقام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیل اور  
تمام خلق سے زیادہ اس کے نزدیک عنزیز و جلیل ہیں۔ پھر یہ  
آیت تلاوت کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت عرش پر  
بٹھائے گا۔

عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ عزوجل  
اتخذ ابراہیم خلیلا و ان صاحبکم صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم خلیل اللہ واکرم الخلق علی اللہ ثم قرأ  
عَسَى أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْوُداً<sup>۳</sup> "قال یجلسه علی  
العرش<sup>۴</sup>۔

وعزانوہ فی الواہب<sup>۴</sup> للشعلی۔ (اس کی مثل مواہب میں ثقبی کی طرف منسوب ہے۔ ت) امام عبد بن حمید وغیرہ  
حضرت مجاهد تلمیذ رشید حضرت جبراہیم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس آیت کی تفسیر میں راوی:

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۰۹

<sup>۲</sup> ۲

<sup>۳</sup> معاجم التنزیل (تفسیر بغوي) تحت الآیة ۷۶/۹۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/۱۰۹

<sup>۴</sup> المواہب اللدنیۃ الفصل الثالث الشفاعة والمقام المحمود المکتب الاسلامی بیروت ۳/۲۲۲

الله تعالیٰ انہیں عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔

یجلسه اللہ تعالیٰ معاہ علی العرش<sup>۱</sup>

یعنی معیتِ تشریف و تکریم کہ وہ جلوس و مجلس سے پاک و متعالیٰ ہے۔ امام قسطلانی مواہب الدینیہ میں ناقل امام علامہ سید الحفاظ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہد کا یہ قول نہ از روئے نقل مد فوع نہ از جہت <sup>۲</sup> نظر من نوع، اور نقاش نے ابو داؤد صاحب سنن رحمہ اللہ تعالیٰ

یہ رد ہے واحدی پر کیونکہ اس نے اس قول کے انکار میں بہت مبالغہ کیا اور اپنے بے تکے کلام کو انتہا تک پہنچایا جیسا کہ قول اول میں کیا اور سیلاب اپنی سیرابی تک پہنچا۔ اس نے کہا کہ اس کی طرف نہیں مائل ہو گا مگر کم عقل اور بے دین اھ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے در گزر فرمائے۔ اور اس نے اپنے گمان کے مطابق جس چیز سے استدلال کیا اس میں اس کے لے کوئی دلیل نہیں ہے، میشک اس پر علماء کرام نے رد فرمایا جیسا کہ مواہب اور اس کی شرح کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل جس سے اس نے تمک کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "مقامًا مَحْمُودًا"<sup>۳</sup> "فرمایا ہے" "مقعداً مَحْمُودًا" نہیں فرمایا اور مقام موضع قیام ہے نہ کہ موضع تعود۔ زرقانی نے کہا اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ مقام مصدر (باقی بر صحیح آئندہ)

عَدَ عَلَى الْوَاحِدِيِّ حِيثُ بَلَغَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى ذَلِكَ وَابْلَغَ الْجَزَافَ مِنْتَهَاهُ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ بَلَغَ السَّيْلَ رِوَاةً حَتَّى قَالَ "لَا يَبْلِغُ إِلَيْهِ إِلَّا قَلِيلُ الْعُقْلِ عَدِيمُ الدِّينِ"<sup>۲-ا</sup> وَاللَّهُ تَعَالَى يَسَّاَحُ الْمُسْلِمِينَ وَاحْتَجَ لِرَعْيِهِ بِمَيْلَاحَةِ لَهِ فِيهِ وَقَرْدَهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ كَمَا يَظْهَرُ بِالرَّجُوعِ إِلَى الْمُواهِبِ وَشَرِحِهِ وَاعْظَمُ مَأْتِشِبِثٍ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ "مَقَامًا مَحْمُودًا"<sup>۳</sup> لَمْ يَقُلْ مَقْعِدًا وَالْمَقَامُ مَوْضِعُ الْقِيَامِ لِمَوْضِعِ الْقِعْدَةِ۔ قَالَ الزَّرْقَانِيُّ وَاجِبٌ بِأَنَّهُ يَصْحَّ عَلَى أَنَّهُ الْمَقَامُ مَصْدَرٌ

<sup>۱</sup> المواهب الدینیۃ عن القسطلانی المقصد العاشر الفصل الثالث المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۲/۳، شرح الزرقانی علی المواهب الدینیۃ

بحوالہ عبد بن حبید وغیرہ المقصد العاشر الفصل الثالث ۳۶۸/۸

<sup>۲</sup> المواهب الدینیۃ عن القسطلانی المقصد العاشر الفصل الثالث المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۲/۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۷/۹۱

سے نقل کیا۔ من انکرہذا القول فهو متهم<sup>۱</sup>۔ جو اس قول سے انکار کرے وہ متمم ہے۔

میں ہے نہ کہ ظرف مکان اہ۔ یعنی یہ مفعول مطلق کے قائم مقام  
ہے اور معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا ایسا اٹھانا جو محمود  
ہو گا۔

اقول: (میں کہتا ہوں) اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ علاوہ ازیں رفت تو توضیح کے بعد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قعود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم خدمت پر قیامت کے بعد ہو گا تو ہی مکان مقام محمود اور مقعد محمود ہو گا اور اللہ کا کلام بعض شے پر مقتصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان اللہ الذی اخْ (پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجدِ اقطیٰ تک) اور تحقیق احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہفتہ یا دو ہفتے سجدہ ریز رہیں گے پھر سر اٹھائیں گے اس جگہ کا نام اللہ تعالیٰ (باتی بر صحیح آئندہ)

(ابتدی حاشیہ صحیح گزشہ)

میں لاسم مکان<sup>۲</sup> اہاً فیقوم مقام المفعول المطلق ای  
یبعثك بعثاً محبوداً۔

اقول: وبالله التوفيق علی ان الرافعة بعد التواضع من  
تواضع الله رفعه الله فالقعود ایما يكون بعد ما يقوم النبي  
صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بین یدی ربہ تبارک و تعالیٰ علی  
قدم الخدمة قدلك المکان مقام محمود و مقعد محمود  
وکلام الله سبخته و تعالیٰ بما یقتصر علی بعض الشیعی کما فی  
قوله تعالیٰ "سُبْحَنَ الَّذِي أَسْمَى إِعْبُدَهُ لَيْلًا مِّنَ السُّجُودِ إِنَّهُ أَعَزَّ  
إِنَّ السُّجُودَ إِلَّا فَصًا"<sup>۳</sup>، وقد ثبتت في الأحاديث انه صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم یسجد بین یدی ربہ تبارک و تعالیٰ ایاماً اسبوعاً او  
اسبوعین شدیرفع راسہ<sup>۴</sup>، وانما

<sup>۱</sup> الموهاب اللدنیۃ بحوالہ الواحدی البقصد العاشر الفصل الثالث المکتب الاسلامی بیروت ۳/۳/۲۳۳

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی علی الموهاب اللدنیۃ البقصد العاشر الفصل الثالث دار المعرفة بیروت ۸/۳۶۸

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۷/۱

<sup>۴</sup>

اسی طرح امام دارقطنی نے اس قول کی تصریح فرمائی، اور اس کے بیان میں

نے مقام محمود رکھا ہے مسجد نہیں رکھا۔ توجہ امر سجود اس کے منافی کیسے ہوگا؟ واحدی نے کہا جب کہا جائے کہ فلاں کو بادشاہ نے مبعوث کیا تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس قوم کی طرف بھیجا ہے کہ ان کی مہمات کی اصلاح کرے، یہ نہیں سمجھا جاتا کہ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ بھالیا۔ زرقانی نے کہا یہ مردود ہے کیونکہ ایک امر عادی ہے جس کے خلاف ہونا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ احوال آخرت کو احوال دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مبعوث فرمائے کہ ایک میدان میں جمع کریا گاتا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے نہ کہ ان کو اصلاح کے لیے کسی قوم کے پاس بھیجے گا۔ تو جائز ہے کہ یہ بعث بھانے کے ساتھ ہونے کے بھیجنے کے ساتھ باوجود یہ کہ ارسال جس طرح بیٹھنے کے مغایر ہے اسی طرح اس کے پاس کھڑے رہنے کے بھی مغایر ہے لیکن جنون عیب و غریب امور کو لاتا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ جس بعث کو واحدی نے ذکر کیا ہے وہ ہے "بعث من عنده"<sup>1</sup> اپنے (باتی بر صفحہ آئندہ)

(باقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

سَيِّدُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقَامًا مَحْبُودًا لِمَسْجِدًا فَإِنْ لَمْ يَنْفِ  
بِهِ امْرُ السَّجْدَةِ فَلَمْ يَنْفِ امْرُ الْقَعْدَةِ قَالَ  
الْوَاحِدِيُّ "وَإِذَا قِيلَ إِلَى السُّلْطَانِ بِعُثُّ فَلَانًا فَهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ  
أَرْسَلَهُ إِلَى قَوْمٍ لَا صَلْحٌ مَهِمَّاتُهُمْ وَلَا يَفْهَمُهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ  
اجْلَسَ مَعَ نَفْسِهِ<sup>1</sup> - قَالَ الزَّرْقَانِيُّ وَهَذَا مَرْدُوْدُ بَنْ  
هَذَا عَادَةً يَجُوزُ تَخْلُفُهَا عَلَى أَنَّ احْوَالَ الْآخِرَةِ لَا يَقْاسِ  
عَلَى احْوَالِ الدُّنْيَا<sup>2</sup> يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي جَمِيعِهِمْ عِنْدَهُ  
لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لَا لِيَرْسَلُهُمْ إِلَى قَوْمٍ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ  
هَذَا الْبَعْثُ بِالْجَلَسِ لَا لِلرَّسَالِ مَعَ اَنَّ الْارْسَالَ كَمَا  
يَغَيِّرُ الْجُلوْسَ فَكَذَا الْقِيَامُ عِنْدَهُ وَلَكِنَّ الْهُوَسَ يَأْتِي  
بِالْعَجَابِ وَالْحَلَّ أَنَّ الْبَعْثَ مِنْ عِنْدَهُ هُوَ الَّذِي  
ذَكَرَهَا الْوَاحِدِيُّ وَالْبَعْثُ مِنْ مَحْلٍ لِلْحُضُورِ عِنْدَهُ  
لَا يَنْفِقُ

<sup>1</sup> المواهب اللدنية بحواله الواحدی المقصد العاشر الفصل الثالث المكتب الاسلامي بيروت ۱۹۳۳/۳

<sup>2</sup> شرح الزرقاني على المواهب اللدنية المقصد العاشر الفصل الثالث دار المعرفة بيروت ۱۹۸۷/۸

پاس سے بھیجنے اور وہ بعث جو کسی محل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہو وہ اس کے پاس بیٹھنے کے منافی نہیں، جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ واحدی کے قول "لایبیل الیہ الخ" کے تحت زر قانی نے یہ کہا کہ یہ بے تکلام ہے جو کسی طالب کے لائق بھی نہیں چہ جائیکہ عالم کے لائق ہو جکہ ایک جلیل القدر تابعی سے یہ قول ثابت ہو چکا ہے اور اسکی مثل دو صحابیوں یعنی ابن عباس اور ابن مسعود سے۔ میں کہتا ہوں بلکہ تین صحابے سے۔ تیرسے ابن سلام یہیں جیسا کہ ہم نے متن میں نقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر اس محل کی کتابت کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی، یہاں ہماری بحث تام ہو گئی، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارا معبود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے در منثور میں فرمایا دیکھی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت کریمہ "عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَنَا رَبُّنَا مَقَاتِلًا مَّهْمُودًا" ④ (قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں) کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

(باتی بر صحیحہ آئندہ)

(ابقیہ حاشیہ صحیحہ گزشتہ)

الجلوس عنده کیا لا یخفی۔ قال الزرقانی تحت قول الواحدی لا یبیل الیه الخ هذا مجازة في الكلام لاتلبيق طالب فضلا عن عالم بعد ثبوت القول عن تابعی جلیل ووجد مثله عن صحابیین ابن عباس وابن مسعود<sup>۱</sup> اہ

قلت بل عن ثلاثة ثالثهم ابن سلام کیا نقلنا في المتن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ثم بعد کتابتی هذا المثل رأیت الحديث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وھنئا تم الھنا و الحمد للہ الھنا۔ قال الامام الجلیل الجلا ل في الدر المنشور اخرج الدبلی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عسی ان یبعثک ربک مقام محمودا قال یجلسنی معه على

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی على المواهب المدنیۃ المقصد العاشر الفصل الثالث دار المعرفة بيروت ۸/ ۳۶۸

چند اشعار عَلَى نُظُمٍ كَيْفَيَّةِ نَسِيمِ الرِّيَاضِ (جیسا کہ نسیمِ الریاض میں ہے۔ ت)

مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا۔ تحقیق ہم نے یہاں سے لغبی کے بارے میں ابن تیمیہ کے اس قول کی صداقت جان لی کہ واحدی جو لغبی کا ساتھی ہے وہ لغبی سے بڑھ کر عربیت میں مہارت رکھتا ہے مگر اسلاف کی اتباع سے بہت ہی دور ہے اس خلاصہ یہ کہ تو سن لے اس کو جو ہم نے لفظ کیا ہے امام ابو داؤد، امام دارقطنی اور امام عسقلانی سے، کیونکہ وہ انتہائی جلالت شان والے آئمہ ہیں، اور اس شخص کے قول باطل کی طرف التفات سے بچ جوان کے ہم پہ نہیں ہے، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہاںوں کا پروردگار ہے۔ امنہ (ت)

السریر<sup>۱</sup> - وقد عرفنا من ههنا صدق ابن تيمية في قول في الشعلبي ان الواحدى صاحبه كان ابصرا منه بالعربية لكنه وبعد عن اتباع السف<sup>۲</sup> اهـ وان كان ابن تيمية نفسه بعد وابعد وبالجملة فاسع ما ثناه عن الامام ابي داود الامام الدارقطنى والامام العسقلاني فهم الائمة الاجلة الشان واياك وان تنتفت الى زعيمه ليس بذلك في هذا الشان والحمد لله رب العالمين۔ امنہ

عَلَى وَهَا شِعَارَ يَهُى نَهَى

الى احمد المصطفى نسinda  
حديث الشفاعة عن احمد  
على العرش ايضاً ولا نجحدة  
وقد جاء الحديث باتفاق  
ولاتدخلوا فيه ما يفسدة  
امروا الحديث على وجهه  
ولاتنكروا انه قاعد  
ولا تنكروا انه يقعده

اور دھا فی النسیم<sup>۳</sup> - كلامه أجاد في ذلك رحمة الله تعالى واسعة الخ امنہ۔

<sup>۱</sup> الدر المنشور تحت الآية ۷۹/۱۷ دار أحياء التراث العربي بيروت ۵/۷۸

<sup>۲</sup>

<sup>۳</sup> نسیمِ الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل فی تفضیلہ بالشفاعة مرکز ہلسنت گجرات ہند ۳۲۳ / ۲

ابوالشیخ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

پیشِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزِ قیامت رب کے حضور	ان محمد اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم القیمة یجلس
رب کی کرسی پر جلوس فرمائیں گے۔	علی کرسیِ رب بین یدیِ رب <sup>۱</sup> ۔

معالم میں عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: یقudedہ علی الكرسی<sup>۲</sup>۔ اللہ تعالیٰ انہیں کرسی پر بٹھائے گا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی الہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین (اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کل جہانوں کا پروردگار ہے۔ ت)

آیت عاشرہ (دسویں آیت): قرآن شریف کے تفصیلی ارشادات و محاورات و نقل اقوال و ذکر احوال پر نظر کجھے، تو ہر جگہ اس نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم کی شان سب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بلند و بالا نظر آتی ہے، یہ وہ بھر ذخّار ہے جس کی تفصیل کو فخر درکار علمائے دین مثل امام ابو نعیم و ابن فورک و قاضی عیاض و جلال سیوطی و شہاب قسطلانی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان تفرقوں سے بعض کی طرف اشارہ فرمایا۔ فقیر اول ان کے چند اخراجات ذکر کر کے پھر بعض امتیاز کہ بانڈک تامل اس وقت ذہن قادر میں حاضر ہوئے ظاہر کرے گا تطویل سے خوف اور اختصار کا قصد بیس پر اقتصار کا باعث ہوا:

(بیتِ حاشیہ صفحہ گزشتہ):

ترجمہ الشعارات: بحوالہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مروی ہے، ہم احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کا اسناد کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر بٹھائے گا اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے حدیث کو درست بیان کیا ہے تم اس میں کلام فاسد کو داخل مت کرو، نہ اس بات کا انکار کرو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوں گے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر بٹھائے گا۔ اس کو نسیم الریاض میں مکمل بیان کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے خوب اشعار کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سبع رحمت نازل فرمائے۔ (ت)

<sup>۱</sup> الموابد اللدنیہ المقصد العاشر الفصل الثالث المکتب الاسلامی بیروت ۲۳۳ و ۲۳۴ / ۳

<sup>۲</sup> معالم التنزیل (تفسیر بغوی) تحت الآیة ۷۹ / ۱۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۳ / ۱۰۹

(۱) خلیل جلیل علیہ الصلوٰۃ والتحمیل سے نقل فرمایا:

مجھے رسوانہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔	وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْثُرُونَ ﴿٦﴾ <sup>۱</sup>
--	---

حبیب قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خود ارشاد ہوا:

جس دن خدار سوانہ کرے گا نبی اور اسکے ساتھ والے مسلمانوں کو۔	”يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ“ <sup>۲</sup>
---	---

حضرت کے صدقے میں صحابہ بھی اس بشارتِ عظیٰ سے مشرف ہوئے۔

(۲) خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تمنانے وصال نقل کی: ”إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى سَبَقِي سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ“<sup>۳</sup>۔ (بیشک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ دے گا۔ت)

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بلا کر عطاۓ دولت کی خردی: ”سُبْحَنَ اللَّهِ أَكْبَرُ أَسْمَاعِي بِعَجْلَةِ“<sup>۴</sup>۔ (پاکی

ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ت) (۳) خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آرزوئے ہدایت نقل فرمائی: ”سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ“<sup>۵</sup>

(وہ مجھے راہ دے گا۔ت) حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرمایا: ”وَيَهْدِيَكَ صَرَاطًا مُّسْتَقِيمًا“<sup>۶</sup> (اور تمہیں سید ہی

راہ دکھادے۔ت) (۴) خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے آیا فرشتے ان کے معزز مہمان ہوئے:

اے محبوب ایکا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ (ت)	”هُلْ أَلِكَ حَدِيثُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُومِينَ“ <sup>۷</sup>
--	--

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے فرمایا فرشتے ان کے لشکری وسپاہی بنے:

اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔(ت)	”وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرُوهَا“ <sup>۸</sup> ، ”يُنِيدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَسْلَةِ الْفِيفِ مِنَ الْمَلِكَةِ مُسَوِّمِينَ“ <sup>۹</sup> وَالْمَلِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ <sup>۱۰</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۸۷/۲۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۸/۲۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۹۹/۳

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۱/۱۱

<sup>۵</sup> القرآن الکریم ۹۹/۳

<sup>۶</sup> القرآن الکریم ۲/۲۸

<sup>۷</sup> القرآن الکریم ۲۳/۵۱

<sup>۸</sup> القرآن الکریم ۳۰/۹

<sup>۹</sup> القرآن الکریم ۱۲۵/۳

<sup>۱۰</sup> القرآن الکریم ۳/۲۶

(۵) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا، انہو نے خدا کی رضا چاہی:

اور تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ (ت)	"وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ سَرِّ لِتَرْضَىٰ" <sup>۱</sup> "
---	---

حسیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بتایا، خدا نے ان کی رضا چاہی:

تو پڑو، ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور پیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جائے گے۔ (ت)	"فَنَبْلَيْكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا" <sup>۲</sup> " وَاسْوَفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ" <sup>۳</sup> "
--	---

(۶) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بخوب فرعون مصر سے تشریف لے جانا باظظ فرار نقل فرمایا:

تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا۔ (ت)	"فَهَرَثُتُ مَنْكُمْ لَمَّا خَفِقْتُمْ" <sup>۴</sup> "
---	--

حسیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھرت فرمانا باحسن عبارات اور فرمایا:

اور اے محبوب! یاد کر جب کافر تمہارے ساتھ مکر تھے۔ (ت)	"إِذْ يَسْكُنُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" <sup>۵</sup> "
---	---

(۷) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ظور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرمادیا:

اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، پیشک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبد نہیں تو میری بندگی کراور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ آیات کے آخر تک۔ (ت)	"أَنَا أَخْتَرُكُ فَأَسْتَعِنُ بِمَا يُوحِي لِي" <sup>۶</sup> " إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي لَا وَآقِمُ الصَّلَاةَ لِذِي كُرْبَلَاءِ" <sup>۷</sup> " إِلَى أَخْرَ الْآيَاتِ"
--	--

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۸۳/۲۰

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۳۲/۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۵/۱۹۳

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۲۱/۲۲

<sup>۵</sup> القرآن الکریم ۳۰/۸

<sup>۶</sup> القرآن الکریم ۱۳/۱۳/۲۰

حسیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فوق السموات مکالمہ فرمایا اور سب سے چھپا یا:

اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ (ت)	"فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى طٌ" <sup>۱</sup>
---	--

(۸) دادو علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد ہوا:

خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ تجھے بہکادے خدا کی راہ سے	"وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيَضُلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" <sup>۲</sup>
---	--

حسیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بقیہ فرمایا:

کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتا، وہ تو نہیں مگر وحی کہ القا ہوتی ہے	"وَمَا يَأْتِي طَلاقَ عَنِ الْهُوَى ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِيْجُنُّ لِهِ لِهِ" <sup>۳</sup>
---	--

اب فقیر عرض کرتا ہے و باللہ التوفیق: (۹) نوح و ہود علیہما الصلوٰۃ والسلام سے دعا نقل فرمائی:

اہی! میری مدد فرمایا پلا اس کا کہ انہوں نے مجھے جھلایا۔	"سَرَبِ اُنْصُرٍ فِي بَيْسَا كَذَبُونَ" <sup>۴</sup>
---	--

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود ارشاد ہوا:

اللہ تیری مدد فرمائے گا زبردست مدد۔	"وَيَسِّرْهُ لَهُ تَرْكَهُ نَصَارَاهُ اعْزِيزًا" <sup>۵</sup>
-------------------------------------	---

(۱۰) نوح و خلیل علیہما الصلوٰۃ والتسلیم سے نقل فرمایا، انہوں نے اپنی امت کی دعائے مغفرت کی:

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ	"عَسَّ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ
---	--

ع۴: یہ لفظ دعائے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہیں، اور دعائے نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام ان لفظوں سے ہے:

اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے

"سَرَبِ اُغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتَيَ مُؤْمِنًا وَلِمُؤْمِنِيْنَ وَ

جو ایمان کے ساتھ میرے گھرے میں ہے اور سب مسلمان

الْمُؤْمِنِتِ" <sup>۶</sup>

مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو۔ (ت)

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۰/۵۳

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۲/۳۸

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۳/۵۳

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۲۶/۲۳

<sup>۵</sup> القرآن الکریم ۳/۲۸

<sup>۶</sup> القرآن الکریم ۲۸/۱۳

کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہو گا۔ (ت)

لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْجِنَابُ ﴿١﴾

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود حکم دیا اپنی امت کی مغفرت مانگو:

اور اے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ (ت)

وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿٢﴾

(۱۱) خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے آیا، انہوں نے پچھلوں میں اپنے ذکر جمل باقی رہنے کی دعا کی:

اور میر سچی ناموری رکھ پچھلوں میں۔ (ت)

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرَتِ ﴿٣﴾

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود فرمایا: "وَرَأَقْعَدَكَ ذُكْرَكَ" <sup>۴</sup> (اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلنڈ کر دیا۔ ت) اور اس سے اعلیٰ وارفع خودہ ملا:

قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ (ت)

عَسَى أَن يَبْعَثَنَا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿۵﴾

کہ جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے حضور کی حمد و شاء کا شور ہر زبان سے جوش زن ہو گا۔ (۱۲) خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تھے میں فرمایا، انہوں نے قوم لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رفع عذاب میں بہت کوشش کی: "يُجَادِلُنَا فِي تَوْهِيدِ لُونُطِ" <sup>۶</sup> (ہم سے لوٹ کے بارے میں جھگڑنے لگتے) "يَأَبْوَاهُمْ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا" <sup>۷</sup>۔ اے ابراہیم! اس خیال میں نہ پڑ عرض کی: "إِنَّ فِيهَا لُنَطٌ" <sup>۸</sup>۔ اس بستی میں لوٹ جو ہے۔ حکم ہوا: "نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لُنَطٌ" <sup>۹</sup>۔ ہمیں خوب معلوم ہیں جو وہاں ہیں۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا:

اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم!

تو ان میں تشریف فرمائے ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿۱۰﴾

<sup>۱</sup> القرآن الکریم: ۲۸/۷

<sup>۲</sup> القرآن الکریم: ۱۹/۳۷

<sup>۳</sup> القرآن الکریم: ۸۳/۲۲

<sup>۴</sup> القرآن الکریم: ۳/۹۳

<sup>۵</sup> القرآن الکریم: ۷۹/۱۷

<sup>۶</sup> القرآن الکریم: ۷۳/۱۱

<sup>۷</sup> القرآن الکریم: ۷۶/۱۱

<sup>۸</sup> القرآن الکریم: ۳۲/۲۹

<sup>۹</sup> القرآن الکریم: ۳۲/۲۹

<sup>۱۰</sup> القرآن الکریم: ۳۲/۸

(۱۳) خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نقل فرمایا: "رَبِّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءُهُ" <sup>۱</sup> الٰہی! میری دعا قبول فرما۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے طفیلیوں کو ارشاد ہوا:

تمہارا رب فرماتا ہے مجھے سے دعاماً نگو میں قبول کروں گا۔	"قَالَ رَبِّنَا مَذْعُونٌ أَسْتَجِبْ لِكُمْ" <sup>۲</sup>
--	---

(۱۴) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی:

ندا کی گئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے۔ (ت)	"نُورٌ مِّنْ شَاطِئِ الْوَادِيَيْنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبْلَذِ كَمَنَ الشَّجَرَةِ" <sup>۳</sup>
--	--

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنشی وفردوسِ اعلیٰ تک بیان فرمائی:

سدراۃ المنشی کے پاس، اس کے پاس جنت الماؤی ہے۔ (ت)	"عَنْدَ سَدْرَةِ الْمِسْتَحِيِّ عَنْدَ هَاجَةُ الْمَأْوَى" <sup>۴</sup>
---	---

(۱۵) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وقت ارسال اپنی دل تنگی کی شکایت کی:

اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو تو ہارون کو بھی رسول کر۔ (ت)	"وَيَصِيبُ صَدِيرِي وَلَا يُطْلِقُ لِسَانِي فَأَرْسَلْ إِلَيْهِ رُونَ" <sup>۵</sup>
---	---

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود شرح صدر کی دولت بخشی، اور اس سے منتظر عظیٰ رکھی: "اَلَّمْ يَشَاهِدْ كَمْ رَأَكَ" <sup>۶</sup>۔  
(کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ ت) (۱۶) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حجاب نار سے تخلی ہوئی:

پھر حب وہ آگ کے پاس آیا، ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے (یعنی حضرت مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام)	"فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ دَيَّأَنْ بُوْرَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا" <sup>۷</sup>
--	---

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جلوہ نور سے تخلی ہوئی اور وہ بھی غایت تفہیم و تعظیم کے لئے بالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی:

<sup>۱</sup> القرآن الكرييم ۳۰/۱۳

<sup>۲</sup> القرآن الكرييم ۲۰/۲۰

<sup>۳</sup> القرآن الكرييم ۲۳/۲۸

<sup>۴</sup> القرآن الكرييم ۱۵/۱۳/۵۳

<sup>۵</sup> القرآن الكرييم ۳۲/۲۴

<sup>۶</sup> القرآن الكرييم ۱/۹۳

جب چھاگیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔	”إِذْ يَعْشُ الْسَّدْرَةَ مَا يَعْشِي“ <sup>۱</sup> ۔
ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، زار، ابو یعلی، تیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث طویل معراج میں راوی:	
پھر حضور القدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرہ تک پہنچ۔ خالق عزوجل کا نور اس پر چھایا۔ اس قت جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کیا اور فرمایا: ما گواہ ملھما۔	ثُمَّ أَنْتَهَى إِلَى السَّدْرَةِ فَغَشِيَهَا نُورُ الْخَلَقِ عَزوجل فَكَلِمَهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ <sup>۲</sup> ۔
(۱۷) کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنے اور اپنے بھائی کے سوا، سب سے براءت و قطع تعلق نقل فرمایا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو قتل عماقہ کا حکم دیا اور انہوں نے نہ مانا۔ عرض کی:	
اللَّهُ ! میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو جدائی فرمادے ہم میں اور اس کنہگار قوم میں۔	”سَرَبٌ إِلَّا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَنِّي فَأُفْرُثُ بَيْتَنَا وَبَيْتَنَ الْقَوْمِ الشَّقِيقَيْنَ“ <sup>۳</sup> ۔
حسیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظل و جاہت میں کفار تک کو داخل فرمایا:	
اور اللہ کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب ! تم ان میں تشریف فرماؤ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ (ت)	”مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“ <sup>۴</sup> ۔
	”عَسَى أَنْ يَعْثَثَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا“ <sup>۵</sup> ۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۶/۵۳<sup>۲</sup> تفسیر ابن ابی حاتم تحت الآیۃ ۱/۱۷ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباجی بکھریہ ریاض ۷/۲۳۱۳، جامع البیان (تفسیر طبری) تحت الآیۃ ۱۶/۵۳ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲/۲۸، الدر المنشور بحوالہ البزار و ابو یعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ والبیہقی تحت الآیۃ ۱۷/۵۱<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۵/۵<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۳۳/۸<sup>۵</sup> القرآن الکریم ۷/۲۹

یہ شفاعت بُریٰ ہے کہ تمام اہل موقف موافق و مخالف سب کو شامل۔

(۱۸) ہارون و کلیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے فرمایا، انہوں نے فرعون کے پاس جاتے اپنا خوف عرض کیا:

اے ہمارے رب! ابے شک ہم ڈرتے پھر کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرات سے پیش آئے۔ (ت)	"رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَيْنَاهَا وَأَنْ يَعْذِبَنَا" <sup>۱</sup>
--	--

اس پر حکم ہوا:

ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا۔	"لَدَخَافَا إِنْتَ مَعَكَآ أَسْهَمُو أَمْرَى" <sup>۲</sup>
---	--

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود خود گھبائی دیا: "وَاللَّهُ يَعْصِمُكُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ" <sup>۳</sup>۔ (اور اللہ تمہاری گھبائی کرنے کا لوگوں سے۔ ت)

(۱۹) مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں فرمایا ان سے پرانی بات پر یوں سوال ہوا:

اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا ٹھیک نہیں۔	"يَعُيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخُذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ" <sup>۴</sup>
---	---

معالم میں ہے اس سوال پر خوف الہی سے حضرت روح اللہ صلوٰۃ اللہ وسلامہ، علیہ کا بند بند کانپ اٹھے گا اور ہر بُنِ مُوسیٰ خون کا فوارہ بہے گا پھر جواب <sup>۵</sup> عرض کریں گے جس کی حق تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا قصد فرمایا اور منافقوں نے جھوٹے بہانے بنا کر نہ جانے کی اجازت لے لی۔ اس پر سوال تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہوا مگر یہاں جوشان لطف و محبت و کرم و عنایت ہے قابل غور ہے ارشاد فرمایا:

الله تجھے معاف فرمائے، تو نے انہیں اجازت کیوں دے دی۔	"عَفَا اللَّهُ عَنْكَ إِيمَانَكُمْ لَهُمْ" <sup>۶</sup>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۰/۳۵

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۰/۳۶

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۵/۲۷

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۵/۱۱۲

<sup>۵</sup> معالم التنزيل (تفسیر البغوى) تحت الآية ۵/۱۱۶ دار الكتب العلمية بيروت ۲/۲۲

<sup>۶</sup> القرآن الکریم ۹/۲۳

سبحان اللہ! سوال پچھے ہے اور محبت کا کلمہ پہلے۔ والحمد لله رب العالمين۔

(۲۰) مسح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نقل فرمایا، انہوں نے اپنے اتیوں سے مدد طلب کی:

پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔	"فَلَمَّا آتَاهُنَّا حَسَنًا عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفَّارُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ <sup>۱</sup> "
---	--

حبيب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت انبیاء و مرسلین کو حکم نصرت ہوا: "الْتَّوْمَنْ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ"<sup>۲</sup>۔ (تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ت)

غرض جو کسی محبوب کو ملا وہ سب اور اس سے افضل و اعلیٰ انہیں ملا، اور جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملے

حسن یوسف و م عیسیٰ یہ بیضاواری      آپ خوبی بھمے دارند تو تہاداری<sup>۳</sup>

آپ یوسف (علیہ السلام) کا حسن، عیسیٰ (علیہ السلام) کی پھونک اور روشن ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو کملات وہ سارے رکھتے ہیں آپ اکیل رکھتے ہیں۔ ت) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی الہ واصحابہ وبارک و کرم، والحمد لله رب العالمین۔

ہیکل دوم میں نائل مثلاً احادیث جلیلہ  
تابش اول چند وحی ربانی علاوہ آیات کریمہ قرآنی

وحی اول: حاکم، بیہقی عہ طبرانی، آجری، ابو نعیم، ابن عساکر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
عہ: وقال صحيح الاسناد واقرء عليه اور کہا کہ اس کا اسناد صحیح ہے، علامہ ابن امیر الحاج (باتی بر صفحہ آئندہ)

<sup>1</sup> القرآن الكريم ۵۲/۳

<sup>2</sup> القرآن الكريم ۸۱/۳

۳

سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

یعنی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے [1] اپنے رب سے عرض کی، اے رب میرے اصدقہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میری مغفرت فرم۔ رب العالمین نے فرمایا: تو نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو کیوں نکر پہچانا؟ عرض کی: جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا، جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے حق کہا ہے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے، اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتا تو

لما اقترف آدم الخطیئة قل رب استلک بحق محمد لما غفت لى، قل وكيف عرفت محمد قال لانك لما خلقتى بيذاك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا الله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تتصف الى اسمك الا احب الخلق اليك قل صدقت يادم ولو لامحمد ما خلقتك [2] وفي روایة عند الحاکم فقال الله تعالى صدقت يادم انه لاحب الخلق الى اما اذا سئلتني بحقه

نے حلیہ میں اور سکنی نے شفاء القام میں اس کو برقرار رکھا۔ میں کہتا ہوں جو میرے ہاں ثابت ہے وہ یہ کہ وہ درجہ حسن سے کمتر نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ۲۴۱۶ (ت)

(باقیہ حاشیہ صحیح گرشنہ)

العلامة ابن امير الحاج في الحلية والسبكي في شفاء السقام أقول: والذى تحرر عندي انه لاينزل عن درجة الحسن، والله تعالى اعلم ۲۴۱۶

[11] مطبع اہل سنت بریلی شریف سے شائع شدہ تجھی المقین کے نسخے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود شائع کرایا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کچھ تصحیح کی گئی ہے۔

[2] دلائل النبوة للبیہقی باب ماجاء فی تحدث رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنعمۃ رب الخ دار الكتب العلمية بيروت ۵/۲۸۹، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ علیہ السلام ۷۷ دار احیاء التراث العربي

میں تیری مغفرت نہ کرتا، نہ تجھے بناتا۔

فقد غفرت لك ولو لا محيداً ماغفرت وما خلقتك<sup>۱</sup>۔

بیہقی و طبرانی کی روایت میں ہے: آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی:

میں نے ہر جگہ جنت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو جانا کہ وہ تیری بارگاہ میں تمام مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے۔

رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت انه اكرم خلقك عليك<sup>۲</sup>۔

آجری کی روایت میں ہے:

مجھے یقین ہوا کہ کسی کا رب تیرے نزدیک اس سے بڑا نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔

فعلمت انه ليس احمد اعظم قدرًا عندك من جعلت اسمه مع اسمك<sup>۳</sup>۔

وَحْيٌ دُولٌمٌ حَكْمٌ عَلَيْهِ بِفَادِهِ تَحْمِيلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَرْوَى رَوَى:

امام سعکی نے شفاء السقام میں اور سراج بلقینی نے اپنے فتاویٰ میں اس کو برقرار رکھا۔ اور یونی اسکی صحت پر جزم فرمایا امام ابن حجر نے افضل القری میں۔ میں کہتا ہوں امام محقق ابن ہمام نے فتح القدير کے باب الاحرام میں تصریح کی کسی کی تحسین فرع اسکے حال و عین کی معرفت ہے کی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر تصحیح کا حال کیسا ہے اور جانتے ہو کہ جانے والا نہ جانے والے پر جھٹ ہے۔

(ت) ۱۴

عَلَيْهِ وَاقره عليه السبکی فی شفاء السقام والسراج البليقینی فی فتاویٰ وکذا جزم بصحته العلامۃ ابن حجر فی افضل القری اقول قدر صرح المحقق ابن الہمام فی باب الاحرام من فتح القدير ان الاقدام علی التحسین فرع معرفته حلا و عیناً قلت فكيف بالتصحیح وانت تعلم ان من يعلم حجة على من لا يعلم<sup>۴</sup> منه۔

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم كتاب التاریخ استغفار آدم بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار الفکر بيروت ۲/ ۲۱۵، کنز العمال بحوالہ ک وغیرہ

حدیث ۳۲۱۳۸ مؤسسة الرسالہ بيروت ۲/ ۳۱۵

<sup>۲</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ الباب الثالث الفصل الاول المطبعة الشركة الصحافیة ۱/ ۱۳۸ ۱۳۸، نسیم الربیاض بحوالہ البیہقی و

الطبرانی الباب الثالث الفصل الاول مرکز المتن برکات رضا گرجات ہند ۲/ ۲۲۲

<sup>۳</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ الباب الثالث الفصل الاول المطبعة الشركة الصحافیة ۱/ ۱۳۸

الله تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی بھیجی اے عیسیٰ!  
ایمان لا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور تیری امت سے جو  
لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں حکم کر کہ اس پر ایمان لا یں کہ  
اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتا میں آدم کو نہ پیدا کرتا،  
نہ جنت و وزرخ بناتا، جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا اے  
جنبش تھی میں نے اس پر لااللہ الا اللہ محمد رسول اللہ  
لکھ دیا، پس ٹھہر گیا۔

اوّی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ یا عیسیٰ امن بحمد و امر من  
ادرک من امتك ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت  
آدم و لولا محمد ما خلقت الجنۃ ولا النار و لقدر خلقت  
العرش على الماء فاضطر ب فكتبت عليه لااللہ الا اللہ  
محمد رسول اللہ فسكن<sup>۱</sup>۔

وحی سوم : ابن عساکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے  
عرض کی گئی : اللہ تعالیٰ نے موٹی علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا  
خلیل فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا۔ حضور کو کیا نفضل دیا۔ فوراً جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والتسیم نازل ہوئے اور عرض  
کی حضور کارب ارشاد فرماتا ہے :

اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا، تمہیں حبیب کیا۔ اور اگر  
موٹی سے زمین میں کلام فرمایا، تم سے آسمان میں کلام کیا۔  
اور اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرینیش خلق  
سے دوہزار برس پہلے پیدا کیا۔ اور پہلک تمہارے قدم آسمان  
میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد  
کسی کو رسائی ہو۔ اور اگر میں نے آدم کو برگزیدہ کیا تمہیں  
ختم الانبیاء کیا اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو

ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلاً فقد اتخذتک من  
قبل حبیباً و ان کنت کلمت موسیٰ فی الارض تکلیماً۔  
فقد کلمتک فی السماء۔ و ان کنت خلقت عیسیٰ من  
روح القدس فقدر خلقت اسیک من قبل ان اخلق  
الخلق بالفی سنة ولقد وطئت فی السماء موطنًا لم  
یطأه احد قبلک ولا یطأه احد بعدک۔ و ان کنت اصطفیت  
آدم فقد ختیت بک الانبیاء و مخلقت

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم کتاب التاریخ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر دار الفکر بیروت ۲/۲۱۵

<p>نہ بنایا، قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر گستردہ، اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آ راستہ، تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو، جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کئے جاؤ اور بیٹک میں نے دنیا و اہل دنیا کو اس لئے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کروں، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔</p>	<p>خلقًا أكرم على منك (وساق الحديث إلى أن قال) خلق عرش في القيامة عليك ميدود تاج الحمد على رأسك معقود وقرنت أسيك مع اسي فلاذكر في موضع حق تذكرة معى۔ و لقد خلقت الدنيا و اهلها لا عرف لهم كرامتك و منزلتك عندى ولو لاك ما خلقت الدنيا۔<sup>۱</sup></p>
---	--

وَحْيٌ چهارم : دیلیٰ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

<p>میرے پاس جبریل نے حاضر ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے میں جنت کونہ بناتا، اور اگر تم نہ ہوتے میں دوزخ کونہ بناتا۔</p>	<p>اتأني جبريل فقال إن الله يقول لولاك مآخلقت الجنة ولو لاك مآخلقت النار<sup>۲</sup></p>
---	--

یعنی آدم و عالم سب تمہارے طفیلی ہیں، تم نہ ہوتے تو مطیع و عاصی کوئی نہ ہوتا، جنت و نار کس کیلئے ہو تیں، اور خود جنت و نار اجزاء عالم سے ہیں، جن پر تمہارے وجود کا پر تو پڑ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مقصود ذاتِ اُوست و گر جملکی طفیل      منظور نزاوست و گر جملکی غلام<sup>۳</sup>

(مقصود ان کی ذات ہے باقی تمام طفیلی ہے، فقط انہی کا نور و کھانی دیتا ہے باقی سب ناریکیاں ہیں۔ ت)

وَحْيٌ پنجم : ابو نعیم حلیہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ذکر عروجه الى السماء الخ دار احیاء التراث العربي بيروت ۲۹۶/۲۹۷

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ الدیلیلی عن ابن عباس حدیث ۳۰۲۵ مؤسسة الرسالہ بيروت ۲۳۱/

الله تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی پہنچی بنی اسرائیل کو خبر دے دے کہ جو احمد کو نہ مانے گا اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ عرض کی: اے میرے رب! احمد کون ہے؟ فرمایا: میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ اپنی بارگاہ میں عزت والی نہ بنائی، میں نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا، اور جب تک وہ اور اس کی امت داخل نہ ہو لے جنت کو تمام مخلوق پر حرام کیا۔ عرض کی: الہی! اس کی مات کون ہے؟ فرمایا: وہ بڑی حمد کرنے والی۔ اور ان کی اور صفاتِ جلیلہ نے ارشاد فرمائیں۔ عرض کی الہی! مجھے اس امت کا نبی کر۔ فرمایا: ان کا نبی انہیں میں سے ہو گا۔ عرض کی: الہی! مجھے اس نبی کی امت میں کر۔ فرمایا: تو زمانہ میں مقدم اور وہ متاخر ہے، مگر یہیشیلی کے گھر میں تجھے اور اسے مجمع کروں گا۔

وَحْيٌ شَهْرُمٌ: ابن عساکر و خطیب بغدادی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لقینی و هو جاحد باحمد ادخلته النبار قال يأرب ومن احمد قال ما خلقتك خلقاً اكرم على منه كتبته اسيه مع اسي في العرش قبل ان خلق السموات والارض ان الجنة محرمة على جميع خلقى حتى يدخلها هوا منته قال ومن امته قال الحمادون (وذكر صفتهم ثم قال) قال اجعلني نبی تلك الامة قال نبيها منها قال اجعلني من امة ذلك النبي قال استقدمت واستاخرو لكن ساجمع بينك وبينه في دار الخلد<sup>1</sup>.

وَحْيٌ شَهْرُمٌ: ابن عساکر و خطیب بغدادی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

شب اسراء مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں دو کنانوں بلکہ اس سے کم کافاصله رہا۔ رب نے مجھے سے فرمایا: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم!) کیا تجھے کچھ بر اعلوم ہوا کہ میں نے تجھے سب انبیاء سے

لماً اسری بی قربنی رہی حتی کان کان بینی و بینہ کتاب قوسین اوادنی و قال لی یا محمد! اهل غمیک ان جعلتک آخر النبیین قلت

<sup>1</sup> الخصائص الكبيرى بحواله ابن نعيم فى الحلية باب ذكره فى التوارىخ والإنجيل الخ مركز إلہست گجرات ہند ۱/۲

<p>متاخر کیا۔ عرض کی: نہیں اے رب میرے! فرمایا: کیا تیری امت کو غم ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں سے پیچھے کیا۔ میں نے عرض کی نہیں اے رب میرے! فرمایا: اپنی امتوں سے اس لئے پیچھے کیا کہ اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں کسی کے سامنے رسوانہ کروں۔</p>	<p>لَا (يَارَب) ﴿٤﴾ قَالْ فَهَلْ غَمْ أَمْتَكَ أَنْ جَعَلْتُهُمْ أَخْرَى الْأَمْمَ - قَلْتْ لَا (يَارَب). قَالْ أَخْبَرْتُكَ أَنِّي جَعَلْتُهُمْ أَخْرَى الْأَمْمَ لِفَضْعِ الْأَمْمِ عِنْدَهُمْ وَلَا افْضَحْهُمْ عِنْدَ الْأَمْمِ <sup>۱</sup> -</p>
--	--

وَحْيٌ هَذِهِمْ : أَبُو نَعِيمُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَوْرَبِيَّ حَفَظَتِ الْأُبُورِبِرِيَّةُ عَنْ رَضِيِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَعْيَ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ مِنْ رَوَى، حَضُورُ سَيِّدِ  
الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِمَّاتَهُ ہے:

<p>جب میں حسب ارشادِ الٰہی سیرِ سلوت سے فارغ ہوا اللہ تعالیٰ سے عرض کی: اے رب میرے! مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کو تو نے فضائل بخشی۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلیل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم۔ داؤد علیہ السلام کے لیے پہلا مسخر کیک، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور شیاطین۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے جلائے، میرے لیے کیا کیا؟ ارشاد</p>	<p>لِمَا فَرَغْتَ مِمَّا أَمْرَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ السَّلُوتِ قَلْتَ يَارَبِّ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِ الْأَوْقَدِ أَكْرَمْتَهُ جَعَلْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَىٰ كَلِيمًا وَسَخْرَتَ لِدَاؤِدَ الْجَبَالَ وَلَسْلِيَّمَ الرِّيَاحَ وَالشَّيَاطِينَ وَاحِيَّتَ لِعِيسَى الْمُوْقَى فَمَا جَعَلْتَ لِي؟ قَالَ</p>
--	--

عَنْ الْفَاظِ لِابْنِ عَسَاكِرِ وَلِيُسْتَعِنُ بِهِ لِفَظَ يَارَبِّ فِي  
الْبَوْضَعِينَ اِنْيَازِ دَتَّهُ مِنْ عَنْدِ الْخَطِيبِ اَسْتَحْلَاءُ اَمْنَهُ -

کرنے کیلئے بڑھادیا ہے۔ ۱۲ امنہ (ت)

عَنْ وَاضِحٍ ہو کہ محدثین کے نزدیک تعدد صحابی سے حدیث متعدد ہو جاتی ہے۔ ۱۲ امنہ

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير ذکر عروجہ الی السماء الخ دار احیاء التراث العربي بیروت ۳/۹۵۵ تاریخ بغداد ترجمہ احمد بن محمد النزوی  
۷ دارالکتب بیروت ۵/۱۳۰

ہوا، کیا میں نے تجھے ان سب سے بزرگی عطا نہ کی کہ میری یاد نہ ہو جب تک تو میرے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔	او لیس اعطیتک افضل من ذلك کله لا اذکر الا ذكرت معنی <sup>۱</sup> الحدیث۔
---	---

اور اس کے سوا اور فضائل ذکر فرمائے۔ یہ لفظ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے رب عزوجل نے فرمایا:

یعنی جو میں نے تجھے دیا وہ ان سب سے بہتر ہے میں نے تجھے کوثر عطا فرمایا اور میں نے تیر انام اپنے نام کے ساتھ کیا جو ف آسمان میں اس کی ندا ہوتی ہے، اور میں نے تیری شفاعت ذخیرہ کر رکھی ہے اور تیرے سوا کسی نبی کو یہ دلت نہ دی۔	ما اعطیتک خيرا من ذلك اعطيت الكوثر وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء (الى ان قال) و خبات شفاعتك ولم اخبرها النبي غيرك <sup>۲</sup> ۔
---	--

و حی هشتم<sup>۳</sup>: امام اجل حکیم ترمذی و یہقی وابن عساکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الله تعالیٰ نے ابراہیم اور موسیٰ کو نجی کیا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ پھر فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم بیش اپنے پیارے کو اپنے خلیل اور نجی پر تفضیل دوں گا۔	اتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً و موسیٰ نجیباً و اتخاذني حببياً ثم قال وعزمي وجلالي لا وثرن حببي على خليلي ونجي <sup>۴</sup> ۔
---	---

و حی نهم<sup>۵</sup>: ابن عساکر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحواله ابی نعیم فی الدلائل تحت الایة ۹۳ / دار احیاء التراث العربي بیروت ۸/۵۰۳، دلائل النبوة للبهیقی بباب الدلیل

علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرج بہ الی السماء الخ دار احیاء التراث العلمیہ بیروت ۲/۲۰۲

<sup>۲</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ القسم الاول بباب الثالث الفصل الاول المطبعة الشرکۃ الصحافیۃ / ۱۳۳

<sup>۳</sup> الدر المنشور تحت الایة ۲۵ / دار احیاء التراث العربي بیروت ۲/۲۵۶، کنز العمال حدیث ۳۱۸۹۳ مؤسسة الرسالة بیروت ۱/۲۰۶

<p>مجھ سے میرے رب عزوجل نے فرمایا: میں نے ابراہیم کو اپنی غلت بخشی اور موسیٰ سے کلام کیا اور تجھے اے محمد اپنا مواجه عطا فرمایا (کہ پاس آ کر بے پر وہ وحیاب میرا وجہ کریم دیکھا)</p>	<p>قالٰ لی ربی عزوجل نحلت ابراہیم خلائق و کلمت موسیٰ تکلیماً واعطیت یا محمد کفاحاً<sup>۱</sup></p>
--	--

وَحْيٌ وَهُمْ : يَهُوقُّ وَهِبُّ بْنُ مُنْبَرٍ سَرَاوِيٍّ :

<p>الله تعالیٰ نے زبور مقدس میں وحی بھیجی: اے داؤد عنقریب تیرے بعد وہ سچانی آئے گا جس کا نام احمد و محمد ہے، میں بھی اس سے ناراض نہ ہوں گا اور نہ وہ بکھی میری نافرمانی کرے گا۔ اس کی امت امت مرحومہ ہے، میں نے انھیں وہ نوافل عطا کئے جو پیغمبر وہیں کو دیے، اور ان پر وہ احکام فرض ٹھہرائے جو انبیاء اور رسول پر فرض تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ میرے پاس روز قیامت اس حال پر حاضر ہوں گے کہ ان کا نور مثل نور انبیاء کے ہو گا۔ اے داؤد! میں نے محمد کو سب سے افضل کیا۔ اور اس کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>أوحى في الزبور يا داؤد انه سيأتي بعده من اسيمه احمد و محمد صادقاً نبياً لا أغضب عليه ابداً ولا يغضبني ابداً (إلى قوله) امته مرحومة اعطيتهم من النوافل مثل ما اعطيت الانبياء وافتراضت عليهم الفرائض التي افترضت على الانبياء والرسل حتى يأتيوني يوم القيمة نورهم مثل نور الانبياء (إلى ان قال) يا داؤد فانى فضلت محمد امته على الامم كلها<sup>۲</sup> الى اخرة۔</p>
---	---

وَحْيٌ يَازِدِهِمْ : ابو نعیم و تیہقی حضرت کعب ابخار سے راوی، ان کے سامنے ایک شخص نے خواب بیان کیا، گویا لوگ حساب کے لیے جمع کئے گئے اور حضرات انبیاء بلاۓ گئے، ہر نبی کے ساتھ اس امت آتی، ہر نبی کے لیے دونور ہیں، اور ان کے ہر پیروکے لیے ایک نور جس کی روشنی میں چلتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاۓ گئے ان کے سر انور عَلَيْهِ وَرُزُقُهُ نور کے ہر بال سے جداجد انور کے

عَلَيْهِ : یہاں صرف اسی قدر بیان میں آیا، ورنہ حضور کے سر انور سے پائے تک نور ہی نور ہو گا جیسا کہ تابش ۲ جلوہ ۲، ارشاد ۳۵ میں مذکور ہو گا ۱۲ منہ۔

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير ذکر عروجہ الی السماء واجتماعه الی الانبياء دار احیاء التراث العربي بیروت ۳/۲۹۶

<sup>۲</sup> دلائل النبوة بباب صفة الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی التوراة والانجیل الخ دار الكتب العلمية بیروت ۱/۳۸۰

بکے بلند ہیں جنھیں دیکھنے والا تمیز کرے، اور ان کے ہر پیروکے لیے انبیاء کی طرح دونور ہیں جس کی روشنی میں راہ چلتا ہے۔  
کعب نے خواب سن کر فرمایا: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَيْتُ هَذَا فِي مَنَامِكَ تَجْهِي قَمَ اللَّهِ كَيْ جَسَ كَسْوَةَ كُوئَيْ سَچَا مَعْبُودُ نَهْيِسْ، تو  
نے یہ واقعہ خواب میں دیکھا۔ کہا ہاں، والذی نفْسی بیدَهُ اَنْهَا الصَّفَةُ مَحْسُودًا مَتَّهُ وَصَفَةُ الْاَنْبِيَاءُ وَامْهَافُ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى  
فَكَانَ مَا قَرَأْتَهُ فِي التُّورَاتِ<sup>۱</sup>۔ قَمَ اسَ کی جَسَ کَهْتَھِ میں میری جان ہے بیشک بِعِنْتَمْ کِتَابِ اللَّهِ میں یوں ہی صفت لکھی ہے مُحَمَّد  
صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اور ان کی امت اور انبیائے سابقین اور ان کی امتوں کی، گویا تو نے توریت میں پڑھ کر بیان کیا۔

وَحَیْ دَوَازْدَهُمْ<sup>۲</sup>: امام قسطلانی مواہب الدنیہ و منخ محمدیہ میں رسالہ میلاد و امام علامہ ابن طغریبرک سے نقل مرودی ہوا، آدم علیہ  
الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: الٰہی! تو نے میری کنیت ابو محمد کس لئے رکھی؟ حکم ہوا: اے آدم! ابا نسر اٹھا۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام  
نے سر اٹھایا سراپرده عرش میں محمد صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کا نور نظر آیا۔ عرض کی: الٰہی! یہ نور کیا ہے؟ فرمایا:

<p>هذا نور نبی من ذریتك اسمه في السباء احمد وفي الارض محمد لولاد مآخلقتك ولا خلقت سباء والارض<sup>۲</sup>۔</p>	<p>یہ نور ایک نبی کا ہے تیری ذریت یعنی اولاد سے، اس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔</p>
--	--

وَحَیْ سِيزْدَهُمْ<sup>۳</sup>: وَفِيهِ اعْنَى فِي الْمَوَاهِبِ مَرْوِيٌّ ہوا، جَبْ آدَمُ عَلَيْهِ الْصَّلوٰۃُ وَالسَّلَامُ جَنَّتَ عَلَیْهِ سَاقَ عَرْشٍ اُوْرَہَ  
مَقَامَ بَهْشَتٍ مَیْں نَامَ پَاکَ مُحَمَّدَ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ نَامَ الٰہِی سے مَلَّا ہوا

عَلَیْهِ: اقول: بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ (میں اللَّهِ تَعَالَیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں۔ ت) جَنَّتَ سَاقَ بَهْرَ آنَا، اور خوف الٰہِی کے عظیم پہاروں کا دل مبارک  
پر دفعَتَهُ ٹوٹ پڑنا، پھر اپنی لغزش کی یاد اور اس پر ندامت، اور اللَّه جل جلالہ سے حیاء و خجلت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اس وقت کی حالت احاطہ  
تقریر و تحریر میں نہیں آسکتی۔ ایسے حال میں اگر آدمی اگلی جانی پہچانی بات بھی ذہول کرے تو اصلًا جائے توجب نہیں، فافهم، واللَّهُ تَعَالَیٰ  
اعلم۔

<sup>۱</sup> الخصائص الكبیری بباب ذکرہ فی التوراة والانجیل الخ مركزہ المہست برکات رضا گجرات الہند ۱/۱۶

<sup>۲</sup> المواهب الدینیۃ طیبۃ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۷۰

لکھا دیکھا۔ عرض کی: الہی! یہ محمد کون ہے؟ فرمایا: هذَا وَلِدُكَ الَّذِي لَوْلَا مَا خَلَقْتَكَ یہ تیری بیٹا ہے، یہ اگر نہ ہوتا میں تجھے نہ بناتا۔ عرض کی: الہی! اس بیٹے کی حرمت سے اس بات پر رحم فرم۔ ارشاد ہوا: اے آدم! اگر تو محمد کے وسیلہ سے تمام اہل آسمان و زمین کی شفاعت کرتا ہم قبول فرماتے۔<sup>۱</sup>

وچی چہارو ہم<sup>۲</sup>: امام ابن سبع علامہ غزیٰ نسید نامولہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے ناقل:

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا: میں تیرے لئے بچھاتا ہوں زمین، اور موجز ن کرتا ہوں دریا، اور بلند کرتا ہوں آسمان، اور مقرر کرتا ہوں جزا اسرار۔ (اس کو زرقانی نے شرح میں ذکر کیا ہے)	ان اللہ تعالیٰ قَالَ لِنَبِيِّهِ مِنْ أَجْلِكَ اسْطُحْ الْبَطْحَاءَ وَ امْوَاجَ الْمَوْجِ وَارْفَعْ السَّمَاءَ وَاجْعَلْ الشَّوَابَ وَالْعَقَابَ۔ ذَكْرَهُ الْزَرْقَانِ <sup>۲</sup> فِي الشَّرْحِ۔
---	---

ان سب روایات کا حاصل وہی ہے کہ تمام کائنات نے خلعت وجود حضور سید الکائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں پایا۔  
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے<sup>۳</sup>

وچی پانزو ہم<sup>۴</sup>: فی فتاویٰ الامام سراج الدین البلقینی (امام سراج الدین بالقینی کے فتاویٰ میں۔ ت) اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا:

میں نے تجھ پر سات احسان کئے، ان میں پہلا یہ ہے کہ آسمان وزمین میں کوئی تجھ سے زیادہ عزت والا نہ بنایا۔	قد مننت علیک بسبعة اشياء اولها ان لم اخلق في السموات والارض اكرم على منك <sup>۴</sup> ۔
---	--

وچی شانزو ہم<sup>۵</sup>: امام اجل فقیہ محدث عارف باللہ استاد ابوالقاسم قشیری اور مفسر

<sup>۱</sup> الموهاب اللدنیہ استشفعاع آدم بہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتب الاسلامی بیروت ۸۲/۱

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی علی الموهاب اللدنیہ بحوالہ ابن سبع عن علی رضی اللہ عنہ المقصد الاول ۳۳/۱

<sup>۳</sup> حدائق بخشش مکتبہ رضویہ کراچی ۱/۶۹

<sup>۴</sup> المنح البکیۃ فی شرح الہمزیۃ بحوالہ السراج البلقینی فی فتاویٰہ شعر المجمع الشقاء فی ابو ظہبی ص ۱۲۱

لغبی پھر علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہم جمعین فرماتے ہیں حق عز جلالہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا:

جنت انبیاء پر حرام ہے جب تک تم داخل نہ ہو اور امتوں پر حرام ہے جب تک تمھاری امت نہ جائے۔	الجنة حرام على الانبياء حتى تدخلها وعلى الامم حريم هي حتى تدخلها امتك <sup>۱</sup> ۔
--	---

وَحْيٌ يَهْدِهِم <sup>۱۲</sup>: علامہ ابن ظفر کتاب خیر البشر، پھر قسطلانی و شامی و حلی و دلگی وغیرہم علماء اپنی تصانیف جلیلہ میں ناقل، رب العزت تبارک و تعالیٰ کتنا شیعی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں فرماتا ہے:

میرابنہ جس سے میرا نفس شاد ہے اس پر اپنی وحی اتاروں گا، وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کرے گا اور انہیں نیک بالوں پر تاکید فرمائے گا، بے جانہ بننے گا، اور بازاروں میں اس کی آواز نہ سنی جائے گی، اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھول دے گا، اور غافل دلوں کو زندہ کرے گا، میں جو اسے عطا کروں گا وہ کسی کو نہ دوں گا۔ مشیح اللہ کی نئی حمد کرے گا۔	عبدی الذی سرت به نفسی انزل علیہ وحی فیظہر فی الامم عدل ویوصیہم الوصایا ولا یضھک ولا یسمع صوته فی الاسواق یفتح العینون العور والاذان الصم ویحیی القلوب الغلف وما اعطيه لا اعطي احدا مشیح یحمد اللہ حمدًا جدیدا <sup>۲</sup>
---	--

مشیح ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اور محمد سے ہموزن وہم معنی ہے یعنی بکثرت و بار بار سراہا گیا۔

وَحْيٌ بَیْحَدِهِم <sup>۱۳</sup>: علامہ فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطالع المسرات شرح دلائل الحیرات میں چند آیات توریت نقل فرمائیں جن میں حق سجانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

<sup>۱</sup> المواهب اللدنیہ المقصد الخامس الاسراء والمعراج المکتب الاسلامی بیروت ۳/۹۳، تفسیر القشیری تحت الایة ۵۳/۱۰ دار الكتب

العلمیہ بیروت ۳/۲۲۸، الکشف والبیان (تفسیر الشعلی) تحت الایة ۵۳/۱۰ دار احیاء التراث العربي بیروت ۹/۱۳۹

<sup>۲</sup> سبل الهدی والرشاد دار الكتب العلمیہ بیروت ۱/۵۱۳ المواهب اللدنیہ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۵۳

اے مویں! میری حمد بجالا جبکہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی ہم کلامی کے ساتھ تجھے احمد پر ایمان عطا فرمایا، اور اگر تو احمد پر ایمان لانا نہ مانتا میرے گھر میں مجھ سے قرب نہ پاتا، نہ میری جنت میں چین کرتا۔ اے مویں تمام مرسلین سے جو کوئی احمد پر ایمان نہ لائے اور اس کی تصدیق نہ کرے اور اس کا مشتاق نہ ہوا سکی تیکیاں مردود ہوں گی، اور اسے حکمت کے حفظ سے روک دوں گا، اور اس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ڈالوں گا، اور اس کا نام دفتر انبیاء سے مٹا دوں گا۔ اے مویں! جو احمد پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، اور میری مخلوق میں جس نے احمد سے انکار اور اس کی تکذیب کی وہی زیال کار، وہی ہیں پشمائن، وہی ہیں بے خبر۔

یا موسیٰ احمد نے اذا مننت عليك مع کلامی ایاک بالایمان باحمد ولو لم تقبل الایمان باحمد ما جادرتني في داري ولا تنعمت في جنني یا موسیٰ من لم یومن باحمد من جبیع المرسلین ولم یصدقه ولم یشتقت اليه كانت حسناته مردودة عليه ومنعته حفظ الحکمة ولا دخل في قلبه نور الهدی وامحو اسیه من النبوة یا موسیٰ من امن باحمد وصدقته اوئلئک هم الفائزون ومن کفر باحمد وکذبہ من جبیع خلقی اوئلئک هم الخسررون اوئلئک هم النادمون اوئلئک هم الغافلون<sup>۱</sup>

الحمد لله يَا آييْتِ خوب ظاہر فرماتی ہیں اس عہد و پیمان کو جو آیہ کریمہ "لَتُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَتَصْرُّفَ إِلَيْهِ" <sup>۲</sup> میں مذکور ہوا۔

تمثیل: بعض روایات میں ہے حق عز جلالہ اپنے حبیب کریم افضل الصلاۃ والسلیم سے ارشاد فرماتا ہے:

اے محمد! تو میرے نور کا نور ہے، اور میرے راز کا راز، اور میری ہدایت کی کان۔ اور میری معرفت کے خزانے! میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر

یا محمد انت نور نوری و سر سری و کنوز هدایتی و خزانی معرفتی جعلت فداء لك ملکی من العرش

<sup>۱</sup> مطالع المسرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۳۵۵

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۸۱/۳

تحت الشری تک سب تجھ پر قربان کر دیا۔ عالم میں جو کوئی ہے سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں یا محمد!۔ اے اللہ، اے رب محمد، درود نازل فرمایا محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد مصطفیٰ پر تیرے راضی ہونے اور تجھ پر محمد مصطفیٰ کے راضی ہونے کے وسیلے سے کہ تو محمد مصطفیٰ کو ہم پر راضی کر دے اور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تو ہم پر راضی ہو جا۔ اے محمد مصطفیٰ کے معبد! ہماری دعا قبول فرمایا اور محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پر درود بھیج اور برکت و سلامتی نازل فرمائ۔ (ت)

الى ما تحت الارضين كلهم يطلبون رضايى وانا اطلب رضاك يا محيى محبك<sup>1</sup> -

اللهم رب محمد صل على محمد وآل محمد اسالك بر رضاك عن محمد ورضا محمد عنك ان ترضي عنا محمد او ترضي عنا بيميد امين الله محمد وصل على محمد وآل محمد وبارك وسلم.

تابش دوم ارشادات حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین

یہ تابشیں تین ۳ جلووں سے ششہ انگلکن:

### جلوہ اول نصوص جلیلہ مسئلہ علیہ

ارشاد اول: احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلام فرماتے ہیں:

میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں، کچھ جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سب اگلے پھپلوں کو ایک ہموار میدان وسیع میں جمع کریگا۔ پھر حدیث طویل شفاعت

ان سید الناس يوم القيمة وهل تدرؤن مما ذلك  
يجمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد الحديث

ارشاد فرمائی۔

بطولہ<sup>۱</sup>۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ترید و گوشت حاضر آیا، حضور نے دست گوسفند کو ایک بار دنداں انقدس سے مشرف کیا اور فرمایا:

میں قیامت کے دن سردار مردم ہوں۔

انا سید النّاس يوْم الْقِيَامَةِ۔

پھر دوبارہ اس گوشت سے قدرے تناول کیا اور فرمایا:

میں قیامت کے دن سردار جہانیاں ہوں۔

انا سید النّاس يوْم الْقِيَامَةِ۔

جب حضور نے دیکھا مکر فرمانے پر بھی صحابہ علیہ وجوہ نہیں پوچھتے، فرمایا الاتقولون کیفہ پوچھتے نہیں کہ یہ کیونکر ہے؟ صحابہ نے عرض کی: کیف ہو یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول یہ کیونکر ہے؟ فرمایا: يَقُولُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ لَوْلَغَ رَبِّ الْعَلَمِينَ كَمَا حَضُورُكُلُّهُرَے ہوں گے پھر حدیث شفاعت ذکر فرمائی<sup>۲</sup>۔

ارشاد دوم: مسلم، ابو داؤد انہی سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار، اور

انا سید ولادِ دم يوْم الْقِيَامَةِ وَ

علیہ: اصحابہ کو اجمالاً حضور کی سیادت مطلقہ معلوم تھی، معذہ اجو کچھ فرمائیں عین ایمان ہے، چون وچرا کی کیا مجال، لہذا وجہ نہ پوچھی، مگر نہ جانا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تفصیلاً پنی سیادت کبریٰ کا بیان فرمانا چاہتے ہیں اور منتظر ہیں کہ بعد سوال ارشاد ہوتا کہ اوقع فی التفہن ہو۔ جب صحابہ مقصود والا کو نہ سمجھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود متنبہ فرمایا کہ سوال کیا اور جواب ارشاد کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲ منہ

<sup>۱</sup> صحيح البخاري كتاب التفسير سورة بني اسرائيل بباب قول الله تعالى ذريه من حملنا مع نوح الخ ۲/۲۸۵ و ۲۸۳، صحيح مسلم كتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱، سنن الترمذی كتاب صفة القيامة بباب ما جاء في الشفاعة حدیث دار

الفکر بيروت ۲/۱۹۶، مسنند امام احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المكتب الاسلامی بيروت ۲/۲۳۵

<sup>۲</sup> صحيح مسلم كتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱

سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لانے والا، اور پہلا شفیع اور پہلا وہ جس کی شفاعت قبول ہو۔

اول ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع<sup>۱</sup>

ارشاد سوم <sup>۲</sup>: احمد، ترمذی، ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں، اور یہ کچھ فخر سے نہیں فرماتا۔ اور ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ اور یہ فخر نہیں کہتا اس دن اور ان کے سوا جتنے ہیں سب میرے زیر لواحوں گے۔

انا سید ولد ادمر یوم القيامۃ ولا فخر و بیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ ادمر فیمن سواه الا تحت لوانی<sup>۲</sup> الحدیث۔

ارشاد چہارم <sup>۳</sup>: دارمی، بیہقی، ابو نعیم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں قیامت میں سردار مردمان ہوں اور کچھ تقاضہ نہیں۔

انا سید الناس یوم القيامۃ ولا فخر وانا اول من يدخل الجنة والافخر<sup>۳</sup>

ارشاد پنجم <sup>۴</sup>: حاکم و بیہقی کتاب الرؤیۃ میں عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں اور کچھ افتخار نہیں، ہر شخص قیامت میں میرے ہی

انا سید الناس یوم القيامۃ ولا فخر ما من احد الا وهو تحت

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ فرنی کتب غانہ کراچی ۲۲۵/۲، سنن ابن داؤد کتاب السنۃ باب في التخیر بين الانبياء عليهم السلام آفتاب عالم پر لیں لاہور ۲۸۶/۲

<sup>۲</sup> الترمذی ابوب التفسیر سورۃ بنی اسرائیل حدیث ۳۱۵۹ دار الفکر بیروت ۵/۹۹، الترمذی ابوب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث ۳۶۳۵ دار الفکر بیروت ۵/۳۵۳، کنز العمال بحوالہ حمّت عن ابن سعید حدیث ۳۱۸۸۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۲۰۳

<sup>۳</sup> دلائل النبوة للبیهقی باب ماجاء فی تحدیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنعمة ربہ دار الكتب العلمیة بیروت ۵/۲۷۹، سنن داری باب اعطی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ حدیث ۵۳ دار المحسن للطباعة القاهرۃ ۳۱

شنان کے نیچے کشاں کا انتظار کرتا ہوگا، اور میرے ہی ساتھ لوائے حمد ہوگا، میں جاؤں گا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ درجت پر تشریف لے جا کر کھلواؤں گا پوچھا جائے گا: کون ہے؟ میں کہوں گا محمد کہا جائے گا: مر جما محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا اس کے حضور سجدے میں گرپڑوں گا اس کے وجہ کریم کی طرف نظر کرتا۔

لوائی یوم القيامۃ ینتظر الفرج و ان معی لواء الحمد  
انما مشی و یمشی الناس معی حتى اتی باب الجنة فاستفتح  
فیقال من هذا؟ فاقول محمد. فیقال مرحباً بِمُحَمَّدٍ.  
فاذار ایت ربی خرت له ساجداً انظر الیه<sup>۱</sup>۔

**ارشاد ششم:** ابو نعیم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں جن و انس اور ہر سرخ سیاہ کی طرف رسول بھیجا گیا، اور سب انبیاء سے الگ میرے ہی لئے غنیمتیں حلال کی گئیں، اور میرے لئے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری، اور میرے آگے ایک مہینہ راہ تک رعب سے میری مدد کی گئی، اور مجھے سورہ بقرہ کی پچھلی کہ خزانہ ہائے عرش سے تھیں عطا ہوئی، یہ خاص میرا حصہ تھا سب انبیاء سے جدا، اور مجھے تورات کے بدلتے قرآن کی وہ سورتیں ملیں جن میں سو سے کم آیتیں ہیں، اور انجیل کی جگہ سوسا آیت والیاں اور زبور کے عوض حم کی سورتیں اور مجھے مفصل سے تفضیل دی گئی کہ سورۃ حجرات سے آخر قرآن تک ہے

ارسلت الى الجن والانسان والى كل احمر و اسود و احلت  
لى الغنائم دون الانبياء و جعلت لى الارض كلها طهورا  
ومسجدا و نصرت بالرعب اما می شهرافاعطیت  
خواتیم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش و  
خصست بها دون الانبياء فاعطیت المثانی مكان  
التوراة والمئین مكان الانجیل والحوامیم مكان  
الزبور وفضلت بالمفصل وانا سید ولد ادم في الدنيا  
والآخرة ولا فخر وانا

<sup>۱</sup>كنز العمال بحواله لك وابن عساكر عن عبادة الصامت حدیث ۳۲۰۳۸ مؤسسة الرسالة بيروت ۲۰۲۳

اور دنیا و آخرت میں میں تمام بنی ادم کا سردار ہوں، اور کچھ فخر نہیں۔ اور سب سے پہلے میں اور میری امت قبور سے نکلے گی اور کچھ فخر نہیں، اور قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ لوائے جم ہو گا اور تمام انبیاء اس کے نیچے، اور کچھ فخر۔ اور میرے ہی اختیار میں جنت کی کنجیاں ہوں گی، اور کچھ فخر نہیں، اور مجھی سے شفاعت کی پہل ہوگی، اور کچھ فخر نہیں اور میں تمام مخلوق سے پہلے روز قیامت جنت میں تشریف لے جاؤں گا، اور کچھ فخر نہیں۔ میں ان سب کے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے۔ اللهم جعلنا منہم فیہم و معاہم بجاهہ عنہک امین! اے اللہ! ہمیں کروے ان سے، ان میں، اور ان کے ساتھ، اپنے محبوب کی وجہت کے صدقے میں جو تیرے ہاں ہے۔ یا الہی! قبول فرم۔ (ت)

اول تنشق الارض عنی وعن امتنی ولا فخر بیدی  
لواء الحمد يوم القيمة وجميع الانبياء تحته ولا  
فخر والى مفاتيح الجنة يوم القيمة ولا فخر وبنی  
تفتح الشفاعة ولا فخر وان سابق الخلق الى الجنة  
يوم القيمة والا فخر وانا امامهم وامتنی بالاثر<sup>۱</sup>

فقیر کہتا ہے مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفس حديث ثریف کو حفظ کر لے تاکہ اپنے آقائے نامدار کے فضائل و خصائص پر مطلع رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ارشاد هفتہ<sup>۲</sup> : احمد، زردار، ابو یعلیٰ اور ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت جناب افضل الاولیاء الاولین والاخرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں راوی، لوگ ادم و نوح و خلیل و کلیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہوتے ہوئے حضرت مسیح کے پاس حاضر ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے لیس ذکم عندی و لکن اظلقوای سید ولد آدم۔ تمہارا یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا مگر تم اس کے پاس حاضر ہو جو تمام بنی ادم کا سردار ہے۔ لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے حضور ولا جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے رب کے پاس اذن لینے کے لیے بھیجنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ اذن دے گا۔ حضور حاضر ہو کر ایک ہفتہ ساجدر ہیں گے، رب عز وجلہ فرمائے گا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ مسموع ہو گی، اور شفاعت کرو

<sup>1</sup> دلائل النبوة لابن نعيم الفصل الرابع عالم الكتب بيروت ۱/۱۳

کہ قبول ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے تو رب عظیم کا وجہ کریم دیکھیں گے فوراً پھر سجدے میں گریں گے، ایک ہفتہ اور سا بدر ہیں گے۔ رب جل وعلا پھر وہی کلمات لطف فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں گے پھر سہ بارہ تصد سجده فرمائیں گے، جبراً میں امین حضور کے بازو تھام کروک لیں گے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کریم سبحانہ سے عرض کریں گے یا رب جعلتني سید ولادم ولا فخر اے رب میرے! تو نے مجھے سردار بنی آدم کیا اور کچھ فخر نہیں الی آخر الحدیث<sup>۱</sup>۔

ارشاد هشتم<sup>۲</sup>: حاکم و بیہقی ع<sup>۳</sup> فضائل الصحابة میں ام المومنین صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: <sup>۴</sup> میں تمام عالم کا سردار ہوں۔

<p>ارشاد نهم<sup>۵</sup>: دارمی، ترمذی، ابو نعیم بسند حسن ع<sup>۶</sup> عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ع<sup>۷</sup>: صححه الحاکم قاله ابن حجر منکنے افضل القری میں یہی کہا اور اس کو برقرار رکھا، اور حدیث میں قصہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اس کو متابعت میں وارد کیا ہے۔ ۱۴۷ (ت)</p> <p>سراج بلقینی نے اپنے فتاویٰ میں اس کو حسن قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیق فرمائی جیسا کہ افضل القری میں اس سے منقول ہے، اگرچہ ابو عیسیٰ علیہ الرحمۃ نے اس کی مخالفت کی۔ ۱۴۸ (ت)</p>	<p>القری واقہ علیہ وفي الحدیث قصة. قلت واما انا فانما اور دته في المتابعات ۱۴۹ (امنه)۔</p> <p>ع<sup>۸</sup>: تحسنیہ هو الذی حققه السراج البلقینی فی فتاویٰ کما اثر عنہ فی امر القری و ان خالف فیہ ابو عیسیٰ رحیمه اللہ تعالیٰ ۱۵۰ (امنه)۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> مستند احمد حنبل عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت /۱/، مسند ابی یعلی عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مؤسسة علوم القرآن بیروت /۲/، موارد الظیمان حدیث ۲۵۸۹ المطبعة السلفیہ ص ۲۲۳ ۲۲۲، کنز العمال بحوالہ البزار حدیث ۳۹۷۵۰

مؤسسه الرسالة بیروت /۱۳/ ۲۲۸ ۲۲۹

<sup>۲</sup> مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير) بحوالہ البیہقی تحت الایہ ۲/ ۲۵۳ دار الكتب العلمیة بیروت /۲/ ۱۶۸

راوی، در اقدس پر کچھ صاحبہ بیٹھے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے انتظار میں باتیں کر رہے تھے حضور تشریف فرمادیوئے، انہیں اس ذکر میں پایا کہ ایک کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ دوسرا بولا: حضرت مولیٰ سے بے واسطہ کلام فرمایا۔ تیسرا نے کہا: اور علیٰ کلمۃ اللہ ورح اللہ ہیں۔ چوتھے نے کہا: آدم علیہ السلام صفوی اللہ ہیں۔ جب وہ سب کہے چکے حضور پر نور صلوات اللہ سلامہ، علیہ قریب آئے اور ارشاد فرمایا: میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تجھ کرنا سنائے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہاں وہ ایسے ہی ہیں، اور مولیٰ نبی اللہ ہیں اور بیشک وہ ایسے ہی ہیں، اور علیٰ روح اللہ ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں، اور آدم صفوی اللہ ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔

<p>سن لو، اور میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، اور کچھ فخر مقصود نہیں، اور میں روزِ قیامت لواءً محمد اٹھاؤں گا جس کے نیچے آدم اور ان کے سواب ہوں گے، اور کچھ تفاخر ہیں۔ اور میں پہلا شافع اور مقبول الشقاعة ہوں، اور کچھ افتخار نہیں۔ اور سب سے پہلے میں دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لئے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا، اور میرے ساتھ فقرائے مومنین ہوں گے، اور یہ نازکی راہ سے نہیں کہتا۔ اور میں سب اگلے پچھلوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بڑائی کے طور پر نہیں فرمائا۔</p>	<p>الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، وانا حامل لواء الحمد یوم القیمة تحته، ادم فین دونه ولا فخر، وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیمة ولا فخر، وانا اول من یحرک حلقة الجنة فیفتح اللہ لی فید خلندیها و معنی قراء المؤمنین ولا فخر، وانا اکرم الاولین و الاخرين علی اللہ ولا فخر<sup>۱</sup></p>
---	--

ارشادِ ہم<sup>۱</sup>: دارمی اور ترمذی عَلَى بِفَادِهِ تَحْسِينٍ اُوْرِيْعِلِيْ وَبِهِقٍ وَبُوْلِعِيمٍ اُنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذِهِ تَرْمِذِيَ الْمُنْتَهِيَ مُخْتَصِّرًا عَلَى اَمْنَهُ۔

<sup>۱</sup> سنن الترمذی ابواب المناقب بباب ماجاء في فضل النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۳۶۳۶ دار الكتب العلمیہ بیروت ۵/ ۳۵۳ ۳۵۵، سنن الدارمی بباب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضل دار المحسن للطباعة القاهرة ۱۹۷۰/۳۰

تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں سب سے پہلے باہر تشریف لاوں گا جب لوگ قبروں سے  
اٹھیں گے۔ اور میں سب کا پیشووا ہوں گا جب اللہ تعالیٰ کے  
حضور چلیں گے۔ اور میں ان کا خطیب ہو گا جب وہ دم بخود  
رہ جائیں گے۔ اور یہاں کا شفیع ہونگا جب عرصہ محشر میں  
روکے جائیں گے۔ اور میں انہیں بشارت دوں گا جب وہنا امید  
ہو جائیں گے۔ عزت اور خزانہ رحمت کی کنجیاں اس دن  
میرے ہاتھ ہوں گی۔ اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ میں  
ہو گا۔ میں تمام آدمیوں سے زیادہ اپنے رب کے نزدیک اعزاز  
رکھتا ہوں۔ میرے گرد و پیش ہزار خادم عَزَّ ذُرَّةٍ دوڑتے ہوں  
گے، گویا وہ انڈے ہیں حفاظت سے رکھے ہوئے یا موتی ہیں  
بکھرے ہوئے۔

علہ: ظاہر حدیث یہ ہے کہ یہ خدام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گردوپیش عرصاتِ محشر میں ہوں گے، اور وہاں دوسروں کے لئے خدام ہونا معلوم نہیں۔

فلا حاجة إلى ماقال الزرقاني ان هذه الف من جملة ما اعد  
چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو زرقانی نے کہا کہ یہ ہزار ان  
میں سے ہوں گے جو آپ کیلئے (باتی بر صحیح آئندہ)

<sup>١</sup> دلائل النبوة للبيهقي باب ماجاء في تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ دار الكتب العلمية بيروت ٣٨٢ / ٥ ودلائل النبوة لابي نعيم الفصل الرابع عالم الكتب بيروت الجزء الاول ١٣٠ وسنن الدارمي باب ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل دار المحسن للطباعة القاهرة ١٤٠٠ وسنن الترمذى أبواب المذاهب ج ٣ ٦٣٠ دار الفكر بيروت ٣٥٢ / ٥

ارشادِ یازدهم " : بخاری تاریخ میں، اور دارمی بسند ثقات، اور طبرانی اوسط میں، اور بیہقی والیع فیعیم جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

میں پیشوائے مرسلین ہوں، اور کچھ تفاخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور کچھ افتخار نہیں۔	انا قائد المرسلين ولا فخر، وانا خاتم النببيين ولا فخر <sup>۱</sup> ۔
--	--

تیار کیے گئے۔ ابن ابی الدنيا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر فوگار وایت کیا کہ تمام اہل جنت سے نیچے درجے والے کے لیے دس ہزار خادم ہوں گے اور ان کے نزدیک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تمام اہل جنت سے اونچی منزل والے کے لیے کہ ان میں کوئی گھٹیا نہیں، صبح و شام پندرہ ہزار خادم ہوں گے، ان میں سے ہر خادم میں کوئی نئی خوبی ہو گئی جو دوسرا میں نہیں ہو گئی اس کیونکہ یہ خدام جنت میں ہوں گے اور جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لکنے خادم ہوں گے، سو اسے آپ کے کوئی نہیں جانتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم<sup>۲</sup> امنہ (ت)

(ابیه حاشیہ صحیح گرشد) له فقدر وی ابن ابی الدنيا عن انس رفعہ ان اسفل اهل الجنة اجمعین درجة من یقوم علی رأسه عشرة الاف خادم وعنه ایضاً عن ابی هریرۃ ایضاً قال ان ادنی اهل الجنۃ منزلة ولیس فیهم دنی من یغدو ویروح علیه خمسة عشر الف خادماً لیس منہم خادم الامعه طرفة لیست مع صاحبه<sup>۲</sup> اهفان هذان الجنۃ والذی له صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم فیها لا یعلم الا ربہ تبارک وتعالیٰ . واللہ تعالیٰ اعلم<sup>۲</sup> امنہ۔

<sup>1</sup> سنن الدارمی مَا أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضْلِ دار المحسن للطباعة القاهرة ۱/۳۱، دلائل النبوة للبیهقی باب ماجاء في تحدث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الخ دار الكتب العلمية بيروت ۵/۸۰، التاریخ الكبير حدیث ۷/۲۸۳ دار الباز للنشر والتوزیع بک

الگرہ ۳۸۲/۳

<sup>2</sup> شرح الزرقانی علی المواہب المدنیۃ المقصد العاشر دار المعرفة بيروت ۸/۴۰۰

ارشاد و ازاد ہم ”: ترمذی بافادہ تحسین حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>الله تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا۔ پھر ان کے دو گروہ کئے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا۔ پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا۔ پس میں تمام مخلوق الہی سے خود بھی بہتر اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل۔</p>	<p>ان الله تعالیٰ خلق الخلق فجعلني في خيرهم . ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة . ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة . ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيوتاً . فانا خيرهم نفساً و خيراً لهم <sup>1</sup> بیتنا۔</p>
---	---

ارشاد سیز و هم <sup>3</sup> : طبرانی مجتم اور بیہقی دلائل اور امام علامہ قاضی عیاض بسند خود شفاعة شریف میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>الله تعالیٰ نے خلق کی دو فتمیں کیں کیں تو مجھے بہتر قسم میں رکھا۔ اور یہ وہ بات ہے جو خدا تعالیٰ نے فرمائی۔ دہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، تو میں دہنے ہاتھ والوں سے ہوں، اور میں سب دہنے ہاتھ والوں سے بہتر ہوں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے کہ دہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ اور سابقین، تو میں سابقین میں سے ہوں، اور میں سب سابقین سے بہتر ہوں۔ پھر ان حصول کے قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ ہم نے کیا تمہیں شاخیں اور قبیلے۔ (یعنی الی قوله تعالیٰ ان اکرمکم</p>	<p>ان الله قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسماً فذلك قوله تعالى اصحاب اليدين واصحاب الشimal فانا من اصحاب اليدين وانا خير اصحاب اليدين . ثم جعل القسمين اثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاً وذلك قوله تعالى اصحابه المبينة واصحاب الميئنة والسابقون فانا من السابقين وانا خير السابقين . ثم جعل الاثلاط قبائل فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى وجعلنكم شعوبًا وقبائل فانا اتقى ولد ادم و اكرمهم</p>
---	---

<sup>1</sup> سنن الترمذی کتاب الدعوات حدیث ۳۵۳۲ دار الفکر بیروت ۵/۳۱۳

عندالله اتقکم بیشک تم سب میں زیادہ عزت والا خدا کے یہاں وہ ہے جو تم سب میں زیادہ پر ہیزگار ہے) تو میں سب آدمیوں سے زیادہ پر ہیزگار ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا، اور کچھ فخر مراد نہیں۔ پھر ان قبیلوں کے خاندان کئے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ خدائے تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے اے نبی کے گھروالو! اور تمہیں خوب پاک کر دے سکھا کر کے۔

علی اللہ ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني من خيرها بيتاب ذلك قوله تعالى "إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهَبَ عَنْهُمُ الَّرِّجُسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَبُطْهَرَ كُمْ تَطْهِيرًا" <sup>۱</sup>

ارشاد چہارو ہم <sup>۲</sup>: ابن عساکر و بزار بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بہترین اولاد آدم پانچ ہیں: نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان سب بہترول میں بہتر محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

خیار ولد ادم خمسة نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد و خيرهم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم <sup>۲</sup>۔

تنبیہ: ان کے سوا اور نصوص واضحہ ان شاء اللہ تعالیٰ جلوہ سوم و تابش چہارم میں آئیں گے و باللہ التوفیق۔

### جلوہ دوم جلال متعلقہ باختت

تابش اول میں بہت حدیثیں اس مطلب کی گزریں ان سے غفلت نہ چاہیے

<sup>۱</sup> دلائل النبوة للبيهقي باب ذکر شرف اصل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دار الكتب العلمية بيروت ۱۷۱۰/۱، المعجم الكبير حدیث ۱۴۲۰/۳

المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۱۰/۲، الشفاء بتعريف حقوق المصطفیٰ الباب الثالث الفصل الاول المکتبۃ الشرکۃ الصحافیۃ ۱۳۱۳/۰

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ ابن عساکر عن ابی هریرۃ حدیث ۳۲۲۸۲ و ۳۱۹۰۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۱/۳۸۳ و ۱۱/۳۸۷

والله الہادی

ارشاد پانزدهم<sup>۱</sup>: صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>ہم (زمانے میں) پچھلے، اور قیامت کے دن (ہر فضل میں) آگے ہیں۔ (مسلم میں یہ زیادہ ہے) اور ہم سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔</p>	<p>نحن الاخرون السابقون يوم القيمة<sup>۱</sup> (زاد المسلم) ونحن اول من يدخل الجنة<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

ارشاد شانزدہم<sup>۳</sup>: اسی میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام سابقہ کی نسبت فرماتے ہیں:

<p>وہ قیامت میں ہمارے توافع ہوں گے، ہم دنیا میں پیچھے آئے اور قیامت میں پیشی رکھیں گے تمام جہان سے پہلے ہمارے ہی لئے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا۔</p>	<p>هم تبع لنا يوم القيمة نحن الاخرون من اهل الدنيا الاولون يوم القيمة المقضى لهم قبل الخلاق<sup>۳</sup>۔</p>
---	--

ارشاد هفتم<sup>۴</sup>: دارمی عمرو بن قیس ابن مكتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>یعنی جب رحمت خاص کا زمانہ آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے لئے کمال اختصار کیا۔ ہم ظہور میں پچھلے اور روز قیامت رتبے میں اگلے ہیں اور میں ایک بات فرماتا ہوں جس میں فخر و ناز کو دخل نہیں۔ ابراہیم اللہ کے خلیل اور موسیٰ اللہ کے</p>	<p>ان اللہ تعالیٰ ادرک بِ الاجل البرحوم واختصر لِ اختصاراً فنحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيمة وانِّي قائل قولَ غير فخر ابراهيم خليل الله و موسى صفي الله</p>
--	---

ع۴: قال الزرقاني في كل شيء منه۔

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب الجمعة باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۲۳

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الجمعة قدیمی کتب خانہ ۱/۲۸۲

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الجمعة قدیمی کتب خانہ ۱/۲۸۲

صَفِیٌ اور میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے ساتھ روز قیامت  
وَانَّ حَبِیْبَ اللَّهِ وَمَعِیْ لَوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>۱</sup> الحدیث۔  
لَوَاءُ الْحَمْدِ ہو گا۔

قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اختصر لی اختصاراً (نبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مذکور اخقر لی اختصار کے بارے میں علماء فرماتے ہیں۔ ت) : یعنی مجھے اختصار کلام بخشنا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر یا میرے لئے زمانہ منقصر کیا کہ میری امت کو قبروں میں کم دن رہنا پڑے۔

اقول: وبالله توفیق (میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں۔ ت) یا یہ کہ میرے لئے امت کی عمریں کہ کہیں کہ مکارہ دنیا سے جلد خلاص پائیں، گناہ کم ہوں۔ نعمت باقی تک جلد پہنچیں یا یہ کہ میری امت کے لیے طول حساب کو اتنا منحصر فرمادیا کہ اے امت محمد! میں نے تحسین اپنے حقوق معاف کیے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حق معاف کرو اور جنت کو چلے جاؤ یا یہ کہ میرے غلاموں کے لئے پلن صراط کی راہ کہ پندرہ ہزار بر س کی ہے اتنی منحصر کردے گا کہ چشم زدن میں گزر جائیں گے یا جیسے بجلی کونڈ گئی۔ کیا ف الصحیحین<sup>۲</sup> عن ابی سعید الخدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جیسا کہ صحیح میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ ت) یا یہ کہ قیامت کا دن کہ پچاس ہزار بر س کا ہے میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں دور کعت فرض پڑھتے ہیں کیا ف حدیث احمد<sup>۳</sup> وابی یعلیٰ وابن جریر وابن حبان وابن عدی وابن البغوي وابن البيهقي عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جیسا کہ احمد، ابو یعلیٰ، ابن جریر، ابن حبان، ابن عدی، بغوی اور بیہقی کی حدیث میں ہے۔ ت) یا یہ کہ علوم و معارف جو ہزار سال کی محنت و ریاضت میں نہ حاصل ہو سکیں میری چند روزہ خدمت گاری میں میرے اصحاب پر مکشف فرمادے یا یہ کہ زمین سے عرش تک لاکھوں بر س کی راہ میرے لئے ایسی منحصر کردی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیل اما لاحظہ فرماناسب تین ساعت میں ہو لیا یا یہ کہ مجھ پر کتاب ایثاری جس کے معدود رقوں میں تمام اشیاء گزشتہ و آئندہ کارو شن مفصل بیان جس کی ہر آیت کے

<sup>۱</sup> سنن الدارمی بباب ما اعطی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الفضل دار المحسن للطباعة القاهرة ۳۲/۱

<sup>۲</sup> المواہب الدنییہ المقصد العاشر الفصل الثالث المكتب الاسلامی بیروت ۷/۲۶۶

<sup>۳</sup> الدر المنشور بحوالہ احمد وابی یعلیٰ وابن جریر وابن حبان وابن البيهقي تحت الآیة ۷۰/۸ بیروت

نچے ساٹھ ساٹھ ہزار علم جس کی ایک آیت کی تفسیر سے ستر ستر اوٹ بھر جائیں۔ اس زیادہ اور کیا اختصار متصور یا یہ کہ شرق تا غرب اتنی وسیع دنیا کو میرے سامنے ایسا مختصر فرمادیا کہ میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں کانماً انتظار الی کفی هذہ جیسا کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، کما فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عند الطبرانی<sup>۱</sup> وغیرہ (جیسا کہ طبرانی وغیرہ کے تزدیک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے۔ ت) یا یہ کہ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دیا، کما فی حدیث الاجراء فی الصحیحین قال ذلك اوتیه من اشاء<sup>۲</sup> (جیسا کہ صحیح میں اجروں کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہوں ت) یا اگلی امتوں پر جو اعمال شاق طولیہ تھے ان سے اٹھائے، پچاس نمازوں کی پانچر ہیں اور حساب کرم

یہ لوگوں کی زبانوں ہر دائرہ ہے، اور تفسیر میں واقع ہے، بعض نے اس کو بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا ہے جیسے بیضاوی۔ اور بعض نے یہود کو معین کیا ہے جیسے متاخرین۔ لیکن ان سب کار و امام سیوطی نے یہ کہہ کر کیا کہ بنی اسرائیل پر بھی پچاس نمازیں فرض نہیں ہو سکیں اور نہ ہی اس امت کے علاوہ کسی پر پانچ نمازیں مجتمع ہو سکیں۔ بنی اسرائیل پر فقط دو نمازیں فرض ہو سکیں تھیں جیسا کہ حدیث میں ہے شیخ السلام ان پر غالب آنے کیلئے اٹھ کھڑے (باتی بر صحیح آئندہ)

ع۴: هذه يدور على الانسِن وقع في التفسير ففيهم من ينسبة لبني إسرائيل كالبيضاوي ومنهم من يعيّنه اليهود كآخرین لكن رد عليهم الإمام العلامة الجلال السيوطي قائلاً أنه لم يفرض على بنى اسرائيل خمسون صلوة قط ولا خمس صلوات ولم تجتمع الخمس الالهـة الـامـة وانما فرض على بنى اسرائيل صلاتان فقط كما في الحديث<sup>۳</sup> اهـو قـام شـيخ الاسلام

<sup>۱</sup> کنز العمال حدیث ۳۱۹۸۱ ۳۱۸۰ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۹۷۸/۳/۲۰

<sup>۲</sup> صحيح البخاري كتاب الاجارة بباب الاجارة الى نصف النهار قديمي كتب خانه کراچی ۱/۳۲۰، صحيح البخاري كتاب الاجارة بباب الاجارة الى

صلوة العصر قديمي كتب خانه کراچی ۱/۳۲۰

میں پوری پچاس۔ زکوٰۃ میں چہار مال کا چالیسوائی حصہ رہا اور کتاب فضل میں وہی ربع کاربج، وعلیٰ هذا القياس، والحمد لله رب العالمين۔ یہ بھی حضور کے اختصار کلام سے ہے کہ ایک لفظ کے اتنے کثیر معنی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ارشاد حبیبہم<sup>۱</sup> : امام احمد وابن ماجہ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلُهُ وَلَيْلٍ وَطِيلٍ کی وابوداؤد و طیلی کی وابو یعلیٰ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

یعنی ہر نبی کے واسطے ایک دیا تھی کہ دنیا میں کر چکا اور میں نے اپنی دعا روز قیامت کے لئے چھپا رکھی ہے، وہ شفاعت ہے میری امت کے لئے۔ اور میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور کچھ فخر مقصود نہیں۔ اور اول میں مرقد اطہر سے انھوں گا، اور کچھ فخر منظور نہیں اور میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہو گا، اور کچھ افتخار نہیں۔ آدم اور ان کے بعد جتنے ہیں سب

انہ لم يكن نبیا لله دعوة قد تخیرها في الدنيا وان  
قد اختبات دعوی شفاعۃ لامقی وانا سید ولد ادم  
یوم القيمة ولا فخر وان اول من تنشق عنه  
الارض ولا فخر، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، ادم  
فین دونه تحت لوانی ولا فخر

ہوئے اس کے سبب جو ان پر شمس الزرقانی نے رد کیا ہے، اور تحقیق نسائی نے یزید بن الی مالک سے انھوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انھوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث معراج میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض کی تھیں تو وہ ان دو پر قائم نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے)  
وہ ابن ماجہ کے نزدیک مختصر ہے<sup>۲</sup>(ت)

ینتصر لهم بما رده عليه الشمیس الزرقانی وقد اخرج  
النسائی عن یزید ابن مالک عن انس عن النبي صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم فی حدیث المعراج قول موسیٰ علیہ  
الصلوٰۃ والسلام انه تعالیٰ فرض على بنی اسرائیل  
صلاتین فما قام بهما<sup>۱</sup> والله تعالیٰ اعلم  
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلُهُ وَلَيْلٍ وَطِيلٍ: هو عند ابن ماجة مختصرًا منه

<sup>۱</sup> سنن النسائي كتاب الصلوٰۃ فرض الصلوٰۃ نور محمد کارخانہ کتب کراچی ۱/۸۷

<p>میرے زیر نشان ہوں گے، اور کچھ تفاخر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خلق میں فیصلہ کرنا چاہے گا ایک منادی پکارے گا: کہاں ہیں احمد اور ان کی امت؟ تو ہمیں آخر ہیں اور ہمیں اول ہیں، ہم سب امتوں سے زمانے میں پیچھے اور حساب میں پہلے۔ تمام امیں ہمارے لئے راستہ دیں گی۔ ہم چلیں گے اڑوضو سے رخشدہ رخ و تابندہ اعضاء، سب امیں کہیں گی: قریب تھا کہ یہ امت تو ساری کی ساری انبیاء ہو جائے الحدیث</p>	<p>( ثم ساق حديث الشفاعة الى ان قال) فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَصْدِعَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مَنْادِيَ اِنْ اَحْمَدَ وَامْتَهَ فَنَحَنَ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ نَحْنُ اَخْرُ الْاَمْمَ وَأَوْلُ مَنْ يَحْاسِبُ فَتَفَرَّجَ لَنَا الْاَمْمُ عَنْ طَرِيقَنَا فَتَمَضَى غَرَّاً مَحْجُلِينَ مِنْ اَثْرِ الطَّهُورِ فَيَقُولُ الْاَمْمُ كَادَتْ هَذَهُ الْاَمْمَةُ اَنْ تَكُونَ اَنْبِيَاءً كَلَّهَا<sup>۱</sup> الْحَدِيثَ۔</p>
--	---

۔ جمال پر تو ش در من اثر کرد و گرنہ من ہمال خاکم کر ہستم<sup>۲</sup>

(اس کے پر تو نے مجھ میں اثر کیا ہے ورنہ میں خاک ہوں جو کہ ہوں۔ ت)

ارشاد نوزو ہم<sup>۳</sup>: مالک، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی جیبر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>میں ہی حاضر ہوں کہ تمام لوگ میرے قدموں پر اٹھائیں جائیں گے۔</p>	<p>ان الحَاشِرُ الذِّي يَحْشِرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي<sup>۴</sup>۔</p>
--	---

یعنی روز محشر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ہوں گے اور تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے۔

<sup>۱</sup> مسنود احمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه المكتوب الاسلامي بيروت ۲۸۲ ۲۸۱، مسنود ابي يحيى عن عبد الله ابن عباس

رضي الله تعالى عنه حديث ۲۳۲۲ مؤسسة علوم القرآن بيروت ۳/۶۵

<sup>۲</sup> گلستان سعدی دیباچہ کتاب مکتبہ اویسیہ بہاول پور ص ۳

<sup>۳</sup> صحيح البخاری كتاب التفسير سورة الصاف تدريكي كتب خانه کراچی ۲/۷۲، صحيح مسلم كتاب الفضائل باب في اسمائه صلی الله عليه وسلم قدريكي كتب خانه کراچی ۲/۲۱، سنن الترمذی ابوبالاحد بباب جاء في اسماء النبي صلی الله علیہ وسلم حديث ۲۸۳۹ دار الفکر بيروت

ارشاد بستم (۲۰): ابن زنجویہ فضائل الاعمال میں کثیر بن مرہ حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے ناقہ شمود اٹھایا جائے گا وہ اپنی قبر سے اس پر سوار ہو کر میدانِ محشر میں آئیں گے (فقیر کہتا ہے غفراللہ تعالیٰ لہ عشقان کی عادت ہے کہ جب کسی جمیل باعزت کی کوئی خوبی سنتے ہیں فوراً ان کی نظر اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے کہ اس کے مقابل اس کے لیے کیا ہے۔) اسی بناء پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی: اور یا رسول اللہ! حضور اپنے ناقہ مقدسہ عضباء پر سوار ہوں گے۔ فرمایا: نہ، اس پر تو میری صاحبزادی سوار ہو گی اور میں براق پر تشریف رکھوں گا کہ اس روز سب انبیاء سے الگ خاص مجھی کو عطا ہو گا، اور ایک جنتی اوٹنی پر بلاں (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا حشر ہو گا کہ عرصاتِ محشر میں اس کی پشت پر اذان دے گا۔ جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد ارسلان اللہ سینیں گے سب بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔

تبعث ناقہ شود لصالح فیر کبھا من عند قبرہ حق توافقی به المحسن قال معاذ اذن ترکب العضباء يا رسول اللہ! قال لا ترکبها ابنتی وانا على البراق اختصصت به من دون الانبياء يومئذ ويبعث بلال على ناقۃ من نوق الجنة ينادي على ظهرها بالاذان فإذا سمعت الانبياء وامهها اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ قالوا ونحن نشهد على ذلك<sup>1</sup>.

سبحان اللہ! جب تمام مخلوقاتی اولین و آخرین یک جا ہوں گے اس وقت بھی ہمارے آقائے نامدار والا سرکار کے نام پاک کی ذہائی پھرے گی۔ الحمد للہ! اس دن کھل جائے گا کہ ہمارے حضور نبی الانبیاء ہیں۔ المنیۃ للہ تعالیٰ، اس دن موافق و مخالف پر روشن ہو جائے گا کہ مالک یوم الدین ایک اللہ ہے اور اس کی نیابت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد بست و یکم<sup>1</sup>: ترمذی بافادہ تحسین و تصحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>1</sup> تهذیب تاریخ دمشق الكبير بحوالہ ابن زنجویہ ترجمہ بلاں بن رباح دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۱۲/۲

<p>میں سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لے جاؤں گا، پھر مجھے جنت کے جوڑوں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، میں عرش کی دامنی طرف ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں تمام مخلوقِ الہی میں کسی کو بارہنہ ہو گا۔</p>	<p>انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى حلة من حلل الجنة اقوم عن ييدين العرش ليس احد من الخالقين يقوم ذلك المقام غيري <sup>۱</sup>۔</p>
---	--

ارشاد بست و دوم <sup>۲۲</sup>: احمد، دارمی، ابو نعیم واللفاظ له، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>سب سے پہلے ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو جوڑا پہنایا جائے گا، وہ عرش کے نیچے بیٹھ جائیں گے۔ پھر میری پوشک حاضر کی جائے گی میں پہن کر عرش کی دامنی طرف ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواد و سرے کو بارہنہ ہو گا، اگلے پچھلے مجھ پر شک لے جائیں گے۔</p>	<p>اول من يكسي ابراهيم ثم يقعد مستقبل العرش ثم اوتى بكسوت فالبسها فاقوم عن ييئنه مقاماً لا يقوم احد غيري يغبطني فيه الاولون والآخرون <sup>۲</sup>۔</p>
---	--

ارشاد بست و سوم <sup>۲۳</sup>: یہیقی کتاب الاسماء والصفات میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>مجھے وہ بہشتی لباس پہنایا جائے گا کہ تمام بشر جس کی قدر و عظمت کے لائق نہ ہوں گے۔</p>	<p>أكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر <sup>۳</sup>۔</p>
--	--

ارشاد بست و چہارم <sup>۲۴</sup>: طبری تفسیر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً واللفاظ له اور مثل احمد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوّقار اوی:

<p>حضرور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور</p>	<p>یرقی هو صلی اللہ تعالیٰ علیہ</p>
--	-------------------------------------

<sup>1</sup> سنن الترمذی ابوبالمناقب باب ماجاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۳۶۳ دار الفکر بیروت ۵/۳۵۲

<sup>2</sup> مسند احمد بن حنبل عن ابن مسعود المكتب الاسلامی بیروت ۱/۳۹۸ و ۳۹۹، الخصائص الکبری بحوالہ ابی نعیم باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ مرکز برکات رضا گجرات ۲/۲۱۷

<sup>3</sup> الاسماء والصفات للبیهقی باب ماجاء فی العرش والکرسی المکتبۃ الاثریة سانگکر ۲/۱۳۸

کی امت روز قیامت بلندی پر تشریف رکھیں گے سب سے اوپرے۔	وسلم و امته، علی کومر فوق الناس <sup>۱</sup> ۔
---	--

ارشاد بست و پنجم<sup>۲۵</sup>: ابن جریر و ابن مرویہ جابر<sup>ع</sup> بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

تنبیہ: اصل حدیث امام مسلم علیہ الرحمہ کے نزدیک سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے جیسا کہ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات الشفاعة میں ہے۔ لیکن اس میں کاتبوں سے بے اختیاطی واقع ہوئی، یہاں تک کہ لفظ حدیث حد معقول سے خارج ہو گئے، اس کے لفظیوں ہیں کہ ہم قیامت کے دن ایسے ایسے آئیں گے یعنی تمام لوگوں سے بلندی پر ہوں گے الحدیث۔ درست حدیث یوں ہے جیسا کہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے افادہ فرمایا اور علماء کی ایک جماعت نے ان کی پیری کی اور منہاج میں امام نووی نے اس کو برقرار رکھا کہ "ہم قیامت کے دن بلندیوں پر تشریف فرمائیں گے۔" راوی پر یہ حرف "کوم" مخفی ہو گیا تو اس نے اس کو کذرا کذرا کے ساتھ تعبیر کر دیا پھر اپنے قول "فوق الناس" کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی اور

ع۴: تنبیہ: اصل الحديث عند مسلم في باب اثبات الشفاعة من كتاب الایمان موقوفاً على جابر لكنه وقع فيه من الناسخين خطأ وغلط في جميع الاصول حق خرج اللفظ عن حد المعقول ولفظه هكذا قال نحن نجبي يوم القيلية عن كذا كذا انظر اي ذلك فوق الناس<sup>۲</sup> الحديث، وإنما صوابه كما أفاد الإمام القاضي عياض واتبعه جماعة من العلماء واقرالنوى في المنهاج نجبي يوم القيلية على کوم<sup>۳</sup>، والراوى اظلم عليه هذا الحرف فعبر عنه بكل ذرا وكترا وفسره بقوله اي فوق الناس وكتب عليه انظر تنبیہا في جميع النقلة

<sup>۱</sup> جامع البیان (تفسیر الطبری) تحت الآیة ۷۹/۷ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۴۹/۱۵

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۰۶/۱

<sup>۳</sup> شرح صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۰۶/۱

حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں اور میری امت روز قیامت بلندیوں پر ہو گئے سب سے اوپر، کوئی ایسا نہ ہو گا جو تمدن کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا۔	انا و امّتی يوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى كُوْمَ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلَقِ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ لَوْدَانَهُ مِنَّا <sup>۱</sup>
---	--

ارشاد بست و ششم<sup>۲</sup>: صحیح مسلم شریف میں ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال دئے، میں نے دو بار عرض کی: اللهم اغفر لامتي، اللهم اغفر لامتي۔ الہی! میری امت بخش دے، الہی! میری امت بخش دے۔ واخرت الثالث لیوم یر غب الی فیہ الخلق کلہم حق ابراہیم<sup>۲</sup> اور تیسرا اس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے جس میں تمام خلق میری طرف نیاز مند ہو گئی یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ (باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اور انہوں نے اس کو اس طور پر بیان کیا کہ گویا یہ متن حدیث سے ہے۔ پھر قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عمر اور ابن کعب کی حدیث سے اس میں کمی کرنا چاہی۔ میں کہتا ہوں جیسے ہے قاضی علیہ الرحمۃ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حدیث کو بھول گئے حالانکہ طبری کے نزدیک وہ بھی ہے جیسا کہ میں نے دیکھا ۲ امنہ (ت)

اتفاقاً ونسقاً على انه من متن الحديث ثم استوضح ذلك القاضي لحديث ابن عمر وحديث كعب المذكورين قلت والعجب انه ذهل عن حديث جابر نفسه وقد كان ايضاً عند الطبرى كما رأيت ۲ امنه۔

<sup>۱</sup> جامع البیان (تفسیر الطبری) تحت الآیة ۲/۱۳۳ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲/۱۳، الدالمنشور بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم و ابن مردویہ تحت الآیة ۲/۱۳۳ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱/۳۸

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الفضائل القرآن باب بیان ان القرآن انزل علی سبعة احرف قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۲۷۳

فائدہ: حدیث ان لکل نبی دعوة الحدیث<sup>۱</sup> کہ مسنداً حمود صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی، امام حکیم ترمذی نے بھی روایت کی، اور اس کے اخیر میں یہ زیادت فرمائی:

یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے۔	وان ابراہیم لیر غب فی دعائی ذلک الیوم <sup>۲</sup> ۔
--	--

### احادیث الشفاعة

شفاعت کی حدیثیں خود متواتر ہیں اور یہ بھی ہر مسلمان صحیح الایمان کو معلوم کریے تباہ کرامت اس مبارک اقامت شیان امامت سزاوارِ زعامت کے سوا کسی قدوبالا پر راست نہ آئی، نہ کسی نے بارگاہ الہی میں ان کے سوا یہ وجہت عظیٰ و محبویت کبریٰ و اذن سفارش و اختیار گزارش کی دولت پائی۔ تو وہ سب حدیثیں تفضیل جمیل محبوب جمیل صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہ پر دلیل۔ مگر میں صرف وہ چند احادیث نقل کرتا ہوں جن میں تصریح کا سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا عجز اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت بیان فرمائی:

<b>ع۴:</b> شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مشکوٰۃ میں زیر حدیث اولین شفاعت فرماتے ہیں:	صواب است کہ ہمه انبیاء و مرسلین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین از در آمدن دریں مقام و
درست بات یہ ہے تمام نبی اور رسول صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین از در مقام پر (باتی بر صحیح آئندہ)	درست بات یہ ہے تمام نبی اور رسول صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین از در مقام پر (باتی بر صحیح آئندہ)

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب الدعوات باب لکل نبی دعوة مستجابة قد کی کتب خانہ کراچی ۹۳۲/۲، صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات

الشفاعة الخ / ۱۱۳، مسنداً حمود بن حنبل عن انس رضی اللہ عنہ المكتب الاسلامی بیروت ۲۹۲/۳

<sup>۲</sup> نوادر الاصول الاصل الثالث والسبعون ص ۱۰۰ والاصل الثانی عشر والیائیہ ص ۱۳۸

ارشاد بست و ہفتہ<sup>۲</sup>: حدیث موقف منصل مطہل احمد و بخاری و مسلم و ترمذی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ<sup>۱</sup> اور بخاری و مسلم و ابن ماجہ نے انس<sup>۲</sup> اور ترمذی و ابن خزیمہ نے ابوسعید خدری<sup>۳</sup> اور احمد و زردار و ابن حبان و ابویعلیٰ نے صدیق اکبر<sup>۴</sup> (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور احمد و

جلوه افروز ہو کر اقدام شفاعت سے عاجزو قاصر ہیں سوائے رسولوں کے سردار اور نبیوں کے امام کے جو کہ انتہائی قرب، عزت اور رغبتِ مکانی کے ساتھ مختص ہیں اور بارگاہ الہی میں محبوب و محظوظ ہیں<sup>۵</sup>۔

(ایقہ حاشیہ صحیح کرشمۃ)  
اقدام بریں کار عاجزو قاصر اندیجہ سید المرسلین و امام ائمۃ بنیان کہ  
بہمایت قرب و عزت و مکانت مخصوص است و محمود و محظوظ  
حضرت اوست<sup>۵</sup>۔

<sup>۱</sup> صحیح البخاری عن ابی بریرۃ کتاب التفسیر سورۃ بنی اسرائیل باب قوله تعالیٰ ذریة من حملنا ۲۸۵/۲۸۳، صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱، مسنون احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۳۳۵ و ۳/۳۳۶، سنن الترمذی کتاب صفة القيامة بباب ماجاء فی الشفاعة حدیث ۲۲۳۲ دار الفکر بیروت ۳/۱۹۶۲ و ۷/۱۹۶۱، المواہب اللدنیۃ المقصد العاشر الفصل الثالث المکتب الاسلامی بیروت ۳/۲۲۸۳۳۶/۲۲۸۳۳۶

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب التوحید بباب قول الله تعالیٰ لما خلقت بیدی قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۱۰۲۱، صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۰۸، سنن ابن ماجہ ابواب الزهد بباب ذکر الشفاعة ایقہ ایم سعید کمپنی کراچی ص ۳۲۹

<sup>۳</sup> سنن الترمذی ابواب التفسیر سورۃ بنی اسرائیل حدیث ۳۱۵۹ دار الفکر بیروت ۵/۹۹، سنن الترمذی ابواب المناقب بباب ماجاء فضل النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۳۲۳۵ دار الفکر بیروت ۵/۱۵۳، الخصائص الکبری بباب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقیام

المحmod مرکزہلسنت گجرات ہند ۲/۲۲۳۲۱۸

<sup>۴</sup> مسنون احمد بن حنبل عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۵، مواردالظہان بباب ماجاء فی البعث والشفاعة حدیث ۲۵۸۹ المطبعة السلفیۃ ص ۲۲۳ و ۲۲۲، مسنون ابی یعلیٰ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱/۵۹

کنزالعیال بحوالہ البزار حدیث ۷۵۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۱۳ ۲۲۸/۲۲۹

<sup>۵</sup> اشعة اللمیعات کتاب الفتن بباب الحوض والشفاعة الفصل الاول مکتبۃ نور یہ رضویہ سکھر ۳۸۶/۲

ابو یعلیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم<sup>۱</sup> سے مروفاً ای سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عبد اللہ بن مبارک وابن ابی شیبہ وابن ابی عاصم و طبرانی نے بسند صحیح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ<sup>۲</sup> سے موافق روایت کی۔ ان سب<sup>۳</sup> کے الفاظ جدا جدا نقل کرنے میں طول کثیر ہے۔ لہذا میں ان کے متفرق لفظوں کو ایک منتظم سلسلہ میں لیجا کر کے اس جانفرaca قصہ کی تائیخیں کرتا ہوں، باللہ التوفیق، ارشاد ہوتا ہے روز قیامت<sup>۴</sup> اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان وسیع و ہمار میں جمع کرے گا کہ سب دیکھنے والے کے پیش نظر ہوں اور پکارنے والے کی آواز سنیں۔ دن طویل ہو گا و اور آفتاب کو اس روز دس برس کی گرمی دیں گے۔ پھر لوگوں کے سروں سے نزدیک کریں گے یہاں تک کہ بقدر دو ماں کوں کے فرق رہ جائے گا، پسینے آنے شروع ہوں گے۔ قد آدم پسینہ تو زمین جذب ہو جائے گا پھر اپر چڑھنا شروع ہو گا یہاں تک کہ آدمی غوطہ کھانے لگیں گے اور

<sup>۱</sup>: ہر چند یہ صحابہ سے چھ حدیثیں ہیں مگر صرف دو ہی شمار میں آئیں کہ حدیث ابو ہریرہ اسی کا تتمہ ہے جو ارشاد اول میں گزری، اور حدیث ابو سعید اگرچہ ترمذی نے اسی قدر مختصر روایت کی جتنی ارشاد سوم میں گزری، مگر تفسیر میں بعض سند مطولاً اے جس کی وجہ سے یہ حدیث اس کا تتمہ ہے، اور حدیث صدیق اکبر بعینہ حدیث ارشاد حفتم ہے، اور حدیث ابن عباس حدیث ارشاد صیجد ہم۔ لہذا ان چار کامکر شمارہ ہوا۔ اور صرف حدیث انس و حدیث سلمان تعداد میں آئیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

<sup>۲</sup>: یہ حروف بحسب ابجed الف سے واو تک انھیں چھ حدیثیوں کی طرف اشارہ ہیں کہ میں نے احادیث اول کو کہ میرے مطلب میں زیادہ مفصل ہے، اصل کیا، اور باقی پانچ میں جو زیاد تیاں ہیں باشارہ حروف انھیں متمیز کر دیا 12 منہ۔

<sup>۱</sup> مسنون حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه المكتبه الاسلامي بيروت ۲۸۱ و ۲۸۲، مسنون ابی یعلی عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حدیث ۲۳۲۷ مؤسسة علوم القرآن بيروت ۳/۵۷

<sup>۲</sup> المعجم الكبير عن سليمان رضي الله عنه حدیث ۶۱۷ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲/۲۲۸، السنۃ لابن ابی عاصم حدیث ۸۳۲ دار ابن حزم بیروت ص ۱۹۲، المصنف لابن ابی شیبہ حدیث ۳۱۲۲ دار الكتب العلمیۃ بیروت ۲/۳۲

غڑپ غڑپ کریں گے جیسے کوئی ڈیکیاں لیتا ہے۔ اقرب آفتاب سے غم و کرب اس درجہ کو پہنچ گا کہ طاقت طاق کو گی تاب تحمل نہ رہے گی۔ ج رہ کرتیں گھبرائیں لوگوں کو اٹھیں گی۔ آپ میں کہیں گے دیکھتے نہیں تم کس آفت میں ہو، کس حال کو پہنچ، کوئی ایسا کیوں نہیں ڈھونڈتے جو رب کے پاس شفاعت کرے۔ ب کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ اپھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے باپ ہیں، ان کے پاس چلا جائے، پس آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں گے۔ اور پسینے کی وہی حالت ہے کہ منہ میں لگام کی طرح ہوا چاہتا ہے۔ اعرض کریں گے و اے باپ ہمارے اے آدم! آپ ابوالبشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا ب اور سب چیزوں کے نام سکھائے د اور آپ کو اپنا صفائی کیا۔ آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے ب کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچ۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے ب لست هنَاكِمْ ۝ اَنَّهُ لَمْ يَهْمِنِ الْيَوْمَ اَلَا اَنْ رَبِّنِيْ غَضِيْلَمْ يَغْضِبَ قَبْلَهُ مُثَلِّهُ وَلَنْ يَغْضِبَ  
بعدہ مثلہ نفسی اذھبو الی غیری میں اس قابل نہیں مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا بہلے کبھی کیا نہ آئندہ کبھی کرے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا غم ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ و عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے د اپنے پر ثانی نوح کے پاس جاؤ ب کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا وہ خدا کے شاکر بندے ہیں۔ الوگ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح و اے نبی اللہ! آپ اہل زمین کی طرف بہلے رسول ہیں اللہ نے عبد شکور آپ کا نام رکھا، د اور آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ زمین پر کسی کافر کا نشان نہ رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے ہ کہ ہمارا فصلہ کر دے ا نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے ب لست هنَاكِمْ ۝ لیس ذا كِمْ عَنْدِي ۝ اَنَّهُ لَيَهْمِنِ الْيَوْمَ الْانْفُسِيْ اَنْ رَبِّنِيْ غَضِيْلَمْ يَغْضِبَ قَبْلَهُ مُثَلِّهُ وَلَنْ يَغْضِبَ بعدہ مثلہ نفسی اذھبو الی غیری میں اس قابل نہیں یہ کام مجھے سے نہ نکلے گا، آج مجھے اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ میرے رب نے آج وہ غضب

فرمایا جونہ اس سے پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کرے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کا کھلاکا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ و عرض کریں گے پھر پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے ب خلیل الرحمن ابراہیم کے پاس جاؤ د کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست کیا ہے۔ ا لوگ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے عرض کریں گے وائے خلیل الرحمن، اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں اس کے خلیل ہیں آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت بھیجئے کہ ہمارا کردے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے ب لست هناء کم د لیس ذا کم عندی ہ لا یهمنی الیوم الانفسی ان ربی قد غضب الیوم غضباً لِمْ یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ نفسی اذہبو الی غیری میں اس قابل نہیں، یہ کام میرے کرنے کا نہیں، آج مجھے اپنی جان کا تردد ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ و عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے ا تم موٹی کے پاس جاؤ ب وہ بندہ ہے خدا نے توریت دی اور اس سے کلام فرمایا، اور اپنارازدار بنا کر قرب بخششہ اور اپنی رسالت دے کر بر گزیدہ کیا۔ ا لوگ موٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے اے موٹی! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے لوگوں پر فضیلت بخشی، اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت بھیجئے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس صدمہ میں ہیں۔ موٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے ب لست هناء کم د لیس ذا کم عندی ہ انه لا یهمنی الیوم الانفسی ان ربی قد غضب الیوم غضباً لِمْ یغضب قبلہ مثلہ۔ ولن یغضب بعدہ مثلہ نفسی نفسی اذہبو الی غیری میں اس لاکن نہیں یہ کام مجھ سے نہی ہوگا، مجھے آج اپنے سواد و سرے کی فکر نہیں، میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی کیا تھا اور نہ کبھی کرے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا خیال ہے، مجھے اپنا جان کا خطرہ ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ و عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے ا تم عیلی کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول اور اس کے فلہمہ اور اس کی روح د کہ مادرزاد انہ ہے اور کوڑھی کو اچھا کرتے اور مردے چلاتے تھے۔ ا لوگ مسح علیہ الصلوٰۃ کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے اے عیلی! آپ اللہ کے رسول

اور اس کے وہ کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، اور اس کی طرف کی روح ہیں، آپ نے گھوارے میں کلام کیا، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرمادے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس اندوہ میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ۔ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے بِ لِسْتِ هَنْكُمْ دَلِیْسِ ذَا کَمْ عَنْدِیْ هَ اَنَّهُ لَا يَهْمِنِي الْيَوْمُ الْاَنْفُسِیُّ اِنْ رَبِّيْ قَدْ غَضَبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَهُ مُثْلِهِ وَ لَنْ يَغْضِبْ بَعْدَهُ مُثْلِهِ نَفْسِی نَفْسِی اَذْهَبْوَا لِلْغَيْرِیْ میں اس لائق نہیں یہ کام مجھ سے نہ لٹکے گا، مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کا غم نہیں، میرے رب نے آج وہ غصب فرمایا ہے نہ کبھی ایسا کیا نہ کرے، مجھے اپنی جان کا ذر ہے، مجھے اپنی جان کا غم ہے، مجھے اپنی جان کا سوچ ہے، تم اور کسی کے پاس جاؤ و عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے ایتو عبداً فتح اللہ علی یہ دیہ و یجیع فی هذا الیوم امناً داطلقوا لی سید ولد آدم فَإِنَّهُ أَوَّلَ مَنْ تَنَشَّقَ عَنْهُ الْأَرْضَ يوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِيمَانِهِ وَمُحَمَّداً إِنَّهُ كُلُّ مَتَاعٍ فِي وَعَاءٍ مُخْتَومٍ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى مَافِ جَوْفِهِ حَقِّ يَفْضِلُ الْخَاتَمَ تَمَّ اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے، اس کی طرف چلو جو تمام بنی آدم کا سردار اور سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والا ہے، تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ بھلا کسی سر بسیر ظرف میں کوئی متعاب ہو، اس کے اندر کی چیز بے مہر اٹھائے مل سکتی ہے، لوگ عرض کریں گے، نہ۔ فرمائیں گے: انْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَقَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ اَذْهَبُوا لِلْمُحَمَّدِ فَلَيَشْفَعُ لَكُمْ اِلَى رَبِّكُمْ يَعْلَمُ اسی طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں (تو جب تک وہ باب فتح نہ فرمائیں کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا۔) اور آج وہ یہاں تشریف فرمائیں تم انہیں کے پاس جاؤ، چاہئے کہ وہ تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، ہاتھ پاؤں چھوڑے، چار طرف سے امیدیں توڑے، بارگاہ عرش جاہ، یہ کس پانہ، خاتم دورہ رسالت، فاتح باب شفاعت، محبوب علیہ باوجاہت، مطلوب بلند عزت،

عَلَیْهِ لِفَظِ اسْ سَفِيرٍ کَرِهٌ رَدِّ میں ہیں جو شفاعت بالوجاہت و شفاعت بالمحبۃ کو (باقی بر صحیح آئندہ)

ملجاء عاجزان، ماؤی بکیساں، مولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد رسول اللہ شفع یوم النشور افضل صلوات اللہ واکمل تسليمات اللہ و از کی تحيات واللہ و انہی برکات اللہ علیہ و علی آله و صحبہ و عیالہ میں حاضر آئی، اور بہزار اس ہزار ناہلہے زار و دل بیقرار و چشم اشمار یوں عرض کرتے ہیں ایا محمد و یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک وجئت فی هذا الیوم امّنًا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء اشفع لَنَا إِلَى رَبِّكَ هُلْيَقُضَى بَيْنَنَا إِلَى الْأَتْرَى إِلَى مَانَحْنُ فِيهِ الْأَتْرَى مَاقْدِبَلْغَنَا إِلَى مُحَمَّدٍ، أَلَّا اللَّهُ كَبِيرٌ بَنِي! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا، اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لائے۔ حضور اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے، حضور نگاہ تو کریں ہم کس درد میں ہیں، حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس حال کو پہنچ ہیں۔ ب۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا و ان اصحابکم میں شفاعت کے لے ہوں، میں تمہارا وہ مطلوب ہوں جسے تمام موقف میں ڈھونڈ پھرے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک و شرف و مجد و کرم (اللہ تعالیٰ آپ پر درود وسلام، برکت و کرم و شرف اور بزرگی نازل فرمائے۔ ت) اس کے بعد حضور نے اپنی شفاعت کی کیفیت

(ایقہ حاشیہ صحیح گرشنہ)

نہیں مانتا، حالانکہ حقیقتہ اسباب شفاعت یہی ہیں، اور ان کے جو معنی اس نے تراشے وہ اس کی نزی زبان درازیاں ہیں، پھر شفاعت بالاذن کا جو مطلب گھر امراض باطل۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب میں بے ادبی پر مشتمل۔ جیسا کہ حضرت والد قدس سرہ الماجد نے ترنکیۃ الایقان اور دیگر علمائے اہل سنت نے اپنی تصانیف میں تحقیق فرمایا۔ پھر احادیث کثیرہ گواہ ہیں کہ اس کے گھرے ہوئے معنی ہر گز واقع نہ ہوں گے، تو اس نے اس پر دے میں اصل شفاعت سے انکار کیا کہ جو مانتا ہے وہ ہو گی نہیں، اور جو ہو گی اسے مانتا نہیں۔ جیسے کوئی ہے کہ میں وجود انسان کا منکر نہیں، مگر لوگ جسے انسان کہتے ہیں وہ معدوم ہے۔ موجود یہ ہے کہ اس کے پانچ ہاتھ ہوں اور بائیس کان ہوں، اور ستائیں ناکیں، اور بیستا لیس منہ، اور پہاڑ پر چڑھ کر پیٹ پر بسیر الیتا ہو۔ ہر عاقل جانے گا کہ یہ احمد سرے سے انسان ہی کا منکر ہے اگرچہ براہ عیاری لفظ انسان کا مقرر ہے ۱۲ امنہ)

ارشاد فرمائی۔ یہ نصف حدیث کا خلاصہ ہے۔ مسلمان اسی قدر کو بگاہ ایمان دیکھے۔ اور اوناً حق جل و علا کی یہ حکمتِ جلیلہ خیال کر کے کیوں نکراہیں محشر کے دلوں میں ترتیب و انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جانا الہام فرمائے گا۔ اور دفعۃٗ بارگاہ اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر نہ لائے گا کہ حضور تو یقیناً شفیع مشق ہیں۔ ابتداءً یہیں آتے تو شفاعت پاتے۔ مگر اولین و آخرین و مowaفقین و مخالفین خلق اللہ اجیعین پر کیوں نکر کھلتا کہ یہ منصبِ فتحم اسی سید اکرم مولائے اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ خاصہ ہے جس کا دامن رفعِ جلیل و منعِ تمام انبیاء و مرسلین کے دستِ ہمت سے بُلند و بالا ہے۔ پھر خیال تکھیے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کا ان اس حدیث سے آشنا دربے شمار بندے اس حال کے شناسا عرصاتِ محشر میں صحابہ و تابعین و ائمہؐ محدثین و اولیائے کامیں و علمائے عاملین سمجھی موجود ہوں گے۔ پھر کیوں نکر یہ جانی پہچانی بات دلوں سے ایسی بھلا دی جائے گی کہ اتنی کثیر جماعتوں میں ان طویل مدتؤں تک کسی کو اصلاً یاد نہ آئے گی۔ پھر نوبتِ بnobتِ حضرات انبیاء سے جواب سنتے جائیں گے۔ جب مطلق دھیان نہ آئے گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو سچ مخبر نے پہلے ہی بتایا ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناہ کو دیکھئے۔ وہ بھی یکے بعد دیگرے انبیاء مابعد کے پاس بھیجتے جائیں گے۔ یہ کوئی نہ فرمائے گا کہ کیوں پیکار ہلاک ہوتے ہو۔ تمہارا مطلوب اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ سارے سامان اسی اظہارِ عظمت و اشتہار و جاہتِ محبوب باشوکت کی خاطر ہیں۔ لیقضی اللہ امّا کان مفعولاً، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (تاکہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے، اور درود و سلام نازل فرمائے اپنے محبوب پر۔ ت)

**فایضاً:** سوال شفاعت پر حضرات انبیاء کے جواب اور ہمارے حضور کا مبارک ارشاد ملا، دیکھئے یہیں مقامِ محمود کا مزہ آتا۔ اور ابھی کا لشمس کھلا جاتا ہے کہ سب نجومِ رسالت و مصائبِ نبوت میں افضل و اعلیٰ و اجمل و اعظم و اولی و بُلند و بلا ہوی عرب کا سورج حرم کا چاند ہے جس کے نور کے حضور ہر روشنی ماند ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک و شرف و مجد و کرم (اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام و برکت و کرم و شرف و زرگ نازل فرمائے۔ ت) اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وجہ تخصیص خاہم کر کے حضرت آدم اول انبیاء و پدر انبیاء ہیں، اور مرسلین اربعہ اولو الحزم مرسل اور وسب انبیاء سبقین سے اعلیٰ و افضل، تو ان پر تفضیل والحمد للہ الملک الجلیل۔

ارشاد بست و هشتم<sup>۱۸</sup>: احمد و ترمذی با فادہ تحسین و تصحیح اور ابن ماجہ و احمد کم و ابن الیثیبہ بسنده صحیح ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>اذا كان يوم القيمة كنت اماماً البنين وخطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخر<sup>۱</sup>.</p>
<p>جب قیام کا دن ہو گا تمام انبیاء کا امام اور ان کا خطیب اور ان کا شفاعت والا ہوں گا اور کچھ فخر نہیں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) و آله و سلم</p>

ارشاد بست و نهم<sup>۱۹</sup>: امام احمد بسنده صحیح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>میں کھڑا ہوا اپنی امت کا انتظار کرتا ہوں کا کہ صراط پر گزر جائے، اتنے میں عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آکر عرض کر یہیگے کہ اے محمد! یہ انبیاء اللہ حضور کے پاس التماس لے کر آئے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں وہ امتوں کی اس جماعت کو جہاں چاہے تفریق کر دے کہ لوگ بڑی سختی میں ہیں، پسینہ لگا کی مانند ہو گیا ہے (حدیث میں فرمایا) مسلمان پر تو مثل زکام کے ہو گا، اور کافروں کو اس سے موت گھیر لے گی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ</p>	<p>انی لقائم انتظر امتي تعبر الصراط اذا جاءَ عيسى عليه الصلوٰۃ والسلام فقالَ هذه الانبياء قد جاءَتك يا محمد يسألون او قالَ يجتمعون اليك يدعوك الله ان يفرق بين جميع الامم الى حيث يشاء الله لعظم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق فاما المؤمن فهو عليه كالزكمة واما الكافر فيتشاهد الموت قالَ قالَ يا عيسى انتظر حتى</p>
--	--

<sup>۱</sup> مسنده احمد بن حنبل عن ابی بن کعب المکتب الاسلامی بیروت ۵ / ۱۳، سنن الترمذی ابواب المناقب بباب ماجاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۳۲۳ / ۵ ۳۵۳، سنن ابن ماجہ ابواب الرزہ بباب ذکر الشفاعة ایضاً مسیح سعید کپنی کراچی ص ۳۳۰، المستدرک للحاکم کتاب الایمان دار الفکر بیروت ۱/۷، المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب الفضائل حدیث ۳۲۳ دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۳۰۷

علیہ وسلم فرمائیں گے: اے علیٰ! آپ انتظار کریں یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ پھر حضور زیر عرش جا کر کھڑے ہوں گے وہاں وہ پائیں گے جونہ کسی مقرب فرشتہ کو ملانہ کسی نبی مرسل نے پایا۔ الحدیث۔	ارجع الیک قال فذهب نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقام تحت العرش فلق مالم يلق ملك مصطفیٰ ولا نبی مرسلاً <sup>1</sup> الحدیث۔
---	--

ارشاد سیم<sup>۳</sup>: مسند احمد و صحیح مسلم میں انہیں سے مروی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں روز قیامت درجنت پر تشریف لا کر کھلواؤں گا، داروغہ عرض کرے گا: کون ہے؟ میں فرماؤں گا: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عرض کرے گا: مجھے حضور ہی کے واسطے حکم تھا کہ حضور سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔	اتی باب الجنة يوم القيمة فاستفتح فيقول الخازن من انت؟ فاقول محمد، فيقول بك امرت ان لا افتح لاحد من قبلك <sup>2</sup> ۔
--	--

طرانی کی روایت میں ہے داروغہ قیام کر کے عرض کرے گا:

نہ میں حضور سے پہلے کسی کے لیے کھولوں، نہ حضور کے بعد کسی کے لیے قیام کروں۔	لا افتح لاحد قبلك ولا اقوم لاحده بعدك <sup>3</sup> ۔
---	--

اور یہ دوسری خصوصیت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔

ارشاد سی ویکم<sup>۳</sup>: ابو نعیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں سب سے پہلے جنت میں رونق افروز	أنا أول من يدخل الجنة
-----------------------------------	-----------------------

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل عن انس رضي الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ۲/۸۷، الترغيب والتربيـب بحواله احمد فصل في الشفاعة

وغيرها مصطفى الباجي مصر ۲۳۶/۲

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الإيمان بباب اثبات الشفاعة الخ تديني كتب خانہ کراچی ۱/۱۱۲، مسند احمد بن حنبل عن انس رضي الله عنه المكتب

الإسلامي بيروت ۳/۱۳۶

<sup>3</sup> انسان العيون المعروف بأسييرة حلبيـة بـباب حين المبعث الخ المكتبة الاسلامية بيروت ۱/۲۳۱

ہوں گا۔ اور کچھ فخر نہیں۔	ولافخر <sup>۱</sup> ۔
ارشاد سی و دوم <sup>۲</sup> : صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :	
روز قیامت میں سب انبیاء سے کثرت امت میں زائد ہوں گا، انَا اکثر الانبیاء تبعاً وانا اول من يقرع بباب الجنة <sup>۲</sup> ۔	سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ ہٹکھاؤں گا۔
مسلم کی دوسری روایت یوں ہے :	
میں جنت میں سب سے پہلا شفیع ہوں، اور میرے پیروں سب انبیاء کی امتوں سے افسوں۔	انَا اول الناس يشفع في الجنة وانا اکثر الانبیاء تبعاً <sup>۳</sup> ۔
ابن النجاشی نے ان لفظوں سے روایت کی :	
میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کوٹوں کا زنجیروں کی جھکڑا جو ان کوڑوں پر ہو گی اس سے بہتر آواز کسی کا نہ سنی۔	انَا اول من يدق بباب الجنة فلم تسمع الا فان احسن من طنين الحلق على تلك المصاريع <sup>۴</sup> ۔
ارشاد سی و سوم <sup>۵</sup> : صحیح ابن حبان میں انھیں سے مروی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :	
قیامت میں ہر نبی کے لئے ایک منبر نور کا ہوگا، اور میں سب سے زیادہ بلند نور انی منبر پر ہوں گا، منادی آکر ندا کرے گا کہاں ہیں نہ نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انبیاء کہیں گے ہم	ان لکل نبی یوم القيامۃ منبر من نور وانی لعلی اطولها وانورها فیجیعی منا ینادی این النبی الامی ؟ قال فیقول الانبیاء کلنا

<sup>۱</sup> دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الرابع عالم الكتب بيروت الجز الاول ص ۱۳<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۱۲/۱<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۱۲/۱<sup>۴</sup> کنز العمال بحوالہ ابن التجار عن انس حدیث ۳۸۸۲ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۷۳

سب نبی امی ہیں کے یاد فرمایا ہے، منادی واپس جائے گا، دوبارہ آکر یوں ندا کرے گا: کہاں ہیں نبی امی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منبر اطہر سے اتر کر جنت کو تشریف لے جائیں گے، دروازہ کھلوا کر اندر جائیں گے، رب عز جلالہ ان کے لئے تجلی فرمائے گا اور ان سے پہلے کسی پر تجلی نہ کرے گا۔ حضور اپنے رب کے لئے سجدہ میں گریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نبی امی فآلی اینا ارسل فیرجع الشانیہ فیقول این النبی الامی العربی قال فینزل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق یاًق باب الجنة فیقرعه و ساق الحديث الى ان قال فیفتح له فیدخل فیتجلی له رب تبارک و تعالیٰ ولا یتجلی لشیع قبله فیخرله ساجدا<sup>۱</sup> الحديث

ارشاد سی و چہارم<sup>۲</sup>: صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب پشت جہنم پر صراطِ رکھیں گے میں سب رسولوں سے پہلے اپنی امت کو لے کر گزر فرماؤں گا۔	يضرب الصراط بين ظهر اني جهنم فاكون اول من يجوز من الرسل بامته <sup>۲</sup> ۔
--	--

ارشاد سی و پنجم<sup>۳</sup>: صحیح مسلم میں حضرت عذیفہ و حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تصانیف طبرانی و ابن القاسم و ابن مردویہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

یعنی جب مسلمانوں کا حساب کتاب اور ان کا فیصلہ ہو چکے گا، جنت ان سے نزدیک کی جائیگی۔ مسلمان آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس	يقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون أدم فيقولون يا آبا ناستفتح لنا
--	--

<sup>1</sup> موارد الشیمان باب جامع فی البعث والشفاء عدیث ۲۵۹۱ المطبعة السلفیہ ص ۶۳۳، ۶۳۴، الرغیب والترہیب بحوالہ صحیح ابن حبان فصل فی الشفاء وغیرها مصطفی البانی مصر ۲۳۰/۳

<sup>2</sup> صحیح البخاری کتاب الاذان باب فضل السجود قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱۱، صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات رؤیۃ المؤمنین الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۰۰

حاضر ہوں گے کہ ہمارا حساب ہو چکا آپ حق سمجھانے، سے عرض کر کے ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ آدم علیہ السلام عذر کریں گے اور فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ بھی انکار کر کے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے پاس بھیجیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں تم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں مگر تم علیٰ روح اللہ و کلمتہ اللہ کے پاس جاؤ وہ فرمائیں گے میں اس کام کا نہیں مگر تمہیں عرب والے نبی اُنی کی طرف راہ بتاتا ہوں۔ لوگ میری خدمت میں حاضر آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا، میرے کھڑے ہوتے ہی وہ خوشبو میکے گی جو آج تک کسی دماغ نے نہ سوچھی ہو گی، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا، وہ میری شفاعت قبول فرمائے کا در میرے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک نور کر دے گا۔

الجنة فيقول وهل اخر حكم من الجنة الا خطيبة ابيكم لست بصاحب ذلك ولكن اذهبوا الى بنى ابراهيم خليل الله قال فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك انما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا الى موسى الذي كلمه الله تكليما قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون مهديا فيقوم فيؤذن له الحديث هذا حديث مسلم<sup>1</sup> و عند الباقيين اذا جمع الله الاولين والآخرين و قُضي بينهم وفرغ من القضاء يقول المؤمنون قد قضى بيننا ربنا وفرغ من القضاء يقول المؤمنون فمن يشفع لنا الى ربنا فيقولون قد قضى ربنا وفرغ من القضاء قد انت فأشفع لنا الى ربنا ائتانا وحاص وساق الحديث الى ان قال فيأعيسى فيقول ادلكم على العربي الامي فيأتون فيأذن الله لي ان اقوم اليه فيشور

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۲۳۰

	<p>مجلسی من اطیب ریح شیھاً احد قط حق اتی ربی فیشفنی و يجعل لی نور امن شعر اسی الی ظفر قدی</p> <p style="text-align: right;">۱</p>
<p>ارشادی و ششم (۳۶): طبرانی مجمع اوسط میں بسنده سن اور دارقطنی و ابن الجار امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:</p> <p>جنت پیغمبروں پر حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہوں، اور امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو۔</p>	<p>الجنة حِرَّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخَلُهَا وَحَرَّمَتْ عَلَى الْأَمْمَ حَتَّى تَدْخُلَهَا أَمْقَى۔<sup>۲</sup></p>

اسی طرح طبرانی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

ارشادی و هفتم<sup>۳</sup>: اسحق بن راہو یہ اپنی مسند اور ابن ابی شیعیہ مصنف میں امام کمحول تابعی سے راوی، امیر المومنین عمر کا ایک یہودی پر کچھ آتا تھا اس سے فرمایا: قسم اس کی جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام بشر پر فضیلت بخشی، میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یہودی نے قسم کھا کر حضور کی افضیلت مطلقہ کا انکار کیا۔ امیر المومنین نے اس کے طپانچہ مارا۔ یہودی نے بارگاہ رسالت میں نالٹی آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو تو حکم دیا تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے راضی کرلو، اور یہودی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

<sup>۱</sup> الخصائص الكبرى بباب اختصاصاته صلی اللہ علیہ وسلم بالمقام المحمود مركز الإسناد للتراث ۲۲۲/۲، الدرالسنوار بحوالہ الطبرانی و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ تحت الآیة ۲۲/۱۷ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۵، کنز العمال بحوالہ الطبرانی و ابن ابی حاتم و ابن

مردویہ حدیث ۲۹۹۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۲۷ و ۲۲/۲

<sup>۲</sup> المعجم الاوسط حدیث ۹۳۶ مکتبۃ المعارف ریاض ۱/۱۳ و ۵۱۲

<p>بلکہ او یہودی! آدم صفحی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ نجی اللہ اور علیٰ روح اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں۔ بلکہ او یہودی! اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں پر میری امت کے نام رکھے۔ اللہ تعالیٰ سلام ہے اور میری امت کا نام مسلمین رکھا، اللہ تعالیٰ مومن ہے اور میری امت کا نام مومنین رکھا۔ بلکہ او یہودی! بہشت سب نبیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میں سب نبیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میں تشریف لے جاؤں۔ اور سب امتوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میری امت داخل ہو۔</p>	<p>بل یا یہودی ادم مصفیٰ اللہ ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ نجی اللہ و عیسیٰ روح اللہ و ان حبیب اللہ بل یا یہودی تسسی اللہ بأسیین سی بھا امتی ہو السلام و سی بھا امتی المسلمين و ہو المؤمن و سی بھا امتی المؤمنین بل یا یہودی ان الجنة محرمة على الانبياء حتی ادخلها و ہی محرمة على الامم حتی تدخلها امتی<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

ارشاد سی و هشتم<sup>۲</sup>: احمد، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>الله تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو، وہ جنت کی ایک منزل ہے کہ ایک بندے کے سوا کسی کے شایان شان نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، تو جو میرے لئے وسیلہ مانگے گا اس پر میری شفاعت اترے گی۔</p>	<p>سلووا اللہ تعالیٰ لی الوسیلۃ فانہا منزلاۃ فی الجنة لاتبع الا لعبد من عباد اللہ وارجو ا ان اكون انا ہو، فین سائل لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعة<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مختصر میں ہے۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! وسیلہ

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب الفضائل حدیث ۳۱۷۹۳ / ۶ دارالکتب العلمیہ بیروت ۳۳۲ و ۳۳۱

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الصلوة باب استحباب القول مثل قول المؤذن الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۴۶/ ۵ سنن الترمذی ابوبالمناقب حدیث

۳۶۳۳ دار الفکر بیروت ۵ / ۳۵۲ و ۳۵۳، سنن ابی داود کتاب الصلوة باب ما یقول اذا سمع المؤذن آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۷۷، سنن

النسائی کتاب الاذان باب الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۰۰، مسنند احمد بن حنبل عن عبد اللہ

بن عمرو بن عاص المکتب الاسلامی بیروت ۲/ ۱۶۸

کیا ہے؟ فرمایا:

بلند ترین درجات جنت ہے جسے نہ پائے گا مگر ایک مرد۔ امید کرتا ہوں کہ وہ مرد میں ہوں۔	<b>اعلیٰ درجہ فی الجنة لاینالہا الا واحد ارجوا ان اکون</b> <b>هو۔<sup>۱</sup></b>
---	--

علماء فرماتے ہیں خداور رسول جس بات کو بلکہ امید و ترجیٰ بیان فرمائیں وہ یقینی الواقع ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا: کلام اولیاء میں بھی رجاء تحقیق ہی کے لیے ہے۔

زرقانی نے صاحب نور سے انہوں نے اپنے بعض شیوخ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام کے بارے میں ذکر کیا۔ (ت)	<b>ذکرة الزرقانی<sup>۲</sup> عن صاحب النور بعض شیوخه في</b> <b>اقسام شفاعة صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</b>
---	--

ارشاد سی و نهم<sup>۳</sup>: عثمان بن سعید داری کتاب الرد علی الجہمیۃ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے مجھے روز قیامت جنت النعیم کے سب غرفوں سے اعلیٰ غرفوں میں بلند فرمائے گا کہ مجھ سے اوپر بس خدا کا عرش ہو گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔	<b>ان اللہ رفعني يوم القيمة في اعلى غرفة من جنات النعيم ليس فوق الاحمدة العرش۔<sup>۴</sup></b>
--	--

### جلوه سوم ارشادات انبیاء عظام وملائکہ کرام علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والسلام

ارشاد چہلم<sup>۵</sup>: ابن جریر، ابن ابی حاتم، بزار، ابو یعلی، یہنی بطريق ابوالعالیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراجع کی حدیث طویل میں راوی، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کی حمد و شاء کی اور اپنے فضائل جلیلہ کے خطبے پڑھے۔ سب کے بعد حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>۱</sup> سنن الترمذی ابوبالمناقب حدیث ۳۶۳۲ دار الفکر بیروت ۵/۳۵۳

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی على المawahib اللدنیۃ تفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعة الخ دار المعرفہ بیروت ۸/۳۸۰

<sup>۳</sup> الخصائص الکبیزی بحوالہ کتاب الرد علی الجہمیۃ باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکوثر الخ مرکزہلسنت ۲۲۲۱/۲

تم سب نے اپنے رب کی ثناء کی اور اب میں اپنے رب کی ثناء کرتا ہوں۔ محمد اس خدا کو جس نے مجھے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا اور کافہ ناس کا رسول بنایا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور مجھ پر قرآن اتنا اور اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میری امت سب امتوں سے بہتر اور امت عادل، اور زمانہ میں مؤخر اور مرتبہ میں مقدم کی۔ اور میرے لئے میرا سینہ کھول دیا۔ اور مجھ سے میرا بوجھ اتنا لیا۔ اور میرے لئے میرا ذکر بلند فرمایا۔ اور مجھے فاتح باب رسالت و خاتم دور نبوت کیا۔

کلهم اثنى على ربہ وانی مثنی على ربی الحمد لله الذي ارسلنی رحمة للعالیین وكافة للناس بشیرا و نذیرا و انزل على الفرقان فيه تبیان لكل شیعی وجعل امتي خیر امة اخرجت للناس وجعل امتي امة وسطاً وجعل امتي هم الاولون والاخرون وشرح لي صدری ووضع عنی وزری ورفع لي ذکری وجعلني فاتحا و خاتما۔

جب حضور اقدس خطبه جلیلہ سے فارغ ہوئے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے حضرات انبیاء سے فرمایا: بلهذا افضلکم محدثا اسی لئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے افضل ہوئے (پھر جب حضور اپنے رب سے ملے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: سل مانگ کیا مانگتا ہے؟) حضور نے انبیاء کے فضائل عرض کئے کہ تو نے انبیاء یہ کرامتیں دیں، حق جل و علانے حضور کے فضائل اعلیٰ واشرف ارشاد فرمائے کہ تمہیں یہ کچھ بخشنا۔ حضور نے یہ واقعہ بیان فرمادیا کہ ارشاد فرمایا: فضلنی ربی<sup>۱</sup> مجھے میرے رب نے افضل کیا۔ اور اپنے فضائل و خصائص عظیمہ بیان فرمائے۔ یہ حدیث دوورق طویل میں ہے۔ ارشاد چہل ویکم<sup>۲</sup>: حاکم کتاب الکنی اور طبرانی اوسط اور تیہقی و ابو نعیم دلائل النبوة میں، اور ابن عساکر و دیلمی و ابن بلاں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>۱</sup> جامع البیان (تفسیر ابن جریر) تحت الآیة ۷/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱/۱۵، دلائل النبوة للبیهقی بباب الدلیل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرج بہ الی السماء الخ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۲۰۳۶۳۰۰، الدر المنشور بحوالہ ابن مردویہ وابن ابی حاتم وغیرہما تحت الآیة ۷/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۷۶۱۷، الخصائص الکبڑی بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردویہ وابو یعلی و البیهقی بباب خصوصیتہ باسراء الخ ۱/۷۵۴۷

<p>جریل نے مجھ سے عرض کی: میں نے پورب پچھم ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی کوئی شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا، نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے بہتر نظر آیا۔</p>	<p>قال لی جبریل قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم اجد بني اب افضل من بني هاشم۔<sup>۱</sup></p>
---	---

امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: صحبت کے انوار اس متن کے گوشوں پر جملک رہے ہیں، نقلہ فی المواهب<sup>۲</sup>۔ (اس کو موابہب میں نقل کیا ہے۔ ت)

ارشاد چہل و دوم<sup>۳</sup>: ابو نعیم کتاب المعرفہ میں، اور ابن عساکر عبد اللہ بن غنم سے راوی، ہم خدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھے، ناگاہ ایک برا آیہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

<p>مجھ سے ایک فرشتہ نے سلام کے بعد عرض کی: مدت سے میں اپنے رب سے قدموںی حضور کی اجازت مانگتا تھا یہاں تک کہ اب اس نے اذن دیا، میں حضور کو ٹھوڑہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور سے زیادہ کوئی عنیز نہیں۔</p>	<p>سَلَّمَ عَلَى مَلِكِ ثُمَّ قَالَ لِي لَمْ أَرْزُلْ إِسْتَأْذِنَ رَبِّي فِي لِقَائِكَ حَتَّى كَانَ هُذَا أَوْ أَنْ اذْنَ لِي وَإِنِّي أَبْشِرُكَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ اَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْكَ<sup>۴</sup></p>
--	--

ارشاد چہل و سوم<sup>۵</sup>: امام ابو زکریا یحییٰ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قصہ ولادت اقدس میں فرماتی ہیں: مجھے تین شخص نظر آئے

<sup>۱</sup> المعجم الاوسط حدیث ۷۱۷ مکتبۃ المعرفۃ ریاض ۷/۱۵۵، المواهب اللدنیۃ بحوالہ ابی نعیم طہارۃ نسبہ من السفاح المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۷، دلائل النبوۃ باب ذکر شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نسبہ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱/۲۷، الخصائص الکبری بحوالہ البیهقی والطبرانی و ابن عساکر باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بطہارۃ نسبہ الخ مکتبہ بیرون ۲/۳۸، الفردوس بیاثور الخطاب حدیث ۲۵۱۶ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۳/۱۸۷، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث ۲۰۷۳ دارالکتب العلمیۃ بیروت

۲۵۳ و ۲۵۴

<sup>۲</sup> المواهب اللدنیۃ طہارۃ نسبہ من السفاح المکتب الاسلامی بیروت ۱/۸۸

<sup>۳</sup> الجامع الصغیر بحوالہ ابن عساکر حدیث ۳۶۹۸ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۲۸۹

گویا آفتاب ان کے چہروں سے طلوع کرتا ہے، ان میں ایک نے حضور کو اٹھا کر ایک ساعت تک اپنے پروں میں چھپایا اور گوش اقدس میں کچھ کہا کہ میری سمجھ میں نہ آیا تین بات میں نے بھی سنی کہ عرض کرتا ہے:

<p>اے محمد! مژده ہو کہ کسی نبی کا کوئی علم باقی نہ رہا جو حضور کو نہ ملا ہو، تو حضور ان سب سے علم میں زائد اور شجاعت میں فائق ہیں جو نصرت کی کنجیاں حضور کے ساتھ ہیں، حضور کو رب دبdeb کا جامہ پہنایا ہے، جو حضور کا نام پاک سنے گا اس کا جی ڈر جائے گا اور دل سہم جائے گا اگرچہ حضور کو دیکھانہ ہواے اللہ کے نائب!</p>	<p>ابشر يا مجيد! فيما بقي لنبى علم الا وقد اعطيته فأنت اكثرهم علماً واشجعهم قلباً معك مفاتيح النصرة قد البست الخوف والرعب لايسمع احد بذلك الا وجل فؤاده وخف قلبه وان لم يرك يا خليفة الله.</p>
---	--

ابن عباس فرماتے ہیں:

<p>يَرْضُوا نَارَ وَغَرَّ جَنَّةَ تَحْتَهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔</p>	<p>كَانَ ذَلِكَ رَضْوَانَ خَازِنَ الْجَنَّانَ<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

ارشاد چهل و چہارم <sup>۲</sup>: احمد، ترمذی، عبد بن حمید، ابن مردویہ، بیہقی، ابو نعیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزار حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجوہ سے بصورت موقوف اور ابن سعد عبد اللہ بن عباس وام المومنین صدیقہ وام المومنین ام سلمہ وام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہن سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مر فوخار اوی شب اسری جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونا چاہا وہ چکا، جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا: أَبِي حِمْدٍ تَفْعَلْ هَذَا<sup>۲</sup> (وفی

المرفوع)

<sup>۱</sup> الخصائص الكبيرى بحواله ابى زكريا يحيى بن عائذ باب ما ظهر في ليلة مولده صلى الله تعالى عليه وسلم من المعجزات والخصائص مركز

الإسناد رضا جرات الهند ۲۹/۱

<sup>۲</sup> سنن الترمذی ابوب التفسیر باب سورۃ بنی اسرائیل حدیث ۵/۳۱۳۲ دار الفکر بیروت ۹۰، الدر المنشور بحواله احمد وعبد بن حمید والتترمذی وابن مردویہ وابن نعیم والبیهقی تحت الآیة ۷/۱ ادار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۸۳، الخصائص الكبيرى باب خصوصیتہ

صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء مركز الإسناد رضا جرات هند ۱۵۶/۱

الاستحبیین یا براق<sup>۱</sup>، (و عند البزار اسکنی<sup>۲</sup> ثم اتفقاً في المعنى واللفظ لانس) فوالله ما ركب خلق قط اكرم على الله منه۔ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی، اے براق! تجھے شرم نہیں آتی۔ ٹھہر کہ خدا کی قسم تھوڑے بھی کوئی ایسا شخص نہ سوار ہوا جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا ہو۔ فارفض عرقاً اس کہنے سے براق کو پسینہ چھوٹ پڑا۔ یہ روایت بطريق قتادة عن انس تھی۔ اور یہی ابن جریر و ابن مردویہ نے بطريق عبدالرحمن بن ہاشم بن عتبہ عن یونس یوں روایت کی کہ روح القدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مه یا براق فوالله ما ركب مثلہ<sup>۳</sup> میں اے براق! اللہ کی قسم! تجھ پر کوئی ان کا ہمدرت ہے سوار نہ ہوا۔ اور یہی تینوں محدث ابن ابی حاتم و ابن عساکر ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور رسید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: كانت الانبياء ترکبها قبل مجھ سے پہلے انہیاء اس پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ارشاد چهل و پنج<sup>۴</sup>: آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول وحی اول میں گزر اکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کو پیارے اور اس کی درگاہ میں سب سے قدرت و عزت میں بلند ہیں<sup>۵</sup>۔

ارشاد چهل و ششم<sup>۶</sup>: مسح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول ارشاد ہفتمن میں گزر اکہ

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحواله ابن سعد و امر سلمہ و امر هانی و عائشہ و ابن عباس تحت الآية ۷ / ۱ / بيروت ۵ / ۱۸۳، الخصائص الكبرى باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء مركزالہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۱ / ۲۹

<sup>۲</sup> الدر المنشور بحواله البزار عن علی تحت الآية ۷ / ادار احیاء التراث العربي بيروت ۵ / ۱۹۲، البحر الزخار (البزار) حدیث ۵۰۸ مکتبۃ العلوم والحكم المدینۃ المنورۃ ۲ / ۱۳۶

<sup>۳</sup> الخصائص الكبرى بحواله ابن جریر و ابن مردویہ والبیهقی باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء ۱ / ۱۵۵، الدر المنشور بحواله ابن جریر و ابن مردویہ والبیهقی تحت الآية ۷ / ادار احیاء التراث العربي بيروت ۵ / ۱۶۳

<sup>۴</sup> الدر المنشور عن ابی سعید الخدری تحت الآية ۷ / ادار احیاء التراث العربي بيروت ۵ / ۱۷۰، الخصائص الكبرى بحواله عن ابی سعید الخدری بباب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء مركزالہلسنت ۱ / ۱۲۷

<sup>۵</sup> دلائل النبوة للبیهقی بباب ماجاء في تحت رسول الله الخ دار الكتب العلمية بيروت ۵ / ۳۸۹، الشفاء بتعريف حقوق المصطفی الباب الثالث المطبعة الشرکة الصحفیة ۱ / ۱۳۸

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار جملہ بن آدم ہیں۔<sup>۱</sup>

### احادیث امامۃ الانبیاء

ان حدیثوں کو میں نے یہاں تک تاخیر کر دی کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اپنا امام الانبیاء ہونا خود بیان فرمایا، اور جریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضور کو امام کیا، اور جمیع انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اسے پسند رکھا، تو ان حدیثوں کو ارشاد حضور والا اور شاد ملائکہ و ارشاد انبیاء سب سے نسبت ہے۔ لہذا سب جلوسوں کے بعد ان کی تجلی مناسب ہوئی۔ ارشاد چھل و هفتم<sup>۲</sup>: شب اسری حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبیائے کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امامت فرمانا، حدیث ابو ہریرہ و حدیث انس و حدیث ابن عباس و حدیث ابن مسعود و حدیث ابی یحییٰ و حدیث ابو سعید و حدیث امم ہانی و حدیث ام المومنین صدیقہ و حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم واٹر کعب اخبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہوا۔ (ابو ہریرہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو جماعت انبیاء میں دیکھا، مولیٰ و عیلیٰ و ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نماز پڑھتے پایا فھانت <sup>۳</sup> الصلوٰۃ فامتهم <sup>۴</sup> پھر نماز کا وقت آیا میں نے امامت فرمائی۔ (انس) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبأی کی روایت میں ہے:

ع۴: عز هذا المتن في المواهب تصحیح مسلم من اس متن کو مواہب میں برداشت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ میں نے اس کو مسلم روایۃ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولم اراه فیه برداشت ابن مسعود نہیں دیکھا مسلم کے نزدیک تو یہ برداشت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جیسا کہ زرقانی نے بھی اس کو مقرر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے<sup>۵</sup> امنہ (ت)۔

ع۵: اقره فأَلَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَمْنَهُ

<sup>۱</sup> مسند احمد بن حنبل عن ابی بکر الصدیق /۱۵ و مسند ابی یعلیٰ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ /۱۵۹، موارد الظیمان حدیث ۲۵۸۹

<sup>۲</sup> ۶۲۳، ۶۲۴ و کنز العمال حدیث ۵۰۷۴۹ /۱۳

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ اخ قدیکی کتب خانہ کراچی ۱/۹۶

میرے لئے انبیاء جمع کئے گئے، جبریل نے مجھے آگے کیا، میں نے امامت فرمائی۔	جمع‌الانبیاء فقدمنی جبریل حین امیتهم <sup>۱</sup>
---	---

ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے:

<p>مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بہت لوگ جمع ہو گئے، موزن نے اذان کہی اور نماز برپا ہوئی، ہم سب صاف باندھے منتظر تھے کہ کون امام ہوتا ہے۔ جبریل نے میراہاتھ پکڑ کر آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو جبریل نے عرض کی: حضور نے جانا یہ کس کس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ فرمایا: نہ۔ عرض کی: ہر نبی کو خدا نے بھیجا حضور کے پیچھے نماز میں تھا۔</p>	<p>فلم البث الا يسيرا حتى اجتمع الناس كثير ثم اذن مؤذن واقبت الصلاة فقيناصفو فانتظر من يؤمننا فأخذ بيدي جبريل فقد مني فصليل بهم فلما انصرف قال جبريل يا محمد! اتدرى من صل خلفك؟ قلت لا. قال صلي خلفك كلنبي بعثه الله<sup>2</sup></p>
--	--

طرانی و بیہقی و ابن جریر و ابن مردویہ کی روایت موقوفہ میں ہے:

<p>حضور کے لیے آدم اور ان کے بعد جتنے نبی ہوئے سب اٹھائے گئے، حضور نے ان کی امامت فرمائی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔</p>	<p>ثم بعث له أدم فمن دونه من الانبياء فامهم رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم<sup>3</sup></p>
---	---

(ابن عباس) رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے احمد و ابو نعیم و ابن مردویہ بسنده صحیح روای، جب حضور مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے نماز کو کھڑے ہوئے فَإِذَا النَّبِيُّونَ اجْمَعُونَ يَصْلُوْنَ مَعَهُ<sup>4</sup> کیا دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء حضور کے ساتھ نماز میں ہیں۔

<sup>1</sup> سنن الترمذی کتاب الصلوٰۃ فرض الصلوٰۃ الخ نور محمد کارخانہ تجارت کتب گراچی ۱/۸۷

<sup>2</sup> الدر المنشور بحوالہ ابن ابی حاتم تحت الآیة ۱/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۲۳، الخصائص الکبیری باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکز اہلسنت برکات رضا گرات الہند ۱/۱۵۳

<sup>3</sup> الخصائص الکبیری باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکز اہلسنت برکات رضا گرات الہند ۱/۱۵۶ الدر المنشور بحوالہ ابن مردویہ والبیہقی تحت الآیة ۱/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۲۵

<sup>4</sup> الدر المنشور بحوالہ احمد وابی نعیم وابن مردویہ تحت الآیة ۱/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۸۸، الخصائص الکبیری احمد وابی نعیم وابن مردویہ باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء مرکز اہلسنت ۱/۱۵۹

(ابن مسعود) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن بن عرفہ ابو نعیم وابن عساکر نے روایت کی: میں مسجد میں تشریف لے گیا، انبیاء کو پہچانا، کوئی قیام میں ہے کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، ثم اقيمت الصلوٰۃ فاما متهم<sup>۱</sup> پھر نماز برپا ہوئی میں ان سب کا امام ہوا۔

(ابو لیلیں) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی وابن مردویہ راوی، حضور پر نور و جریل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ، وہاں کچھ لوگ بیٹھے دیکھے، انہوں نے کہا: مرحباً بالنبی الامی (نبی امی کو خوش آمدید۔ ت)

اور ان میں ایک پیر تشریف فرماتھے، حضور نے پوچھا: جریل! یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ حضور کے باپ ابراہیم اور یہ موسیٰ علیہی ہیں، ثم اقيمت الصلوٰۃ فتدافعوا حتیٰ قدمو امہدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم<sup>۲</sup> پھر نماز قائم ہوئی، امامت ایک نے دوسرے پر ڈالی، یہاں تک کہ سب نے مل کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام کیا۔

(ابو سعید) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اسحاق راوی، ملاقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ذکر کر کے کہتے ہیں: فصلی بهم ثم اقیامہ فیہ لبِن حضور نے انہیں نماز پڑھائی، پھر ایک برتن میں دودھ حاضر کیا گیا، الحدیث<sup>۳</sup>

(ام ہانی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو علی وابن عساکر راوی، نشری رہط من الانبیاء فیہم ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ فصلیت بہم<sup>۴</sup>۔ ایک جماعت انبیاء جس میں ابراہیم و موسیٰ و علیہی تھے میرے لئے اٹھائی گئی، میں نے انہیں نماز پڑھائی۔

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحواله عرفہ وابن نعیم وابن مردویہ وابن عساکر تحت الآية ۱/۱/بیروت ۵/۸۰، الخصائص الکبری بحوالہ ابن عرفہ وابن نعیم بباب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکزیہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۱/۱۲۲

<sup>۲</sup> الخصائص الکبری بحوالہ الطبرانی وابن مردویہ بباب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکزیہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۱/۱۷، الدر المنشور الطبرانی وابن مردویہ تحت الآية ۱/۱/دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۷۹

<sup>۳</sup> السیرة النبویہ لابن ہشام ذکر الاسراء والمعراج دار الكتب العلمیہ بیروت ۷/۲۸

<sup>۴</sup> الدر المنشور بحوالہ ابن یعلی وابن عساکر تحت الآية ۱/۱/دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۸۲، الخصائص الکبری بحوالہ ابن یعلی وابن عساکر بباب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکزیہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۱/۱۷۸

## امہات المومنین عَلَیْہَا وَمَلَکُوتُهَا وَابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ابن سعد نے عَلَیْہَا نے

ع۱: یہ حدیث وہی ہے کہ زیر ارشاد چبیل و چہارم گزری۔

ع۲: وقع في الدر المنشور للإمام الجليل الجلال السيوطي مانصه اخرج ابن سعد و ابن عساكر عن عبد الله بن عمر، أم سلمة، عائشة، أم هانفی او ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اخ۔

الله تعالیٰ عنہم<sup>۱</sup> الخ

اقول: نقل ابن عمر من خطاء النساء وصوابه ابن عمر و  
فإن الإمام قال في الخصائص الكبرى قال ابن سعد إن  
الواقدي حدثني اسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن  
شعيب عن أبيه عن جده عن أم سلمة الخ وقال في آخره  
أخرجه ابن عساكر<sup>۲</sup> أهـ ظهرت معه فائدة أخرى وهو أن  
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنيابهـ يرويه عن أم المؤمنين  
أم سلمة رضي الله تعالى عنها فلابيعد مفرزاً عنهاـ وفائدة  
أخرى عن ابن عساكر \*

امام جلال الدین سیوطی کی درمنثور میں واقع ہے جس کی نص یہ ہے کہ اس کو روایت کیا ہے ابن سعد اور ابن عساکر نے عبد اللہ بن عمر، ام سلمہ، عائشہ، ام هانفی اور ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اخ۔

میں کہتا ہوں کہ ابن عمر کو نقل کرنا کاتبوں کی غلطی ہے، درست یہ ہے کہ وہ ابن عمر و ہیں کیونکہ امام نے خصائص کبری میں فرمایا ابن سعد نے کہا ہمیں واقدی نے خبر دی ہے مجھے حدیث بیان کی اسامہ بن زید لیثی نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا سے انہوں نے ام سلمہ سے اخ اس کے آخر میں کہا کہ ابن عساکر نے اس کی تخریج کی اھ۔ اس سے ایک اور فائدہ ظاہر ہوا، وہ یہ کہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اس کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں لہذا اس کو ام سلمہ سے الگ حدیث شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور فائدہ یہ کہ ابن عساکر (باقی بر صحیح آئندہ)

<sup>۱</sup> الدر المنشور تحت الآية ۷ / دار أحياء التراث العربي بيروت ۵ / ۱۸۳

<sup>۲</sup> الخصائص الكبرى بباب خصوصيتها صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکز اہلسنت برکات رضا گجرات اہنڈا ۱۷۹۱

روایت کی:

<p>میں نے ملاحظہ فرمایا کہ انبیاء میرے لئے جمع کئے گئے، میں نے ان میں خلیل و کلیم و مسح کو بھی دیکھا، میں سمجھا اس جماعت کا کوئی امام ضرور چاہیے، جبکہ میں نے مجھے آگے کیا، میں نے ان کی امامت فرمائی۔</p>	<p>رأيت الانبياء جمعوا لى فرأيت ابراهيم وموسى و عيسى فظننت انه لا بد لهم ان يكون لهم اماماً فقد مني جبريل حقى صلیت بين ايدييهم <sup>۱</sup></p>
--	---

(کعب احراب) رحمۃ اللہ علیہ سے امام واسطی راوی:

<p>جبریل نے اذان کی، اور آسمان سے فرشتے اترے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے مرسلین جمع فرماؤ کر بھیجے۔ حضور نے ملائکہ و مرسلین کی امامت فرمائی <sup>۲</sup>۔</p>	<p>فاذن جبريل ونزلت الملائكة من السماء وحضر الله له المرسلين فصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالملائكة والمرسلين <sup>۲</sup></p>
--	---

فائدة: امامت ملائکہ کی دوسری حدیث ان شاء اللہ تعالیٰ تابش چہارم میں آئے گی۔ اور حدیث طویل ابی ہریرہ مذکورہ ارشاد

چہلم میں ہے:

(ابنیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

لے اپنی سند کے ساتھ ابن سعد سے اس کی تخریج کی۔ چنانچہ زیادہ ظاہر یوں کہتا ہے کہ اس کی تخریج کی ابن سعد نے، ان کے طریق سے ابن عساکر نے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

انیماً اخرجہ بسنده عن ابن سعد فلا ظهر ان یقال اخرج ابن سعد من طریقه ابن عساکر۔ والله تعالیٰ اعلم <sup>۱۲</sup>  
منہ۔

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحواله ابن سعد تحت الآية ۱/۱ دار احياء التراث العربي بيروت ۵/۱۸۳، الخصائص الكبرى بحواله ابن سعد باب

خصوصیته صلى الله عليه وسلم بآلسراء الخ مركزہ المسنون، رکات رضا گجرات الہند ۱/۶۹

<sup>۲</sup> الدر المنشور بحواله الواسطی تحت الآية ۱/۱ دار احياء التراث العربي بيروت ۵/۱۹۹

<p>داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ (ت)</p> <p>ابن مردویہ نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: شبِ معراج جب میں آسمان پر تشریف لے گیا، جبریل نے اذان دی، ملائکہ سمجھے ہمیں جبریل نماز پڑھائیں گے۔ جبریل نے مجھے آگے کیا، میں نے ملائکہ کی امامت فرمائی۔</p>	<p><b>دخل فصلی مع الملائکۃ<sup>۱</sup></b></p> <p>اور ابن مردویہ راوی عن هشام بن عروہ عن ابیه عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لِمَّا اسْرَى بِإِلَى السَّمَاوَاتِ أَذْنَ جَبْرِيلَ فَظَنَنَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُ يَصْلِي بِهِمْ فَقَدْ مَنَى فَصَلَّيَتْ بِالْمَلَائِكَةِ<sup>۲</sup></p>
---	---

### تہسیل

ارشاد چهل و ہشم<sup>۳</sup>: اسی میں منقول شفاریف میں حدیث نقل فرمائی:

<p>میں طبع کرتا ہوں کہ قیامت میں میراثواب سب انبیاء سے زیادہ ہو۔</p>	<p><b>اطبع ان اکون اعظم الانبیاء اجرًایوم القيمة<sup>۴</sup></b></p>
--	--

ارشاد چهل و نهم<sup>۵</sup>: اسی میں منقول:

<p>کیا تم راضی نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ و عیلی کلمۃ اللہ روز قیامت تم میں شمار کئے جائیں۔ پھر فرمایا: وہ دونوں روز قیامت میری امت ہوں گے۔</p>	<p>اماً ترضون ان یکون ابراہیم و عیسیٰ کلمۃ اللہ فیکم یوم القيمة ثم قال انهما فی امتي یوم القيمة<sup>۶</sup></p>
--	---

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحوالہ عن ابی هریرۃ تحت الآیۃ ۱/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۷، الخصائص الکبیری باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکزہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۱۹۲/۱

<sup>۲</sup> الخصائص الکبیری بحوالہ ابن مردویہ باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء الخ مرکزہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۱۹۲/۱، الدر المنشور بحوالہ ابن مردویہ تحت الآیۃ ۱/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۵/۱۹۳

<sup>۳</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل في تفضیله صلی اللہ علیہ وسلم فی القيمة المطبعة الشرکة الصحافیة ۱۹۶/۱

<sup>۴</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل في تفضیله صلی اللہ علیہ وسلم فی القيمة المطبعة الشرکة الصحافیة ۱۹۶/۱

ارشاد پنجاہم<sup>۵</sup> : افضل القری میں فتاویٰ امام شیخ الاسلام سراج بلقینی سے ہے جو میل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضور سے عرض کی:

خودہ ہو کہ حضور بہترین خلق خدا ہیں، اس نے تمام آدمیوں میں سے حضور کو چن لیا، اور وہ دیا کہ سارے جہان میں سے کسی کو نہ دیا، نہ کسی مقرب فرشتہ کو، نہ کسی مرسل نبی کو۔	ابشر فانک خیر خلقہ و صفوته من البشر حبّاک اللہ بیاللّم یحب بہ احد من خلقہ لامکا مقرباً ولا نبیا مرسلاً الحدیث <sup>۱</sup> ۔
--	--

ارشاد پنجاہ ویکم<sup>۶</sup> : علامہ نعش الدین ابن الجوزی اپنے رسالہ میلاد میں ناقل، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جانب مولیٰ امسکین علی مرتشی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا:

اے ابو الحسن! بیٹک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں، اور بیغیروں کے خاتم، اور روشن رو، اور روشن دست و پاؤں کے پیشو، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار نبی ہوئے جبکہ آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آب و گل میں تھے۔ مسلمانوں پر نہایت مہربان، گنہگاروں کے شفیع، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عالم کی طرف بھیجا۔	یا ابا الحسن ان محمدًا رسول رب العالمین و خاتم النبیین و قائد الغرالیحجلین سید جیع الانبیاء والمرسلین الذی تنبأ و ادمر بین الماء والطین رؤوف بالمؤمنین شفیع المذنبین ارسله اللہ الی کافة الخلق اجمعین <sup>۲</sup> ۔
--	--

ارشاد پنجاہ و دووم<sup>۷</sup> : بعض احادیث میں مذکور ہے:

میرے لئے خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں کسی مقرب فرشتے یا مرسل نبی کی گنجائش نہیں (اس کو شیخ نے مدارج النبوة میں ذکر فرمایا ہے۔ ت)	لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک ولا نبی مرسل۔ ذکرہ الشیخ فی مدارج النبوة <sup>۳</sup> ۔
--	--

<sup>۱</sup> افضل القری لقراء ام القری تحت الشعر المجمع الثقافي ابو طلبی ۱/۱۲۱

<sup>۲</sup> بیان المیلاد النبوی (اردو) ادارہ معارف نعمانیہ لاہور ص ۱۰۰ اوا

<sup>۳</sup> الاسرار الموضوعة حدیث ۲۲۷ دار الكتب العلمية بیروت ص ۱۹۷، کشف الخفاء حدیث ۲۱۵ دار الكتب العلمية بیروت ۲/۱۵۶

ارشاد پنجاہ و سوم<sup>۵۳</sup> : مولانا فاضل علی قاری شرح شفای میں علامہ تلمذانی سے ناقل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جریل نے آکر مجھے یوں سلام کیا:

اسلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام سلام، اے باطن آپ پر سلام۔ (ت)	اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔
--	---

میں نے کہا: اے جریل! یہ تو خالق کی صفتیں ہیں مخلوق کو کیونکر مل سکتی ہیں؟ عرض کی: میں نے خدا کے حکم سے حضور کو کیوں سلام کیا ہے اس نے حضور کو ان صفتیں سے فضیلت اور تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصیت بخشی ہے، اپنے نام و صفت سے حضور کے لئے نام و صفت مشتق فرمائے ہیں۔ حضور اول نام رکھا ہے کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں۔ اور آخر اس لئے کہ ظہور میں سب سے مؤخر۔ اور آخر ام کی طرف خاتم الانبیاء ہیں اور باطن اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے باپ آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ساق عرش پر سرخ نور سے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھا اور مجھے حضور پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ میں نے ہزار سال حضور پر درود بھیجا یہاں تک کہ حق جل و علانے حضور کو مبعوث کیا۔ خوشخبری دیتے اور ڈرستاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے بلا تے اور چراغ نتاباں۔ اور ظاہر اس لئے حضور کا نام رکھا کہ اس نے اس زمانہ میں حضور کو تمام ادیان پر غلبہ دیا اور حضور کا شرف و فضل سب آسمان وزمین پر آشنا کر اکیا، تو ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے حضور پر درود نہ بھیجا، اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجے، حضور کا رب محمود ہے اور حضور محمد۔ اور حضور کا رب اول و آخر و ظاہر و باطن ہے اور حضور اول و آخر و ظاہر و باطن ہیں۔ یہ عظیم بشارت سن کر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

الحمد لله الذي فضلني على جميع النبيين حتى في اسمي وصفتي <sup>۱</sup> هكذا نقل وقال روى التلمذانى عن ابن عباس و ظاہرہ انه اور اس کا	حمد اس خدا کو جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی یہاں تک کہ میرے نام اور صفت ہیں۔ یوں ہی نقل کیا ہے اور کہا کہ تلمذانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے
---	---

<sup>۱</sup> شرح الشفاء للبلاء القارئ فصل في تشریف اللہ تعالیٰ بما سماه الخ دار الكتب العلمية بيروت ۱/۱۵

<p>ظاہر یہ ہے کہ تمسانی نے ابن عباس تک اپنی سند کے ساتھ اس کی تخریج کی کیونکہ اس پر لفظ "روی" دلالت کرتا ہے جیسا کہ زرقانی میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)</p>	<p>خرجہ بسنده الی ابن عباس فان ذلك هو الذي یدل عليه روی کیا فی الزرقانی . واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔</p>
---	---

### تابش سوم طرق و روایات و حدیث خصائص

حدیث خصائص وہ حدیث ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خصائص جیلہ ارشاد فرمائے جو کسی نبی و رسول نہ نہ پائے۔ اور انکی وجہ سے اپنا تمام انبیاء اللہ پر تفضیل فرمانا ذکر فرمایا۔ یہ روایت متواتر المعنی ہے۔ امام قاضی عیاض نے شفاسریف میں اسے پانچ صحابہ کی روایت سے آنایا۔ فرمایا: ابوذر، ابن عمر، ابن عباس، ابوہریرہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر حدیث کے چار پانچ متفرق جملے نقل کئے۔ علامہ قسطلانی نے موہبہ لدنیہ میں فتح الباری شرح صحیح بخاری امام علماء ابن حجر عسقلانی سے اخذ کر کے اس پر کلام لکھا۔ جس میں احادیث حذیفہ و علی مرتفعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھی اشارہ واقع ہوا، مگر سوا حدیث جابر و ابوہریرہ کے کہ صحیحین میں وارد ہے کوئی روایت پوری نقل نہ کی۔ فقیر غفرانی رضی اللہ تعالیٰ لہ نے کتب کثیرہ کے مواضع متفرقہ قریبہ و بعیدہ سے اس کے طرق و روایات و شواہد و متابعات کو جمع کیا۔ تو اس وقت کی نظر میں اسے چودہ <sup>۱۳</sup> صحابی کی روایت سے پایا: ابوہریرہ، حذیفہ، ابو درداء، ابو مامہ، سائب بن نزید، جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن عمر، ابوذر، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری، مولا علی، عوف بن مالک، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں ہر ایک کی حدیث اس وقت کالماً میرے پیش نظر ہے۔ امام خاتم الحفاظ علامہ ابن حجر عسقلانی پھر امام علماء احمد قسطلانی نے چھ طرق مختلفہ کی تطیق سے ان خصائص و نفاسک کا عدد جوان حدیثوں میں متفرقہ وارد ہوئے سول سترہ تک

عہ: وجہ التردد ان الامام نص على انه ینتظم بها اي تردد کی وجہ یہ ہے کہ امام قسطلانی نے نص فرمائی ہے کہ ان احادیث سے سترہ خصلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اخن لیکن ان کی حدیث بزار (باتی بر صحیح آسنده) بہذہ الاحادیث سبع عشرۃ

پنچاہی۔ فقیر غفران اللہ نے ان کے کلام پر اطلاع سے پہلے مبلغ شمار تیس تک پایا والحمد لله رب

(ابیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے کہ مجھے انبیاء پر دو خصلتوں سے فضیلت دی گئی۔ میرا شیطان کافر تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور کہا کہ دوسرا کو میں بھول گیا ہوں۔ اس سے پہلے تعداد پندرہ تھی پھر حافظ نے دو خصلتیں اسکے ساتھ ملا کر انہیں سترہ بنادیا۔ میرے نزدیک بھولی ہوئی خصلت کو الگ خصلت شمار کرنے میں تامل ظاہر ہے، اس لئے کہ ممکن ہے وہ انہی خصلتوں میں سے ایک ہو جن کا پہلے شمار کیا جا چکا ہے۔ اور زر قانی کا قول کہ وہ خصلتیں دلائل النبوة میں بیہقی کی اس روایت میں بیان ہوئی ہیں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مر فوغا مر وی ہے کہ مجھے آدم پر دو خصلتوں سے فضیلت دی گئی۔ میرا شیطان کافر تھا اللہ تعالیٰ نے میری اس پر مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور میری بیویاں (باقی بر صفحہ آئندہ)

خصلة<sup>۱</sup> اہلنکن فیھا حدیث البزار عن ابن عباس فضلت علی الانبیاء بخصلتین کان شیطانی کافر افعانی اللہ علیہ فاسلم و قال و نسیت الاخري<sup>۲</sup> وقد کان العدد قبل ذلك خمسة عشر فالحافظ ضم الخصلتين وجعلها سبع عشرة وعندی في عد المنسية خصلة بحیالها تأمل ظاهر لجواز ان تكون بعض ماعذت وقول الزرقانی هي مبنية في روایة البيهقي في الدلائل عن ابن عمر ومرفوغًا فضل على ادم بخصلتین کان شیطانی کافر افعانی اللہ علیہ حق اسلام و كان ازواجي عوّالاً کان شیطان

<sup>۱</sup> الموهاب الدنیۃ المقصد الرابع الفصل الثانی المکتب الاسلامی بیروت ۵۹۶/۲

<sup>۲</sup> الموهاب الدنیۃ المقصد الرابع الفصل الثانی المکتب الاسلامی بیروت ۵۹۶/۲

العلمین۔ یہ بھی انہی دو اماموں کے اس فرمانے کی تصدیق ہے کہ بغور کامل تتفق احادیث کرے۔ ممکن ہے کہ اس سے زائد پائے۔ حالانکہ نقیر کونہ اس وقت کمال تفہیص کی فرصت، نہ مجھے جیسے کوئا تھا دست قاصر النظر کی ناقص تلاش میں داخل۔ اگر کوئی عالم و سعی الاطلاع استقرار پر آئے تو عجب نہیں کہ عدد طرق و شمار خصائص اس سے بھی بڑھ جائے۔ قصد کرتا ہوں کہ ان

شاء اللہ العزیز اس رسالہ اور اس کے بعد ان مسائل کثیرہ<sup>۱</sup> کے جواب سے حجیدر آباد<sup>۲</sup> و بنگلور<sup>۳</sup>

(باقیہ صفحہ حاشیہ گزشتہ)

ادم کافرًا و کانت زوجته عنوان علیہ<sup>۴</sup>۔

میری معادوں ہیں جبکہ آدم علیہ السلام کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی ان کے مخالف تھی۔

میں کہتا ہوں یہ بحث سے خالی نہیں کہ یہاں کلام آدم علیہ السلام پر افضیلت کے بارے میں ہے جبکہ وہاں تمام انبیاء پر افضیلت کے بارے میں۔ اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعانت از واج کے ساتھ تمام انبیاء کے درمیان اختصاص محتاج ثبوت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بھول جانے والی خصلت یہی ہے۔ اور جب معالمه ظاہر نہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ خصلت گزشتہ خصلتوں میں سے ہی ایک ہو، چنانچہ اس کو الگ خصلت شمار کرنا ممتحن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ۱۴۷۶ (ت)

۱۴۷۶: یعنی بست و هفتم مسئلہ چارده از حیدر آباد و چاراًز خیر آباد و پنج ازیں شہرویک از بدایوں و باقی از باقی ۱۴۷۶ (ت)

۱۴۷۷: مرسلہ مولوی عبد العزیز صاحب قادری از پربھلے ضلع حیدر آباد۔

۱۴۷۸: مرسلہ مولوی سید فخر الدین صاحب واعظ صوفی از ڈاکنڈنیگری ۱۴۷۸ (ت)۔

اقول: لا يعرى عن بحث لأن الكلام هنا في التفضيل على ادم و ثم في التفضيل على الانبياء طرراً و اختصاصه صلى الله تعالى عليه وسلم بأعانت الأزواج من بين الانبياء قاطبةً يحتاج إلى ثبوت. وبالجملة لا يلزم من هذا ان تكون المناسبية هو هذه واذا لم يتبين الامر جاز ان تكون احدى مأمورت فلا يحسن عدها مفرزة. والله تعالى اعلم.

۱۴۷۶: یعنی بست و هفتم مسئلہ چارده از حیدر آباد و چاراًز خیر آباد و پنج ازیں شہرویک از بدایوں و باقی از باقی ۱۴۷۶ (ت)

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی علی المواہب المدنیۃ المقصد الرابع الفصل الثاني دار المعرفة بيروت ۲۰۲۱/۵

بنجاب و سلطان پور و خیر آباد و غیرہ بlad اور خاص شہر کے آئے ہوئے ہیں، اور اس مسئلہ مونگری کی وجہ سے بر عایت القدام فالقدام ان کے جواب تعلیق میں پڑے ہیں بحوالہ اللہ تعالیٰ فراغ پاکر اس حدیث کے جمع طرق میں ایک رسالہ بن نام البحث الفاحص عن طرق حدیث الخصائص لکھوں، اور اس میں ہر طریق روایت کو مفصل جداگانہ نقل کر کے خصائص حاصلہ پر قدرے کلام کروں، وباللہ التوفیق لارب غیرہ (اور اللہ کی توفیق ہے اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ت)

یہاں بخوبی تطویل صرف صدر احادیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن میں ارشاد ہوا کہ مجھے سب انبیاء پر ان وجوہ پر تفضیل ملی، مجھے وہ خوبیاں عطا ہوئیں جو کسی نے نہ پائیں۔ کہ اس رسالہ کا مقصود اتنے ہی پارہ سے حاصل۔ وَلَّهُ الْحَمْدُ لِّبِرِّ الرَّضِيِّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مسلم اور اس کے قریب، بزار نے بسند جید، اور ابن حجریر وابن ابی حاتم وابن مردویہ وزبار والبیطی و بیہقی نے حدیث معراج میں روایت کی، طریق اول میں ہے: فضلۃ علی الانبیاء بست<sup>۱</sup>۔ میں چھ وجہ سے سب انبیاء پر تفضیل دیا گیا۔ دوم میں اس قدر اور زائد: امَّا يَعْطُهَا كَانَ قَبْلِي<sup>۲</sup>۔ مجھے سے پہلے و فضائل کسی کو نہ ملے۔

سوم میں ہے: فضلُنِي رَبِّي بَسْتٍ<sup>۳</sup>۔ مجھے میرے رب نے چھ باتوں سے تفضیل دی۔

خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احمد، مسلم، نسائی، ابن ابی شیبہ، ابن خزیمہ، بیہقی، ابو نعیم راوی: فضلُنَا عَلَى النَّاسِ بِثُلَاثٍ<sup>۴</sup>۔ ہمیں تین آوجہ سے تمام لوگوں پر فضیلت ہوئی۔

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوة تدبیری کتب خانہ کراچی ۱۹۹۹، الخصائص الکبیری بحوالہ البزار عن ابی هریرۃ باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرح الصدر مرکزہلسنت ۱۹۶۲/۲

<sup>۲</sup> الخصائص الکبیری بحوالہ البزار عن ابی هریرۃ بباب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرح الصدر مرکزہلسنت ۱۹۶۲/۲

<sup>۳</sup> الخصائص الکبیری بحوالہ البزار عن ابی هریرۃ بباب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرح الصدر مرکزہلسنت ۱۹۶۲/۲

<sup>۴</sup> صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوة فدریکی کتب خانہ کراچی ۱۹۹۹، کنزا العمال بحوالہ ط و حمد ون وابن خزیمۃ حدیث ۳۱۹۱۲

۲۲۰۷۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۱۳۰۹ و ۱/۱۳۲۳، المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الفضائل حدیث ۳۱۲۳۰ دار الكتب العلمیة بیروت ۲/۱۳۰۸

صحیح ابن خزیمۃ جماعت ابوبالتیمہ حدیث ۲۶۲ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۳۳، دلائل النبوة للبیهقی بباب ماجاء فی تحدیث رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم بنعمۃ ربہ دار الكتب العلمیة بیروت ۵/۱۳۷۵

ابودرداء سے طبرانی کبیر میں راوی: فضلت باربع<sup>۱</sup> میں نے چار وجہ سے فضیلت پائی۔ ابو امامہ کی حدیث بھی انہیں لفظوں سے شروع ہے: اخر جہا احمد و البیهقی<sup>۲</sup> احمد و بیہقی نے اس کی تخریج کی ہے۔ ت) سائب بن یزید:

میں پانچ وجہ سے انبیاء پر فضیلت دیا گیا۔ (اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ت)	فضلت علی الانبیاء بخسن۔ رواہ الطبرانی <sup>۳</sup> ۔
--	--

جابر بن عبد اللہ:

میں پانچ چیزیں دیا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملیں (اس کو بخاری، مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ت)	اعطیت خمساً لِمَ يَعْطُهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي۔ رواہ البخاری و مسلم و النسائی <sup>۴</sup> ۔
---	---

عبدالله بن عمرو بن العاص:

احمد، زبار اور بیہقی کے نزدیک صحیح اسناد کے ساتھ۔ (ت)	عند احمد و البزار و البیهقی بأسناد صحیح۔
---	--

ابوذر، احمد، دارمی، ابن ابی شیبہ، ابو یعلی، ابو نعیم، بیہقی، زبار بasnاد جید، ابن عباس احمد و البخاری فی التاریخ و الطبرانی والثلثة الاصحی فی حدیث بسنده حسن (احمد اور بخاری نے تاریخ میں اور طبرانی اور تین دوسرے ایک حدیث میں سنده حسن کے ساتھ۔ ت)

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ طب عن ابی الدرداء حدیث ۳۱۹۳۶ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۰۱۳ //

<sup>۲</sup> مسنود احمد بن حنبل عن ابی امامۃ الباهلی المکتب الاسلامی بیروت ۵ / ۲۵۶، کنز العمال بحوالہ حق عن ابی امامۃ الباهلی حدیث

۳۱۹۳ م مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۰۱۳ //

<sup>۳</sup> المعجم الكبير عن سائب بن یزید عن ابی امامۃ الباهلی حدیث ۷۳ / ۲۶۷ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۷ / ۱۵۵

<sup>۴</sup> صحیح البخاری کتاب التیم و قوله تعالیٰ فلم تجد واما الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱ / ۳۸، صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلة قدیمی کتب خانہ کراچی ۱ / ۱۹۹، سنن النسائی کتاب الغسل والتیم باب التیم بالصعبید نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱ / ۷۳

ابو موسیٰ احمد و ابن ابی شیبۃ والطبرانی بأسناد حسن (احمد، ابن ابی شیبہ اور طبرانی سند حسن کے ساتھ ت)

ابو سعید الطبرانی فی الاوسط بسند حسن (طبرانی اوسط میں سند حسن کے ساتھ ت)

مولیٰ علیٰ عند البزار وابی نعیم (بزار اور ابو نعیم کے تزدیک ت) ان چھ روایات میں بھی پانچ ہی چیزیں ذکر فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نہ پائیں۔ اول<sup>۱</sup> و ثانی<sup>۲</sup> میں احادیث قبلی ہے۔ ثالث<sup>۳</sup> میں الانبیاء۔ اور زائد باقیوں میں نبی قبلی ہے۔ اور حاصل سب عبارتوں کا واحد۔ اور مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے طریق دوم میں بے تعین عدد

ہے:

اعطیت مالم یعط احد من الانبیاء
--------------------------------

مجھے وہ ملا جو کسی نبی نے نہ پایا۔
------------------------------------

<sup>۱</sup> مسنون احمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص المكتتب الاسلامي بيروت ۲۲۲ / ۳

<sup>۲</sup> مسنون احمد بن حنبل عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المكتتب الاسلامي بيروت ۵ / ۱۲۱، الترغیب والترہیب فصل فی الشفاعة وغيرها مصطفی البیانی مصر ۳۳۳ / ۳، کنز العمال بحوالہ الدارمی وغیرہ حدیث ۳۲۰۲۱ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۱ / ۳۳۸، اتحاف السادة المتلقين بحوالہ ابی یعلی وغیرہ صفة الشفاعة دار الفکر بيروت ۱۰ / ۳۸۸، المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الفضائل حدیث ۳۱۲۳۱ دار الكتب العلمية

بيروت ۲۰۸ / ۲

<sup>۳</sup> التاریخ الكبير ترجمہ ۲۵۲ سالہ ابو حماد دار البازمکہ المکرمه ۲ / ۱۲، الخصائص الکبری عن ابی ذر باب اختصاصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمقام المحمود مرکزہلسنت ہند ۲۲۳ / ۲

(ابن ابی شیبہ نے اس کی تخریج کی۔ ت)-

آخر جهہ ابن ابی شیبہ<sup>۱</sup>۔

طریق سوم میں ہے:

مجھے چار چیزیں عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی اللہ کو نہ ملیں۔ (احمد و تیہقی نے سند حسن کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ ت)

اعطیت اربعاء لم یعطھن احد من انبیاء اللہ تعالیٰ قبل اخر جهہ احمد<sup>۲</sup> والبیهقی بسند حسن۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طریق دوم میں ہے:

میں دو باتوں سے تمام انبیاء پر فضیلت دیا گیا۔ (بزار نے اس کی تخریج کی ہے۔ ت)

فضیلت علی الانبیاء بخصیلتين۔ آخر جهہ البزار<sup>۳</sup>۔

عوف بن مالک کی حدیث میں بھی پانچ ہیں۔ مگر یوں کہ:

ہمیں چار فضیلتیں ملیں کہ ہم سے پہلے کسی کو نہ دی گئیں۔ اور میں نے اپنے رب سے پانچویں مانگی اس نے وہ بھی مجھے عطا فرمائی، اور وہ تو وہی ہے، یعنی اس پانچویں خوبی کا کہنا ہی کیا ہے۔

اعطینا اربعالم یعطھن احدکان قبلنا وسائل ربی الخامسة فاعطانیها<sup>۴</sup> (وہی ماہی)۔

پھر چار بیان فرماد کروہ نفس پانچویں یوں ارشاد فرمائی:

میں نے اپنے رب سے مانگا میری امت کا کوئی بندہ اس کی توحید کرتا ہوا سے نہ ملے مگر یہ کہ اس کو داخل بہشت فرمائے ابو یعلی نے اس کی تخریج کی ہے۔ ت)

سائل ربی ان لایلقاہ عبد من امتي یوحدہ الا ادخله الجنۃ۔ آخر جهہ ابو یعلی<sup>۵</sup>۔

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الفضائل حدیث ۳۱۲۳۷ دار الكتب العلمیہ بیروت ۲/۳۰۸<sup>۲</sup> مسند احمد حنبل عن علی رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۵۸<sup>۳</sup> الموابد اللدنیہ بحوالہ البزار عن ابن عباس المقصد الرابع الفصل الثانی المکتب الاسلامی بیروت ۲/۲۹۶<sup>۴</sup> الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان عن عوف بن مالک حدیث ۶۳۶۵ مؤسسه الرسالہ بیروت ۹/۱۰۳<sup>۵</sup> الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان عن عوف بن مالک بحوالہ ابی یعلی حدیث ۶۳۶۵ مؤسسه الرسالہ بیروت ۹/۱۰۳

عبدہ بن صامت کی روایت میں ہے:

<p>جریل نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی: باہر جلوہ فرمائے۔</p> <p>الله تعالیٰ کے وہ احسان جو حضور پر کئے ہیں بیان فرمائیے۔ پھر مجھے وہ فضیلتوں کا خودہ دیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہ پائیں۔ (ابن ابی حاتم اور عثمان بن سعید دارمی نے کتاب الرد علی الجهمیہ میں اور ابو نعیم نے اس کی تخریج کی ہے۔ ت)</p>	<p>ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرج فقل ان جبریل اتاًی فقل اخر ج فحدث بنعمة اللہ التی انعم بھا علیک فبشرنی بعشراً میوتها نبی قبلی۔</p> <p>آخر جهہ ابن ابی حاتم<sup>۱</sup> و عثمان بن سعید الدارمی فی كتاب الرد علی الجهمیة وابونعیم۔</p>
---	---

ان روایات ہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعداد مذکورہ میں حصر مراد نہیں، کہیں دو فرماتے ہیں، کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ، کہیں چھ، کہیں دس<sup>۲</sup>، اور حقیقتہ سو اور دسوپر بھی انہیا نہیں۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ<sup>۳</sup> نے خصائص کباری میں اڑھائی سو کے قریب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص جمع کئے۔ اور یہ صرف ان کا علم تھا، ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے تھے۔ اور علمائے ظاہر سے علمائے باطن کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر تمام علوم عالم اعظم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہزاروں منزل ادھر منقطع ہیں۔ جس قدر حضور اپنے فضائل و خصائص جانتے ہیں ووسرا کیا جانے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ان کا مالک و مولیٰ جل وعلا، "آنَ إِلَى رَبِّكُمْ الْمُسْتَهْلِفُ"<sup>۴</sup> (بیشک تمہارے رب ہی کی طرف منتی ہے۔ ت)

ع۱: عجائب لطائف سے ہے کہ نقیر کے پاس ان احادیث سے تین<sup>۵</sup> خاصے جمع ہوئے کیا مر (جیسا کہ گزرات) اور دو سے دس تک جو اعداد حدیثوں میں آئے انہیں جمع کئے تو تین<sup>۶</sup> ہی آتے ہیں ۱۲ امنہ۔

ع۲: حضرت والا قدس سرہ الماجد نے بھی النقاؤۃ النقویۃ فی الخصائص النبویۃ میں ایک جملہ صالح ذکر فرمایا۔ جزا اللہ علماء الامۃ خیر جزاء امین ۱۲ امنہ (الله تعالیٰ علمائے امت کو بہترین جزاء عطا فرمائے۔ آمین۔ ت)

<sup>۱</sup> الخصائص الكبیی باب اختصاصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ مركزہ بہمنت گجرات الہند ۱۸۸۸/۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۵۳/۲۲

جس نے انہیں ہزاروں فضائل عالیہ و جلائل عالیہ دیئے، اور بے حد و بے شمار ابد الہاد کے لیے رکھے، "وَلَلَا خِرْدَةٌ حَيْزِلَكَ مِنَ الْأُوْلَىٰ" <sup>۱</sup> (اور بیشک پچھلی گھری آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ت)۔ اسی لئے حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ابے ابو بکر! مجھے ٹھیک ٹھاک جیسا میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا (اس کو علامہ فاسی نے مطالع المسرات میں ذکر فرمایا ہے۔ت)	یا ابابرک لم یعلمنی حقیقتہ غیر ربی۔ ذکرہ العلامۃ الفاسی فی مطالع المسرات <sup>۲</sup>
--	---

تر اچناں کہ توئی دیدہ کجا بیند  
لقدر بینش خود ہر کسے کند اور اک  
(تجھے جیسا کہ تو ہے کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے، ہر کوئی اپنی بینائی کے مطابق اور اک کرتا ہے۔ت)  
صلی اللہ تعالیٰ علیک و علی الک و اصحابک اجمعین۔

### تابش چہارم آثار صحابہ و بقیہ موعودات خطبہ

روایت اولیٰ: بیہقی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

بیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق الہی سے عزت و کرامت میں زائد ہیں۔	ان محمد اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الخلق علی اللہ یوم القيمة <sup>۳</sup>
--	--

روایت دوم <sup>۱</sup>: احمد، بزار، طبرانی بسنہ ثقات اسی جناب سے راوی:

الله تعالیٰ نے اپنے بنوں کے دلوں پر نظر فرمائی، تو ان میں سے محمد صلی اللہ تعالیٰ	ان الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلی الله
---	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۹۳/۲

<sup>۲</sup> مطالع المسرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۱۴۹

<sup>۳</sup> الخصائص الکبیڑی بحوالہ البیہقی باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرح الصدر مرکز ہلسنت ۱۹۸/۲

علیہ وسلم کے دل کو پسند فرمایا، اسے اپنی ذاتِ کریم کے لیے چن لیا۔	تعالیٰ علیہ وسلم فاصطفاء لنفسہ <sup>۱</sup> ۔
---	---

روایت سوم<sup>۲</sup>: دارمی و بیهقی عبد اللہ بن سلام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ مرتبہ و وجاہت والے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔	ان اکرم خلیفۃ الرسل علی اللہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم <sup>۲</sup> ۔
--	--

روایت چہارم<sup>۳</sup>: ابن سعد بطریق مжалد شعبی عن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب سے راوی، زید بن عمرو بن نفیل کہتے تھے: میں شام میں ہا، ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے بت پرستی و یہودیت و نصرانیت سب سے نفرت ہے۔ کہا: تو تم دین ابراہیم چاہتے ہو، اے اہل مکہ کے بھائی! اے تم وہ دین مانگتے ہو جو آج کہیں ملے گا، اپنے شہر کو چلے جاؤ۔

فَإِنْ نَبِيَا يَبْعَثُ مِنْ قَوْمٍ فِي بَلْدَكَ يَأْتِيَنَّ بِدِينِ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَّسْلِيمُ كَادِينَ حَنِيفَ لَائَنَّ گا، وَهُوَ تَمَامُ جَهَانَ سے زِيَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى كَوْعَنِيزَ ہے۔	كَتَمَهَارِيَ قَوْمَ سَتَّ تَهَارَ سَتَّ شَهْرَ مِنْ أَيْكَنْ بَنِي مَجُوْثَ هُوَ گَا وَهُوَ ابْرَاهِيمَ بَالْحَنِيفَةِ وَهُوَ اكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ اللَّهُ <sup>۳</sup> ۔
---	--

یہ زید بن عمرو موحدان جاہلیت سے ہیں، اور ان کے صاحبزادے سعید بن زید اجلہ صحابہ و عشرہ مبشرہ سے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

روایت پنجم<sup>۴</sup>: ابن ابی شیبہ و ترمذی بافادہ تحسین اور حاکم بہ تصریح تصحیح اور ابو نعیم

عَلَيْهِ حَجَةُ ابْنِ حَجْرٍ فِي شَرْحِ الْهَمْزِيَّةِ۔

<sup>۱</sup> مسنڈ احمد بن حنبل عن عبد اللہ بن مسعود المکتب الاسلامی بیروت ۱/۹۷، البحر الزخار (مسنڈ البزار) مسنڈ عبد اللہ بن مسعود

حدیث ۱۷۰۲ مکتبۃ العلوم والحكم مدینۃ المنورہ ۵/۱۹، المعجم الکبیر حدیث ۸۵۹۳ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۹/۱۲۱

<sup>۲</sup> الخصائص الکبیری بحوالہ البیهقی باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرح الصدر مرکز اہلسنت گجرات ہند ۲/۱۹۸

<sup>۳</sup> الطبقات الکبیری ذکر علامات النبوة فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار صادر بیروت ۱/۱۶۲

وخرائطی ابو مولی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، ابوطالب چند سردار ان قریش کے ساتھ ملک شام کو گئے، حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمراہ تشریف فرماتے، جب صومعہ راہب یعنی بحیرا کے پاس اترے، راہب صومعہ سے نکل کر ان کے پاس آیا، اور اس سے پہلے جو قافلہ جاتا تھا راہب نہ آتا، نہ اصلاح ملت قفت ہوتا، اب کی بار خود آیا اور لوگوں کے چیز گزرتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ حضور اقدس کا دست مبارک تھام کر بولا: **هذا سید العلّميين هذا رسول رب العلّميين يبعثه الله رحمة للعلميين** یہ تمام جہان کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام عالم کے لئے رحمت بھیجے گا۔ سردار ان قریش نے کہا: تجھے کیا معلوم ہے؟ کہا: جب تم اس گھٹائی سے بڑھے کوئی درخت و سنگ نہ تھا جو سجدے میں نہ گرے، اور وہ نبی کے سواد و سروں کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں انہیں مہربوت سے پہچانتا ہوں، ان کے استخوانِ شانہ کے نیچے سبب کے مانند ہے۔ پھر راہب واپس گیا اور قافلہ کے لیے کھانا لایا، حضور تشریف نہ رکھتے تھے، آدمی طلب کو گیا، تشریف لائے، اور سر پر سایہ گستاخ تھا۔ راہب بولا: **انظروا اليه عمامۃ تتطلبه، ودیکو واران پر سایہ کئے ہے۔** قوم نے پہلے سے درخت کا سایہ گھیر لیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ نہ پائی دھوپ میں تشریف فرمائی، فوراً پیڑ کا سایہ حضور پر جھک آیا۔ راہب نے کہا: **انظروا الى فيبي الشجرة مال اليه**<sup>1</sup>۔ وہ دیکو پیڑ کا سایہ اکی طرف جھلتا ہے۔

شیخ محقق نے لمحات<sup>2</sup> میں فرمایا: امام ابن حجر عسقلانی اصحاب میں فرماتے ہیں: رجال ثقات اس حدیث کے راوی سب ثقہ ہیں۔

**روایت ششم:** ابو نعیم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، یہ ایک شب

<sup>1</sup> **الخصائص الکبیزی باب سفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم** مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱/۸۳، سنن جامع الترمذی کتاب المناقب حدیث

۳۶۲۰ دار الفکر بیروت ۳/۳۵۷ و ۳۵۶، المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب المغازی حدیث ۳۶۵۳۰ دار الكتب العلمیة بیروت ۷/۳۲۸

المستدرک علی الصحیحین کتاب التاریخ استغناء آدم علیہ السلام دار الفکر بیروت ۲/۲۱۵، دلائل النبوة (ابن نعیم) ذکر خروج رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم الی الشام عالم الكتب بیروت ۱/۵۳

<sup>2</sup> **الخصائص الکبیزی باب سفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم** مع ابی طالب الی الشام مرکز اہلسنت ہند ۱/۸۳

صحراۓ شام میں تھے، ہاتھ جن نے انہیں بعثت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر دی۔ صحیح راہب کے پاس جا کر قصہ بیان کیا، کہا:

جنوں نے تجھ سے سچ کہا، حرم سے ظاہر ہو گئے اور حرم کو بھرت فرمائیں گے، اور وہ تمام انبیاء سے بہتر ہیں۔	<b>قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير الانبياء<sup>۱</sup></b>
---	--

روایت ہشتم: ابن عساکر ابو نعیم خراطی بعض صحابہ کشمیں سے راوی: ہم ایک شب اپنے بت کے پاس تھے اور اسے ایک مقدمہ میں پیغام کیا تھا ناگاہ ہاتھ نے پکارا:-

ما انتم و طائش الاحکام	یا ایها النّاسُ ذُووا الاجْسَامِ
هذا نبی سید الانام	و مسند الحکم الی الاصنامِ
یصدع بالنور وبالاسلام	اعدل ذی حکم من الاحکامِ
مستعملن فی البلد الحرام <sup>۲</sup>	و یز جر الناس عن الاثامِ

(اے بت پرست لوگو! تم احکام کو بیان کرنے والے نہیں ہو، اپنا مقدمہ بتوں کے پاس لے جانے والے ہو۔ یہ نبی ہے جو کائنات کا سردار ہے، احکام کے فیصلے کرنے میں سب سے بڑا عادل ہے، نور اسلام کو کھول کر بیان کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، بلد حرام (مکہ مکرمہ) میں ظاہر ہونے والا ہے۔ ت)

ہم سب ڈر کر بت کو چھوڑ گئے اور اس شعر کے چرچے رہے یہاں تک کہ ہمیں خبر ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ظہور فرمادیں تشریف لائے، میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔

روایت ہشتم<sup>۳</sup>: خراطی وابن عساکر مرداں بن قیس دو سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، میں خدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا حضور

<sup>۱</sup> الخصائص الكبیری بحوالہ ابو نعیم باب ماسیع من الكھان الخ مرکز ہلسنت گجرات ہند ۱۰۷۱

<sup>۲</sup> تاریخ دمشق الكبير اخبار بنبوته الخ دار احیاء التراث العربي بيروت ۳/۲۵۷، دلائل النبوة لابن نعیم ذکر ماسیع من الجن

الخ عالم الكتب بيروت ۱/۳۲ و ۳/۳۲، الخصائص الكبیری باب ماسیع من الكھان والاصوات الخ مرکز ہلسنت گجرات ہند ۱۰۷۱

کے پاس کہانت کا ذکر تھا کہ بعثت اقدس سے کیونکر متغیر ہو گئی۔ میں نے عرض کی: یادِ رسول اللہ! ہمارے یہاں اس کا ایک واقعہ گزرا ہے میں حضور میں عرض کروں۔ ہماری ایک کنیز تھی خاصہ نام، کہ ہمارے علم میں ہر طرح نیک تھی، ایک دن آکر بولی: ایک گروہ دوس! تم مجھ میں کوئی بدی جانتے ہو؟ ہم نے کہا: بات کیا ہے؟ کہا: میں بکریاں چراتی تھی، دفعۃ ایک اندھیرے نے مجھے گھیر اور وہ حالت پائی جو عورت مرد سے پاتی ہے مجھے حمل کا مگان ہے، جب ولادت کے دن قریب آئے ایک عجیب الخلق لڑکا جنی جس کے کتے کے سے کان تھے وہ ہمیں غیب کی خبریں دیتا اور جو کچھ کہتا اس میں فرق نہ آتا، ایک دن لڑکوں میں کھیلتے کھیلتے کو دنے لگا اور تہبند پھینک دیا اور بلند آواز سے چلایا! اے خرابی! خدا کی قسم اس پہلا کے پیچھے گھوڑے ہیں ان میں خوبصورت خوبصورت نو عمر۔ یہ سن کر ہم سوار ہوئے، ایسا ہی پایا۔ سواروں کو بھگایا، غنیمت لوٹی۔ جب حضور کی بعثت ہوئی اس دن سے جو خبریں دیتا جھوٹ ہوتیں۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو یہ کیا حال ہے؟ بولا مجھے خبر نہیں کہ جو مجھ سے سچ کہتا تھا اب کیوں جھوٹ بولتا ہے، مجھے اس گھر میں تین دن بند کر دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، تین دن پیچھے کھولا، دیکھیں تو وہ ایک آگ کی چنگاری ہو رہا ہے۔ بولا: اے قوم دوس! حضرت السماء و خرج خیر الانبياء آسمان پر پہنچے مقرر ہوا اور بہترین انبياء نے ظہور فرمایا۔ ہم نے کہا: کہاں؟ کہاں؟ میں، اور میں مر نے کو ہوں، مجھے پہلا کی چوٹی پر دفن کر دینا، مجھ میں آگ بھڑک ائے گی، جب ایسا دیکھو باسمک اللهم<sup>۱</sup> (تیرے نام سے اے اللہ!) کہہ کر مجھے تین پتھر مارنا میں بھج جاؤں گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔

چند روز بعد حاجی لوگ آئے اور ظہور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خبر لائے۔

اگرچہ یہ قول اس جنی اور حقیقتہ اس جن کا تھا جس نے اسے خردی، مگر ممکن تھا کہ اسے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گنا جاتا، کہ حضور نے سن اور انکار نہ فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

روایت نہم<sup>۲</sup>: ابو نعیم حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث طویل میلاد جبیل میں راوی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جب حمل اقدس میں چھ مہینے گزرے ایک

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير اخبار بنبوته الخ دار احياء التراث العربي بيروت ۳/۱۵۲، الخصائص الكبير بحواله الخرائط وابن

عساکر باب حراسة السماء الخ مرکز اہلسنت گجرات ہند / ۱۱۲ و ۱۱۱

شخص نے سوتے میں مجھے ٹھوکر ماری اور کہا:

اے آمنہ! تمہارے حمل میں وہ ہے جو تمام جہان سے بہتر ہے۔ جب وہ پیدا ہوں ان کا نام محمد رکنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم۔	یاً امْنَةً إِنَّكَ قدْ حَمَلْتَ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ طَرَا فَأَذَا وَلَدْتَهُ فَسَمِيَّهُ مُحَمَّداً <sup>۱</sup>
---	--

روایت دہم:<sup>۲</sup> ابو نعیم حضرت بریدہ وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایام حمل مقدس میں خواب دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے:

تمہارے حمل میں بہترین عالم و سردار عالمیاں ہیں، جب پیدا ہوں ان کا نام احمد و محمد رکنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم۔	إِنَّكَ قدْ حَمَلْتَ بِخَيْرِ الْبَرِّيَّةِ وَسَيِّدِ الْعَالَمِينَ فَأَذَا وَلَدْتَهُ فَسَمِيَّهُ أَحْمَدًا وَمُحَمَّدًا <sup>۲</sup>
--	--

روایت یازدهم:<sup>۳</sup> ابن سعد و حسن بن جراح زید بن اسلم سے راوی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جانب حیمه رضوان اللہ تعالیٰ علیہا سے فرمایا: مجھ سے خواب میں کہا گیا:

عقلتیری تمہارے لڑکا ہو گا ان کا نام احمد رکنا، وہ تمام عالم کے سردار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم۔	إِنَّكَ سَتَلِدُّنَ غَلَامًا فَسَمِيَّهُ أَحْمَدًا وَهُوَ سَيِّدُ الْعَالَمِينَ <sup>۳</sup>
--	--

روایت دوازدہم:<sup>۴</sup> بزار علی حضرت امیر المومنین مولیٰ اسلامین علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی:

جب حق جل وعلانے اپنے رسول کو اذان	لماً أراد اللہ ان یعلم رسولہ
-----------------------------------	------------------------------

عہ: یہ حدیث اس حدیث مرتضوی کا تتمہ جو زیر ارشاد چبیل و چہارم گزری للہ اجدا شمارہ ہوئی ۱۲ امنہ۔

<sup>۱</sup> الخصائص الكبيرى بحواله ابى نعيم باب ما ظهر فى ليلة مولدہ الخ مکرہ بہارت ہند ۱/۲۸

<sup>۲</sup> دلائل النبوة لابى نعيم الفصل الحادى عشر عالم الكتب بيروت ۱/۰۴

<sup>۳</sup> الطبقات الكبيرى ذکر علامات النبوة الخ دار صادر بيروت ۱/۱۵۱

الاذان اتاه جبريل بداعية يقال له البراق (او ذكر  
جهاه) وتسكين جبريل ايها قال فركبها حتى  
انتهى الى الحجاب الذي يلي الرحمن وساق الحديث  
فيه ذكر تأذين الملك وتصديق الله تعالى عليه وسلم  
فقدمه قام اهل السموات فيهم ادم ونوح <sup>ع</sup>  
فيومئذ اكمل الله ليمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم  
الشرف على اهل السموات والارض -

تو جانتا ہے کہ یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تتمہ جیسا کہ دیکھ رہا ہے اور وہ ابو نعیم کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے اس طریق میں جس کو وہ لائے میں نہیں جانتا کہ امام قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے اس کو راوی حدیث سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیسے قرار دیا اور شہاب نے بھی نسیم میں اس کو برقرار رکھا۔ (امنہ)

عَنْهُ أَنْ تَعْلَمَ إِنْ هَذَا مِنْ تِبَامَ حَدِيثٍ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ  
تَعَالَى عَنْهُ كَيْا تَرِى وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ نَعِيمَ فِي طَرِيقِ اقْتِ  
فَلَا أَدْرِى كَيْفَ جَعَلَهُ الْإِمَامُ الْقَاضِيُّ فِي الشَّفَاءِ مِنْ قَوْلِ  
رَاوِي الْحَدِيثِ سَيِّدَنَا جَعْفَرَ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ  
أَقْرَهُ عَلَيْهِ الشَّهَابَ فِي النَّسِيمِ -

۲۰: حجَّ مُخْلوقٍ يَرَى، خالقِ جَلَّ عَلَى حَاجَّ سَمَّا كَسَّ وَهَا نَيْنِي غَایتٌ ظَهُورٍ سَعَیْتَ بَطْوَنَ مَيْنَ سَعَيْتَ تَارَكَ وَتَعَالَى۝۱۲ اَمْنَهُ

ع۱۳: شاید یہ معنی ہیں کہ عرشِ رحمٰن سے قریب ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اعلم ۱۲ امنہ۔

<sup>١</sup> البحر الزخار (مسند البزار)، حدیث ٥٠٨ مكتبة العلوم والحكم مدينة المنورة ٢٠١٣، كشف الاستمار عن زوايد الطزار بداء الاذان حدیث ٥٢ مؤسسة الرساله بیروت ٢٠١٧، الخصائص الكبیری باب ذکرہ فی الاذان فی عهد آدم مرکز علمیت گجرات الہمند ١٤٢٣

اسی کی مثل ابو نعیم نے بطریق امام محمد بن حنفیہ ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کی۔ اس کے اخیر میں ہے:

<p>پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا آگے بڑھئے، حضرت نے تمام اہل آسمان کی امامت فرمائی اور جمع تخلوقات الہی پر حضور کا شرف کامل ہوا۔</p>	<p>ثم قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقدم قام اهل السماء فتم له الشرف على سائر الخلق<sup>۱</sup></p>
---	--

والحمد لله رب العالمين (اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے کل جہانوں کا۔ت)

### نور الختام

رزقنا اللہ تعالیٰ حسنہ (اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمه عطا فرمائے۔ت)

الحمد للہ کہ کلام اپنے نتھی کو پہنچا، اور دس آیتوں سو حدیثوں کا وعدہ بہ نہایت آسانی بہت زیادہ ہو کر پورا ہوا۔ اس رسالہ میں قصداً استیعاب نہ ہونے پر خود یہی رسالہ گواہی دے گا کہ تیس سے زائد حدیثیں مفید مقصد ایسی میں گی جن کا شمار ان سو میں نہ کیا۔ تعلیقات تو اصلًا تعداد میں نہ آئیں۔ اور ہیکل اول میں بھی زیر آیات بہت حدیثیں ثبت مراد گزیریں، انہیں بھی حساب سے زیادہ رکھا، خصوصاً حدیث انجی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب امتوں سے بہتر اور افضل ہے (زیر آیت خامسہ) حدیث<sup>۲</sup> ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور کی امت سب امتوں سے بہتر اور حضور کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر، اور حضور کے صحابہ سب اصحاب سے بہتر، اور حضور کا شہر سب شہروں سے بہتر، و انبیاء شرف المکان بالملکین (مکان کا شرف تو ملکیں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ت) (زیر آیت اولی) حدیث<sup>۳</sup> علی مرتضیٰ، حدیث<sup>۴</sup> حبر الامّۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ صفائی سے مقتضی تک تمام انبیاء، علیہم الصلوٰۃ والسلام سے حضور کے بارے میں عہد لیا گیا (ہر دو زیر آیت<sup>۵</sup> سلطان المفسرین رضی اللہ تعالیٰ

<sup>۱</sup> الخصائص الکبری بحوالہ ابی نعیم عن محمد بن الحنفیہ باب خصوصیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء مرنز بلسنت ۱/۲۶۲، الدر المنشور

تحت الایہ ۷/ادار احیاء التراث العربی بیروت ۵/۱۹۳

عنة نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ قدر و عزت والا کسی کو نہ بنا یا۔ (زیر آیت سابعہ) حدیث عالم القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و ملائکہ سے افضل کیا۔ (زیر آیت ثالثہ) کہ چھ حدیثیں تو نصوص جلیلہ اور قابل ادخال جلوہ اول تا بش دوم تحسین۔ ان چھ کے یاد دلانے میں میری ایک غرض یہ بھی ہے کہ تا بش چہارم میں روایت ہفتم سے روایت یازدهم تک جو چھ حدیثیں قول ہاتھ و کاہن و منامات صادقة کی گزریں۔ اگر بعض حضرات ان پر راضی نہ ہوں تو ان چھ تصریحات جلیلہ کو ان چھ کا نعم البدل سمجھیں۔ اور سوا حادیث مندہ معتمدہ کا عدد ہر طرح کامل جانیں۔ وللہ الحمد۔

**تنبیہ:** فقیر غفران اللہ تعالیٰ لہ نے اس عجالہ میں کہ نہایت جاوزت پر مبنی تھا۔ اکثر حدیثیں کی نقل میں اختصار بلکہ بہت جگہ صرف محل استدلال پر اختصار کیا۔ موقع کثیرہ میں موضع احتجاج کے سواباقی حدیث کا فقط ترجیح لا یا۔ طرق و متابعت بلکہ کبھی شواہد مقابلاًۃ المعنی میں بھی ایک کا متن لکھا، بقیہ کا محض حوالہ دیا، اگرچہ وہ سب متون جدا جدا بالاستیعاب۔ محمد اللہ میرے پیش نظر ہوئے جہاں اتفاق سے کلمات علماء کی حاجت دیکھی وہاں تو غالباً مجرداً اشارہ یا نقل بالمعنى یا التقطاط ہی پر قناعت کی، ہاں تحریج حادیث میں اکثر استکشاف پر نظر رکھی۔ ناظر متخصص، بہت حدیثیں میں دیکھے گا کہ کتب علماء میں انہیں صرف ایک یاد و مخز جیں کی طرف نسبت فرمایا۔ اور فقیر نے چھ چھ سات سات نام جمع کئے۔ متون انسانید کی تفحیج و تحسین کی طرف جو تلوٹ ہے اس کا مأخذ بھی ائمہ شافعی کی تفصیص و تصریح ہے۔ لہذا مناسب کہ طالب سند و جو یا تفصیل کے لئے ان بحار اسفار مواج زخار کے اسلام شمار ہوں جو ہنگام تحریری رسالہ میرے پیش نظر موجود رہے، اور اپنے صرف خیز قعروں گہریز لہروں سے ان فرائد پردار ولائی شاہوار کے مأخذ ہوئے۔ الصحاح الستة لاسیماً الصحيحین وجامع الترمذی وموطاً مالک وسنن الدارمی ومشکوٰۃ المصاہبیح. الترغیب والترہیب للامام الحافظ عبد العظیم زکی الدین المنذری. الخصائص الکبیری لخاتم الحفاظ ابن الفضل السیوطی وہو کتاب لم یصنف فی بابہ مثله و اکثر التقطعت سنہ مع زیادات فی التیخاریج وغیرہا من تلقائے نظری او کتب اخیری فاللہ یجزیه الجزاء الاولی. کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم للامام الغهام شیخ الاسلام عیاض الیحصی. نسیم الریاض للعلامة الشہاب الخفاجی. الجامع الصغیر للامام السیوطی. التیسیر جامع الصغیر للعلامة الرؤوف المناوی. المواہب اللدنیہ و المنع المحدمیہ للامام العلامہ احمد بن محمد البصری القسطلانی. شرح المواہب للعلامة الشمس محمد بن الباقی الزرقانی. افضل القری لقراء امر القراءے

المعروف بشرح الہمزیہ للامام ابن حجر السکی. مفاتیح الغیب للامام الفخر محمد الرازی تکملتھا لتلیمیذہ الفاضل ع<sup>۱</sup> العلامہ الخوبی. معالم التنزیل للامام مجی السنہ البغوي. مدارک التنزیل للامام العلامۃ النسفي و ربما اخذت شيئاً او اشیاء عن المنهاج للامام العلام ابی ذکریاً النووی وارشد الساری للامام احمد القسطلانی والبیضاوی والجلالین والاحیاء والمدخل لمحمد العبدی والمدارج واسعۃ اللمعات للیوی الدبلوی و مطالع السرارات للعلامۃ الفاسی وشفاء السقام للامام المحقق الاجل السبکی والعلال المتنامیہ للعلامہ الشسس ابی الفرج ابن الجوزی ولم آخذ عنہا الا تخریجاً واحداً لحدیث ورسالة الی ولدہ والحلیۃ شرح المنیۃ للامام محمد بن محمد بن امیر الحاج الحلبی وشرح الشفاء للفاضل علی القاری رحمة الله تعالیٰ علیہم اجمعین الی غیر ذالک میا منح المولی سبیخنہ و تعالیٰ۔

پھر ان کتابوں سے بھی بعض باتیں ان کے غیر مظہر سے اخذ کیں کہ اگر ناظر مجرد و استقرائے مظان پر قناعت کرے ہرگز نہ پائے، لہذا مجسوس کو تثبت و امعان درکار والله العزیز الغفار۔

یہ رسالہ ششم شوال کو آغاز اور نوزدہم کو ختم۔ اور آج چشم ذی القعدہ روز جان افروز دو شنبہ کو وقت چاشت مسودہ سے بیضہ ہوا۔ والحمد لله رب العالمین۔ ان اوراق میں پہلی حدیث حضرت امیر المومنین مولیٰ علی مر تقشی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنی سے ماثور، اور سب میں پچھلی حدیث بھی اسی جناب ولایت آب سے مذکور۔ امید ہے کہ اس خاتم خلافت نبوت فاتح سلاسل ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ میں حضور پر نور، عفو غفور، ع<sup>۲</sup> جواد، ع<sup>۳</sup> اعلیٰ مافی النسیم والکشف ولی فیہ تأمل ۱۲ امنہ۔ اس بیان پر جو نسیم و کشف میں ہے اور مجھے اس میں تامل ہے۔

۱۲ امنہ۔ (ت)

ع<sup>۴</sup>: عفو و غفور حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں، کیا فی المواهب<sup>۱</sup> واستشهادله الزرقانی<sup>۲</sup> مافی التوراة ولكن یعفو و یغفر رواہ البخاری ۱۲ امنہ غفرلہ عفی عنہ (جیسا کہ مواہب میں ہے اس کے لیے زرقانی نے تورات کی اس عبارت سے استشهاد کیا،<sup>۱۰</sup> لیکن وہ معاف فرماتا اور در گزر فرماتا ہے۔<sup>۱۱</sup> اس کو بخاری نے روایت کیا۔ ت)

<sup>۱</sup> المواهب اللدنیہ المقصد الثانی الفصل الاول المکتب الاسلامی بیروت ۱۹/۲

<sup>۲</sup> المواهب اللدنیہ المقصد الثانی الفصل الاول المکتب دار المعرفة بیروت ۱۳۹/۳

کریم، روف، حیم، صفحہ زلات، مقلیل عثرات، صحیح حسنات، عظیم المہات، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد رسول رب العالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحیہ اجمعین کی بارگاہ بیکس پناہ میں شرف قبول پائے۔ اور حق تبارک و تعالیٰ کاتب و سائل واسطہ سوال و عامہ مومنین کو دارین میں اس سے اور فقیر کی تصانیف سے نفع پہنچائے۔

بے شک وہ اس کامالک اور اس پر قادر، بھلائی سب اس کے لئے ہے اور اس کے دست قدرت میں ہے، اور ہماری دعا ا اختتام اس پر ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پور دگار ہے سب جہانوں کا۔ درود وسلام نازل ہو رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ تجھے پاکی ہے اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پور دگار ہے تمام جہانوں کا۔ (ت)

انہ ولی ذلک والقدیر علیہ والخیر کله له وبیدیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين. والصلوة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب اليک والحمد لله رب العلمین۔

#### رسالہ

تجلی اليقین بآن نبینا سید المرسلین

ختم ہوا

الحمد لله  
بشارت جلیلہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>یعنی "نبوت گئی اب میرے بعد نبوت نہیں، ہاں بشارتیں باقی ہیں، اپنے خواب"۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اور مالک نے زیادہ کیا کہ نیک آدمی دیکھے یا اس کے لئے دیکھا جائے۔ احمد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا اور اس کی صحیح کی ام کرز سے کہ نبوت چلی گئی اور مبشرات باقی رہ گئے۔ اور طبرانی نے کہیر میں حدیفہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں باقی ہیں اچھا خواب کہ نیک آدمی دیکھے یا اس کیلئے دیکھا جائے۔ (ت)</p>	<p>لہم یبق من النبوة الا مبشرات الرؤیا الصالحة۔ رواہ البخاری<sup>۱</sup> عن ابی هریرۃ و زاد مالک یراہاً الرجل الصالح او تری له<sup>۲</sup> والاحمد وابن ماجة وابن خزیمہ وابن حبان وصححاه عن امر کرز ذہبت النبوة و بقیت المبشرات<sup>۳</sup> وللطبرانی فی الکبیر عن حدیفة بسند صحيح ذہبت النبوة فلانبوة بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحة یراہاً الرجل او تری له<sup>۴</sup>۔</p>
--	---

الحمد لله اس رسالہ کے زمانہ تصنیف میں مصنف نے خواب دیکھا کہ میں اپنی مسجد میں ہوں، چند وہابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت مطلقہ میں بحث

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب التعبیر بباب مبشرات قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۰۳۵/۲

<sup>۲</sup> مؤطلاً مامِ مالک ماجاء فی الرؤیا میر محمد کتب خانہ کراچی ص ۷۲۲

<sup>۳</sup> سنن ابن ماجہ ابواب التعبیر الرؤیا بباب الرؤیا الصالحة یراہاً المسلم الخ ایم سعید کمینی کراچی ص ۲۸۶، مسنود احمد بن حنبل

<sup>۴</sup> حدیث امر کرز رضی اللہ عنہا المكتب الاسلامی بیروت ۲/۳۸۱

<sup>۴</sup> معجم الکبیر حدیث ۳۰۵۱ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۳/۹۷۹

کرنے لگے۔ مصنف نے دلائل صریح سے انہیں ساکت کر دیا کہ خائب و خاسر چلے گئے۔ پھر مصنف نے اپنے مکان کا قصد کیا (یہ مسجد شارع عام پر واقع ہے، دروازہ سے نکل کر چند سیر ہیں ہیں کہ ان سے اتر کر سڑک ملتی ہے، اس کے جنوب کی طرف ہندوؤں کے مندر اور ان کا کنوں ہے) مصنف ابھی اس زینہ سے نہ اتراتھا کہ بائیں ہاتھ کی طرف سے ایک مادہ خُوك (خنزیر) اور اس کے ساتھ اس کا بچہ سڑک پر آتے دیکھا، جب زینہ مذکورہ کے قریب آئے اس بچہ نے مصنف پر حملہ کرنا چاہا، اس کی ماں نے اسے دوڑ کر روکا، اور غالباً اس کے منہ پر تپانچہ مارا۔ بہر حال اسے سختی کے ساتھ جھٹکا۔ اور ان وہابیہ کی طرف اشارہ کر کے بولی: دیکھتا نہیں کہ یہ تیرے۔ تیرے تو اس شخص سے جیتے نہیں تو اس پر کیا حملہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ سورہ یا اس کا بچہ دونوں اس ہندوکنوں کی طرف بھاگتے چلے گئے والحمد لله رب العلمین۔ اس خواب سے مصنف نے بعونہ تعالیٰ قبول رسالہ پر استدلال کیا، والحمد لله۔

الحمد لله

### بشرتِ عظیمی

اس سے کچھ پہلے مصنف نے خواب دیکھا کہ اپنے مکان کے پھاٹک کے آگے شارع عام پر کھڑا ہوں، اور بہت دبیر بلور کا ایک فانوس ہاتھ میں ہے، میں اسے روشن کرنا چاہتا ہوں، دو شخص داہنے بائیں کھڑے ہیں وہ پھونک مار کر بجھا دیتے ہیں، اتنے میں مسجد کی طرف سے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہوئے، واللہ العظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ دونوں مخالف ایسے غائب ہو گئے کہ معلوم نہیں آسمان کھا گیا یا زمین میں سما گئے۔ حضور پر نور ملجاے بیکساں مولاۓ دل و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سگ بارگاہ کے پاس تشریف لائے، اور اتنے قریب رونق افروز ہوئے کہ شاید ایک بالشت یا کم کا فاصلہ ہو، اور بکمال رحمت ارشاد فرمایا: پھونک مار، اللہ روشن کر دے گا۔ مصنف نے پھونکا، وہ نور عظیم پیدا ہوا کہ سارے فانوس اس سے بھر گیا۔ والحمد لله رب العالمین۔

## رسالہ

### شمولِ اسلام لا صولِ الرسولِ الکرام

(رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء اجداد کرام کا مسلمان ہونا)

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

مسئلہ ۳۲: از معکر بنگلور، مسجد جامع مدرسہ جامع العلوم مرسلہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد عبدالغفار صاحب قادری نسباً و طریقۃ، اعلیٰ مدرسہ مذکور ۲۱ شوال ۱۴۱۵ھ میں کہ سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ آدم علی نبینا و علیہ السلام تک مومن تھے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ عَلَيْهِ (بیان کرو اجرا پاؤ گے۔ ت)

الجواب:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

اے اللہ! تیرے لئے ظاہری و باطنی طور پر دائیٰ	اللهم لك الحمد الدائم الباطن الظاهر
--	-------------------------------------

عَلَيْهِ: اس سوال کے جواب میں "ہدایۃ الغوی فی اسلام آباء النبی" مصنفہ مولوی صاحب موصوف تھا، یہ اسی کی تصدیق میں لکھا گیا۔

<p>حمد ہے۔ درود وسلام نازل فرما مصطفیٰ کریم پر جو تیرا طیب و طاہر اور روشن نور ہیں جن کو تو نے ہر نجاست سے منزہ کیا ہے اور پاک محل میں ودیعت فرمایا ہے۔ اور سترے سے سترے کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ اول و آخر اس کے لئے پاکیزگی ہے، اور ان کی طیب، طاہر آل اور اصحاب پر۔ آمین!</p> <p style="text-align: right;">(ت)</p>	<p>صل وسلم علی المصطفیٰ الکریم نورک الطیب الطاہر الزاہر الذی نزہته من کل رجس اودعته فی کل مستوی طاہر و نقلته من طیب الی طیب فله الطیب الاول والآخر و علی الله و صحبه الا طائب الا طاہر امین۔</p>
---	--

اوّاً (پہلی دلیل): اللہ عزوجل فرماتا ہے:

<p>بیشک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے۔</p>	<p>وَعَبْدُهُمُؤْمِنٌ حَيْثُمُنْ مُّشْرِكٍ<sup>۱</sup>۔</p>
--	---

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>ہر قرن وطبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں ہوا جس میں پیدا ہوا۔ (اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>بعثت من خير قرون بنى ادم قرناً فقرنًا حتى كنت من القرن الذي كنت منه۔ رواه البخاري<sup>۲</sup> في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔</p>
--	--

حضرت امیر المومنین مولیٰ امسیلین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی حدیث صحیح میں ہے۔

<p>روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم سات مسلمان ضرور رہے ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زمین واہل زمین سب ہلاک ہو جاتے۔ (اس کو عبد الرزاق اور ابن المنذر نے شیخین کی شرط پر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>لم ينزل على وجه الدهر (الارض) سبعة مسلموٰن فصاعداً فلو لاذ ذلك هلكت الارض ومن عليها۔ اخرجه عبد الرزاق<sup>۳</sup> وابن المنذر بسنن صحيح على شرط الشیخین۔</p>
--	---

حضرت عالم القرآن حبر اللہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۲/۲

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب المناقب باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب کتب خانہ کراچی ۵۰۳/۱

<sup>۳</sup> شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بحوالہ عبد الرزاق وابن المنذر المقصد الاول دار المعرفة بیروت ۱/۷۳

حدیث میں ہے:

نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد زمین بھی سات بندگان خدا سے خالی نہ ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرماتا ہے۔	<b>مَأْخَلَتِ الْأَرْضِ مَنْ بَعْدَ نُوحَ مِنْ سَبْعَةِ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنِ اهْلِ الْأَرْضِ۔<sup>۱</sup></b>
--	---

جب صحیح حدیثوں سے ثابت کہ ہر قرن و طبقے میں روئے زمین پر لااقل سات مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں، ہر قرن میں خیار قرن سے، اور آیت قرآنیہ ناطق کہ کوئی کافراً گرچہ کیسا ہی شریف القوم بالا نسب ہو، کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہو سکتا تو واجب ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و امہات ہر قرن اور طبقہ میں انہیں بندگان صالح و مقبول سے ہوں ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و قرآن عظیم میں ارشاد حق جل و علا کے مخالف ہو گا۔

<b>اقول:</b> (میں کہتا ہوں۔ ت) کہ مراد یہ ہے کہ کافر شرعاً اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کو خیر القرن کہا جاسکے بالخصوص جبکہ مسلمان صالح موجود ہوں اگرچہ خیریت نسب ہی کے لحاظ سے کیوں نہ ہو۔ چنانچہ تو سمجھ ۱۲۔ (ت)	<b>اقول:</b> وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَسْتَأْهِلُ شَرْعًا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ خَيَّارِ الْقَرْنِ لَاسِيَّاً وَهُنَاكَ مُسْلِمُونَ صَالِحُونَ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْخَيْرِيَّةَ إِلَّا بِحَسْبِ النَّسْبِ فَأَفَهَمُمْ۔
--	--

یہ دلیل امام جلیل خاتم الحفاظ جلال المأمور والدين سیوطی قدس سرہ نے افادہ فرمائی فَاللَّهُ يَجزِيَ الْجَزَاءَ الْجَمِيلَ (اللہ تعالیٰ ان کو اجر جمیل عطا فرمائے۔ ت)

<b>دوسری دلیل:</b> اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر تو ناپاک ہی ہیں۔ (ت)	<b>ثانیاً:</b> قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "إِنَّ الْمُشْرِكَوْنَ نَجَّسُ"۔ <sup>۲</sup>
---	--

اور حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>1</sup> شرح الزرقانی على البواب اللدنیۃ بحوالہ احمد فی الزهد الخ المقصد الاول دار المعرفة بيروت ۱/۷۴، الحاوی للفتاوی بحوالہ احمد فی الزهد والخلال فی کرامات الاولیاء الخ دار الكتب العلمیة بيروت ۲/۲۱۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۹/۲۷

<p>ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک سترہی پتوں میں نقل فرماتا رہا صاف سترہ آراستہ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ (اس کو نعیم نے دلائل النبوة میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>لَمْ يَزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْقُلُنِي مِنْ أَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرَاحَمِ الطَّاهِرَةِ مَصْفِيَّ مَهْذَبَ لَا تَنْشَعِبُ شَعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا۔ رواه ابو نعيم في دلائل النبوة<sup>۱</sup> عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔</p>
--	---

اور ایک حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>میں ہمیشہ پاک مردوں کی پتوں سے پاک بیویوں کے بیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔</p>	<p>لَمْ اَزِلْ اَنْقَلْ مِنْ اَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى اَرَاحَمِ الطَّاهِرَاتِ۔<sup>۲</sup></p>
---	---

دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>ہمیشہ اللہ عزو جل مجھے کرم والی پتوں اور طہارت والے شکمتوں میں نقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔ اس کو ابن ابی عمرو العدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مند میں روایت کیا۔ ت)</p>	<p>لَمْ يَزِلَ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْاَصْلَابِ الْكَرِيَّةِ وَالْأَرَاحَمِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى اخْرَجْنِي مِنْ بَيْنِ ابْنِ ابْنِ ابْوِي۔ رواه ابن ابی عمرو العدنی<sup>۳</sup> مسنده رضي الله تعالى عنه۔</p>
---	--

تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء کرام طاہرین و امہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ بنض قرآن عظیم کسی کافر و کافرہ کے لیے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔ یہ دلیل امام اجل فخر<sup>۴</sup> لیکھمیں علامة الولی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے افادہ فرمائی اور امام جلال الدین سیوطی اور علامہ محقق سنوی اور علامہ تلسانی شارح شفاء و امام ابن حجر مکی و علامہ محمد زرقانی

<sup>۱</sup> الحاوی للفتاویٰ بحوالہ ابن نعیم مسائل الحنفاء في والدى المصطفى دار الكتب العلمية بيروت ۲/ ۲۱۱، دلائل النبوة لابن نعیم الفصل الثاني عالم الكتب بيروت الجزء الاول ص ۱۲۰

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی على المواقف البدنية بحوالہ ابن نعیم عن ابن عباس المقصد الاول دار المعرفة بيروت ۱/ ۷۸، الحاوی للفتاویٰ مسائل الحنفاء في والدى المصطفى دار الكتب العلمية بيروت ۲/ ۲۱۰

<sup>۳</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل واما شرف نسبه المطبعة الشركة الصحافية في البلاد العثمانية ۱/ ۲۳۳، تسمیہ الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض بحوالہ ابن ابی عمرو العدنی مرکز برکات رضا گرات ہند ۱/ ۲۳۵

شارح مواہب وغیرہم اکابر نے اس کی تائید و تصویب کی۔

<p>تیسری دلیل: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: بھروسا کر زبردست مہربان پر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہو اور تیرا کرو ٹیس بد لنا سجدہ کرنیوالوں میں۔</p>	<p><b>ثالثاً:</b> قال اللہ تبارک و تعالیٰ: "وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِلَّذِي يَرِيكُ حِجَبَنَ تَقْوَمُهُ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ" <sup>۱</sup>۔</p>
--	--

امام رازی فرماتے ہیں: معنی آیت یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا<sup>۲</sup> تو آیت اس پر دلیل ہے کہ سب آبائے کرام مسلمین تھے۔ امام سیوطی و امام ابن حجر و علامہ زرقانی<sup>۳</sup> وغیرہم اکابر نے اس کی تقریر و تائید و تأکید و تشیید فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے موید روایت ابو نعیم<sup>۴</sup> کے یہاں آئی:

<p>علماء نے تصریح کی ہے کہ قرآن پاک کی ہر وجہ سے استدلال کیا جائے گا اور کوئی ایک تاویل دوسرا تاویل کی نفی نہیں کرتی، اس کے لیے علماء کا عمل گواہ ہے کہ وہ پرانے اور نئے زمانے میں آیات مبارکہ کی کئی تاویلات میں سے ایک سے استدلال کرتے رہے ہیں۔ (ت)</p> <p>چوتھی دلیل: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: البتہ عنقریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔</p>	<p>وقد صرحا ان القرآن محتاج به على جميع وجوهه و لا ينفي تأویل تأویلا ويشهد له عمل العلماء في الاحتجاج بالآیات على احد التأویلات تقديمها وحديثا۔</p> <p><b>رابعاً:</b> قال المولى سبحانه وتعالى "وَسَوْفَ يُعَطِّيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَعِي" <sup>۵</sup></p>
---	---

الله اکبر! بارگاہ عزت میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وجہت و محبویت کہ امت کے حق میں تورب العزت جل و علا نے فرمایا ہی تھا:

<sup>1</sup> القرآن الكريمه ۲۱۷/۲۲

<sup>2</sup> مفاتیح الغیب تحت آیۃ ۲۲/۲۱ ۲۳/۲۱

<sup>3</sup> شرح الزرقانی علی المواہب الالدنیۃ المقصد الاول باب وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفہ بیروت ۱/۲۷

<sup>4</sup> شرح الزرقانی بحوالہ ابی نعیم المقصد الاول باب وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفہ بیروت ۱/۲۷، دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الثانی عالم الكتب بیروت الجزء الاول ص ۱۰۲

<sup>5</sup> القرآن الكريمه ۹۳/۵

<p>قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے باب میں راضی کر دینگے اور تیرا دل برانہ کریں گے۔ (اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>سنرضیلک فی امتك ولا نسؤك رواه مسلم<sup>۱</sup> فی صحیحه۔</p>
--	---

مگر اس عطاوارضا مرتبہ یہاں تک پہنچا کہ صحیح حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوطالب کی نسبت فرمایا:

<p>میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو کھینچ کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا (اس کو امام بخاری و امام مسلم نے ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما<sup>۲</sup> سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>و جدته في غبرات من النار فاخرجته إلى ضحاص رواه البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهمما<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

دوسری روایت صحیح میں فرمایا:

<p>اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا (اس کو بخاری نے انہی سے روایت کیا ہے)</p>	<p>ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار۔ رواه ايضاً رضي الله تعالى عنه،</p>
---	---

دوسری حدیث صحیح میں فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب دعا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامته الخ قدری کتب خانہ کراچی ۱/۱۳۳

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب المناقب قصہ ابی طالب قدری کتب خانہ کراچی ۱/۵۳۸، صحیح البخاری کتاب الادب کنیۃ المشروک قدری کتب خانہ کراچی ۱/۷۴

صحیح مسلم باب شفاعة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا بی طالب الخ قدری کتب خانہ کراچی ۱/۱۵، مسند احمد بن حنبل

عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۰۶

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب شفاعة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا بی طالب قدری کتب خانہ کراچی ۱/۱۵، صحیح البخاری کتاب

المناقب باب قصة ابی طالب قدری کتب خانہ کراچی ۱/۵۳۸، صحیح البخاری کتاب الادب باب کنیۃ المشروک قدری کتب خانہ کراچی ۱/۹۷

دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب پر ہے (امام بخاری و مسلم نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ ت)	<b>اہون اہل النار عذاباً رواية<sup>۱</sup> عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔</b>
---	--

اور یہ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو قرب والدین کریمین کو ہے، ابو طالب کو اس سے کیا نسبت؟ پھر ان کا اذر بھی واضح کہ نہ انھیں دعوت پہنچی نہ انھوں نے زمانہ اسلام پایا، تو اگر معاذ اللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ضرور تھا کہ ان پر ابو طالب سے بھی کم عذاب ہوتا اور وہی سب سے ہلکے عذاب میں ہوتے۔ یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے تو واجب ہوا کہ والدین کریمین اہل جنت ہیں، وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اس دلیل کی طرف بھی امام خاتم الحفاظ (جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے اشارہ فرمایا:

**اقول: وبالله التوفيق** (میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ت) تقریر دلیل یہ ہے کہ صادق و مصدق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل نار میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب پر ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ابو طالب پر یہ تخفیف کس وجہ سے ہے؟ آیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاری و غمخواری و پاسداری و خدمت گزاری کے باعث یا اس لئے کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے محبت طبعی تھی، حضور کو ان کی رعایت منظور تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

آدمی کا چاہا اس کے باپ کے بجائے ہوتا ہے اس کو امام ترمذی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جبکہ طبرانی کبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ (ت)	<b>عَمَ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ رَوَاهُ التَّرمذِيُّ<sup>۲</sup> بِسَنَدِ حَسْنٍ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْ عَلَى وَالطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ</b>
--	---

شق اول باطل ہے، قال اللہ عزوجل (اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا):

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب اہون اہل النار عذاباً قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۱۵

<sup>۲</sup> جامع الترمذی ابواب المناقب ابی الفضل عم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین کپنی دبلی ۲۱۷/۲، المعجم الكبير حدیث ۱۰۶۹۸

اور جو کچھ انہوں نے کام کئے تھے ہم نے قصد فرمایا کہ انھیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ (ت)	"وَقَيْمَنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا إِمَّا نَعْمَلِ فَجَعَلْنَاهُ بَآءَ عَمَّنْ نَعْمَلَ رَأً" <sup>۱</sup>
--	--

صف ارشاد ہوتا ہے کہ کافر کے سب عمل بر باد مغض ہیں، لاجرم شق ثانی ہی صحیح ہے اور یہی ان احادیث صحیحہ مذکورہ سے مستفادہ ابوطالب کے عمل کی حقیقت تو یہاں تک تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراپا آگ میں غرق پایا، عمل نے نفع دیا یہ تو پہلے ہی کام آتا، پھر حضور کا ارشاد کہ میں نے اسے ٹخنوں تک کی آگ میں کھینچ لیا، میں نہ ہوتا تو جہنم کے طبقہ زیریں میں ہوتا <sup>۲</sup>۔

لاجرم یہ تخفیف صرف محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاس خاطر اور حضور کا اکرام ظاہر و باہر ہے اور بالبدایت واضح کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر ابوطالب کا عذاب ہر گز اتنا گراں نہیں ہو سکتا جس قدر معاذ اللہ والدین کریمین کا کالم، نہ ان سے تخفیف میں حضور کی آنکھوں کی وہ تھنڈک جو حضرات والدین کے بارے میں، نہ ان کی رعایت میں حضور کا وہ اعزاز واکرام جو حضرات والدین کے چھکارے میں، تو اگر عیاذ باللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ہر طرح سے وہی اس رعایت و عنایت کے زیادہ مستحق تھے، و بوجہ آخر فرض بیکھنے کہ یہ ابوطالب کے حق پرورش و خدمت ہی کامعاوضہ ہے تو پھر کون سی پرورش جزیت کے برابر ہو سکتی ہے، کون سی خدمت حمل و وضع کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا کبھی کبھی پرورش کنندہ یا خدمت گزار کا حق، حق والدین کے برابر ہو سکتا ہے جسے رب العزت نے اپنے حق عظیم کے ساتھ شمار فرمایا:

حق مان میر اور اپنے والدین کا۔	"آن اشْكُنْدُنْ وَلَوَالِدَيْكَ" <sup>۳</sup>
--------------------------------	---

پھر ابوطالب نے جہاں برسوں خدمت کی، چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں، ہر چند حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، نہ پڑھنا خانہ پڑھا، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ عمر بھر مجرمات دیکھنا، احوال پر علم تمام رکھنا اور زیادہ حجۃ اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا۔ بخلاف ابوین کریمین کہ نہ انھیں دعوت دی گئی نہ انکار کیا، تو ہر وجہ، ہر لحاظ، ہر حیثیت سے یقیناً انھیں کا پلہ بڑھا ہوا ہے، تو ابوطالب کا عذاب سب سے بڑا ہو نا یو نہی متصور کہ ابوین کریمین اہل نار ہی سے نہ ہوں۔ وہو المقصود والحمد لله العلي الودود اورو ہی مقصود ہے، (اور تمام تعریفیں بُلدی و محبت

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۵/۲۳

<sup>2</sup> صحیح البخاری کتاب مناقب انصار قصہ ابی طالب ۱/۵۸۴ و صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۵، مسنند احمد بن حنبل عن العباس

المکتب الاسلامی بیروت ۱/۷۰۲ و ۱/۷۰۱

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۳۱/۱۳

والے اللہ کے لئے ہیں۔ ت)

<p>پانچویں دلیل: اقول: (میں کہتا ہوں کہ) مولیٰ عزوجل نے فرمایا: برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے، اور جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔</p>	<p><b>خامسًا: اقول: قال البوّلي عزو علا: "لَأَيْسَتُوْئِي أَصْحَابَ التَّابِرَ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَارِزُونَ" ۱</b></p>
---	--

حدیث میں ہے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولادِ اجاد حضرت عبد المطلب سے ایک پاک طیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا، جب پاس آئیں، فرمایا:

<p>اپنے گھر سے کہاں گئی تھیں؟</p>	<p>ما آخر جک من بیتك؟</p>
-----------------------------------	---------------------------

عرض کی:

<p>یہ جو ایک میت ہو گئی تھی میں ان کے یہاں دعائے رحمت اور تعزیت کرنے گئی تھی۔</p>	<p>آتیت اهل هذا البيت فترجمت اليهم وعزیتهم بیتیتم۔</p>
---	--

فرمایا:

<p>شاید تو ان کے ساتھ قبرستان تک گئی۔</p>	<p>لعلك بلغت معهم الکذرى۔</p>
---	-------------------------------

عرض کی:

<p>خدائی پناہ میں وہاں جاتی حالانکہ حضور سے سن چکی تھی جو کچھ اس بات میں ارشاد کیا۔</p>	<p>معاذ الله ان اکون بلغتها و قد سمعتک تذکر فی ذلك ماتذکر۔</p>
---	--

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>اگر تو ان کے ساتھ وہاں جاتی تو جنت نہ دیکھتی جب تک عبد المطلب نہ دیکھیں۔ اس کو ابو داؤد اورنسائی نے روایت کیا ہے، اور لفظ نسائی کے ہیں سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، امام ابو داؤد</p>	<p>لو بلغتها معهم مارایت الجنۃ حتى يراها جدابیک۔ رواه ابو داؤد<sup>2</sup> والننسائی۔ واللفظ له عن عبد الله بن عمر و بن العاص رضي الله تعالى عنهمَا، أما ابو داؤد</p>
--	---

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۰/۵۹

<sup>2</sup> سنن النسائی کتاب الجنائز باب النعی نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱/۲۶۵ و ۲۶۶ و سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب التعزیۃ آفتاب

علم پر لیں لاہور ۸۹/۲

<p>نے ازراہ ادب بطور کنایہ اس میں تشدید کا ذکر کیا لیکن امام ابو عبدالرحمن نے کھل کر علم کو پہنچایا اور حدیث کا حق ادا کیا۔ ہر ایک کے لئے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ (ت)</p>	<p>فتادب و کٹیٰ و قال فذ کر تشیدی دافی ذلک واما ابو عبدالرحمن فاذیٰ لتبیلیغ العلم واداء الحدیث علی وجہہ لکل وجہہ هو مولیہا۔</p>
--	---

یہ تو حدیث کا ارشاد ہے، اب ذرا عقائدِ اہلسنت پیش نظر رکھتے ہوئے نگاہ انصاف درکار، عورتوں کا قبرستان جانا غایت درجہ اگر ہے تو معصیت ہے، اور ہر گز کوئی معصیت مسلمان کو جنت سے محروم اور کافر کے برابر نہیں کر سکتی، اہلسنت کے نزدیک مسلمان کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے اگرچہ معاذ اللہ موانع کے بعد، اور کافر کا جنت میں جانا محل شرعی کہ ابد الآباد تک کبھی ممکن ہی نہیں، اور نصوص کو حتی الامکان ظاہر پر محمول کرنا واجب، اور بے ضرورت تاویل ناجائز، اور عصمت نوع بشر میں خاصہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناٰہ ہے، ان کے غیر سے اگرچہ کیسا ہی عظیم الدرجات ہو، وقوعِ گناہ ممکن و متصور۔ یہ چاروں باتیں عقائدِ اہل سنت میں ثابت و مقرر، اب اگر بھم مقدمہ رابعہ مقابر تک بلوع فرض کیجئے تو بھم مقدمہ ثالثہ جزاً کا ترتیب واجب، اور اس تقدیر پر کہ حضرت عبدالمطلب کو معاذ اللہ غیر مسلم کہئے بھم مقدمہ متین اولین و نیز بھم آیت کریمہ محل و باطل، تو واجب ہوا کہ حضرت عبدالمطلب مسلمان والہ جنت ہوں اگرچہ مثل صدیق و فاروق و عثمان و علی و زمرہ او صدیقہ و غیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سابقین اولین میں نہ ہوں۔ اب مخفی حدیث بلا تکلف اور بے حاجت تاویل و تصرف عقائدِ اہلسنت سے مطابق ہے یعنی اگر یہ امر تم سے واقع ہوتا تو سابقین اولین کے ساتھ جنت میں جانانہ ملتا بلکہ اس وقت جبکہ عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے ہکذا یعنی التحقیق واللہ تعالیٰ ولی التوفیق (یونہی تحقیق چاہئے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق کامالک ہے۔ ت)

<p>چھٹی دلیل: اقول: (میں کہتا ہوں کہ) ہمارے پروردگار اعز و اعلیٰ عزو علا نے فرمایا، عزت تو اللہ و رسول اور مسلمان ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو علم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو!</p>	<p>سادسًا، اقول: قال ربنا الا عز لا على عزو علا: "وَإِنَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَ الْمُنْفَقِقِينَ لَا يَعْمَلُونَ" <sup>۱</sup>۔ وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا</p>
---	---

ہم نے بنا یا تھیں ایک نرمادہ سے اور کیا تھیں قومیں اور قبیلے کہ آپس میں ایک دوسرا کو پیچاؤ بے شک اللہ کے نزدیک تمہارا زیاد عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پر ہیز کار ہے۔

حَلْقَتُكُمْ مِنْ ذَكْرِهِ أَنْثى وَجَعْلَتُكُمْ شُعُورًا وَقَبَّا إِلَيْكُمْ رَفْوًا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَشْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ<sup>①</sup>۔

ان آیات کریمہ میں رب العزت جل و علانے عزت و کرم کو مسلمانوں میں منحصر فرمادیا اور کافر کو کتنا ہی قوم دار ہو، لیم و ذلیل ٹھہرایا اور کسی لئیم و ذلیل کی اولاد سے ہونا کسی عزیزو کریم کے لیے باعث مدح نہیں والہذا کافر باپ دادوں کے انتساب سے فخر کرنا حرام ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>جو شخص عزت و کرامت چاہئے کو اپنی نوپشت کافر کا ذکر کرے کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا یہاں ہوں ان کا دسوال جنہم میں یہ شخص ہو۔ (اس کو امام احمد نے ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سنن کے ساتھ روایت فرمایا۔ ت)</p>	<p>من انتسب الى التسعة اباء كفار يريد بهم عزاً و كرماً كان عاشرهم في النار۔ رواه احمد<sup>۲</sup> عن ابي ريحانه رضي الله تعالى عنه بسنده صحيح۔</p>
---	--

اور احادیث کثیرہ مشہورہ سے ثابت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان اور مقام رجز و مدرج میں بارہا اپنے آباء کرام و امہات کرام کا ذکر فرمایا۔

روز حسین جب ارادہ الہی سے تھوڑی دیر کے لئے کفار نے غلبہ پایا محدود بندے رکاب رسالت میں باقی رہے، اللہ غالب کے رسول غالب پر شان جلال طاری تھی:

<p>میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں پیٹا عبد المطلب کا۔ (اس کو احمد، بخاری، مسلم اورنسائی نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>اَنَّ النَّبِيَّ لَا كَذَبَ اَنَا اَبْنَ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ۔ رواه احمد والبخاري ومسلم<sup>۳</sup> والنمسائي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۱۳ / ۳۹

<sup>۲</sup> مسنداً حبیب بن حنبل حدیث ابی ریحانہ رضی اللہ عنہ المكتب الاسلامی بيروت ۱۳۲ / ۳

<sup>۳</sup> صحیح البخاری کتاب الجهاد باب من قاد دابة غيرة في الحرب تدریی کتب خانہ کراچی ۱/۲۰۰، صحیح مسلم کتاب الجهاد بباب غزوة حنین تدریی کتب خانہ کراچی ۲/۱۰۰

حضور قصد فرمار ہے ہیں کہ تھا ان ہزاروں کے مجمع پر حملہ فرمائیں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب و حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بغلہ شریف کی لگام مضبوط کھینچ ہوئے ہیں کہ بڑھنے جائے اور حضور فرمار ہے ہیں:

<p>میں سچانی ہوں، اللہ کا پیرا، عبدالمطلب کی آنکھ کاتارا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p> <p>(اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو نعیم نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>انَ النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ انَ أَبْنَ عبدِ الْمَطَّلِبِ رواه ابو بکر بن ابی شیبۃ<sup>۱</sup> (وابونعیم عنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ)</p>
---	---

امیر المؤمنین عمر رگام روکے ہیں اور حضرت عباس دُمچی تھا میں، اور حضور فرمار ہے ہیں،

<p>اسے بڑھنے دو، میں ہوں نبی صریح حق پر، میں ہوں عبدالمطلب کا پسر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (اس کو ابن عساکر نے مصعب بن شیبہ سے ان کے باپ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>قَدْ مَا هَا، انَ النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ، انَ أَبْنَ عبدِ الْمَطَّلِبِ، رواه ابن عساکر<sup>۲</sup> عن مصعب بن شیبۃ عن ابیه رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

جب کافرنہایت قریب آگئے، بغلہ طیبہ نے نزول اجلال فرمایا، اس وقت بھی یہی فرماتے تھے،

<p>میں ہوں نبی برحق سچا، میں ہوں عبدالمطلب کا پیٹا، اللہی! اپنی مدد نازل فرم۔ (اس کو ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے سیدنا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>انَ النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ، انَ أَبْنَ عبدِ الْمَطَّلِبِ اللَّهُمَّ انْزِلْ نَصْرًاكَ رواه ابن ابی شیبۃ<sup>۳</sup> وابن ابی جریر عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	--

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شیبہ کتاب السید حدیث ۳۳۵۷۳ دارالعلیمیہ بیروت ۶/۵۳۵، کنزالعمال بحوالہ ش وابی نعیم حدیث ۷/۳۰۲۰

مؤسسة الرسالة بیروت ۱۰/۵۳۰

<sup>۲</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۲۸۵۸ شیبہ بن عثمان دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۵/۲۷۲

<sup>۳</sup> کنزالعمال بحوالہ ش وابن جریر حدیث ۳۰۲۰۶ مؤسسه الرسالة بیروت ۱۰/۵۳۱

پھر ایک مشت خاک دست پاک میں لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا:

شہات الوجہ<sup>۱</sup> - پھرے بگڑ گئے۔

وہ خاک ان میزاروں کافروں پر ایک ایک کی آنکھ میں پھینکی اور سب کے منہ پھر گئے، ان میں جو مشرف بالسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں جس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہماری طرف پھینکیں ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے آسمان تک تابنے کی دیوار قائم کر دی گئی اور اس پر سے پہلا ہم پر لٹھکائے گئے، سوائے بھاگنے کے کچھ بن نہ آئی،

الله تعالیٰ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے حق میں پر جو مدد کئے ہوؤں کے سردار ہیں اور آپ کی آل پر۔ (ت)	وصلی اللہ تعالیٰ علی الحق المبین سید المنصورین وَاللَّهُو بَارِكُ وَسَلَمَ۔
--	--

اسی غزوہ کے رجز میں ارشاد فرمایا:

میں بنی سلیم سے ان چند خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتکہ تھا۔ (اس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور طبرانی مجمجم کیا) میں سبابہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)	اَنَا اَبْنَ الْعَوَاتِكَ مِنْ بْنَى سَلِيْمٍ۔ رواہ سعید بن منصور <sup>۲</sup> فی سننہ والطبرانی فی الكبیر عن سبابۃ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	--

ایک حدیث میں ہے، بعض غزوتوں میں فرمایا:

میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں عبدالمطلب کا بیٹا، میں ہوں ان یہیوں کا بیٹا جن کا نام عاتکہ تھا (اس کو ابن عساکر نے حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)	اَنَّ النَّبِيًّا لَا كَذَبٌ، اَنَّ اَبْنَ عَبْدِ الْمَطَّلِبٍ، اَنَّ اَبْنَ الْعَوَاتِكَ رواہ ابن عساکر <sup>۳</sup> عن قتادة۔
---	---

<sup>1</sup> کنز العمال حدیث ۳۰۲۱۳ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۰/۵۲۱، جامع البیان (تفسیر ابن جریر) تحت الآية لقد نصركم الله الخ دار احیاء

التراث العربي بیروت ۱۰/۱۱۸

<sup>2</sup> کنز العمال بحوالہ ص وطب حدیث ۳۱۸۷۴ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۱/۳۰۲، المعجم الكبير بحوالہ ص و طب حدیث ۶۷۲۳ المکتبة

الفیصلیہ بیروت ۷/۱۶۹

<sup>3</sup> تاریخ دمشق الكبير باب معرفة امه وجدا ته الخ دار احیاء التراث العربي بیروت ۳/۰۷

علامہ منادی صاحب تیسیر و امام مجدد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس و جوہری صاحب صحاح و صنعتی وغیرہم نے کہا: بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدات میں نوبییوں کا نام عاتکہ تھا<sup>۱</sup>۔ ابن بری نے کہا: وہ بارہ بیباں عاتکہ نام کی تھیں، تین سلمیات یعنی قبلہ بنی سلیم سے، اور دو قرشیات، دو عدوا نیات اور ایک ایک کنانیہ، اسدیہ، ہذلیہ، قضاعیہ، ازدیہ، ذکرہ فی تاج العروس<sup>۲</sup> (اسے تاج العروس میں ذکر کیا گیا۔ت)

ابو عبد اللہ عدو کی نے کہا: وہ بیباں چودہ<sup>۳</sup> تھیں، تین قرشیات، چار سلمیات، دو عدوا نیات اور ایک ایک ہذلیہ، قضاعیہ، ازدیہ، شفیقیہ، اسدیہ بنی اسد خزیرہ سے۔ رواہ الامام الجلال السیوطی فی الجامع الکبیر (اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جامع بکیر میں روایت کیا ہے۔ت) اور ظاہر ہے کہ قلیل نافی کثیر نہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقام مدح و پیان فضائل کریمہ میں اکیس<sup>۴</sup> پشت تک اپنا نسب نامہ ارشاد کر کے فرمایا: میں سب سے نسب میں افضل، باپ میں افضل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بھک نصوص مذکورہ ضرور ہے کہ حضور کے آباء و امہات مسلمین و مسلمات ہوں۔ وَلِلّهِ الْحَمْدُ (اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے حمد ہے۔ت)

سابعاً: قال اللہ سبخته وتعالیٰ: "إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ <sup>۵</sup> ساتویں دلیل: اللہ سبختہ وتعالیٰ نے فرمایا: اے نوح! یہ کنغان تیرے اہل سے نہیں یہ تو نار استی کے کام والا ہے۔(ت)	إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْنَ صَالِحٍ <sup>۶</sup> ۔
---	--

آیہ کریمہ نے مسلم و کافر کا نسب قطع فرمادیا وہذا ایک کاتر کہ دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

نحن بنو النضر بن کنانة لاننتفي من ابینا۔ رواہ هم نظر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے (اسکو	
--	--

<sup>۱</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث انا ابن العواتک مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۲/۲۷، الصحاح باب الكاف فصل العین تحت لفظ عاتکہ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲/۱۳۱

<sup>۲</sup> تاج العروس بباب الكاف فصل العین دار احیاء التراث العربي بیروت ۷/۱۵۹

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۱/۳۶

ابو داؤد طیالسی و ابن سعد والامام احمد <sup>1</sup> و ابن ماجہ والحرارث والبأوردی سسویہ وابن قانع والطبرانی فی الکبیر وابو نعیم والضیاء المقدسی فی صحيح المختار عن الاشعث بن قیس الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)	ابو داؤد الطیالسی و ابن سعد والامام احمد <sup>1</sup> و ابن ماجہ والحرارث والبأوردی سسویہ وابن قانع والطبرانی فی الکبیر وابو نعیم والضیاء المقدسی فی صحيح المختار عن الاشعث بن قیس الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	--

کفار سے نسب بحکم الحکم المکین منقطع ہے، پھر معاذ اللہ جدائہ کرنے کا کیا محل ہوتا۔

آٹھویں اور نویں دلیل: میں کہتا ہوں علی اعلیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: پیش کتب سب کافر کتابی اور مشرک جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ سارے جہان سے بدتر ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اپنے کام کئے وہ سارے جہان سے بہتر ہیں۔	<b>ثامناً وتاسعاً.</b> اقول: قال العلی الاعلی تبارک و تعالیٰ "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ هُمْ خَلِيلُهُمْ فِيهَا إِلَّا هُمْ شَرُّ الْبَرِّيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ إِلَيْهِمْ يُنَزَّلُ الْبَرِّيَّةُ" ۔ <sup>2</sup>
---	--

اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللہ عزوجل نے زید بن عمرو کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا کہ وہ دین ابراہیم علیہ الصلوٰۃ و	غفران اللہ عزوجل لزید بن عمرو و رحیمه فانہ مات علی دین ابراہیم۔
--	---

<sup>1</sup> کنز العمال بحوالہ الحارث والبأوردی وسمویہ وغیرہ حدیث ۳۵۵۱۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۳۴۲، سنن ابن ماجہ ابواب الحدود باب من نفی رجلا من قبیله ایچ ایم سعید کیمنی کراچی ص ۱۹۱، مسنند احمد بن حنبل حدیث الاشعث بن قیس الکندی المکتب الاسلامی بیروت ۲/۱۱۲۱۲، المجمع الكبير حدیث ۲۱۹۱ و ۲۱۹۰ المکتب الفیصلیہ بیروت ۲/۲۸۶، مسنند ابی داؤد الطیالسی احادیث الاشعث بن قیس حدیث ۱۰۳۹ ادار المعرفة بیروت الجز الرابع ص ۱۳۱، الطبقات الکبڑی لابن سعد ذکر من انتی ایه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار صادر بیروت ۱۰/۲۳، دلائل النبوة للبیهقی باب ذکر شرف اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المکتب العلمیہ بیروت ۱/۷۳

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۷، ۲۹۸

السلام پر تھے۔ (اس کو بزار اور طبرانی نے سیدنا سعید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)	رواہ البزار والطبرانی <sup>۱</sup> عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
---	--

اور ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُنکی نسبت فرمایا:

میں نے اسے جنت میں ناز کے ساتھ دامن کشان دیکھا (اس کو ابن سعد اور فاہمی نے حضرت عامر بن رقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	رأيته في الجنة يسحب ذيولاً۔ رواه ابن سعد <sup>۲</sup> و الفاكهي عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهمـا۔
---	---

اور یہیقی وابن عساکر کی حدیث میں بطریق مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہنہ رواية البیہقی (اور یہ یہیقی کی روایت ہے):

میں ہوں محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں کیا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم سے لے کر اپنے والدین تک، تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔	اناً محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانة بن خزیمہ بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ما افترق الناس فرقتين الا جعلنى الله في خير هما فخرجت من بين ابويين فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادمر حتى انتهيت الى ابى واهى فانا خيركم نفسا وخيركم ابا <sup>۳</sup> وفي لفظ فانا خيركم
--	--

<sup>۱</sup> الطبقات الکبڑی لابن سعد ترجمہ سعید بن زید دار صادر بیروت ۳۸۱/۳

<sup>۲</sup> فتح الباری بحوالہ ابن سعد والفاکھی کتاب المناقب حدیث زید بن عمرو بن نفیل مصطفیٰ البانی مصر ۸/۷۴

<sup>۳</sup> دلائل النبوة بباب ذکر اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۲۹۷، تاریخ دمشق الكبير باب ذکر

معرفۃ نسبہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۳/۲۹۸

نسیاً و خیر کم ابغاً<sup>۱</sup>۔

اس حدیث میں اول تو نفی عام فرمائی کہ عہد جاہلیت کی کسی بات نے نسب اقدس میں کبھی کوئی راہ نہ پائی، یہ خود دلیل کافی ہے اور امر جاہلیت کو خصوص زنا پر حمل کرنا ایک تو تخصیص بلا مخصوص، دوسرے لغو کہ نفی زنا صراحتاً اس کے متصل مذکور۔

ٹھیکاً ارشاد ہوتا ہے کہ میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔ ان سب میں حضرت سعید بن زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی طبقاً داخل قول لازم کہ حضرت والدماجد حضرت زید سے افضل ہوں اور یہ بحکم آیت ہے اسلام ناممکن۔

دوسری دلیل: میں کہتا ہوں، اللہ عزوجل نے فرمایا: خدا عاشراً، اقول: قال الله عزوجل: "أَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ خَرَاسَكُمْ مُّلْكًا" <sup>۲</sup>
---

آیہ کریمہ شاہد کہ رب العزة عزوجل علاس سے زیادہ معزز و محترم موضع، وضع رسالت کے لیے اختیاب فرماتا ہے و الہذا کبھی کم قوموں رذیلوں میں رسالت نہ رکھی، پھر کفر و شرک سے زیادہ رذیل کیا شے ہوگی؟ وہ کیونکہ اس قبل کہ اللہ عزوجل نور رسالت اس میں ودیعت رکھے۔ کفار محل غضب و لعنت ہیں اور نور رسالت کے وضع کو محل رضا و رحمت درکار۔

حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا، گریہ وزاری فرمادی تھیں، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا ام المومنین! کیا آپ یہ گمان رکھتی ہیں کہ رب العزت جل و علانے جہنم کی ایک چکاری کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا؟ ام المومنین نے فرمایا:

تم نے میرا غم دور کیا اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کرے۔
--

خود حدیث میں ہے، حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ذکر معرفة نسبة دار احیاء التراث العربي بيروت ۳۰/۳

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۱۲۲/۲

<sup>3</sup>

<p>بے شک اللہ عزوجل نے میرے لئے نہ مانتا کہ میں نکاح میں لانے یا نکاح میں دینے کا معاملہ کروں مگر اہل جنت سے۔ (اس کو ابن عساکر نے ہند بن الجبلی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>ان اللہ ابی لی ان اتزوج اوازوج الا اهل الجنۃ۔ رواہ ابن عساکر<sup>۱</sup> عن ہند بن ابی هالة رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

جب اللہ عزوجل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لے پسند نہ فرمایا (کہ غیر مسلم عورت آپ کے نکاح میں آئے) خود حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک معاذ اللہ محل کفر میں رکھنے یا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم پاک عیاً بالله خون کفار سے بنانے کو پسند فرمانا کیونکر متوقع ہو۔

یہ بحمد اللہ وس<sup>۲</sup> دلیل جلیل ہیں، پہلی چار ارشاد ائمہ کبار اور چھوٹی فیض قدیر حصہ فقیر، تلاع عشرۃ کاملۃ، والحمد لله فی الابد والآخرۃ (یہ دس کامل ہوئیں، اور پہلی اور چھٹی میں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ ت)

تنبیہات باہرہ: حدیث ان ابی واباک<sup>۳</sup> - (بے شک میر اور تیرا باپ۔ ت) میں باپ سے ابوطالب مراد لینا طریق واضح ہے۔

قال تعالیٰ:

<p>بولے ہم پوچھیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسملیل و اسحق کا۔ (ت)</p>	<p>”قَلُّواْ أَنْعَبُدُ إِلَهَكُ وَإِلَهَ أَبَاكُ إِلَبِّكُ إِلْبِرَهَمَ وَإِسْعَيْلَ وَإِسْلَحَ“ <sup>۳</sup></p>
---	--

علماء نے اسی پر لابیہ ازر کو حمل فرمایا۔ اہل تواریخ و اہل کتابین (یہود و نصاری) کا جماع ہے کہ آزر باپ نہ تحسید خلیل علیہ السلام الجلیل کا چھپا تھا۔ استغفار سے نہیٰ معاذ اللہ عدم توحید پر دال نہیں، صدر اسلام میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدیون (مقروض) کے جنازے پر نماز نہ پڑھتے جس کا حاصل اس کے لیے استغفار ہی ہے۔

اقول: حدیث میں ہے: جب حضور سید الشافعین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير رملة بنت ابی سفیان صخر بن حرب الخ دار احیاء التراث العربي بیروت ۷۳ / ۱۰۰

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان ان من مات على الكفر الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/ ۱۳۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲/ ۱۳۲

شفاعت فرمائیں گے اور اہل ایمان کو اپنے کرم سے داخل جناب فرماتے جائیں گے، اخیر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس سوائے توحید کے کوئی حسنہ نہیں۔ شفیع مشقح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدے میں گریں گے، حکم ہوگا:

<p>اے حبیب! اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ (ت)</p>	<p>یا محمد ارفع رأسک وقل یسیع لک وسل تعط و اشفع تشفع۔</p>
--	---

سید الشافعین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کریں گے:

<p>اے میرے رب! مجھے ان کی بھی پرواگی دے دے جہنوں نے صرف لا الہ الا اللہ ہما ہے۔</p>	<p>یا رب ائدن لی فیمن قال لا الہ الا اللہ۔</p>
---	--

رب العزت عز جلال ارشاد فرمائے گا:

<p>یہ تمہارے لئے نہیں مگر مجھے اپنی عزت و جلال و کبریائی کی قسم میں ضرور ان سب کو نار سے نکال لوں گا جہنوں نے لا الہ الا اللہ ہما ہے (اس کو بخاری و مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت) اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے بلند شان والے شفیع پر اور ان کی آل پر۔ (ت)</p>	<p>لیس ذاک الیک لکن وعزتی وکبریائی وعظمتی و جبریائی لآخر جن منها من قال لا الہ الا اللہ۔ رواہ الشیخان<sup>1</sup> عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والحمد لله وصلی اللہ تعالیٰ علی الشفیع الرفیع واله وبارک وسلم۔</p>
---	---

حضرات ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے تو نبی از قبیل لیس ذلك لک ہے۔ بعدہ رب العزت

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب التوحید بباب کلام الرب یوم القیمة مع الانبیاء وغیرهم قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۱۸۹۶، صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة و اخراج الموحدین من النار قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۰۰

جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر تمام نعمت کے لئے اصحاب کھف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، شرف صحابیت پا کر آرام فرمایا لہذا حکمت الہیہ کیہ یہ زندہ کرنا حجۃ الوداع میں واقع ہوا جبکہ قرآن کریم پورا اتر لیا اور "اللَّيْوَمَ أَكُمْتُ لَكُمْ دِيْنَمْ وَأَتُمْسِتُ عَلَيْكُمْ بُقْعَتِي"<sup>۱</sup> (آن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ت) نے نزول فرمایا کہ دین الہی کو تام و کامل کر دیا تاکہ ان کا ایمان پورے دین کامل شرائی پر واقع ہو۔

حدیث احیاء کی غایت ضعف ہے کہا حقيقة خاتم الحفاظ الجلال السیوطی ولا عطر بعد العروس (جیسا کہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کی تحقیق فرمادی ہے اور عروس کے بعد کرنی عطر نہیں۔ ت) اور حدیث ضعیف دربارہ فضائل مقبول کہا حقيقة بسی امداد مزید علیہ فی رسالتنا الہاد الکاف فی حکم الضعاف (جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق اپنے رسالہ الہاد الکاف فی حکم الضعاف میں کر دی ہے۔ ت بلکہ امام ابن حجر مکنی نے فرمایا متعدد حفاظت نے اس کی تصحیح کی۔ افضل القراء ام القراء میں فرماتے ہیں:

یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں وہ تو انبیاء ہی ہیں، ان کے سوا حضور کے جس قدر اباء و امھات آدم و حواء علیہما الصلوٰۃ والسلام تک ہیں ان میں کوئی کافرنہ تھا کہ کافر کو پسندیدہ یا کریم یا پاک نہیں کہا جاسکتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و امھات کی نسبت حدیثوں میں تصریح فرمائی گئی کہ وہ سب پسندیدہ بارگاہ الہی ہیں، آباء سب کرام، ما میں سب پاکیزہ ہیں اور آیہ کریمہ تقلیبک فی السجدین (اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو) کی بھی ایک تفسیر ہی ہے کہ

ان اباء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر الانبیاء و امھاتہ الی ادم و حواء لیس فیہم کافر لان الكافر لا یقال فی حقه انه مختار ولا کریم، ولا ظاهر، بل نجس، وقد صرحت الاحادیث بانهم مختارون و ان الاباء کرام، والامھات طاھرات، وایضاً قال تعالیٰ و تقلیبک فی السجدین علی احد التفاسیر فیه

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲/۵

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ و حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت ہیں کہ وہ تو ان بندوں میں جنہیں اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے چنان تھا سب سے تقریب تر ہیں، یہی قول حق ہے بلکہ ایک حدیث میں جسے متعدد حافظان حدیث نے صحیح کہا اور اس میں طعن کرنے والے کی بات کو قابل التفات نہ جانا، قصر حق ہے کہ اللہ عز و جل نے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لائے، مختصر حالانکہ اس حدیث میں طول ہے، هکذا اقال والله تعالیٰ اعلم

اقول: (میں کہتا ہوں) یہ زندہ کرنے کا معاملہ جو تو نے پڑھا ہے اس سے حافظ ابن دحیہ کا وہ قول مندرج ہو گیا کہ والدین کریمین کا ایمان مانتے سے ان آیات کریمہ کی مخالفت لازم آتی ہے جن میں کافر کے مرنے کے بعد عدم انتقال کا ذکر ہے، یہ مخالفت کیسے لازم آسکتی ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ والدین کریمین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفر کے بعد ایمان دینے کیلئے زندہ کیا گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید پر انتقال فرمانے کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے

ان المراد تنقل نوره من ساجد الى ساجد و حينئذ فهذا صريح في ان ابوى النبى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امنة و عبد اللہ من اهل الجنة لانهما اقرب المختارين له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهذا هو الحق، بل في حدیث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا إلى طعن فيه۔ ان اللہ تعالیٰ احیاہما فامنابه<sup>۱</sup> الخ مختصرا وفيه طول۔

اقول: وبسماء قرأت امر الاحياء انفع ما زعم الحافظ ابن دحیہ من مخالفة الايات عدم انتفاع الكافر بعد موته كيف وانا لانقول ان الاحياء لاحداث ایمان بعد كفره بل لاعطاء الایمان بیحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتفاصیل دینه لا کرام بعد المضی على محض التوحید

<sup>۱</sup> افضل القراء ام القراء شعر ۶ المجمع الشقاقی ابو ظہبی / ۱۵۱

<p>دین کریم کی تفاصیل پر ایمان کی دولت سے مشرف فرمانے کے لئے زندہ کیا گیا، اس صورت میں ہمیں آیات کریمہ تخصیص کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ جواب دینے والے علماء نے کیا ہے۔ (ت)</p>	<p>وَهِنْئَنْ لَا حَاجَةٌ بِنَائِي ادْعَاءَ التَّخْصِيصِ فِي الْآيَاتِ كِيَافَعُلُ الْعَالَمَاءِ الْجَيِّبُونَ۔</p>
--	---

اپنا مسلک اس باب میں یہ ہے:-

### وللنَّاسِ فِيمَا يَعْشُقُونَ مذاہب

### وَمِنْ مَذَہِیِ حُبُ الدِّیَارِ لِأَهْلِهَا

(میرا مذہب تو شہر والوں کی وجہ سے شہر سے محبت کرنا ہے اور لوگوں کے لئے ان کی پسندیدہ چیزوں میں مختلف طریقے ہیں۔ ت) جسے یہ پسند ہو فبھا، و نعمت و رحمہ آخر اس سے تو کم نہ ہو کہ زبان روکے، دل صاف رکھے، "إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي الَّلَّهَ" <sup>۱</sup> (بیشک یہ بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہے۔ ت) سے ڈرے۔ امام ابن حجر مکی شرح میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی کیا خوب فرمایا بعض علماء نے جنہیں اس مسئلے میں توقف تھا کہ دیکھ نئے والدین کریمین کو کسی نقش کے ساتھ ذکر کرنے سے کہ اس سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا ہونے کا اندیشہ ہے کہ طبرانی کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ دو۔ (ت)</p>	<p>مَا أَحَسَنَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُتَوَقِّفِينَ فِي هَذِهِ الْمِسْأَلَةِ الْحَذْرُ الْحَذْرُ مِنْ ذِكْرِهِمَا بِنَقْصٍ فَإِنْ ذُلِكَ قَدْ يُؤْذِيَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَبْرِ الطَّبَرَانِيِّ لَا تَعُذُّوا إِلَيْهِ بِسَبِّ الْأَمْوَاتِ <sup>۲</sup>۔</p>
--	--

یعنی حضور تو زندہ ابدی ہیں ہمارے تمام افعال و اقوال پر مطلع ہیں اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے:

<p>جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔</p>	<p>"وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" <sup>۳</sup>۔</p>
--	---

<sup>1</sup> القرآن الكرييم ۵۳ / ۲۳

<sup>2</sup> أفضل القراء لقراء ام القراء شعر المجمع الشفافي ابو الحسن بن حبيبي ۱۵۳ / ۱

<sup>3</sup> القرآن الكرييم ۲۱ / ۹

عقل کو چاہئے ایسی جگہ سخت احتیاط سے کام لے ع

ہشدار کہ رہبر مردم تنخ است قدم را

(ہوش کر کہ لوگوں پر چڑھائی کرنا قدم کے لیے توار ہے۔ ت)

یہ مانا کہ مسئلہ قطعی نہیں، اجماعی نہیں، پھر ادھر کون سا قاطع کون سا اجماع ہے؟ آدمی اگر جانب ادب میں خطا کرے تو لاکھ جگہ بہتر ہے اس سے کہ معاذ اللہ اس کی خطا جانب گستاخی جائے، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جہاں تک بن پڑے حدود کو تالو کہ بیشک امام کا معافی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ (اس کو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابن ابی شیبہ، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا، اور حاکم نے اس کی تصحیح فرمائی۔ ت)

فَإِنَّ الْأَمَامَ إِنْ يَخْطُبَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ إِنْ يَخْطُبَ فِي الْعَقُوبَةِ. رواه ابن ابی شیبہ<sup>۱</sup> والترمذی والحاکم وصححه والبیهقی عن امر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا.

حجۃ الاسلام غزالی قد سرہ العالی احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں: "کسی مسلمان کی طرف گناہ بکیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک تو از سے ثابت نہ ہو"<sup>۲</sup>۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ اولاد چنین و چنان سے ہونا کیوں نکر بے تو از و قطع نسبت کر دیا جائے، یقین۔ برہانی کا اتفاق حکم وجدانی کا نافی نہیں ہوتا، کیا تمہارا وجود ان ایمان گوارا کرتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کار نور بارکے ادنیٰ ادنیٰ غلاموں کے سکان بارگاہ جنتات النعیم میں "سُمُّرٌ مَرْفُوعَةٌ"<sup>۳</sup> (بلند تختوں) پر تکیے لگائے چین کریں اور جن کی نعلیین پاک کے تصدق میں جنت بنی ان کے ماں باپ دوسرا جگہ معاذ اللہ غضب و عذاب کی مصیبیں بھریں، ہاں یہ تجھے ہے کہ ہم غنی حید

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم كتاب الحدود دار الفکر بيروت ۳۸۲/۳، جامع الترمذی ابواب الحدود بباب ماجاء في درء الحدود امین کمپنی دہلی  
<sup>۲</sup> السنن الکبیری کتاب الحدود بباب ماجاء في درء الحدود بالشبهات دار صادر بيروت ۸/۲۳۸، المصنف لابن ابی شیبہ كتاب الحدود بباب ماجاء في درء الحدود بالشبهات حدیث ۲۸۹۳ دار الكتب العلمية بيروت ۵/۵۰۸

<sup>۳</sup> احیاء العلوم کتاب آفات اللسان الافہ مطبعة المشهد الحسيني القاهرة ۳/۱۲۵

۱۳/۸۸ القرآن الکریم

عَزَّ جَلَالُهُ پر حکم نہیں کر سکتے پھر دوسرے حکم کی کس نے گنجائش دی؟ ادھر کونی دلیل قاطع پائی؟ حاش اللہ! ایک حدیث بھی صحیح و صریح نہیں، جو صریح ہے ہرگز صحیح نہیں اور جو صحیح ہے ہرگز صریح نہیں جس کی طرف ہم نے اجمالی اشارات کر دئے تو اقل درجہ وہی سکوت و حفظ ادب رہا، آئندہ اختیارات بدست مختار۔

**کلتہ الہیہ اقوٰل:** ظاہر عنوان باطن ہے اور اسم آئینہ مسْمَى الاسماء تنزل من السمااء (اسماء آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ت) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>جب میری بارگاہ میں کوئی قاصد بھیجو تو اچھی صورت اپنے نام کا بھیجو (اس کو بزار نے اپنی مند میں اور طبرانی نے اوسط میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول اصح کے مطابق سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>اذا بعثتم الى رجالاً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم - رواه البزار في مسنده والطبراني<sup>1</sup> في الاوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند حسن على الاصح۔</p>
---	--

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>زمین کو اس کے نام پر قیاس کرو۔ (اس کو ابن عدی نے سیدنا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ شواہد کے لیے حسن ہے۔ ت)</p>	<p>اعتبروا الارض بأسمائها۔ رواه ابن عدی<sup>2</sup> عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حسن لشهاده۔</p>
---	---

عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

<p>رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال لیتے، بدشگونی نہ مانتے اور اپنے نام کو دوست رکھتے۔ (اس کو امام احمد، طبرانی اور بغوي نے شرح السنۃ</p>	<p>كان رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر و كان یعجبه الاسم الحسن - رواه الإمام احمد<sup>3</sup> و</p>
--	--

<sup>1</sup> المعجم الاوسط حدیث ۷۷۲۳، مکتبۃ المعارف ریاض ۸/۳۶۵، کنز العمال بحوالہ البزار و طس عن ابی هریرۃ حدیث ۷۷۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۲۵

<sup>2</sup> الجامع الصغیر بحوالہ عدی عن ابن مسعود حدیث ۱۳۲ دار الكتب العلمیہ بیروت ۱/۱۳۲

<sup>3</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ابن عباس المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۵۷، شرح السنۃ للبغوی حدیث ۱۳۲۵۳ المکتب الاسلامی بیروت ۸/۱۲۵، مجمع الزوائد بحوالہ احمد و طبرانی کتاب الادب باب ماجاء فی الاسماء الحسنة دار الكتب بیروت ۸/۱۳۰۳۱۹

میں روایت کیا ہے۔ ت)	الطبرانی والبغوی فی شرح السنۃ۔
ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:	
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیتے تھے (اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ت)	ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یغیرالاسم القبیح۔ رواہ الترمذی <sup>۱</sup>
وفی اخْرَیِ عَنْهُمَا (اوْرَامِ الْمُؤْمِنِينَ) مِنْ هَذِهِ دُوَسَّرِيِّ رَوْاْيَتِيْ مِنْ هَذِهِ:	
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کا برانام سنتے تو اس سے بہتر بدل دیتے (اس کو طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ متقللاً روایت کیا ہے اور وہ ابن سعد کے نزدیک عروہ سے مرسلًا ماروی ہے۔ ت)	کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سبع بالاسم القبيح حوله الى ما هو احسن منه۔ رواه الطبراني <sup>۲</sup> بسندہ وهو عند ابن سعد عن عروة مرسلا۔
بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:	
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہ لیتے جب کسی عہدے پر کسی کو مقرر فرماتے اس کا نام پوچھتے اگر پسند آتا خوش ہوتے اور اس کی خوشی چہرہ انور میں نظر آتی اور اگر ناپسند آتا ناگواری کا اثر چہرہ اقدس پر ظاہر ہوتا، اور جب کسی شہر میں تشریف لے جاتے اس کا نام دریافت فرماتے، اگر خوش آتا مسرور ہو جاتے اور اس کا سرور روئے پر نور میں دکھائی دیتا، اور اگر ناخوش آتا ناخوشی کا اثر روئے اطہر میں نظر آتا۔ (رواہ ابو داؤد)	ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لا يتطری من شيئ و كان اذا بعث عامل اسأله عن اسیه فإذا اعجبه اسیه فرحة و روئی بشر ذلك في وجهه و ان كرها اسیه روئی كراهيۃ ذلك في وجهه و اذا دخل قریۃ سأله عن اسیها فإذا اعجبه اسیها فرحة بها و روئی بشر ذلك في وجهه و ان كرها اسیها و روئی كراهيۃ ذلك في وجهه۔ رواه ابو داؤد <sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> جامع الترمذی ابواب الادب بباب ماجاء فی تغیر الاسماء امین کمپنی دہلی ۲/۷۱۰

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ ابن سعد عن عروة مرسلاً حدیث ۸۵۰ م مؤسسة الرسالہ بیروت ۷/۱۵۱

<sup>۳</sup> سنن ابو داؤد کتاب الكھانۃ والتتیری بباب فی الطیرۃ والخطۃ آفتاپ عالم پر لیس لاہور ۲/۱۹۱

اب ذرا چشم حق بین سے حبیب صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف خفیہ دیکھئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں (اس کو امام مسلم، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>احب اسمائک الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ رواہ مسلم<sup>۱</sup> و ابو داؤد والترمذی و ابن ماجہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔</p>
---	--

والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آمنہ کہ امن و امان سے مشتق اور ایمان سے مشتق ہے۔ جد امجد حضرت عبدالمطلب شیعیۃ الحمد کہ اس پاک ستودہ مصدر سے اطیب واطہر مشتق محمد و احمد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔ جدہ ماجدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائز، اس نام پاک کی خوبی اظہر من الشمس ہے۔ حدیث میں حضرت بقول زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وجہ تسمیہ یوں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>الله عزوجل نے اس کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو ناز دوزخ سے آزاد فرمایا۔ (اس کو خطیب نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>انما سمیت فاطمة لان اللہ تعالیٰ فطباها و محببها من النار، رواه الخطيب<sup>۲</sup> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔</p>
--	---

حضرور کے جگہ مادری یعنی نانا وہب جس کے معنی عطا و بخشش، ان کا قبیلہ بنی زہر اور جس کا

<sup>۱</sup> سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی تغیر الاسماء آنقب عالم پر لیں لاہور ۲/۳۲۰، جامع الترمذی ابوبالادب بباب ماجاء ما یستحب من الاسماء امین کمپنی دہلی ۱۰۶/۲، سنن ابن ماجہ ابوبالادب بباب ماجاء ما یستحب من الاسماء ایجام سعید کمپنی کراچی ص ۲۷۳

<sup>۲</sup> تاریخ بغداد بحوالہ خط عن ابن عباس ترجمہ ۷۷۶ عالم بن حمید الشمیری دارالکتاب العربي بیروت ۱۲/۳۳۱، کنز العمال

حدیث ۳۲۲۶ و ۳۲۲۷ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲/۰۹

حاصل چک و تابش۔ جده مادری یعنی نانی صاحبہ گرہ یعنی نیکوکار، کیا ذکرہ ابن ہشام فی سیرتہ<sup>۱</sup> (جیسا کہ ابن ہشام نے اس کو اپنی سیرت میں ذکر کیا ہے۔ ت)

بھلا یہ تو خاص اصول ہیں، دودھ پلانے والیوں کو دیکھئے، پہلی مرضعہ ثوبہ کہ ثواب سے ہم اشتقاد، اور اس فضل الہی سے پوری طرح بہرور حضرت حلیہ بنت عبد اللہ بن حارث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشیع عبد القسیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

تجھ میں دو خصلتیں ہیں خدا اور رسول کو پیاری درنگ اور بُردباری۔	ان فیک خصلتین پَبِّهَا اللَّهُ الْحَلْمُ وَالْأَنَّةُ <sup>۲</sup>
--	--

ان کا قبیلہ بنی سعد کہ سعادت و نیک طائی ہے، شرف اسلام و صحابت سے مشرف ہوئیں،

جیسا کہ امام مغلطائی نے اسکو ایک بڑی جزء میں بیان فرمایا ہے جس کا نام انہوں نے "التحفة الجسمیۃ فی اثبات اسلام حلیۃ" رکھا ہے۔ (ت)	کیما بینہ الامام مغلطائی فی جزء حافل سیاہ التحفة <sup>۳</sup> الجسمیۃ فی اثبات اسلام حلیۃ۔
--	--

جب روز حسین حاضر بارگاہ ہوئیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیام فرمایا اور اپنی چادر انور بچا کر بٹھایا کیا فی الاستیعاب<sup>۴</sup> عن عطاء بن یسار (جیسا کہ استیعاب میں عطا بن یسار سے مروی ہے۔ ت) ان کے شوہر جن کا شیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا حارث سعدی، یہ بھی شرف اسلام و صحبت سے مشرف ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے تھے، راہ میں قریش نے کہا: اے حارث! تم اپنے بیٹی کی سنو، وہ کہتے ہیں مردے جیسیں گے، اور اللہ نے دو گھر حنف و نار بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ: اے میرے بیٹے! حضور کی قوم حضور کی شاکی ہے۔ فرمایا: ہاں میں ایسا فرماتا ہوں، اور اے میرے باپ! جب وہ دن آئے گا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے یا نہیں جس کی میں خبر دیتا تھا یعنی روز قیامت۔

<sup>۱</sup> السیرۃ النبویۃ لابن بشماہ زواج عبد اللہ من آمنہ بنت وہب دار ابن کثیر بیروت ۱۵۶/۱

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب الامر بالایمان بآلہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ تدبی کتب خانہ کراچی ۱/۳۵

<sup>۳</sup> شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ المقصد الثانی الفصل الرابع دار المعرفہ بیروت ۳/۲۹۲

<sup>۴</sup> الاستیعاب فی معرفة الاصحاح ترجمہ ۳۳۳۶ حلیۃ السعدیۃ دار الكتب العلمیۃ بیروت ۲/۳۷۸

حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اسلام اس ارشاد کو یاد کر کے کہا کرتے: اگر میرے بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو ان شاء اللہ نہ چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔ رواہ یونس بن بکیر<sup>۱</sup>۔ (اس کو یونس بن بکیر نے روایت کیا ہے۔

ت) حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>سب ناموں میں زیادہ سچے نام حارث وہماں ہیں۔ (اس کو امام بخاری نے ادب مفرد میں اور ابو داؤد ونسائی نے ابو الحیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>اصدقہ حارث وہماں۔ رواہ البخاری فی الادب المفرد <sup>۲</sup> وابوداؤد والنسائی عن ابی الحیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ</p>
---	--

حضور کے رضاعی بھائی جو پستان شریک تھے، جن کے لیے حضور سید العالیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پستان چپ چھوڑ دیتے تھے عبد اللہ سعدی، یہ بھی مشرف بہ اسلام و صحبت ہوئے کیا عند ابن سعد<sup>۳</sup> فی مرسل صحیح الاستناد (جیسا کہ ابن سعد کے نزدیک صحیح الاستناد مرسل میں ہے۔ ت)

حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں، سینے پر لٹا کر دعائیہ اشعار عرض کرتیں، سلاتیں، اس لئے وہ بھی حضور کی ماں کملاتیں سیما سعدیہ یعنی نشان ولی، علامت ولی، جودور سے چمکے، یہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا<sup>۴</sup>۔

<sup>۱</sup> الروض الانف بحواله یونس بن بکیر ابوه من الرضا عن دار احیاء التراث العربي بیروت ۲/۱۰۰، شرح الزرقانی علی الموابب اللدنیۃ یونس بن بکیر المقصد الاول ذکر رضاعه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفة بیروت ۱/۱۳۳، شرح الزرقانی علی الموابب اللدنیۃ یونس بن بکیر المقصد الثانی الفصل الرابع ذکر رضاعه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفة بیروت ۳/۲۹۳

<sup>۲</sup> سنن ابن داؤد کتاب الادب باب فی تغیر الاسماء آفتاب عالم پرس لاهور ۲/۳۲۰، الادب المفرد باب ۳۵۲ حدیث ۸۱۳ المکتبۃ الاثریہ سائلہ مل ص ۲۱

<sup>۳</sup> الطبقات الکبیری لابن سعد ذکر من ارضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ دار صارب بیروت ۱/۱۳، شرح الزرقانی علی الموابب اللدنیۃ المقصد الاول ذکر رضاعه صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفة بیروت ۱/۱۳۳ و ۱/۱۳۲

<sup>۴</sup> شرح الزرقانی علی الموابب اللدنیۃ المقصد الثانی الفصل الرابع ذکر رضاعه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفة بیروت ۳/۲۹۵، شرح

الزرقانی علی الموابب اللدنیۃ المقصد الاول ذکر رضاعه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار المعرفة بیروت ۱/۱۳۶

حضرت حبیمہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لئے راہ میں جاتی تھیں تین نوجوان کنواری لڑکوں نے وہ خدا بھائی صورت دیکھی جو شریعت سے اپنی پستانیں دہن اقدس میں رکھیں، تینوں کے دودھ اترایا، تینوں پاکیزہ بیبوں کا نام عاتکہ تھا۔ عاتکہ کے معنی زن شریفہ، رئیسہ، سر اپا عطر آلو، تینوں قبیلہ بنی سلیم سے تھیں کہ سلامت سے مشتق اور اسلام سے ہم اشتراق ہے، ذکرہ ابن عبدالبر<sup>۱</sup> (اس کو ابن عبد البر نے استیعاب میں ذکر کیا ہے۔ ت)

بعض علماء نے حدیث<sup>۱۱</sup> انا ابن العواتک من سلیم<sup>۱۲</sup> (میں بنی سلیم کی عاتکہ عورتوں کا بیٹا ہوں۔ ت) کو اسی معنی پر محمول کیا۔ نقلہ السهیلی<sup>۲</sup> (اس کو سہیلی نے نقل کیا ہے۔ ت)

اقول: الحق کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نہ پائی کہ ہمارے نبی اکرم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم وسلم کو اس کی مثل اور اس سے امثل عطا نہ ہوئی، یہ اس مرتبے کی تکمیل تھی کہ مسح کلمۃ اللہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ کو بے باپ کے کنواری بتول کے پیٹ سے پیدا کیا حبیب اشرف بریڑہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تین عفیفہ لڑکوں کے پستان میں دودھ پیدا فرمادیا

ع

آپچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تہذیداری  
(جو کمالات سب رکھتے ہیں تو تہذار کرتا ہے۔ ت)

اللہ تعالیٰ آپ پر اور ان (انبیاء سابقہ) پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ (ت)	وصلی اللہ تعالیٰ علیک و علیہم و بارک و سلم۔
---	---

امام ابو بکر ابن العربي فرماتے ہیں:

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی بیبوں نے دودھ پلا یا سب اسلام لا یں۔ (اس کو امام ابو بکر ابن العربي نے اپنی کتاب سراج المریدین میں ذکر کیا ہے۔ ت)	لهم ترضعه مرضعة لا اسلامت۔ ذکرہ فی کتابہ سراج المریدین <sup>۳</sup> ۔
--	--

<sup>1</sup> شرح الزرقانی علی المواحب المدنیۃ بحوالہ الاستیعاب البقصد الاول دارالعرفة بیروت ۱/۱۳۷

<sup>2</sup> شرح الزرقانی علی المواحب المدنیۃ بحوالہ الاستیعاب البقصد الاول دارالعرفة بیروت ۱/۱۳۷

بھلا یہ تو دودھ پلانا تھا کہ اس میں جزئیت ہے، مرضعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام برکت اور ام ایمن کنیت کہ یہ بھی میمن و برکت و راستی وقت، یہ اجلہ صحابیات سے ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرماتے: انت امی بعد امامی<sup>۱</sup>۔ تم میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔

راہ بھرت میں انہیں پیاس لگی، آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا، پی کر سیراب ہوئیں، پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی، سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی۔ رواہ ابن سعد<sup>۲</sup> عن عثمان بن ابن القاسم (اس کو ابن سعد نے عثمان بن ابو القاسم سے روایت کیا ہے۔ ت)

پیدا ہوتے وقت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر لیا ان کا نام تو دیکھنے شفاء، رواہ ابو نعیم عنہا۔ (اس کو ابو نعیم نے سیدہ شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔ ت) یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ و صحابیہ جملیہ ہیں۔ اور ایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں فاطمہ بنت عبد اللہ ثقیلہ، یہ بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اے چشم انصاف! کیا ہر تعلق ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض اتفاقی بطور جزاف تھا؟ کل اواللہ بلکہ عبایت ازلی نے جان جان کریے نام رکھے، دیکھ کریے لوگ چھٹے۔ پھر محل غور ہے جو اس نور پاک کو برے نام والوں سے بچائے وہ اسے برے کام والوں میں رکھے گا، اور برا کام بھی کون سا، معاذ اللہ شرک و کفر، حاشا ثم حاشا اللہ اللہ! دایاں مسلمان، کھلائیاں مسلمان، مگر خاص جن مبارک پیٹوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلائے، جن طیب مطیب خونوں سے اس نورانی جسم میں ٹکڑے آئے وہ معاذ اللہ چین و چنان حاشا اللہ کیوں کمر گوارا ہو ع خدا دیکھا نہیں قدرت سے جانا

<sup>۱</sup> الموابد اللدنیۃ المقصد الاول حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۷۲، الموابد اللدنیۃ المقصد الثانی الفصل الرابع المکتب الاسلامی بیروت ۲/۷۱

<sup>۲</sup> الطبقات الکبیری لابن سعد ام ایمن و اسمہا برکۃ دار صادر بیروت ۸/۲۲۲، شرح الزرقانی علی الموابد اللدنیۃ المقصد الثانی الفصل الرابع دار المعرفۃ بیروت ۳/۲۹۵

<sup>۳</sup> دلائل النبوة لابن نعیم الفصل الحادی عشر عالم الکتب بیروت الجزء الاول ص ۳۰

## ع مابنده عشقیم و دُگر یعنی ندانیم

(هم عشق کے بندے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ت)

فائدہ ظاہرہ: دربارہ ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی طریقہ اتنیہ اعنی نجات نجات کہ ہم نے توفیقہ تعالیٰ اختیار کیا،  
تنوع مسالک پر مختار اجلہ ائمہ کبار اعلیٰ علماء نامدار ہے، ازاں جملہ:

(۱) امام ابو حفص عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سو تین تصانیف ہیں، از انہمہ تفسیر ایک ہزار جزء میں اور  
مسند حدیث ایک ہزار تین جزء میں۔

(۲) شیخ المحدثین احمد خطیب علی البغدادی۔

(۳) حافظ الشان محدث ماہر امام ابوالقاسم علی بن حسن ابن عساکر۔

(۴) امام اجل ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد اللہ سہیلی صاحب الروضہ۔

(۵) حافظ الحدیث امام محب الدین طبری کہ علماء فرماتے ہیں، بعد امام نووی کے ان کا مثل علم حدیث میں کوئی نہ ہوا۔

(۶) امام علامہ ناصر الدین ابن المنیر صاحب شرف المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(۷) امام حافظ الحدیث ابوالفتح محمد بن سید الناس صاحب عيون الاثر۔

(۸) علامہ صالح الدین صفری۔

(۹) حافظ الشان شمس الدین محمد ابن ناصر الدین دمشقی۔

(۱۰) شیخ الاسلام حافظ الشان امام شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی۔

(۱۱) امام حافظ الحدیث ابو بکر محمد بن عبد اللہ اشیلی ابن العربي مالکی۔

(۱۲) امام ابوالحسن علی بن محمد مادری بصری صاحب الحادیۃ الکبیر۔

(۱۳) امام ابوعبد اللہ محمد بن خلف شارح صحیح مسلم۔

(۱۴) امام عبد اللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی صاحب تذکرہ۔

(۱۵) امام فخر المدققین فخر الدین محمد بن عمر الرازی۔

(۱۶) امام علامہ زین الدین مناوی۔

(۱۷) خاتم الحفاظ مجدد القرآن امام العاشر امام جلال الملة والدین عبد الرحمٰن ابن ابی بکر۔

(۱۸) امام حافظ شہاب الدین احمد بن حجر یتیمی مکی صاحب افضل القرآن وغیرہ۔

- (۱۹) شیخ نور الدین علی الجبار مصیری صاحب رسالہ تحقیق آمال الراجین فی ان والدی المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل اللہ تعالیٰ فی الدارین من الناجین۔
- (۲۰) علامہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی شریف حسنی تلمذانی شارح شفاء شریف۔
- (۲۱) علامہ محقق سنوی۔
- (۲۲) امام اجل عارف بالله سیدی عبدالواہب شعرانی صاحب الیوقیت والجوہر۔
- (۲۳) علامہ احمد بن محمد بن علی بن یوسف فاسی صاحب مطابع المسرات شرح دلائل الخیرات۔
- (۲۴) خاتمۃ المحققین علامہ محمد بن عبدالباقي زرقانی شارح المواہب۔
- (۲۵) امام اجل فقیہ اکمل محمد بن محمد کردری برازی صاحب المناقب۔
- (۲۶) زین الفقہ علامہ محقق زین الدین ابن نجیم مصری صاحب الاشیاء والظائر۔
- (۲۷) علامہ سید احمد حموی صاحب غمز العیون والبصراء۔
- (۲۸) علامہ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری صاحب الحنفیں فی نفس نفس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
- (۲۹) علامہ محقق شہاب الدین احمد خفاجی مصری صاحب نیم الرياض۔
- (۳۰) علامہ طاہر فتنی صاحب مجعع بخار الانوار۔
- (۳۱) شیخ شیوخ علماء الہند مولانا عبدالحق محمدث دہلوی۔
- (۳۲) علامہ صاحب کنز الغول۔
- (۳۳) مولانا بحرالعلوم ملک العلماء عبد العلی صاحب فوتح الرحموت۔
- (۳۴) علامہ سید احمد مصیری طھطاوی محضی در مختار۔
- (۳۵) علامہ سید ابن عابدین امین الدین محمد آنندی شامی صاحب رد المحتار وغیرہم من العلماء الکبار والتحقیقین الاخیار علیہم رحمة الملک العزیز الغفار (ان کے علاوہ دیگر علماء کبار اور پسندیدہ محققین ان پر عزت والے، بخشے والے بادشاہ کی رحمت ہوتے)
- ان سب حضرات کے اقوال طبیبہ اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں مگر فقیر نے یہ سطور نہ مجرد نقل اقوال کے لئے لکھیں نہ مباحث طے کرده علماء عظام خصوصاً امام جلیل جلال سیوطی کے ایراد بلکہ مقصود اس مسئلہ جلیلہ پر چند دلائل جلیلہ کا سنانا اور یہ تقدیق کفشن برداری علماء جو فیض تازہ قلب فقیر پر فائض ہوئے، اتفاق برادران دینی کے لئے ان کا ضبط تحریر میں لانا کہ شائد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام جہاں سے اکرم وار حم و ابرزاوی ہیں، محض اپنے کرم سے نظر قبول فرمائیں اور نہ کسی

صلے میں بلکہ اپنے خاص فضل کے صدقے میں اس عاجز بے چارہ، یہیں، بے یار کا ایمان حفظ فرما کر دارین میں عذاب و عقاب سے بچائیں۔<sup>۱</sup>

بر کریم اکارہاد شوار نیست

(کریم و پدرڑے، ڈے کام دشوار نہیں ہوتے۔ ت)

پھر یہ بھی ان الکابر کا ذکر ہے جن کی تصریحات، خاص اس مسئلہ جزوئیہ میں موجود، ورنہ بنظر کلیست نگاہ تجھے تو امام جعیہ الاسلام محمد محمد محمد غزالی و امام الحرمین و امام ابن السعاعی و امام کیا ہر اسی و امام اجل قاضی ابو بکر بالقلانی حتیٰ کہ خود امام مجتهد سیدنا امام شافعی کی نصوص قاہرہ موجود ہیں جن سے تمام آباء و امہات اقدس کا ناجی ہونا کاشش والامس روشن و ثابت ہے بلکہ بالاجماع تمام ائمہ اشاعرہ اور ائمہ ماتریدیہ سے مشائخ بخارا تک سب کا یہی مقتضنائے مذہب ہے کہ مالا یخفی علی من له اجالۃ نظر فی علمی الاصولین۔ (جبیا کہ اس شخص پر پوشیدہ نہیں جس کی اصولی علموں پر نظر ہے۔ ت) امام سیوطی سُبْلُ النجَاۃ میں فرماتے ہیں:

<p>ائمہ اور حفاظ حديث کی ایک جماعت اس طرف مائل ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کو زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ (ت)</p>	<p>مَالُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَاهُمَا حَقِّاً أَمْنَابِهِ طَائِفَةٌ مِّنَ الْإِئْمَانِ وَحْفَاظَ الْحَدِيثَ<sup>۱</sup>۔</p>
--	---

کتاب الحجیس میں کتاب مستطاب الدرج المنیف فی الآباء الشریفہ سے نقل کرتے ہیں:

<p>(خلاصہ یہ کہ) یہ جمع کثیر الکابر ائمہ و اجلہ حفاظ حديث، جامع انواع علوم و ناقدان روایات و مفہوم کا مذہب یہی ہے کہ ابوین کریمین ناجی ہیں اور آخرت میں ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے ان اعظم ائمہ کی نسبت یہ مگن بھی نہیں ہو سکتا کہ ان احادیث سے غافل تھے جن سے اس</p>	<p>ذهب جمیع کثیر من الائمه الاعلام الى ان ابوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناجیان محاکوم لهم بـ النجاة فـ الـ اخـرـة وـ هـمـ اـعـلـمـ النـاسـ بـ اـقـوالـ مـنـ خـالـفـهـمـ وـ قـالـ بغـيرـ ذـلـكـ وـ</p>
--	--

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی علی المواہب الالدنیہ بحوالہ سبل النجاة المقصد الاول دار المعرفة بيروت ۱۶۸/۱

<p>مسئلے میں خلاف پر استدلال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں بلکہ وہ ضرور اس پر واقع ہوئے اور تھہ تک پہنچ اور ان سے وہ پسندیدہ جواب دئے جنہیں کوئی انصاف والا رد نہ کرے گا اور نجات والدین شریفین پر دلائل قاطعہ قائم کئے جیسے مضبوط ہجے ہوئے پہلا کہ کسی کے ہلائے نہیں ہل سکتے۔</p>	<p>لایقرون عنهم في الدرجة ومن احفظ الناس للاحادیث والاثر وانقد الناس بالادله التي استدل بها ولئن فأنهم جامعون لانوع العلوم ومتضلعون من الفنون خصوصاً الاربعة التي استبد منها في هذه المسألة فلا يظن بهم انهم لم يقفوا على الاحاديث التي استدل بها ولئن معاذ الله بن وقفوا عليها وخاضوا غيرتها وأجابوا عنها بالاجوبة المرضية التي لا يرد لها منصف واقموا لما ذهبا اليه ادلة قاطعة كالجبال الرواسی<sup>۱</sup> اه مختاراً۔</p>
---	--

بلکہ علامہ زرقانی شرح موہب میں ائمہ قائلین نجات کے اقوال و کلمات ذکر کر کے فرماتے ہیں:

<p>یہ ہمارے علماء کے وہ نصوص ہیں جن پر میں واقع ہو اور ان کے غیر سے کہیں اس کا خلاف نظر نہ آیا سو ایک بوجے خلاف کے جوابن دھیہ کے کلام سے پائی گئی اور امام قرطبی نے بروجہ کافی اس کا رد کر دیا۔</p>	<p>هذا ما وقفنا عليه من نصوص علمائنا ولم نر لغيرهم ما يخالفه إلا ما يشتم من نفس ابن دحية وقد تكفل بردّه القرطبي<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

تاہم بات وہی ہے جو امام سیوطی نے فرمائی:

<p>پھر میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے بلکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے (اور اس کا حکم</p>	<p>ثم ان لم ادع ان المسألة اجماعية بل هي مسألة ذات خلاف</p>
---	---

<sup>۱</sup>كتاب الخميس القسم الثاني النوع الرابع مؤسسة شعبان بيروت ۲۳۰/۰

<sup>۲</sup>شرح الزرقانی على الموهاب المدنیۃ باب وفاة امہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار المعرفة بيروت ۱۸۶/۱

<p>بھی اختلافی مسائل جیسا ہوگا) مگر میں نے نجات کے قائلین کے اقوال کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہی اس مقام کے زیادہ لائق ہے۔ اہم اور درج المنیفہ میں اس بحث کو درج کرنے کے بعد کہا وہ نوں فریق جلیل القدر اکابر ائمہ ہیں۔ (ت)</p>	<p>فحکمہا کو حکم سائر المسائل المختلف فيها غير اني اخترت له اقوال القائلين بالنجاة لانه انسب بهذا المقام اه<sup>۱</sup> وقال في الدرج بعد مادرج في الدرج الفريقيان ائمه اکابر اجلاء<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

اقول: تحقیق یہ کہ طالب تحقیقی مر ہوں دست دلیل ہے، ابتداءً ظاہر بعض آثار سے جو ظاہر بعض اظفار ہوا ظاہر تھا کہ ان جوابات شافیہ اور اس پر دلائل و افیہ قائم و مستقیم چارہ کار قبول و تسلیم بالاً قل سکوت و تعظیم، اللہ الہادی الی صراط مستقیم۔

علماء زاہرہ: امام ابو نعیم دلائل النبوة میں بطريق محمد بن شہاب الزہری ام سامعہ اسماء بنت ابی رحیم، وہ اپنی والدہ سے راوی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے وقت حاضر تھی، محمد صلی اللہ تعالیٰ کم سن بچے کوئی پانچ برس کی عمر شریف، ان کے سرہانے تشریف فرماتھے۔ حضرت خاتون نے اپنے ابن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نظر کی، پھر کہا نے

یا ابن الذی من حومة الھیام

بأرك فيك الله من غلام

فوڈی غداۃ الضرب بالسھام

نجابعون الملک المنعام

ان صحّ ما ابصرت في المناہم

بمائۃ من ابل سوام

من عند ذی الجلال والا کرام

فأنت مبعوث الى الانام

تبعث في الحل وفي الحرام

تَبَعُثُ فِي الْحَلِّ وَفِي الْحَرَامِ

فَاللَّهُ انھاک عن الا صنام

دین ابیک البَّابِ ابراہیم

ان لاتواليها مع الا قوام<sup>۳</sup>

۱۰۰۰ سترے لڑکے! اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اے بیٹے ان کے جنہوں نے مرگ کے گھیرے سے نجات پائی۔ ۱۰۰۰ انعام والے بادشاہ اللہ عز و جل کی مدد سے، جس صحیح کو قرآن دلائی گیا سو بندوانوں کے فدیہ میں قربان کئے گئے، اگر وہ ٹھیک

<sup>۱</sup> الدرج المنیفة في الاباء الشریفة

<sup>۲</sup> کتاب الخميس بحوالہ الدرجة المنیفة القسم الثاني النوع الرابع مؤسسة شعبان ۱۴۲۰/۱

<sup>۳</sup> المواهب الدینیة بحوالہ دلائل النبوة المقصد الاول المكتب الاسلامی بیروت ۱۹۷۶/۱

اتراجو میں نے خواب دیکھا ہے تو تو سارے جہان کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا جو تیرے نکو کار باپ ابراہیم کا دین ہے، میں اللہ کی قسم دے کر تجھے توں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔<sup>۱۱</sup>

حضرت خالون آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس پاک و صیت میں جو فرقہ دنیا کے وقت اپنے ابن کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسالم کو کی بحمد اللہ توحید و رشک نوآفتاب کی طرح روشن ہے اور اس کے ساتھ دین اسلام ملت پاک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسالم کا بھی پورا اقرار، اور ایمان کامل کے کہتے ہیں، پھر اس سے بالآخر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعتراف موجود اور وہ بھی بیان بعثت عاصمہ کے ساتھ، و للہ الحمد۔

اقول: (میں کہتا ہوں) کلمہ ان اگر شک کے لئے ہے تو وہ غایت منشی ہے اور اس سے اوپر کوئی تکلیف نہیں، ورنہ اس کا تحقیق کیلئے آتا بھی معلوم ہے تاکہ یہ جزاء کے ثبوت و تحقیق پر دلیل کی طرح ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانا کہ میں نے تجھے تین راتیں دیکھا فرشتہ (جرایل علیہ السلام) تجھے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لایا اور مجھے کہما یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تو تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اس کو جاری فرمائے گا۔ اس کو شیخین نے امام المومنین سے روایت کیا ہے۔ (ت)

اقول: وكلمة ان كانت للشك فهو غاية المنتهي اذ ذاك ولا تكليف فوقه والا فقد علم مجيعها ايضاً للتحقيق ليكون كالدلائل على ثبوت الجزاء وتحققه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لام المؤمنين رضي الله تعالى عنها رأيتك في البنام ثلاث ليال يجيء بك الملك في سرقة من حريرى فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك التوب فإذا هي انت فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه رواه الشيبخان<sup>۱</sup> عنها رضي الله تعالى عنها۔

اس کے بعد فرمایا:

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب النکاح باب النظر الى المرأة قبل التزویج قد کی کتب خانہ کراچی ۲/۶۸، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب فضائل عائشہ رضی اللہ عنہا قد کی کتب خانہ کراچی ۲/۲۸۵

ہر زندے کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا، اور کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن فنا ہونا ہے۔ میں مرتی ہوں اور میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا، میں کسی خیر عظیم چھوڑ چلی ہوں اور کیسا ستر پا کیزہ مجھ سے پیدا ہوا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	<b>کل حی میت و کل جدید بال و کل کبیر یعنی و ان میتہ و ذکری باق و قدتر کت خیرا ولدت طہراً<sup>۱</sup></b>
--	--

یہ کہا اور انتقال فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا و صلی اللہ تعالیٰ علی ابینہا الکریم و ذویہ و بارک و سلم (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور درود وسلام اور برکت نازل فرمائے ان کے کریم بیٹے اور اس کے پیروکاروں پر۔ ت) اور ان کی یہ فراست ایمان اور پیشان گوئی نورانی قابل غور ہے کہ میں انتقال کرتی ہوں اور میرا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا۔ عرب و عجم کی ہزاروں شاہزادیاں، بڑی تاج والیاں خاک کا پیوند ہو سکیں جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، مگر اس طبیبہ خاتون کے ذکر خیر سے مشارق مغارب ارض میں ہائل مجلس انس و قدس میں زین و آسمان گونج رہے ہیں اور اباد الاباد تک گونجیں گے اللہ الحمد۔ عترت قاہرہ: سید احمد مصری حواشی در میں ناقل کہ ایک عالم رات بھر مسئلہ ابوین کر کیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں متقرر ہے کہ کیونکر تطبیق اقوال ہو۔ اسی فکر میں چراغ پر جھک گئے کہ بدن جل گیا۔ صحیح ایک لشکری آیا کہ میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ راہ میں ایک ترہ فروش ملے کہ اپنی دکان کے آگے باث ترازو لئے بیٹھے ہیں، انہوں نے اٹھ کر ان عالم کے گھوڑے کی بگ پکڑی اور یہ اشعار پڑھنے:

احیاہمَا الْحَىٰ الْقَدِيرُ الْبَارِى

أَمْنَتْ أَنْ أَبَا النَّبِيِّ وَأَمْهَ

صدق فتنك كرامۃ المختار

حَقِّ لِقَدْ شَهَدَ اللَّهُ بِرَسَالَةٍ

فَهُوَ الْمُضِيَّفُ عَنِ الْحَقِيقَةِ عَارِیٌ<sup>۲</sup>

وَبِهِ الْحَدِيثُ وَمَنْ يَقُولُ بِضَعْفِهِ

۱۔ یعنی میں ایمان لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال باپ کو اس زندہ ابدی قادر مطلق خالق عالم جل جلالہ نے زندہ کیا یہاں تک کہ ان دونوں نے

<sup>۱</sup> المواحد اللدنیۃ المقصد الاول ذکر و فاء آمنۃ رضی اللہ عنہما المكتب الاسلامی بیروت ۱/۷۰-۱۶۹

<sup>۲</sup> حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار کتاب النکاح باب نکاح الکافر السکتبۃ العربیۃ کوئٹہ ۲/۸۱

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی دی، اے شخص اس کی تصدیق کر کے یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کے واسطے ہے اور اس باب میں حدیث وارد ہوئی جو اسے ضعیف بتائے وہ آپ ہی ضعیف اور علم حقیقت سے خالی ہے۔<sup>۱</sup> یہ اشعار سن کر ان عالم سے فرمایا: اے شخ! انہیں لے اور نہ رات کو جاگ نہ اپنی جان کو فکر میں ڈال کہ تھے چراغِ جلا دے، ہاں جہاں جا رہا ہے وہاں نہ جا کہ لقہِ حرام کھانے میں نہ آئے۔

ان کے اس فرمانے سے وہ عالم بیخود ہو کر رہ گئے، پھر انہیں تلاش کیا پتہ نہ پایا اور دکانداروں سے پوچھا، کسی نے نہ پہچانا، سب بازار والے بولے: یہاں تو کوئی شخص بیٹھتا ہی نہیں۔ وہ عالم اس ربانی ہادی، غیب کی ہدایت سن کر مکان کو واپس آئے، لشکری کے یہاں تشریف نہ لے گئے۔<sup>۱</sup> انتہی۔

اے شخص! یہ عالم بہ برکت علم، نظر عنایت سے ملحوظ تھے کہ غیب سے کسی ولی کو بھیج کر ہدایت فرمادی خوف کر کے تو اس در ط میں پڑ کر معاذ اللہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باعث ایذا نہ ہو جس کا نتیجہ معاذ اللہ بڑی آگ دیکھنا ہو۔ اللہ عزوجل ظاہر و باطن میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی محبت سچا ادب روزی فرمائے اور اسباب مقت (نارِ ضمکی) و حجاب ویزاری و عتاب سے بچائے آمین آمین آمین!

<p>اے بہترین رحم فرمانے والے! ہمارے فاقہ اور ضعف پر رحم فرماء، ہم اپنی باطل طاقت اور بیکاری قوت سے براءت کرتے ہیں اور تیری عظیم طاقت اور قدیم قوت کی پناہ چاہتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عزت و عظمت والے خدا کے سوانح تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی، اور ہماری گھنٹنگو کا خاتمہ اس پر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے ہمارے آقا</p>	<p>یا ارحم الراحیمین ارحم فاقتناً یا ارحم الراحیمین ارحم ضعفنا تیراً نا من حولنا الباطل و قوتنا العاطلة والتجاننا الى حولك العظيم و طولك القديم وشهادنا بان لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد</p>
--	--

<sup>1</sup> حاشیۃ الطھاؤی علی الدر المختار کتاب النکاح باب نکاح الكافر المکتبۃ العربیۃ کو ۲/۸۱

دموالیٰ محمد مصطفیٰ پر، آپ کی تمام آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر  
اور آپ کی تمام اولاد پر۔ آمین۔ (ت)

وَاللَّهُ وَصَحْبُهُ وَذَرِيَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمِينٌ۔

الحمد لله يٰ موجز رسالہ اواخر شوال المکرم ۱۴۱۵ھ کے چند جلسوں میں تمام اور بلحاظ تاریخ "شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام" ع نام ہوا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

رسالہ

شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام

ختم ہوا۔



عہ: وبضم الكاف بمعنى الريم صفة الرسول او بكسرها جمع الکرام نعت الاصول ۱۲



## رسالہ

# تمہید ایمان بآیات قرآن

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور عظمت کے ساتھ تاقیامت درود وسلام ہو سید المرسلین و خاتم النبیین پر اور آپ کی آل اور تمام اصحاب پر۔ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔ (ت)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین  
إلى يوم الدين بالتبجیل وحسبنا الله ونعم الوکیل۔

مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض

بیارے بھائیو! السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناجیز، کثیر المسنات کو دین حق پر قائم رکھئے اور اپنے حبیب محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت، دل میں عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے۔ امین یا ارحم الراحمین۔

تمہارا رب عزو جل فرماتا ہے:

<p>اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاوے اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔</p>	<p>"إِنَّ أَمْرَ رَسُولِنَا شَاهِدًا أَوْ مُشَهَّدًا وَنَذِيرًا أَنَّ يَوْمَ مُسَوَّلًا إِلَيْهِ وَرَاسُولِهِ وَتَعْبُدُ مُرْسَلُهُ وَلَا تُوَقِّرُهُ وَلَا تُسْبِحُهُ بِكُلِّ لَيْلٍ وَأَصِيلًا" <sup>۱</sup></p>
---	--

مسلمانو! دیکھو دین اسلام سچینے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد ہی تمہارا مولیٰ تبارک و تعالیٰ تین باتیں بتاتا ہے:  
 اول یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لاائیں۔  
 دوسرم یہ کہ رسول اللہ کی تعظیم کریں۔  
 سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔

مسلمانو! ان تینوں جلیل باتوں کی جیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو ذکر فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو اور پیچے میں اپنے بیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لئے کہ بغیر ایمان، تعظیم بکار آمد نہیں۔ بہتیرے نصاری ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعترافات کافران لئیم میں تصنیفیں کر چکے، لکھر دے چکے مگر جبکہ ایمان نہ لائے، کچھ مفید نہیں کہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔ پھر جب تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزرے، سب بے کار و مردود ہے۔ بہتیرے جو گی اور راہب ترک دنیا کر کے، اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں، زکہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں مگر ازاں جاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ اصلًا قابل قبول بارگاہ الہی نہیں، اللہ عزو جل ایسوں ہی کو فرماتا ہے:

<p>جو کچھ اعمال انسوں نے کئے تھے، ہم نے سب بر باد کر دیئے۔</p>	<p>"وَقَدِمَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ بَأَءَمَّثُونَهَا" <sup>۲</sup></p>
--	--

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۹۸/۳۸

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۳/۲۵

ایسوس ہی کو فرماتا ہے:

<p>عمل کریں، مشقتیں بھریں اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں پیٹھیں گے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔</p>	<p>"عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ لَا تَضُلُّ نَارًا حَامِيَةٌ" ۱۔</p>
---	---

مسلمانو! کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟۔ کہو ہوئے اور ضرور ہوئے! تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے:

<p>اے نبی تم فرمادو، کہ اے لوگو! اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندر لیشہ ہے اور تمہارے پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اسکی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتنا رے اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔</p>	<p>"قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاءكُمْ وَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ أَقْتَرَفُتُمْ هَؤُلَاءِ تَحْمِلُهُنَّ كَسَادَهُنَّ مَسْكِنُ تَرْصُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَمَرْسُولِهِ وَجَهَادِنِي سَيِّلُهُمْ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِآمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهِيدُ إِلَيْهِ الْقَوْمَ الْفَرِيقَيْنَ" ۲۔</p>
---	---

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عنیز کوئی مال، کوئی چیز، اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>تم میں کوئی مسلمان نہ ہو گا جب تک میں اسے اس کے مال باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔<sup>۱</sup></p>	<p>"لَا يَؤْمِنُ أَحَدٌ كَمْ حَتِّيٌّ أَكُونُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وَلِلَّهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ" ۲۔</p>
--	---

<sup>1</sup> القرآن الکریم / ۸۸ / ۳۰۳

<sup>2</sup> القرآن الکریم / ۹ / ۲۲

صحیح البخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۷، صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب محبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان قریبی کتب خانہ کراچی ۲/۹

یہ حدیث بخاری و صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس نے تو یہ بات صاف فرمادی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عنیز رکھے، ہرگز مسلمان نہیں۔

مسلمانوں کہو! محمد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ ہکو ہوا اور ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں ہاں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ بھائیو! خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو۔ تمہارا رب عزو جل فرماتا ہے:

کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، کہ اتنا ہمہ لینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہو گی۔	"اللَّهُ أَحَسِبَ النَّاسَ أَنْ يُسْتَرَ كُوَّاًنْ يَقُولُوا إِنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" <sup>۱</sup> ۔
--	--

یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھکارا نہ ہو گا۔ ہاں ہاں سنتے ہو! آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہر و گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی واقعی ہونے کو درکار ہیں، وہ اس میں ہیں یا نہیں؟! بھی قرآن و حدیث ارشاد فرمائچے کہ ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔

(۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم

(۲) اور محمد رسول اللہ کی محبت کو تمام جہان پر تقديریم

تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو۔ جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے منقتو، تمہارے واعظ و غیرہ وغیرہ کے باشد، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اصلًا تمہارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے فوراً ان سے

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۹/۱

الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ پھرنہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو نہ اس کی مولویت، مشینیت، بزرگی، فضیلت، کو خطرے میں لاو آخر یہ جو کچھ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی بناء پر تھا جب یہ شخص ان ہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے بجے عما مے پر کیا جائیں، کیا بہترے یہودی ہجئے، نہیں پہنچتے؟ کیا عما مے نہیں باندھتے؟ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہترے پادری، بکثرت فلسفی، بڑے، بڑے علوم و فنون نہیں جانتے اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بناں چاہی اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی بناہی یا اسے ہر بارے سے بدتر برانہ جانا یا اسے برائی پر برآمدنا یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواں منائی یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو اللہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے، قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔ مسلمانو! کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بد گو و قوت کر سکے گا اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو، کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہاں سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوگا سخت شدید نفرت نہ کرے گا اگرچہ اسکا دوست یا پدر یا پسر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے حال پر رحم کردا پنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، دیکھو رب عزوجل فرماتا ہے:

تو نہ پائے کا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ان کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا میٹے یا بھائی یا عزیز بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ سنتا ہے

"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِإِلَهٍ وَالْيُوْمُ الْأَخِرُ يُؤْمِنُونَ مِنْ حَاجَةٍ إِلَهٌ وَرَاسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَهْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ لِلَّهِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَيْمَانُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَعْجِيزُ مِنْ تَحْكِيمِهِ الْأَنْهَرُ خَلِيلِهِ فِيهَا رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا

اللہ والے ہی مراد کو پہنچے	إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿٤١﴾ <sup>۱</sup>
----------------------------	--

اس آیت کریمہ میں صاف فرمادیا کہ جو اللہ یا رسول اللہ کی جانب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صرتوں مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہو گا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہوتا بالنصرت ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹی، بھائی، عزیز سب کو گناہی، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محظوظ ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقعت نہیں مان سکتے ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لئے بس تھامگردی یکو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لائق دلاتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔

(۱) اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ حسن خاتمه کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں ملتا۔

(۲) اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔

(۳) تمہیں ہیشکل کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رووال ہیں۔

(۴) تم خدا کے گروہ کملاؤ گے، خداوائے ہو جاؤ گے۔

(۵) منہ مانگی مرادیں پاؤ گے بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔

(۶) سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گا۔

(۷) یہ کہ فرماتا ہے "میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی" بندے کیلئے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو مگر انہیاً بنده نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔

مسلمانو! خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دلوں پر ثار کر دے تو واللہ مفت پائیں، پھر زید و عمر و سے علاقہ تعظیم و محبت، یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہانمتوں کا وعدہ فرمرا ہا ہے اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تازیانہ بھی رکھتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کی لائے میں نہ آئیں،

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۲/۵۹

سزاوں کے ڈر سے، راہ پائیں۔ وہ عذاب بھی سن لیجئے:

تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

اے ایمان والو! اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر  
وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں جو کوئی ان سے رفاقت  
پسند کرے وہی لوگ ستگار ہیں۔

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَقْتَلُوا أَبْيَاءَكُمْ فَإِنْ هُنَّ إِخْرَانٌ  
إِسْتَحْبُوا الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ فَأُولَئِكُمْ هُمُ  
الظَّالِمُونَ" <sup>۱</sup>

اور فرماتا ہے کہ:

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم  
چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں  
جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم میں جو ایسا کرے گا وہ  
ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ تمہارے رشتے اور تمہارے بچے  
تمہیں کچھ نفع نہ دیں گے۔ قیامت کے دن۔ اللہ تم میں اور  
تمہارے پیاروں میں جدا ڈال دیگا کہ تم میں ایک، دوسرے  
کے کچھ کام نہ آسکے گا اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَقْتَلُوا أَعْدُوْنِي وَعَدُوْكُمْ سُرُورٌ  
إِلَيْهِمْ يَأْتِي مَوْدَةٌ وَآتَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْيَرُهُمْ وَمَا آتَيْتُمْ وَمَنْ  
يَقْعُلُهُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْأَهُ السَّبِيلِ لَنْ تَنْتَعَلْمُ أَمْ حَانِكُمْ  
وَلَا أُولَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَصِّلُ بَيْكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ" <sup>۲</sup>

اور فرماتا ہے:

تم میں جوان سے دوستی کریگا تو بے شک وہ انہیں میں سے  
ہے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا خالموں کو۔

"وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْهُمْ فَلَيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِيءُ لِلنَّاسِ  
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" <sup>۳</sup>

پہلی دو آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم و گراہ ہی فرمایا تھا، اس آیت کریمہ نے

<sup>۱</sup> القرآن الكريمة ۲۳/۹

<sup>۲</sup> القرآن الكريمة ۳۶/۲۰

<sup>۳</sup> القرآن الكريمة ۵۱/۵

بالکل تصفیہ فرمادیا کہ جوان سے دوستی رکھے وہ بھی ان میں سے ہے، ان ہی کی طرح کافر ہے، ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ "تم چھپ کر ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں"۔ اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے۔

تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔	"وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" <sup>۱</sup>
--	---

اور فرماتا ہے:

بے شک جو اللہ و رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کیلئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔	"إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَاهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَذَّنَاهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا" <sup>۲</sup>
--	--

الله عزوجل ایذا سے پاک ہے اسے کون ایذا دے سکتا ہے۔ مگر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اپنی ایذا فرمایا۔ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ کے بدگویوں سے محبت کا برداشت کرے، سات کوڑے ثابت ہوئے:-

(۱) وہ ظالم ہے۔

(۲) گمراہ ہے۔

(۳) کافر ہے۔

(۴) اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

(۵) وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہو گا۔

(۶) اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی۔

(۷) اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۶/۹

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۳۳/۵۷

اے مسلمان! اے امّتی سید الانس والجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! خدار، ذرا انصاف کر، وہ سات بہتر ہیں جوان لوگوں سے یک لخت علاقہ ترک کر دینے پر ملتے ہیں کہ دل میں ایمان جم جائے اللہ مددگار ہو، جنت مقام ہو، اللہ والوں میں شمار ہو، مرادیں ملیں، خدا تجھ سے راضی ہو، تو خدا سے راضی ہو یا یہ سات بھلے ہیں جوان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ ظالم، مُگرَاه، کافر، جہنمی ہو، آخرت میں خوار ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہان میں لعنت کرے۔ ہیحات، ہیحات کون کہہ سکتا ہے۔ کہ یہ سات اچھے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سات چھوڑنے کے ہیں، مُگر جان برادر! خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا، وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے ابھی آیت سن چکے الٰم احسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو کہ بُس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے امتحان نہ ہو گا۔ وہاں یہی امتحان کا وقت ہے! دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے۔ دیکھو! وہ فرمادیا ہے کہ تمہارے رشتے، علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو۔ دیکھو! وہ فرمادیا ہے کہ میں غالباً نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں، دیکھو! بے پرواںی نہ کرو، پرانے پیچھے، اپنی عاقبت نہ بگاڑو، اللہ رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو، دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، دیکھو! وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں دیکھو اور گناہ، تو نے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو، مُگر ایمان نہیں جاتا، عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت، حبیب کی شفاعت سے، بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے۔ مُگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے ابھی عظمت، ان کی محبت، مدار ایمان ہے، قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملہ میں کمی کرے اس پر دلوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھو جب ایمان گیا، پھر اصلًا، ابد الآباد تک کبھی، کسی طرح ہر گز، اصلًا، عذاب شدید سے رہائی نہ ہو گی۔ گستاخی کرنے والے، جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو، وہاں اپنی بھگلت رہے ہو نگے تمہیں بچانے نہ آئیں گے اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ایمان کا لحاظ کر کے، اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غصب جبراو عذاب نار میں پھنسادیتا، کیا عقل کی بات ہے؟۔ اللہ اللہ ذرا دیر کو اللہ رسول کے سواب ایں و آں سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمی عظمت، بیانند عزت، رفع وجاحت، جوان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعظیم، ان کی توقیت پر ایمان و اسلام کی بناء رکھی اسے دل میں جما کر

النصاف و ایمان سے کہو، کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت، نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے<sup>۱</sup>۔ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ مسلمانو! خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دیکھو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر دیکھو! تو وہ بر امانتا ہے یا نہیں حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی تباہ، پھر کم کہنا کیا تو ہیں نہ ہو گی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو اس پر ناگواری ظاہر ہے کہ اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا، تو اسے چھوڑ یے اور کسی معظم سے کہہ دیجئے اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا پکھری میں جا کر آپ کسی حاکم کو ان ہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھئے! ابھی ابھی کھلا جاتا ہے کہ تو ہیں ہوئی اور بے شک ہوئی پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہیں کرنا کافر نہیں؟ ضرور ہے اور بالیقین ہے۔ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس کے لئے وسعت علم ماننے والے کو کہا<sup>۲</sup>، تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے<sup>۳</sup>۔ اور کہا<sup>۴</sup>، شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے<sup>۵</sup>۔ اس نے ایلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، کہ جوبات مخلوق میں ایک کے لئے ثابت کرنا شرک ہوگی، وہ جس کسی کے لئے ثابت کی جائے، قطعاً شرک ہی رہے گی کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی، جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے جب تو نبی کے لئے اس کامانے والا کافر مشرک ہو اور اس نے وہی وسعت، وہی صفت خدا پنے منہ، ایلیس کے لئے ثابت مانی تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا یا۔ مسلمانو! کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی تو ہیں نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی، اللہ کی تو ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا اور وہ بھی کسے؟ ایلیس لعین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں یوں، کہ ایلیس کا مرتبہ اتنا بڑھادیا، کہ وہ تو خدا کی خاص صفت

<sup>۱</sup> البراهین القاطعة بحث علم غيب مطبع لـ بلاساذھور ص ۵

<sup>۲</sup> البراهین القاطعة بحث علم غيب مطبع لـ بلاساذھور ص ۵

<sup>۳</sup> البراهین القاطعة بحث علم غيب مطبع لـ بلاساذھور ص ۵

میں حصہ دار ہے، اور یہ اس سے ایسے محروم، کہ ان کے لئے ثابت مانو، تو مشرک ہو جاوے۔ مسلمانو! کیا خدا اور رسول اللہ کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ کیا جس نے کہا کہ ۱۰ بعض علوم غیریہ مراد ہیں تو اس میں حضور (یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیر توزید و عمر و بلکہ ہر صیہ و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے ۱۰۔ کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح کالی نہ دی؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیر توزید دیا گیا تھا، جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟

مسلمان! اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی! تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ، کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے صریح ہونے میں تجھے کچھ شبهہ گزرا سکتا ہے؟ معاذ اللہ! کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے، تو خود ان ہی بد گویوں سے پوچھ دیکھ، کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں، پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں! تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جیسا گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں ال، گدھے، کتے، سور کے ہمسرو! دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد، پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں، پھر کیا سبب کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین و کسر شان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو، کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے، کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاش اللہ حاش اللہ! کیا جس نے کہا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے، پھر اگر زید اسکا الترام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر علم غیر کو منجمدہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر الترام نہ کیا جاوے تو نبی وغیر نبی، میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے ۲، انتہی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جانوروں، پاگلوں میں فرق

<sup>1</sup> حفظ الایمان جواب سوال سوم کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سہارپور بھارت ص ۸، حفظ الایمان مع تغییر العنوان جواب سوال سوم محمد عثمان تاجر الكتب فی دریبہ کلاں دہلی ص ۷۶۷

<sup>2</sup> حفظ الایمان جواب سوال سوم کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سہارپور بھارت ص ۸، حفظ الایمان مع تغییر العنوان جواب سوال سوم محمد عثمان تاجر الكتب فی دریبہ کلاں دہلی ص ۷۶۷

نہ جانے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ کیا اس نے اللہ کے کلام کا صراحتاً رد وابطال نہ کر دیا۔ دیکھو تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

اے نبی ! اللہ نے تم کو سکھایا جو تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا فضل تم پر بڑا ہے۔	”وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“ <sup>۱</sup>
---	---

یہاں نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمانے کو اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات و مدارج میں شمار فرمایا۔ اور فرماتا ہے:

اور بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے۔	”وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلِمَ“ <sup>۲</sup>
--	--

اور فرماتا ہے:

ملائکہ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک علم والے لڑکے اسخت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت دی۔	”وَبَشَّرُوا بِإِعْلَمٍ عَلَيْهِمْ“ <sup>۳</sup>
---	--

اور فرماتا ہے:

اور ہم نے حضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا۔	”وَعَنْهُمْ مِنْ لَدُنَّا عِلْمٌ“ <sup>۴</sup>
--	--

وغیرہ آیات، جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کو کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والثاناء میں گتنا۔ اب زید کی جگہ اللہ عزوجل کا نام پاک بیجھے اور علم غیب کی جگہ مطلق علم جس کا ہر چوپائے کو ملنا اور بھی ظاہر ہے اور دیکھئے کہ اس بد گوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریر کس طرح کلام اللہ عزوجل کا رد کر رہی ہے یعنی یہ بد گو خدا کے مقابل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ (یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت

طلب یہ

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۳/۳

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۸/۱۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۸/۵۱

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۲۵/۱۸

امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علوم، اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں حضور اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم کہا جائے، پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم ہوں گا تو پھر علم کو منحلہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے اور اگر التزام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے، اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں، اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقی و عقلي سے ثابت ہے<sup>۱</sup>۔ انتہی۔ پس ثابت ہوا کہ خدا کے وہ سب اقوال اسکی دلیل سے باطل ہیں۔

مسلمانوں دیکھو! کہ اس بد گو نے فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو گالی نہ دی بلکہ ان کے رب (جل وعلا) کے کلاموں کو بھی باطل و مردود کر دیا۔

مسلمانو! جس کی جرات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے ملا دے اور ایمان و اسلام و انسانیت سے آنکھیں بند کر کے صاف کہہ دے کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے، اس سے کیا تعجب کہ خدا کے کلاموں کو رد کرے باطل بتائے پس پشت ڈالے زیر پاملے بلکہ جو یہ سب کچھ کلام اللہ کے ساتھ کر چکا، ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مگر ہاں اس سے دریافت کرو کر آپ کی یہ تقریر خود آپ اور آپ کے اساتذہ میں جاری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر ہے تو کیا جواب ہے؟ ہاں ان بد گویوں سے کہو! کیا آپ حضرات اپنی تقریر کے طور پر جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جاری کی، خود اپنے آپ سے اسے دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم، فاضل، مولوی، ملا، چنیں، چنان فلاں فلاں کیوں کہا جاتا ہے اور حیوانات و بہائم مثلاً کتے سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا۔ ان مناصب کے باعث آپ کے اتباع و اذناب آپ کی تعظیم، تکریم، توقیر کیوں کرتے، دست و پا پر بوسہ دیتے ہیں اور جانوروں مثلاً لوگوں کے ساتھ کوئی یہ برتاب نہیں۔ برتاب اس کی وجہ کیا ہے؟ کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو لوگوں کے، کتنے، سور سب کو حاصل ہے تو چاہیے کہ ان سب کو عالم و فاضل و چنیں و چنان کہا جائے پھر اگر آپ اس کا التزام کریں کہ ہاں ہم سب کو

<sup>۱</sup> حفظ الایمان جواب سوال سوم کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سہارنپور بھارت ص ۸، فظ الایمان مع تغییر العنوان محمد عثمان تاجر الكتب في دریبه کلاں دلیل ص ۷ و ۸

علماء کہیں گے تو۔۔۔ پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، گدھے، کتے، سور سب کو حاصل ہو وہ آپ کے کمالات سے کیوں ہوا؟ اور اگر التراز نہ کیا جائے تو آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدھے، کتے، سور میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ فقط۔

مسلمانو! یوں دریافت کرتے ہی بعوہ تعالیٰ صاف کھل جائے گا کہ ان بد گویوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی صریح شدید گالی دی اور ان کے رب عز و جل کے قرآن مجید کو جا بجا کیسا رو دبا طل کر دیا۔ مسلمانو! خاص اس بد گو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو، ان پر خود ان کے اقرار سے قرآن عظیم کی یہ آیات چسپاں ہوئیں یا نہیں۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے:

<p>اور بے شک ضرور ہم نے جہنم کیلئے پھیلارکھے ہیں۔ بہت سے جن اور آدمی ان کے وہ دل ہیں جن سے حق کو نہیں سمجھتے اور وہ آنکھیں جن سے حق کا راستہ نہیں سوچتے اور وہ کان جن سے حق بات نہیں سنتے۔ وہ چرپا یوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بکے ہوئے۔ وہی گمراہ وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔</p>	<p>"وَلَقَدْ أَذَّى جَهَنَّمَ تُنِيَّرًاٰنِ الْجُنُونَ وَالْإِنْسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذْانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامُ بِلْ هُمْ أَصْلُ طُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ" <sup>۱</sup>"</p>
---	--

اور فرماتا ہے:

<p>بھلا دیکھ تو، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تو اس کا ذمہ لے گا، یا تجھے مگان ہے ان میں بہت کچھ سنتے یا عقل رکھتے ہیں سو وہ نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔</p>	<p>"أَمَرَتْنَاهُمْ أَنْ يَتَخَذُوا لِهَنَاءَهُمْ أَفَأَنْتَ تَلْكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا أَمْ تَحْسُبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بِلْ هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا" <sup>۲</sup>"</p>
---	--

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۷/۲۹

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۵/۲۳ و ۲۳/۲۳

ان بدگویوں نے چوپایوں کا علم تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علم کے برابر مانا۔ اب ان سے پوچھئے کیا تمہارا علم انبیاء یا خود حضور سید الانبیاء علیہ و علیہم الصلوٰۃ والنشاء کے برابر ہے، ظاہرًا سکاد علوی نہ کریں گے اور اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپایوں سے برابری کر دی، آپ تو دوپائے ہیں برابری مانتے کیا مشکل ہے؟ تو یوں پوچھئے تمہارے استادوں، پیروں، ملاوں میں کوئی بھی ایسا گزرا جو تم سے علم میں زیادہ ہو یا سب ایک برابر ہو۔ آخر کہیں تو فرق نکالیں گے تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے اور یہ ان سے علم میں کم ہیں، جب تو انکی شاگردی کی، اور جو ایک مساوی سے کم ہو دوسرا سے بھی ضرور کم ہو گا تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی رو سے چوپایوں سے بڑھ کر گراہ ہوئے اور ان آئیوں کے مصدق ٹھہرے۔

مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔	”گَذِيلَكُ الْعَذَابُ طَلَعَذَابُ الظَّاهِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ“ <sup>۱</sup>
---	--

مسلمانوں یہ حالتیں تو ان کلمات کی تھیں جن میں انبیائے کرام و حضور پر نور سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہاتھ صاف کئے گئے پھر ان عبارات کا کیا پوچھنا جن میں اصلاحۃ بالقصد رب العزت عز جلالہ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہو۔ خدار الاصفاف! کیا جس نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں<sup>۲</sup>، یعنی وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا کہ<sup>۳</sup> اگرچہ اس نے تاویل آیات میں خطا کی مگر تاہم اس کو کافر یا بدعتی خیال کہنا نہیں چاہئے، جس نے کہا کہ<sup>۴</sup> اس کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے<sup>۵</sup> جس نے کہا کہ<sup>۶</sup> اس میں مکفر علماء سلف کی لازم آتی ہے۔ حنفی، شافعی پر طعن و تقلیل نہیں کر سکتا<sup>۷</sup>۔ یعنی خدا کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا بہت سے علماء سلف کا بھی مذہب تھا۔ یہ اختلاف حقیقی شافعی کا سا ہے۔ کسی نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے، کسی نے نیچے، ایسا ہی اسے بھی سمجھو کہ کسی نے خدا کو سچا کہا کسی نے جھوٹا، لہذا<sup>۸</sup> ایسے کو تقلیل و تقسیم سے مامون کرنا چاہیے<sup>۹</sup>۔ یعنی جو خدا کو جھوٹا کہے اسے گراہ کیا ممکنی؟ کہنے کا رنہ کہو۔

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۸/۳۳

<sup>2</sup>

<sup>3</sup>

<sup>4</sup>

<sup>5</sup>

کیا جس نے یہ سب تو اس مکذب خدا کی نسبت بتایا اور یہیں خود اپنی طرف سے با وصف اس بے معنی اقرار کہ "قدرتہ علی الکذب مع امتناع الواقع مسئلہاتفاقیہ ہے"<sup>۱</sup>۔ صاف صریح ہے دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے<sup>۲</sup>۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ خدا سے کذب واقع ہوا، کیا یہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا جو ایسے کو مسلمان سمجھے خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانو! خدا را انصاف، ایمان نام کا ہے کا تھا تصدقیں الہی کا، تصدیق کا صریح مخالف کیا ہے، تکذیب، تکذیب کے کیا معنی ہیں کسی کی طرف کذب منسوب کرنا۔ جب صراحتاً خدا کو کاذب کہہ کر بھی ایمان باقی رہے تو خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے؟ خدا جانے مجوس و ہندو و نظری و یہود کیوں کافر ہوئے؟ ان میں تو کوئی صاف اپنے معبود کو جھوٹا بھی نہیں بتاتا۔ ہاں معبود بر حق کی باقیوں کو یوں نہیں مانتے کہ انہیں اسکی باقی میں ہی نہیں جانتے یا تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا تو دنیا کے پر دے پر کوئی کافر سا کافر بھی شاید نہ لکھے کہ خدا کو خدامانتا، اسکے کلام کو اسکا کلام جانتا اور پھر بے دھڑک کہتا ہو کہ اس نے جھوٹ کہما، اس سے وقوع کذب کی معنی درست ہو گئے۔ غرض کوئی ذی انصاف شک نہیں کر سکتا کہ ان تمام بد گویوں نے منہ بھر کر اللہ و رسول کو گالیاں دی ہیں، اب یہی وقت امتحان الہی ہے، واحد قہار جبار عز جلالہ سے ڈرو اور وہ آیتیں کہ اوپر گزرنیں، پیش نظر رکھ کر عمل کرو۔ آپ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں تمام بد گویوں سے نفرت بھر دے گا۔ ہر گز اللہ و رسول اللہ جل و علا کے مقابل تمہیں انکی حمایت نہ کرنے دے گا۔ تم کو ان سے گھن آئے گی نہ کہ ان کی بیچ کرو، اللہ و رسول کے مقابل انکی گالیوں میں مہمل و بیہودہ تاویل گھڑو۔

للہ انصاف! اگر کوئی شخص تمہارے مال، باب، استاد، پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ کر چھاپے، شائع کرے۔ کیا تم اس کا ساتھ دو گے یا اس کی بات بنانے کو تاویلیں گھڑو کے یا اس کے بخنزے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے؟ نہیں! اگر تم میں انسانی غیرت، انسانی حیمت، مال باب کی عزت حرمت عظمت محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اس بد گو و شتمی کی صورت سے نفرت کرو گے، اسکے سامنے سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاوے گے جو اس کے لئے بناؤ ٹین گڑھے، اسکے بھی دشمن ہو جاؤ گے، پھر خدا کے لئے مال باب کو ایک پلہ میں رکھو

<sup>1</sup><sup>2</sup> امطار الحق رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ وقوع کذب باری تعالیٰ مطیع دت پر شاد بسمی اللہ یاص ۳۱

الله واحد قہار و محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرا پلے میں، اگر مسلمان ہو تو مان باپ کی عزت کو اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے۔ تو واجب واجب، لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشام وہندہ کے ساتھ اس کا ہزار وال حصہ نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کیلئے ان سات نعمتوں کی بشارت ہے۔ مسلمانو! تمہارا یہ ذلیل خیر خواہ امید کرتا ہے۔ کہ اللہ واحد قہار کی ان آیات اور اس بیان شافی واضح الینات کے بعد اس بارے میں آپ سے زیادہ عرض کی حاجت نہ ہو تمہارے ایمان خود ہی ان بدگویوں سے وہی پاک مبارک الفاظ بول اٹھیں گے جو تمہارے رب نے قرآن عظیم میں تمہارے سکھانے کو قوم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نقل فرمائے۔ تمہارا رب عزو جل فرماتا ہے:

بے شک تمہارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں میں اچھی رلیں ہے جب وہ اپنی قوم سے بولے بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ کو ظاہر ہو گئی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ بے شک ضرور ان میں تمہارے لیے عمدہ رلیں تھی۔ اس کیلئے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ سراہیا گیا ہے۔

”قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَآلِنِّينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقُوْمِنَا إِنَّا بِرَبِّنَا وَأَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ وَمَا أَنَا بِعَبْدٍ لَّكُمْ وَإِنَّمَا يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكُلِّمَا بَدَأَ بِإِيمَانِنَا وَبَيْنَمَا أَعْدَأْتُكُمُ الْعَذَابَ وَالْبَعْضَ أَعْدَأْتَنَا بَعْدَ مَا كُنَّا مُؤْمِنِيْنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ (القوله تعالیٰ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ<sup>۱</sup>۔“

یعنی وہ جو تم سے یہ فرمادا ہے کہ جس طرح میرے خلیل اور ان کے ساتھ والوں نے کیا کہ میرے لئے اپنی قوم کے صاف دشمن ہو گئے اور تنکا توڑ کر ان سے جدا کی اور کہہ دیا کہ ہم سے تمہارا کچھ علاقہ نہیں، ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے یہ تمہارے بھلے کو تم سے فرمادا ہے۔

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۶۰/۶۳۲

مانو تو تمہاری خیر ہے نہ مانو تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں جہاں وہ میرے دشمن ہوئے اگلے ساتھ تم بھی سہی، میں تمام جہاں سے غنی ہوں اور تمام خوبیوں سے موصوف، جل و علا و تبارک و تعالیٰ۔ یہ قرآن حکیم کے احکام تھے اللہ تعالیٰ جس سے بھلانی چاہے گا ان پر عمل کی توفیق دے گا مگر یہاں دو فرقے ہیں جن کو ان احکام میں عذر پیش آتے ہیں:

فرقہ اول: بے علم نادان، ان کے عذر و فتنم کے ہیں۔

عذر اول: فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یادوست ہے، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ رب عزوجل نے بار بار بتا کر صراحتہ فرمادیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔

عذر دوم: صاحب یہ بد گو لوگ بھی تو مولوی ہیں، بھلا مولویوں کو کیوں کر کافر یا بر امانیں، اس کا جواب تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

<p>بھلا دیکھو تو جس نے اپنی خواہش کو اپنادینالیا اور اللہ نے علم ہوتے ساتے اسے گراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آنکھوں پر پیٹی چڑھادی تو کون اسے راہ پر لائے اللہ کے بعد تو کیا تم دھیان نہیں کرتے۔</p>	<p>"أَفَرَعِيْتَ مِنِ اتَّخَذَ الَّهَ هُوَهُ وَأَصْلَهُ الَّهُ عَلَيْهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غُشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهُ مَنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَاتَ كَرْوَنَ" <sup>۱</sup></p>
---	--

اور فرماتا ہے:

<p>وہ جن پر توریت کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا ان کا حال اس گدھے کا سا ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، کیا بری مثال ہے ان کی جنہوں نے خدا کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ <sup>۲</sup></p>	<p>"مَكَلِ الْذِينَ حُبِلُوا اللَّثُوْلَةَ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوهَا كَيْلَ الْجَمَارِ يَحِلُّ أَسْفَارًا لِمُؤْسَ مَكَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا إِلَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِيْنَ" <sup>۲</sup></p>
--	---

اور فرماتا ہے:

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۵/۲۳

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۷۷/۵

انہیں پڑھ کر سنا اس کی خبر جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا کہ گمراہ ہو گیا اور ہم چاہتے تو اس علم کے باعث اسے گرے سے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا پیر و ہو گیا تو اس کا حال کتنے کی طرح ہے تو اس پر بوجھ لادے تو زبان نکال کر ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے یہ انکا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو ہمارا یہ ارشاد بیان کرو شاید یہ لوگ سوچیں۔ کیا براحال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ جسے خدا ہدایت کرے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو وہی سراسر نقصان میں ہیں۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ فَإِنَّكَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ  
فَكَانَ مِنَ الْغَوَّيْنِ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَقَعَةً بِهَا وَلَكِنَّهُ أَحْذَرَ إِنِّي  
الَّذِي رَضِيَ وَأَشْبَحَهُؤَلَهُ فَيَمْلِءَ كَشَلَ الْكَلْبِ ۝ إِنْ تَخْوِلْ عَلَيْهِ  
يَهُثُّ أَوْ تَتَرُكُهُ يَهُثُّ ۝ لِكَ مَمْلُأُ الْقَوْمِ الَّذِينَ گَذَبُوا  
إِلَيْنَا ۝ قَاتُلُونَ قَاتُلُونَ لَعَنْهُمْ يَتَعَمَّلُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ  
الَّذِينَ گَذَبُوا إِلَيْنَا وَأَنْفَسُهُمْ كَانُوا يَطْلَمُونَ ۝ مَنْ يَهْدِي اللَّهَ  
فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۝ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكُمُ الْمُخْسُرُونَ ۝ ۱ -

یعنی ہدایت کچھ علم پر نہیں، خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ آیتیں ہیں اور حدیثیں جو گمراہ عالموں کی مذمت میں ہیں انکا شمار ہی نہیں یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے۔ دوزخ کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے انہیں پکڑیں گے، یہ کہیں گے کیا ہمیں بت پوچھنے والوں سے بھی پہلے لیتے ہو؟ جواب ملے گا لیس من یعلم کمن لا یعلم<sup>2</sup>۔ جانے ۲۷۸ اے اے اور انجان برابر نہیں۔  
بھائیو! عالم کی عزت تو اس بنابر تھی کہ وہ نبی کا وارث ہے، نبی کا وارث وہ جو ہدایت پر ہو

۱۔ یہ حدیث طبرانی نے مجم کبیر اور ابو نعیم نے جلیہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ۲۷۸ اے اے

<sup>1</sup> القرآن الکدیم ۲۷۵ / ۲۷۸

<sup>2</sup> شعب الایمان حدیث ۱۹۰۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/ ۳۰۹

اور جب گمراہی پر ہے تو نبی کا وارث ہوا یا شیطان کا؟ اس وقت اس کی تعظیم نبی کی تعظیم ہوتی۔ اب اس کی تعظیم شیطان کی تعظیم ہو گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عالم، کفر سے نیچے کسی گمراہی میں ہو جیسے بدمذہوں کے علماء پھر اس کو کیا پوچھنا جو خود کفر شدید میں ہو اسے عالم دین جاننا ہی کفر ہے نہ کہ عالم دین جان کر اس کی تعظیم۔

بھائیو! علم اس وقت نفع دیتا ہے کہ دین کے ساتھ ہو ورنہ پنڈت یا پادری کیا اپنے بیہاں کے عالم نہیں۔ امیں لکھا بڑا عالم تھا پھر کیا کوئی مسلمان اس کی تعظیم کرے گا؟ اسے تو معلم الملکوت کہتے ہیں یعنی فرشتوں کو علم سکھاتا۔ جب سے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے منہ موڑا۔ حضور ﷺ کا نور کہ پیشانی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں رکھا گیا، اسے سجدہ نہ کیا، اس وقت سے لعنت ابدی کا طوق اس کے گلے میں پڑا، دیکھو جب سے اس کے شاگردان رشید اس کے ساتھ کیا برداشت کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہر رمضان میں مہینہ بھرا سے زنجروں میں جکڑتے ہیں، قیامت کے دن کھینچ کر جہنم میں دھکلیں گے۔ بیہاں سے علم کا جواب بھی واضح ہو گیا اور استاذی کا بھی۔

بھائیو! کروڑ افسوس ہے اس ادعائے مسلمانی پر کہ اللہ واحد قہار اور محمد رسول اللہ سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ استاد کی وقعت ہو، اللہ و رسول سے بڑھ کر بھائی یادوست، یاد نیامیں کسی کی محبت ہو۔ اے رب! ہمیں سچا ایمان دے صدقہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی رحمت کا، آمین۔

**فرقہ دوم:** معاندین و دشمنان دین کے خواذکار ضروریات دین رکھتے ہیں اور صریح کفر کر کے اپنے اوپر سے نام کفر کو مٹانے کو اسلام و قرآن و خدا اور رسول و ایمان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور برآہ انغواء و تیمیس و

عہ: تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی ج ۲ ص ۲۵۵ پر زیر قولہ تعالیٰ تلک الرسل فضلنا: ان الملائكة امروا بالسجود لأدمر لاجل ان نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی جبهة أدم<sup>۱</sup>۔

تفسیر نیشاپوری ج ۲ ص ۷: سجود الملائكة لأدمر إنما كان لاجل نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الذي كان في جبهته<sup>۲</sup>۔ دونوں عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ فرشتوں کا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کرنا اس لئے تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ امنہ

<sup>۱</sup> مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير) تحت الاية ۲۵۳/۲ دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۶۷

<sup>۲</sup> غرائب القرآن وغائب الفرقان تحت الاية ۲۵۳/۲ مصطفی الباجی مصر ۱/۳

شیوه ایسیں وہ باتیں بناتے ہیں کہ کسی طرح ضروریات دین ماننے کی قید اٹھ جائے اسلام فقط طوطے کی طرح زبان سے کلمہ رٹ لینے کا نام رہ جائے، بس کلمہ کا نام لیتا ہو پھر چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اسلام کسی طرح نہ جائے۔

بَلَّكَ اللَّهُ نَّمِيْنَ اَنَّ اَنَّ پَرَّ لَعْنَتِ فَرْمَادِيِّ اَنَّكَ كَفَرْ كَعَسِبِ تَوَانِ مِنْ	"بَلْ لَعْنَةَ هُنَّا لِلَّهِ بِكُفُرِهِمْ مَقْلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ" <sup>۱</sup>
تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ (ت)	

یہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے عدو، عوام کو چھلنے اور خدا نے واحد قہار کا دین بدلتے کرنے چند شیطانی مکر پیش کرتے ہیں۔

مکراوں: اسلام نام کلمہ گوئی کا ہے۔ حدیث میں فرمایا:

جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبَرْ لِي أَجْنَتْ مِنْ جَاءَهُ ۖ	منْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ <sup>۲</sup>
--	--

پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟۔ مسلمانو اڑا ہو شیار خردar، اس مکر ملعون کا حاصل یہ ہے کہ زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَبَرْ لِي نَأَوْيَ اَخْدَى اَكْبَيْثَ اَبْنَ جَانَاهُ، آدمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے، جوتیاں مارے، کچھ کرے اس کے بیٹے ہونے سے نہیں نکل سکتا، یوں ہی جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَبَرْ وہ لیا ب وہ چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اس کا اسلام نہیں بدل سکتا۔ اس مکر کا جواب اسی آیت کریمہ "اللَّمَّا أَحَبَبَ اللَّائِئُ" <sup>۳</sup> میں گزر رہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ نزے ادعائے اسلام پر چھوڑ دیئے جائیں گے اور امتحان نہ ہوگا۔ اسلام <sup>۴</sup> اگر فقط

عہ: حضرت شیخ محمد الف ثانی مکتوبات میں فرماتے ہیں:

محض زبانی کلمہ شہادت کہنا اسلام میں کافی نہیں بلکہ ان تمام امور کی تصدیق ضروری ہے جن کا ضروریات دین سے ہو نادرہتاً معلوم ہے۔ کفر اور کافر سے براءت بھی لازمی ہے تاکہ اسلام کی صحیح صورت تکمیل پائے (ت)

تا اسلام صورت بند <sup>۴</sup>

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۸۸/۲

<sup>۲</sup> المعجم الکبیر حدیث ۲۳۳۸ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۷/۳۸ و المستدرک للحاکم کتاب التوبۃ والانابة دار الفکر بیروت ۳/۲۵۱

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۹/۲

<sup>۴</sup> مکتوبات محمد الف ثانی مکتبہ دو صد و شصت و ششم نوکشور لکھنوا ۳۲۳

کلمہ گوئی کا نام تھا تو وہ بے شک حاصل تھی پھر لوگوں کا گھمنڈ کیوں غلط تھا جسے قرآن عظیم رد فرمادا ہے، نیز تمہارا رب عزو جل فرماتا ہے:

یہ گنوار کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تم فرمادو ایمان تو تم نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع الاسلام ہوئے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں کھاں داخل ہوا۔	<b>قالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلِكُنْ قُوْتُوا أَسْلَمَنَا</b> <b>لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُوْتِكُمْ ۖ ۱</b>
--	---

اور فرماتا ہے:

منافقین جب تمہارے حضور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔	<b>إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنَّكَ لَكَ سُولُّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَكَ سُولُّهُ وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُلُّهُمُ الْجُنُونُ ۚ ۲</b>
--	--

دیکھو کیسی لمبی چوڑی کلمہ گوئی، کیسی کیسی تاکیدوں سے مؤکد، کیسی کیسی قسموں سے موید ہر گز موجب اسلام نہ ہوئی اور اللہ واحد قہار نے ان کے جھوٹے کذاب ہونے کی گواہی دی تو من قال لا اله الا الله دخل الجنة کا یہ مطلب گڑھنا صراحت قرآن عظیم کا رد کرنا ہے۔ ہاں جو کلمہ پڑھتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اسے مسلمان جانیں گے جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل منافی اسلام صادر نہ ہو، بعد صدور منافی ہر گز کلمہ گوئی کام نہ دے گی۔ تمہارا رب عزو جل فرماتا ہے:

خدای قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی اور البتہ، بے شک وہ یہ کفر کا بول، بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔	<b>يَحِيقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كِبَرَةَ الْكُفَّارَ كَفَرُوا وَابَعَدَ إِسْلَامَهُمْ ۖ ۳</b>
--	--

ابن جریر و طبرانی و ابو الحسن و ابن مردویہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۱۳/۳۹

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱/۲۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۷۳/۹

کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پیڑ کے سایہ میں تشریف فرماتھے ارشاد فرمایا عنقریب ایک شخص آئے گا تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک کرخی آنکھوں والا سامنے سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا<sup>۱</sup> تو اور تیرے رفیق کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں؟ وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلا لایا۔ سب نے آکر قسمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کانہ، اس پر اللہ وعز جل نے یہ آیت اشاری کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہ کی اور بے شک ضرور، یہ کفر کا کلمہ بولے اور تیری شان میں بے ادبی کر کے اسلام کے بعد کافر ہو گئے<sup>۲</sup>۔ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ، کلمہ کفر ہے اور اس کا کہنے والا اگرچہ لاکھ مسلمانی کامدی کروڑ بار کلمہ گو ہو، کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔

اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل میں تھے تم فرمادو کیا اللہ اور اسکی آیتوں اور اسکے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔	<p>"وَلَيْسَ سَالَتَهُمْ لِيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا حُوَّشَ وَنَلْعَبُ طَلْقُ أَيُّ اللهُ وَإِيمَهُ وَرَسُولُهُ لَكُلُّمَا تَسْهَلُنَّ عَوْنَ④ لَا تَعْنَتُنِي رُؤْوَاقَنْ كَفَرَتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ" <sup>۲</sup>۔</p>
--	--

ابن ابی شیبہ وابن ابی جریر وابن المنذر وابن حاتم الشیخ امام مجاهد تلمیذ خاص سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت فرماتے ہیں:

یعنی کسی کی اوٹھنی کم ہو گئی، اس کی تلاش تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹھنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے اس پر ایک منافق بولا <sup>۱</sup> محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بتاتے ہیں کہ اوٹھنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا	<p>انہ قآل فی قوله تعالیٰ "وَلَيْسَ سَالَتَهُمْ لِيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا حُوَّشَ وَنَلْعَبُ طَلْقُ" قال رجل من البناء فقيه يحد ثنا محمدان ناقة فلاں بواudi كذا او ما يديره</p>
---	--

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحوالہ ابن جریر والطبرانی وابن مردویہ تحت آیۃ ۲۷ دار احیاء التراث العربي بیروت ۳/۹۲۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۹/۶۵۶

جانیں،

بالغیب۔

اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ اسی کہ کیا اللہ و رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کسلا کراس لفظ کے بہنے سے کافر ہو گئے۔

(دیکھو تفسیر امام ابن حجریر مطبع مصر جلد دہم صفحہ ۱۰۵ او تفسیر در منثور<sup>۱</sup> امام جلال الدین سیوطی جلد سوم صفحہ ۲۵۳) مسلمانو! دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانیں، فلمہ گوئی کام نہ آئی اور اللہ تعالیٰ (عزوجل) نے صاف فرمادیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم غیب سے مطلقاً منکر ہیں۔

دیکھو یہ قول منافق کا ہے اور اس کے قائل کو اللہ تعالیٰ نے اللہ و قرآن و رسول سے ٹھٹھا کرنے والا بتایا اور صاف صاف کافر مرتد ٹھہرا یا اور کیوں نہ ہو، غیب کی بات جانی شان نبوت ہے جیسا کہ امام جعیہ الاسلام محمد غزالی و احمد قسطلانی و مولانا علی قاری و علامہ محمد زر قانی وغیرہم اکابر نے تصریح فرمائی جس کی تفصیل رسائل علم غیب میں بفضلہ تعالیٰ بروجہ اعلیٰ مذکور ہوئی پھر اس کی سخت شامت کمال ضلالت کا کیا پوچھنا جو غیب کی ایک بات بھی، خدا کے بتائے سے بھی، نبی کو معلوم ہے ہونا محال و ناممکن بتاتا ہے، اس کے نزدیک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں اور اللہ کو اتنی قدرت نہیں کہ کسی کو ایک غیب کا علم دے سکے، اللہ تعالیٰ شیطان کے دھوکوں سے پناہ دے۔ آمین۔ ہاں بے خدا کے بتائے، کسی کو ذرہ بھر کا علم مانا، ضرور کفر ہے اور جمیع معلومات الہیہ کو علم مخلوق کا محیط ہونا بھی باطل اور اکثر علماء<sup>۲</sup> کے خلاف ہے، لیکن روز اول سے روز آخر تک کاملاں و ما یکون، اللہ تعالیٰ کے معلومات سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک ذرے کے لاکھوں، کروڑوں حصے برابر، تری کو، کروڑہ کروڑ سمندروں سے ہو بلکہ یہ خود علوم محمد یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا مکٹڑا ہے، ان تمام امور کی تفصیل "الدولۃ المکیہ"<sup>۳</sup> وغیرہ میں ہے۔ خیر تو یہ جملہ معترضہ تھا اور ان شاء اللہ العظیم بہت مفید تھا، اب بحث سابق

ع۱: اس نئے شاخصانے کے رد میں بفضلہ تعالیٰ چار رسائل ہیں: اراحة جوانح الغیب، الجلاء الكامل، ابرار المجنون، میل الهداء، جن میں پہلا ان شاء اللہ مع ترجمہ عنقریب شائع ہوگا اور باقی تین بھی بعونہ تعالیٰ اس کے بعد، وباللہ التوفیق ۱۲ اکاتب غنی عنہ۔

ع۲: اکثر کی قید کا فائدہ رسالہ<sup>۴</sup> الفیوض المکیۃ لمحب الدولۃ المکیۃ<sup>۵</sup> میں ملاحظہ ہو گا ان شاء اللہ تعالیٰ ۱۲ اکاتب غنی عنہ۔

<sup>۱</sup> الدر المنثور بحوالہ ابن ابی شیبہ وابن منذر وابن ابی حاتم وابی الشیخ عن مجاید تحت آیۃ ۶۵ دار احیاء التراث العربي بیروت ۳

<sup>۲</sup> جامع البیان (تفسیر ابن حجریر تحت آیۃ ۶۵ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۰/۶۲)

کی طرف عود کیجئے۔

اس فرقہ باطلہ کا مکر دوم یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامنہ ہب ہے کہ لانکفر احرارًا من اہل القبلة<sup>۱</sup>۔ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔

اور حدیث میں ہے: "جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان<sup>۲</sup> ہے۔" مسلمانو! اس مکر خبیث میں ان لوگوں نے نری کلمہ گوئی سے عدول کر کے صرف قبلہ روئی کا نام ایمان رکھ دیا یعنی جو قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ لے، مسلمان ہے اگرچہ اللہ عزوجل کو جھوٹا کہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دے، کسی صورت کسی طرح ایمان نہیں ٹلتا ع

چوں و ضوئے محکم بی بی تمیز  
(بی بی تمیز کے مضبوط و ضوئی طرح۔ ت)

اولاً: اس مکر کا جواب:

تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

اصل نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ نماز میں پورب یا چھاں کو کرو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور قرآن اور تمام انبیاء پر۔	"لَيْسَ الِّبَرَأُنْ تُؤْلُو أَوْ جُوْهَلُمْ قَبْلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الِّبَرَأَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالنَّبِيِّكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ" <sup>۳</sup> ۔
---	---

دیکھو صاف فرمادیا کہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اصل کار ہے بغیر اس کے نماز میں قبلہ کو منہ کرنا کوئی چیز نہیں،

اور فرماتا ہے:

اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بندہ ہوا	"وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتِهِمْ"
---	--

<sup>۱</sup> منح الروض الازهر شرح الفقه الاکبر عدم جواز تکفیر اہل القبلة دارالبشاائر الاسلامية بيروت ص ۴۲۹

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل استقبال القبلة تدبی کتب خانہ کراچی ۱/۵۶، کنز العمال حدیث ۳۹۹ مؤسسه الرسالہ بيروت ۱/۹۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲/۷۷

<p>مگر اس لئے کہ انہوں نے اللہ و رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔</p>	<p><b>إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وُهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يَعْقِلُونَ إِلَّا وُهُمْ كُلَّ هُوَنَ ۝ ۱ ۔</b></p>
---	---

دیکھو ان کا نماز پڑھنا بیان کیا اور پھر انہیں کافر فرمایا، کیا وہ قبلہ کو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فقط قبلہ کیسا، قبلہ دل و جاں، کعبہ دین و ایمان، سرور عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جانب قبلہ نماز پڑھتے تھے۔ اور فرماتا ہے:

<p>پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم پتے کی باتیں صاف بیان کرتے ہیں علم والوں کیلئے اور اگر قول و قرار کر کے پھر اپنی فتنمیں توڑیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی فتنمیں کچھ نہیں شاید وہ بازاں ہیں۔</p>	<p><b>فَإِنْ تَابُوا وَأَقامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوٰةَ فَإِنَّا نُحَوِّلُ الْأَذْيَانَ ۖ وَنُعَصِّلُ الْأَلْيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَدِيرِهِمْ وَطَعْوَانِ دِيْنِهِمْ فَنَاقَاتُهُمْ أَبِيَّةَ النَّفَرِ إِنَّهُمْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعْنَهُمْ يَمْتَهِنُونَ ۝ ۲ ۔</b></p>
--	---

دیکھو نماز، زکوٰۃ والے اگر دین پر طعنہ کریں تو انہیں کفر کا پیشواؤ، کافروں کا سراغنہ فرمایا۔ کیا خدا اور رسول کی شان میں وہ گتاخیاں دین پر طعنہ نہیں، اس کا بیان بھی سنتے: تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

<p>کچھ یہودی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور سنئے آپ سنائے نہ جائیں اور راعنا کہتے ہیں زبان پھیر کر اور دین میں طعنہ کرنے کو اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سنئے اور مہلت دیجئے تو انکے لئے بہتر اور بہت ٹھیک ہوتا لیکن ان کے کفر کے سبب</p>	<p><b>مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحِّفُّونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَمْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لَيَّا إِلَسْنِتِهِمْ وَطَعَمَا فِي الْرِّيَّنِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَاتُلُوا سَمِعْنَا وَأَعْنَاءَ وَأَسْمَعَ وَأَنْظَرُنَا لَكَانَ حَيْدَرَ اللَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۖ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ</b></p>
---	---

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۵۳/۹

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱۲۱/۹

اللہ نے ان پر لعنت کی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر کم۔	بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١﴾
---	--

کچھ یہودی جب دربار نبوت میں حاضر آتے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہتے تو یوں کہتے سنئے، آپ سنائے نہ جائیں، جس سے ظاہر تودعا ہوتی یعنی حضور کو کوئی ناگوار بات نہ سنائے اور دل میں بدعا کا ارادہ کرتے کہ سنائی نہ دے اور جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے اور یہ بات سمجھ لینے کے لئے مہلت چاہتے تو راعنا کہتے جس کا ایک پہلوئے ظاہر یہ کہ ہماری رعایت فرمائیں اور مراد خنثی رکھتے، یعنی رعونت والا، اور بعض زبان دبا کر راعینا کہتے یعنی ہمارا چروالا۔ جب پہلودار بات دین میں طعنہ ہوئی، تو صریح و صاف کتنا سخت طعنہ ہو گی بلکہ انصاف بکھیجے تو ان بالتوں کا صریح بھی ان کلمات کی شاعت کونہ پہنچتا۔ بہرا ہونے کی دعا یا رعونت یا بگریاں چرانے کی طرف نسبت کو ان الفاظ سے کیا نسبت کہ شیطان سے علم میں متريا پاگلوں چوپايوں سے علم میں ہمسرا اور خدا کی نسبت وہ کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے جو اسے جھوٹا بتائے مسلمان سنی صالح ہے، والعياذ بالله رب العالمين۔

ثانیاً: اس وہم شنیع کو مذہب سید نا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا حضرت امام پر سخت افتراء و اتهام جبکہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر فقه اکبر میں فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں نہ نوپیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی تو جو انہیں مخلوق یا حادث ہے یا اس باب میں توقف کرے یا شک لائے وہ کافر ہے اور خدا کا منکر۔	صفاته تعاليٰ في الازل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف فيها او شک فيها فهو كافر بالله تعالى <sup>2</sup> ۔
---	--

نیز امام ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الوصیۃ میں فرماتے ہیں:

من قال بآن کلام اللہ تعالیٰ مخلوق فهو كافر بالله العظيم <sup>3</sup> ۔	جو شخص کلام اللہ کو مخلوق کہے اس نے عظمت والے خدا کے ساتھ کفر کیا۔
--	--

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۳۶/۳

<sup>2</sup> الفقه الاکبر ملک سراج الدین ایڈسنز کشیری بازار لاہور ص ۵

<sup>3</sup> کتاب الوصیۃ (وصیت نامہ) فصل تقربان اللہ تعالیٰ علی العرش استوی الخ کشیری بازار لاہور ص ۲۸

شرح فقه اکبر میں ہے:

<p>امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ انھوں نے فرمایا میں نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ خلق قرآن میں مناظرہ کیا، میری اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہنے وہ کافر ہے اور یہ قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی بصحت ثبوت کو پہنچا۔</p>	<p>قال فخر الاسلام قد صح عن ابی یوسف انه قال ناظرت ابا حنیفة فی مسیئة خلق القرآن فاتفاق رأي ورأيه على ان من قال بخلق القرآن فهو كافر وصح هذا القول ايضاً عن محمد رحمه الله تعالى<sup>۱</sup></p>
--	--

یعنی ہمارے انہمہ شلاش رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع واتفاق ہے کہ قرآن عظیم کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ کیا معتزلہ و کرامیہ و رواضخ کہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اس قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے، نفس مسئلہ کا جزوئیہ لجھتے۔ امام مذہب حنفی سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ<sup>۲</sup>، کتاب الخراج<sup>۳</sup> میں فرماتے ہیں:

<p>جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشام دے یا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا حضور کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے وہ یقیناً کافر اور خدا منکر ہو گیا اور اس کی جور و اس کے نکاح سے نکل گئی۔</p>	<p>ایمأر جل مسلم سب رسول الله او کذ به او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه زوجته<sup>۲</sup></p>
--	---

دیکھو کیسی صاف تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اسکی جور و نکاح سے نکل جاتی ہے۔ کیا مسلمان اہل قبلہ نہیں ہوتا یا اہل کلمہ نہیں ہوتا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ نہ قبلہ قبول نہ کلمہ مقبول، والعياذ بالله رب العالمين۔

ہلائقاً: اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح انہمہ میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو،

<sup>۱</sup> منح الروض الاذیز بر شرح الفقهاء الکبر القرآن کلام اللہ غیر مخلوق دارالبشاائر الاسلامیہ بیروت ص ۹۵

<sup>۲</sup> کتاب الخراج للامام ابی یوسف فصل فی الحکم فی المرتد عن الاسلام دار المعرفة بیروت ص ۱۸۲

ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر مرتد ہے ایسا کہ جو اسے کافرنہ کہنے خود کافر ہے۔ شفاء شریف و بزاریہ و در رو غررو فتاویٰ خیریہ وغیرہ میں ہے:

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور جو اس کے مذبب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔	<b>اجماع المسلمين ان شاتيه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافرو من شک في عذابه و كفره كفر<sup>۱</sup></b>
--	--

مجع الاحقر و در مختار میں ہے:

جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں اور جو اسکے عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔	<b>واللّهُ لِكُلِّ كَافِرٍ بِسَبْبِ نَبِيٍّ مِّنَ النَّبِيِّاَءِ لَا تَقْبِلْ تَوْبَةَ مَطْلَقاً وَ مِنْ شَكٍ فِي عَذَابِهِ وَ كَفَرٌ كَفَرٌ<sup>۲</sup></b>
---	--

الحمد لله ایہ نفس مسئلہ کا وہ گراں بہا جزئیہ ہے جس میں ان بد گویوں کے کفر پر اجماع تمام امت کی تصریح ہے اور یہ بھی کہ جو انہیں کافرنہ جانے خود کافر ہے۔ شرح فتح اکبر میں ہے:

یعنی موافق میں ہے کہ اہل قبلہ کو کافرنہ کہا جاوے گا مگر جب ضروریات دین یا اجتماعی باطل سے کسی بات کا انکار کریں جیسے حرام کو حلال جانا اور مخفی نہیں کہ ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ کسی آنہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر روانہ نہیں اس سے نزا قبلہ کو منہ کرنا مراد نہیں کہ غالی راضی جو بتتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو وحی میں دھوکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بھیجا تھا	<b>فِي الْمَوَاقِفِ لَا يَكْفُرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ إِلَّا فِيمَا فِيهِ انْكَارٌ مَا عُلِمَ مُجِيئُهُ بِالْمُضْرُورَةِ أَوْ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كَاسْتَهْلَالِ الْمُحْرَمَاتِ إِهْ وَ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرَادَ بِقُولِ عَلِمَائِنَا لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ لِيُسَمِّيْ مُجْرِدَ التَّوْجِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّ الْغَلَةَ مِنَ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ غَلَطٌ</b>
--	--

<sup>۱</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القسم الرابع الباب الاول المطبعة الشرکة الصحافية ۲۰۸/۲، الفتاوی الخیرية بباب المرتدين

دار المعرفة بيروت ۱۰۳

<sup>۲</sup> الدر المختار كتاب الجهاد بباب المرتد مطبع مجتبی دہلی ۱/۳۵۶، مجمع الانہر كتاب فصل في احكام الجزية دار احياء التراث العربي بيروت

اور بعض تو مولیٰ علی کو خدا کہتے ہیں یہ لوگ اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھیں، مسلمان نہیں اور اس حدیث کی بھی میہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔

الوَحْىُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا إِنَّهُ اللَّهُ وَأَنَّصَلُوا إِلَى الْقَبْلَةِ لِيَسْوَا بِمُؤْمِنِينَ وَهُذَا هُوَ الْمَرْادُ بِقَوْلِهِ مِنْ صَلَوةِنَا وَاسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ مُسْلِمٌ<sup>۱</sup> أَهْمَّ مُخْتَصِّرًا۔

یعنی جب کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو اور کوئی بات منافی ایمان نہ کرے۔ اسی میں ہے:

یعنی جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین میں موافق ہیں جیسے عالم کا حادث ہونا، اجسام کا حشر ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہونا اور جو ہم مسئلے ان کی مانند ہیں، تو جو تمام عمر طاعتوں اور عبادتوں میں رہے اسکے ساتھ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم قدیم ہے یا حشر نہ ہو کا یا اللہ تعالیٰ جزئیات کو نہیں جانتا وہ اہل قبلہ سے نہیں اور اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ سے کسی کو کافرنہ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اسے کافرنہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفر اس سے صادر نہ ہو۔

اعلم ان المراد باهله القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحضر ا لا جсад وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات وما اشبه ذلك من المسائل اليهيات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اونفي الحشر اونفي علميه سبحنه بالجزئيات لا يكون من اهل القبلة وان المراد بعدم تکفیر احد من اهل القبلة عند اهل السننة لا يکفر مالم يوجد شیئ من امامات الكفر وعلماته ولم يصدر عنه شیئ من موجباته<sup>۲</sup>۔

امام اجل سیدی عبد العزیز بن احمد بن محمد بنخاری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحقیق شرح

<sup>۱</sup> منح الروض الا زبر شرح الفقه الا کبر مطلب في ايراد الالفاظ المکفرة الخ دارالبشاائر اسلامیہ بیروت ص ۲۳۶ - ۲۳۷

<sup>۲</sup> منح الروض الا زبر شرح الفقه الا کبر عدم جواز تکفیر اہل القبلة دارالبشاائر اسلامیہ بیروت ص ۲۲۹

اصول حسامی میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی بدمذہب اگر اپنی بدمذہبی میں غالی ہو جس کے سبب اسے کافر کہنا واجب ہو تو اجماع میں اس کی مخالفت، موافقت کا کچھ اعتبار نہ ہو گا کہ خطے سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لئے آئی ہے اور وہ امت ہی سے نہیں اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان اعتقاد کرتا ہوا س لئے کہ امت قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان کا نام ہے اور یہ شخص کافر ہے اگرچہ اپنی جان کو کافرنہ جانے۔</p>	<p>ان غلافیہ (ای فی هوا) حتیٰ وجب اکفارہ بہ لا یعتبر خلافہ و وفاقة ایضاً العدم دخوله فی مسٹی الامة المشهود لها بالعصبة وان صلی الى القبلة واعتقد نفسہ مسلیماً لان الامة ليست عبارةً من المسلمين الى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وان كان لا يدرى انه كافر<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

رد المحتار میں ہے:

<p>یعنی ضروریات اسلام سے کسی چیز میں خلاف کرنے والا بالاجماع کافر ہے اگرچہ اہل قبلہ سے ہو اور عمر بھر طاعات میں بسر کرے جیسا کہ شرح تحریر میں امام بن الحمام نے فرمایا۔</p>	<p>الخلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وان كان من اهل القبلة المواذب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

کتب عقائد وفقہ و اصول ان تصریحات سے ملالا مال ہیں۔

رابعًا: خود مسئلہ بدیہی ہے کیا جو شخص پانچ وقت قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور ایک وقت مہادیو کو سجدہ کر لیتا ہو، کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ کو جھوٹا کہنا یا محمد رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنا، مہادیو کے سجدے سے کہیں بدتر ہے اگرچہ کفر ہونے میں برابر ہے و ذلك ان الكفر بعضه اخبث من بعض (اور یہ اس لئے کہ بعض کفر بعض سے خبیث تر ہے) وجہ یہ کہ بت کو سجدہ علامت تکذیب خدا ہے اور علامت تکذیب میں تکذیب کے برابر نہیں ہو سکتی اور سجدہ میں یہ احتمال بھی نکل سکتا ہے کہ محض تھیت و مجرماً مقصود ہونہ عبادت۔

<sup>۱</sup> التحقیق شرح السامی باب الاجماع نوکشون لکھنؤص ۲۰۸

<sup>۲</sup> رد المحتار کتاب الصلوة بباب الامامة دار احياء التراث العربي بيروت ۱/۷۷

اور محض (ع) تحيت فی نفسہ کفر نہیں و الہذا اگر مثلاً کسی عالم یا عارف کو تحریۃ سجدہ کرے، گنہگار ہو گا، کافرنہ ہو گا امثال بت میں شرع نے مطلقاً حکم کفر بر بنائے شعار خاص کفر رکھا ہے۔ بخلاف بد کوئی حضور پر نور سید عالم، کہ فی نفسہ کفر ہے جس میں کوئی اختال اسلام نہیں۔

اور میں یہاں اس فرق پر بناء نہیں رکھتا کہ ساجد صنم کی توبہ باجماع امت مقبول ہے مگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ میزراہا نہ دین کے نزدیک اصلًا قبول نہیں اور اسی کو ہمارے علماء حنفیہ سے امام برازی و امام محقق علی الاطلاق ابن المام و علامہ مولیٰ خسرو صاحب دررو و غرر و علامہ زین بن نجیم صاحب بحر الرائق و اشیاه و النظائر و علامہ عمر بن نجیم صاحب نہر الفاقع و علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ غزی صاحب تیور الابصار و علامہ خیر الدین رملی صاحب فتاویٰ خیریہ و علامہ شیخی زادہ صاحب مجمع الانحر و علامہ مدفن محمد بن علی حسکفی صاحب

عہ: شرح موافق میں ہے:

اس کا سورج کو سجدہ کرنا بظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق نہیں کرتا ہے اور ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے عدم ایمان کا حکم لگایا ہے۔ یہ حکم اس وجہ سے نہیں لگایا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا ایمان کی حقیقت میں داخل ہے یہاں تک کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے سورج کو سجدہ بطور تنظیم اور اس کو معبد سمجھ کر نہیں کیا بلکہ اس کو سجدہ کیا در آن حالیکہ اس کا دل تقدیق و ایمان کے ساتھ مطمئن تھا تو عند اللہ اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا اگرچہ بظاہر اس پر کفر کا حکم جاری کیا جائیگا۔ (ت)

سجودہ لها یدل بظاہرہ انه ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاہر فلذما حکمنا بعدم ایمانه لالان عدم السجود لغير الله دخل في حقيقة الايمان حتى لو علم انه لم یسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم یحکم بکفره فيما یأبینه وبين الله وان اجرى عليه حکم الكفر في الظاہر<sup>۱</sup> امنه۔

<sup>۱</sup> شرح المواقف المرصد الثالث المقصد الاول منشورات الشرييف الرضي قم ایران ۳۲۹/۸

در مختار وغیر حُمْمَ عِمَانَدَ كَبَارَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ النَّفَارَ نَعْتَصِيرَ فَرِمَاءِ: بِبِيدِ ان تحقیق المسئلۃ فی الفتاؤی الرضویہ (علاوه ازیں مسئلے کی تحقیق فتاویٰ رضویہ میں ہے۔ ت) اس لئے کہ عدم قبول توبہ صرف حاکم اسلام کے یہاں ہے کہ وہ اس معاملے میں بعد توبہ بھی سزاۓ موت دے ورنہ اگر توبہ صدق دل سے ہے تو عند الله مقبول ہے، کہیں یہ بد گو، اس مسئلے کو دستاویز نہ بنالیں کہ آخر توبہ قبول نہیں پھر کیوں تائب ہوں، نہیں نہیں توبہ سے کفر مت جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے، جہنم ابدی سے نجات پاؤ گے، اس قدر پر اجماع ہے۔ کما فی رِدِ المحتار وغیرہ (جیسا کہ ردِ المحتار وغیرہ میں ہے۔ ت) واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس فرقہ بے دین کا مکر سوم یہ ہے کہ فقه میں لکھا ہے جس میں ننانوے با تین کفر کی ہوں اور ایک بات اسلام کی تو اس کو کافرنہ کہنا چاہیے۔

اوًا: یہ مکر خبیث سب مکروں سے بدتر و ضعیف جس کا حاصل یہ کہ جو شخص دن میں ایک بار اذان دے یادو رکعت نماز پڑھ لے اور ننانوے<sup>۹۹</sup> بار بہت پوچھے، سکھ پھونکے، گھنٹی بجائے وہ مسلمان ہے کہ اس میں ننانوے با تین کفر کی ہیں تو ایک اسلام کی بھی ہے۔ یہی کافی ہے حالانکہ مومن تو مومن کوئی عاقل اسے مسلمان نہیں کہہ سکتا۔

ثانیًا: اس کی رو سے سوادہریے کے کہ سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو، تمام کافر، مشرک، مجوس، ہندو و نصاری یہود وغیرہم دنیا بھر کے کفار سب کے سب مسلمان ٹھہر جاتے ہیں کہ اور بالتوں کے منکر سبی آخر وجود خدا کے تو قائل ہیں۔ ایک بھی بات سب سے بڑھ کر اسلام کی بات بلکہ تمام اسلامی بالتوں کی اصل الاصول ہے خصوصاً کفار فلاسفہ و آریہ وغیرہم کہ بزم عم خود توحید کے بھی قائل ہیں اور یہود و نصاری توبڑے بھاری مسلمان ٹھہریں گے کہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے کلاموں اور ہزاروں نبیوں اور قیامت و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و نار وغیرہ بکثرت اسلامی بالتوں کے قائل ہیں۔

ثالثاً: اس کے رد میں قرآن عظیم کی وہ آیتیں کہ اوپر گزریں کافی وافی ہیں جن میں باصف کلمہ گوئی و نماز خوانی صرف ایک ایک بات پر حکم تکفیر فرمادیا کہیں ارشاد ہوا:

وہ مسلمان ہو کر اس کلمے کے سبب کافر ہو گئے۔	"كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ" <sup>۱</sup>
---	--

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۹/۷۲

کہیں فرمایا:

بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو پچھے ایمان کے بعد۔	لَا تَعْتَذِرُ وَأَقْدِدُ الْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ <sup>۱</sup>
---	--

حالانکہ اس مکر خبیث کی بناء پر جب تک ۹۹ سے زیادہ کفر کی باتیں جمع نہ ہو جاتیں، صرف ایک کلمہ پر حکم کفر صحیح نہ تھا۔ ہاں شاید اس کا یہ جواب دیں کہ خدا کی غلطی یا جلد بازی تھی کہ اس نے دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا، کلمہ گویوں، اہل قبلہ کو دھکے دے دے کر، صرف ایک لفظ پر، اسلام سے نکلا اور پھر زردستی یہ کہ لاعتندر و اذر بھی نہ کرنے دیا نہ عذر سننے کا قصد کیا۔ افسوس کہ خدا نے پیر نجیب یاندھیہ لکچر یا ان کے ہم خیال کسی وسیع الاسلام ریفارمر سے مشورہ نہ لیا "أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلَمِيِّينَ<sup>۲</sup>"۔

(ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔ت)

رابعًا: اس مکر کا جواب: تمہارا رب عزو جل فرماتا ہے:

<p>تو کیا اللہ کے کلام کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے اسکا بدلہ نہیں مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کی طرف پلٹے جائیں گے اور اللہ تمہارے کو تکوں سے غالباً نہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے عقلیٰ نیچ کر دنیا خریدی تو ان پر سے کبھی عذاب ہلاکا ہونے انکو مدد پہنچے۔</p>	<p>"أَكْسُؤُمُنُونَ بِعِصْمِ الْكَلِبِ وَتَكْفُرُونَ بِعِصْمِ فَيَا جَاهَّأَعْمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْمُمْ إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَى أَسْدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>۳</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِإِلَّا خَرْزٌ فَلَا يُعْنَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ<sup>۴</sup>"۔</p>
--	--

کلام الہی میں فرعن کجھے اگر ہزار باتیں ہوں تو ان میں سے ہر ایک بات کاماننا ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ۹۹۹ مانے اور صرف ایک نہ مانے تو قرآن عظیم فرمادا ہے کہ وہ ان ۹۹۹ کے ماننے سے مسلمان نہیں بلکہ صرف اس ایک کے نہ ماننے سے کافر ہے، دنیا میں اس کی رسوائی ہو گی اور آخرت میں اس پر سخت تر عذاب جو ابد الآباد تک کبھی موقوف ہونا کیا معنی؟

ایک آن

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۶/۹

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱۸/۱۱

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۸۵/۲

کو ہلاک بھی نہ کیا جائے گا نہ کہ ۹۹۹ کا انکار کرے اور ایک کومان لے تو مسلمان ٹھہرے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ بشادت قرآن عظیم خود صریح کفر ہے۔

خامساً: اصل بات یہ ہے کہ فقہاء کرام پر ان لوگوں نے جتنا افتراء اٹھایا، انہوں نے ہرگز کہیں ایسا نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے بہ حوصلت یہود "یُحَرِّقُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ"<sup>۱</sup> یہودی بات کو اس کے ٹھکانوں سے پھیرتے ہیں۔ تحریف تبدیل کر کے کچھ کا پکھ بنا لیا، فقہاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں ننانوے با تین کفر کی اور ایک اسلام کی ہو وہ مسلمان ہے۔ حاشاللہ! بلکہ امت کا جماعت ہے کہ جس میں ننانوے ہزار با تین اسلام کی اور ایک کفر کی ہو وہ یقیناً کافر ہے۔ ۹۹ قطرے گلاب میں ایک بوند پیشاب کا پڑ جائے، سب پیشاب ہو جائے گامگر یہ جاہل کہتے ہیں ننانوے قطرے پیشاب میں ایک بوند گلاب کا ڈال دو، سب طیب و طاہر ہو جائے گا۔ حاشا کہ فقہاء تو فقہاء کوئی ادنیٰ تمیز والا بھی ایسی جہالت بخے۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں سو پہلو نکل سکیں، ان میں ۹۹ پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام بھی تو ہے، کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو<sup>۲</sup> اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں اس کی مراد کوئی پہلو کے کفر ہے تو ہماری تاویل سے اسے فائدہ نہ ہو گا۔ وہ عند اللہ کافر ہی ہو گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً زید کہے "عمر و کو علم قطعی یقینی غیب کا ہے"۔ اس کلام میں اتنے پہلو ہیں:

(۱) عمر و اپنی ذات سے غیب دان ہے یہ صریح کفر و شرک ہے۔

تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ (ت)	"فُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ طَّ" <sup>۲</sup>
---	--

(۲) عمر و آپ تو غیب دان نہیں مگر جو علم غیب رکھتے ہیں۔ ان کے بتائے سے اسے غیب کا علم یقینی ہو جاتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔

جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ (ت)	"تَبَيَّنَتِ الْجِنُونُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيَسْتُوا فِي الْعَذَابِ الْهُمَّيْنِ" <sup>۳</sup>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۶/۳

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۵/۲۷

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۳/۳۳

- (۳) عمر و نجومی ہے۔

(۴) رمال ہے۔

(۵) سامندر ک جانتا، ہاتھ دیکھتا ہے۔

(۶) کوئے وغیرہ کی آواز۔

(۷) حشرات الارض کے بدن پر گرنے۔

(۸) کسی پرندے یا حشی چرندے کے دانہ یا بائیں نکل کر جانے،

(۹) آنکھ یا دیگر اعضاء کے پھٹ کنے سے شگون لیتا ہے۔

(۱۰) پانسہ پھینکتا ہے۔

(۱۱) فال دیکھتا ہے۔

(۱۲) حاضرات سے کسی کو معمول بنا کر اس سے احوال پوچھتا ہے۔

(۱۳) مسکریزم جانتا ہے۔

(۱۴) جادو کی میز،

(۱۵) روحوں کی تختی سے حال دریافت کرتا ہے۔

(۱۶) قیانہ دان ہے۔

(۱۷) علم زایر جس سے واقف ہے ان ذرائع سے اسے غیب کا علم یقینی قطعی ملتا ہے، یہ سب بھی کفر ہیں ۔۔۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں : (۱)

جو شخص نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ امام حمد و حاکم نے بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

من اتى عرافاً او كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل  
عليٌّ محمد صلٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه، احمد<sup>1</sup> والحاكم  
بسنٰد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

عہ: یعنی جبکہ ان کی وجہ سے غیب کے علم قطعی یقین کا ادعا کیا چاہئے جیسا کہ نفس کلام میں مذکور ہے ۲۰ امنہ۔

<sup>١</sup> المستدرک على الصحيحين كتاب الایمان التشدید في اتیان الكاهن مكتب المطبوعات الاسلامية /٨، مسنّد احمد بن حنبل مسنّد ابی بريدة المكتاب الاسلامي بيروت ٢٠٩٣/٢

وَلَا حَمْدُ لِإِلَهٍ مِّنْ دُنْعَىٰ إِلَّا عَنْهُ يَرْجُونَ  
مَيْنَازِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>1</sup>

(۱۸) عمر و پر وحی رسالت آتی ہے اس کے سبب غیب کا علم یقینی پاتا ہے جس طرح رسولوں کو ملتا تھا، یہ اشد کفر ہے۔

ہاں (محمد) اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (ت) ۲

**وَلِكُنْ سَرْسُوْلَ اللّٰهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّنَ طَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلٰيْهِمَا ﴿٤﴾**

(۱۹) وحی تو نہیں آتی مگر بذریعہ الہام جمع غیوب اس پر متناش ف ہو گئے ہیں، اس کا علم تمام معلومات الہی کو محیط ہو گیا۔ یہ یوں کفر ہے اس نے عمر و کو علم میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی کہ حضور کا علم بھی جمع معلومات الہی کو محظٹ نہیں۔

<p>تم فرماؤ کیا بر ار ہیں جانے والے اور انجان۔ (ت)</p> <p>جس نے کہا کہ فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے، اس نے آپ پر عیوب لگایا، لہذا اس کا حکم شامتم جیسا ہے۔ نسیم الریاض (ت)</p>	<p>فُلْ هُلْ بِسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ<sup>3</sup></p> <p>من قال فلان اعلم منه فقد عابه فحكمه حكم الساب نسیم الریاض<sup>4</sup>۔</p>
--	--

(۲۰) جمع کا احاطہ نہ سہی مگر جو علوم غیب اسے الہام سے ملے ان میں ظاہر ہا باطنًا کسی طرح کسی رسول انس و ملک کی وساطت و تبعیت نہیں اللہ تعالیٰ نے بلا وسط رسول اصلانگا سے غیوب پر مطلع کیا، یہ بھی کفر ہے:

"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعُكُمْ عَنِ الْغَيْبِ وَلَكِنْ اُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا

<sup>١</sup> سنن أبي داود كتاب الكهانة والتطيير بباب النهي عن اتيان الكهان آفتاً عالم يرليس لاہور ۱۸۹ / ۲

٢ القرآن الكريم / ٣٣٠

القرآن الكريم ٣٩/٩

<sup>٤</sup> نسيم الرياض في شرح الشفاء الباب الاول مركز هيلستن جournals الهندي ٣٣٥/٢

<p>علم دیدے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ (ت)</p> <p>غیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پندیدہ رسولوں کے۔</p>	<p>اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ سَاعِدِهِ مَنْ يَشَاءُ<sup>۱</sup></p> <p>"عِلْمُ الْعَيْنِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْنِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَنْتَفَى مِنْ رَسُولِي"<sup>۲</sup></p>
--	---

(۲۱) عمر و کور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے سمعاً یا عیناً یا الہاماً بعض غیوب کا علم قطعی اللہ عزوجل نے دیا یاد دیتا ہے، یہ اختال خالص اسلام ہے تو محققین فقہاء اس قائل کو کافرنہ کہیں گے اگرچہ اس کی بات کے اکیس پہلوؤں میں بیس کفر ہیں مگر ایک اسلام کا بھی ہے اختیاط و تحسین ظن کے سبب اس کا کلام اسی پہلو پر حمل کریں گے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلو کے کفر ہی مراد لیا، نہ کہ ایک ملعون کلام، تکذیب خدا یا تنقیص شان سید انبیاء علیہ و علیہم الصلوٰۃ والثناٰ میں صاف، صریح، ناقابل تاویل و توجیہ ہو، اور پھر بھی حکم کافرنہ ہو، اب تو اسے کافرنہ کہنا، کفر کو اسلام مانا ہوگا، اور جو کفر کو اسلام مانے خود کافر ہے۔ اسی شفاء و برازیہ در و بحر و نہر و فتاویٰ خیر یہ و مجمع الانحر و در مختار و در مختار و غیرہ کتب معتمدہ سے سن چکے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے، کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مگر یہود منش لوگ فقہائے کرام پر افتراء سخیف اور ان کے کلام میں تبدیل و تحریف کرتے ہیں۔

<p>اب جانا چاہتے ہیں نالم کہ کس کروٹ پر پٹا کھائیں گے۔</p>	<p>"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَّا مُنْكَبِ يَمْقِلُونَ<sup>۳</sup>"</p>
--	--

شرح فقه اکبر میں ہے:

<p>تحقیق مشائخ نے مسئلہ تکفیر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس میں ننانوے اختال کفر کے ہوں اور ایک اختال نفی کفر کا ہو تو اولیٰ یہ ہے مفتی اور قاضی اس کو نفی کفر کے اختال</p>	<p>قد ذکرو ا ان المسالة المتعلقة بالکفر اذا كان لها تسع و تسعون احتمالاً للکفر و احتمال واحد في نفيه فالا ول للمفتي والقاضي</p>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۱۷۹/۳

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۲۲۲۵/۷۲

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۲۲۷/۲۲

پر محمول کرے۔ (ت)	ان یعمل بالاحتیال النافیٰ <sup>۱</sup>
فتاویٰ خلاصہ و جامع الفصولین و محيط و فتاویٰ عالمگیر وغیرہا میں ہے:	
<p>اگر مسئلہ میں متعدد وجوہ موجب کفر ہوں اور فقط ایک تکفیر سے مانع ہو تو مفتی و قاضی پر لازم ہے کہ اسی وجہ کی طرف میلان کرے اور مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے کفر کا فتویٰ نہ دے۔ پھر اگر درحقیقت قائل کی نیت میں وہی وجہ ہے جو تکفیر سے مانع ہے تو وہ مسلمان ہے ورنہ مفتی و قاضی کا کلام کو اس وجہ پر محمول کرنا جو موجب تکفیر نہیں ہے، قائل کو کچھ نفع نہ دے گا۔ (ت)</p>	<p>اذا كانت في المسألة وجوه توجيه وجوب التكفير وجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى والقاضى ان يسمى الى ذلك الوجه ولا يفتى بكفره تحسينًا للظن بالسلام ثم ان كانت نية القائل الوجه الذى يمنع التكفير فهو مسلم وان لم يكن لايتفعه حمل المفتى كلامه على وجه لا يوجب التكفير<sup>۲</sup></p>

اسی طرح فتاویٰ برازیہ و بحر الرائق و مجمع الانہر و حدیقہ ندیہ وغیرہا میں ہے:

تاتار خانیہ و بحر و سل الحسام و تنبیہ الولاة وغیرہا میں ہے:

<sup>۱</sup> منح الروض الازهر في شرح فقه الاكابر مطلب يجب معرفة المكفرات الخ دارالبشاير الاسلامية ص ۴۴۵

<sup>۲</sup> خلاصہ الفتاویٰ کتاب الالفاظ الکفر الفصل الثانی مکتبہ حبیبیہ کونسل ۳/۸۲، جامع الفصولین الفصل الثامن والثلاثون فی مسائل کلمات

الکفر اسلامی کتب خانہ کراچی ۲۹۸/۲، البھیط البرھانی فصل فی مسائل المرتدین واحکامہم داراحیاء التراث العربی بیروت ۵/۵۵۰،

الفتاویٰ ہندیہ کتاب السیر الباب التاسع دارالکتب العلمیہ بیروت ۳/۳۰۰، دالمحتار کتاب الجہاد باب المرتد داراحیاء التراث العربی

بیروت ۳/۲۸۵، الفتاویٰ البزاڑیہ علی هامش الفتاویٰ ہندیہ کتاب الالفاظ تكون اسلاماً او کفرًا نورانی کتب خانہ پشاور ۶/۳۲۱، بحر الرائق

كتاب السير باب احكام المرتدین ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۵/۱۲۵، مجمع الانہر شرح ملتقی الابحر کتاب السیر باب المرتد داراحیاء

التراث العربی بیروت ۱/۲۸۸، الحدیقۃ الندیۃ شرح الطریقۃ المحمدیۃ و الاستخفاف بالشریعۃ کفر الخ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد

الفتاویٰ التاتار خانیہ کتاب احکام المرتدین ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی ۵/۳۰۲

<p>احتمال کے ہوتے ہوئے تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کا مقتضی ہے اور احتمال کی موجودگی میں انتہائی جرم نہ ہوا۔ (ت)</p>	<p>لایکفر بالمحتمل لان الکفر نهایة في العقوبة فیستند عی نهایةً في الجنایة و مع الاختیال لانهایة<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

بحر الرائق و تنویر الابصار و حدیثه ندبیہ و تنبیہ الولاة و سل الحسام و غيرہا میں ہے:

<p>جس نے ایسے مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ دینے سے اجتناب کیا جس کے کلام کی تاویل ممکن ہے، اس نے اچھا کہا۔ (ت)</p>	<p>والذی تحرر انہ لایقٰتی بکفر مسلمٰ امکن حمل کلامہ علی محملٰ حسنٰ<sup>۲</sup> الخ۔</p>
--	---

دیکھو ایک افظع کے چند احتمال میں کلام ہے نہ کہ ایک شخص کے چند اقوال میں، مگر یہودی بات کو تحریف کر دیتے ہیں۔

فائدہ جلیلہ: اس تحقیق سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ بعض فتاویٰ مثل فتاویٰ قاضی خان وغیرہ میں جو اس شخص پر کہ اللہ ورسول کی گواہی سے نکاح کرے یا کہ ارواح مشائخ حاضر وواقف ہیں یا کہ ملائکہ غیب جانتے ہیں بلکہ ہے مجھے غیب معلوم ہے، حکم کفر دیا، اس سے مراد وہی صورت کفریہ مثل ادعائے علم ذاتی وغیرہ ہے۔ ورنہ ان اقوال میں تو ایک چھوڑ متعدد احتمال اسلام کے ہیں کہ یہاں علم غیب قطعی، یقینی کی تصریح نہیں اور علم کا اطلاق ظن پر شائع وذائع ہے تو علم ظنی کی حق بھی پیدا ہو کر اکیس<sup>۱</sup> کی جگہ بیالیس احتمال نکلیں گے

<sup>۱</sup> الفتاوى التأثار خانىہ کتاب احکام المرتدین ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی ۵/۳۵۹، سل الحسام الہندی لنصرۃ مولانا خالد النقشبندی رسالہ من رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی لاہور ۲/۳۱۶، تنبیہ الولاة والحكام علی احکام شاتم خیر الانام رسالہ من

رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی لاہور ۱/۳۲۲، بحر الرائق کتاب السیر باب احکام المرتدین ایچ ایم سعید کراچی ۵/۱۲۵، رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی لاہور ۲/۳۲۲، بحر الرائق کتاب السیر باب احکام المرتدین ایچ ایم سعید

<sup>۲</sup> الدر المختار تنویر الابصار کتاب الجهاد باب المرتد مطبع مجتبائی دہلی ۱/۳۵۶، بحر الرائق کتاب السیر باب احکام المرتدین ایچ ایم سعید

کراچی ۵/۱۲۵، تنبیہ الولاة والحكام علی احکام شاتم خیر الانام رسالہ من رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی لاہور ۱/۳۲۲، سل الحسام

الہندی لنصرۃ مولانا خالد النقشبندی رسالہ من رسائل ابن عابدین سہیل اکیڈمی لاہور ۲/۳۱۶، الحدیثہ الندية شرح الطریقة

المحمدیہ والاستخفاف بالشريعة کفر الخ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۱/۳۰۲

اور ان میں بہت سے کفر سے جدا ہوں گے کہ غیب کے علم ظنی کا ادعاء کفر نہیں۔ بحر الرائق و رد المحتار میں ہے:

<p>ان مسائل سے معلوم ہو گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کر دہ کو حلال گمان کیا وہ کافرنہ ہو گا کافر تو حرام کو حلال اعتقاد کرنے سے ہو گا۔ اس کی نظیر وہ ہے جو قرطبی نے شرح مسلم میں ذکر کیا کہ ظن غیب جائز ہے جیسا نجومی اور رملی کا کسی امر عادی کے تجربہ کی بنیاد پر مستقبل میں کسی امر کے واقع ہونے کا ظن۔ یہ ظن صادق ہے۔ اور جو منموع ہے وہ علم غیب کا ادعاء ہے، اور ظاہر ہے کہ ظن غیب کا ادعاء حرام ہے کفر نہیں۔ بخلاف علم غیب کے ادعاء کے اھ۔ بحر میں زائد ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نکاح محرم کے بارے میں مشائخ نے کہا ہے کہ اگر اس کو حلال کا ظن تھا تو بالاجماع حد نہیں لگائی جائیگی بلکہ تعزیر لگائی جائے گی، جیسا کہ ظہیریہ وغیرہ میں ہے۔ اس کی تکفیر کا قول کسی نے نہیں کیا، یوں نہیں اس کی نظر اتر میں ہے۔ (ت)</p>	<p>علم من مسائلهم هنا ان من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه الظن لا يكفر و انا يكفر اذا اعتقد الحرام حلالاً و نظيرة ما ذكره القرطبي في شرح مسلم ان ظن الغيب جائز كظن المنجم و الرمال بوقوع شيء في المستقبل بتتجربة امير عادى فهو ظن صادق والممنوع ادعاء علم الغيب والظاهر ان ادعاء ظن الغيب حرام لا كفر بخلاف ادعاء العلم <sup>1</sup> اهـ زاد في البحر الاتر انهم قالوا في نكاح المحرم لو ظن الحل لا يحد بالاجماع و يعزز كما في الظہیریۃ و غيرها ولم يقل احد انه يكفر و كذلك في نظائره <sup>2</sup> اه</p>
--	--

تو کیوں نکر ممکن ہے کہ علماء با وصف ان تصریحات کے کہ ایک احتمال اسلام بھی نافی کفر ہے جہاں بکثرت احتمالات اسلام موجود ہیں۔ حکم کفر لگائیں لاجرم اس سے مراد ہی خاص احتمال کفر ہے مثل ادعائے علم ذاتی وغیرہ ورنہ یہ اقوال آپ ہی باطل اور انہ کرام کی اپنی ہی تحقیقات عالیہ کے مخالف ہو کر خود ذاہب وزائل ہوں گے، اس کی تحقیق جامع الفضولین و رد المحتار و حاشیہ علامہ نوح ولطفقط و فتاویٰ حجۃ و تاتار خانیہ مجع الاحکم و حدیقہ ندیہ و سل الحسام وغیرہ اکتب میں ہے۔ نصوص عبارات رسائل علم غیب مثل اللوئ المکنون

<sup>1</sup> رد المحتار کتاب الحدود بباب الوطء الذى يجب الحدود الخ دار احياء التراث العربي بيروت ۱۵۲/۳

<sup>2</sup> البحر الرائق کتاب الحدود بباب الوطء الذى يجب الحدود الخ دار احياء التراث العربي بيروت ۱۶/۵

وغيرہا میں ملاحظہ ہوں، وبِ اللہ التوفیق، یہاں صرف حدیقة ندیہ شریف کے یہ کلمات شریفہ بس ہیں:

<p>یعنی کتب فتاویٰ میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزム کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلوئے کفر مراد لیا ہو ورنہ گز کفر نہیں۔</p>	<p>جیع ما وقع في كتب الفتاوی من كلمات الكفر التي صرحت المصنفوون فيها بالجزم بالكفر يكون الكفر فيها محبولاً على ارادۃ قائلها معنی علوا به الكفر اذا لم تكن ارادۃ قائلها بذلك فلا كفر<sup>۱</sup> اه مختصرًا۔</p>
--	---

ضروری تعبیر: احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو صریح بات میں تاویل نہیں سنی جاتی ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ مثلاً زید نے کہا خدا دو ہیں، اس میں یہ تاویل ہو جائے کہ لفظ خدا سے بحذف مضاف حکم خدا مراد ہے یعنی قضاء دو ہیں، مبرم و معلق۔ جیسے قرآن عظیم میں فرمایا:

<p>مگر یہ کہ اکنہ پاس آئے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا امر۔ (ت)</p>	<p>إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ<sup>۲</sup> اَمْرُ اللَّهِ۔</p>
--	--

عمرو کہے میں رسول اللہ ہوں، اس میں یہ تاویل گڑھ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی، ایسی تاویلیں زندگی مسموع نہیں۔ شفاء شریف میں ہے:

<p>صریح لفظ میں تاویل کا دلخواہی نہیں سناجاتا۔</p>	<p>ادعاءٌ التاویل فی لفظٍ صراحٍ لا یقبل<sup>۳</sup>۔</p>
--	--

شرح شفاء قاری میں ہے:

<p>ایساد علوی شریعت میں مردود ہے۔</p>	<p>هو مردود عند القواعد الشرعية<sup>۴</sup>۔</p>
---------------------------------------	--

نسیم الرياض میں ہے:

<p>ایسی تاویل کی طرف التفات نہ ہو کا اور ہذیان سمجھی جائے گی۔</p>	<p>لایل تفتت لبیثہ و یعد هذیاناً<sup>۵</sup>۔</p>
---	---

فتاویٰ خلاصہ و فصول عمادیہ جامع الفصولین و فتاویٰ ہندیہ وغیرہا میں ہے:

<sup>۱</sup> الحدیقة الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیۃ والاستخفاف بالشريعة کفر الخ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۲۰۰۳/۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۰/۲

<sup>۳</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ القسم الرابع الباب الاول المکتبہ الشرکۃ الصحافیۃ ۲۰۰۹/۲

<sup>۴</sup> شرح الشفاء لمبنلا على القاری القسم الرابع الباب الاول دار الكتب العلمية بيروت ۲۰۰۹/۲

<sup>۵</sup> نسیم الرياض القسم الرابع الباب الاول مرکزہلسنت برکات رضا گجرات الہند ۲۰۰۳/۳

عمادی کے الفاظ ہیں کوئی شخص کہے ۔ میں اللہ کا رسول ہوں "یافارسی میں کہے ۔ میں پیغمبر ہوں" اور مراد یہ لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں قاصد ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ (ت)	<b>واللہ لفظ للعماڈی قال أنا رسول الله او قال بالفارسية من پیغمبرمیریدبہ من پیغام می برم یکفر<sup>۱</sup></b>
---	---

یہ تاویل نہ سنی جائے گی فا حفظ (تو اسے حفظ کر لیجئے)۔

مکر چارم: انکار، یعنی جس نے ان بدگویوں کی کتابیں نہ دیکھیں اس کے سامنے صاف مکر جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کلمات کہیں نہ کہے اور جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں، تحریریں دکھادیتا ہے۔ اگر ذی علم ہوا تو ناک چڑھا کر منہ بننا کر چل دئے یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بکمال بے حیائی صاف کہہ دیا کہ آپ معقول بھی کر دیجئے تو میں وہی کہے جاؤں گا اور پچارہ بے علم ہوا تو اس سے کہہ دیا ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں اور آخر میں ہے کیا یہ در بطن قائل اس کے جواب کو وہی آیت کریمہ کافی ہے کہ:

خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انسوں نے نہ کہا حالانکہ بے شک ضرور وہ یہ کفر کے بول بولے اور مسلمان ہوئے پیچھے، کافر ہو گئے	<b>"يَعْلَمُونَ بِإِلَهٍ مَا قَاتَلُواٰ وَلَقَدْ قاتَلُوا كَلِمَاتَ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِآيَةٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ"</b> <sup>۲</sup>
---	--

ع ہوتی آئی ہے کہ انکار کیا کرتے ہیں

ان لوگوں کی وہ کتابیں <sup>۱</sup> جن میں کلمات کفریہ ہیں مدتلوں سے انسوں نے خود اپنی زندگی میں چھاپ کر شائع کیں اور ان میں بعض دوبار <sup>۲</sup> چھپیں مدد ہمامت سے علمائے الہامت نے ان کے رد چھاپے، موأخذے کئے وہ فتوے <sup>۳</sup> جس میں اللہ تعالیٰ کو صاف صاف کاذب جھوٹا مانا ہے اور جس کی اصل مہری و دستخطی اس وقت تک محفوظ ہے اور اس کے فوٹو بھی لئے گئے جن میں سے ایک فوٹو کہ علمائے

ع۱: یعنی برائیں قاطع و حفظ الایمان و تحذیر الناس و کتب قادیانی وغیرہ ۱۲ کاتب عنی عنہ

ع۲: یعنی برائیں قاطع و حفظ الایمان ۱۲ کاتب عنی عنہ

ع۳: یعنی فتوائے گنگوہی صاحب ۱۲ کاتب عنی عنہ

<sup>۱</sup> الفتاویٰ الهندیۃ بحوالۃ الفصول العماڈیۃ کتاب السیر الباب التاسع نورانی کتب خانہ پشاور ۲۶۳/۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۷۸/۹

حر میں شریفین کو دکھانے کے لئے مع دیگر کتب دشمنیاں گیا تھا سارے مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہے۔ یہ تنذیب خدا کا ناپاک فتویٰ اٹھارہ برس ہوئے رجع الآخر ۱۳۰۸ھ میں رسالہ صیان الناس کے ساتھ مطبع حدیثۃ العلوم میرٹھ میں مع رد کے شائع ہو چکا پھر ۱۳۱۸ھ مطبع گلزار حنفی بمبئی میں اس کا اور مفصل روچھپا، پھر ۱۳۲۰ھ میں پٹنہ عظیم آباد مطبع تخفہ حنفیہ میں اس کا اور قاہر روچھپا اور فتوے دینے والا جمادی الآخر ۱۳۲۳ھ میں مرد، اور مررتے دم تک ساکت رہا یہ کہا کہ وہ فتویٰ میرا نہیں حالانکہ خود چھاپی ہوئی کتابوں سے فتویٰ کا انکار کر دینا سہل تھا یہی بتایا کہ مطلب وہ نہیں جو علمائے اہل سنت بتا رہے ہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے، نہ کفر صریح کی نسبت، کوئی سہل بات تھی جس پر التفات نہ کیا۔ زید سے اس کا ایک مہری فتویٰ اس کی زندگی و تدرستی میں علایم نقل کیا جائے اور وہ قطعاً یقیناً صریح کفر ہو اور سالمہ اسال اس کی اشاعت ہوتی رہے، لوگ اس کا رد، چھاپا کریں، زید کو اس کی بناء پر کافر بتایا کریں، زید اس کے بعد پندرہ برس بھئے اور یہ سب کچھ دیکھے سنے اور اس فتویٰ کی اپنی طرف نسبت سے انکار اصلاح شائع نہ کرے بلکہ دم سادھے رہے بیہاں تک کہ دم نکل جائے، کیا کوئی عاقل گمان کر سکتا ہے کہ اس نسبت سے اسے انکار تھا یا اس کا مطلب کچھ اور تھا اور ان میں کے جو زندہ ہیں آج کے دم تک ساکت ہیں، نہ اپنی چھاپی کتابوں سے منکر ہو سکتے ہیں نہ اپنی دشمنوں کا اور مطلب گھڑ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۰ھ میں ان کے تمام کفریات کا مجموع یکجاً روشنائی ہوا۔ پھر ان دشمنیوں کے متعلق، کچھ عمائد مسلمین علمی سوالات ان میں عہ کے سراغنہ کے پاس لے گئے، سوالوں پر جو حالت سراسیمگی بے حد پیدا ہوئی، دیکھنے والوں سے اس کی کیفیت پوچھیئے مگر اس وقت بھی نہ ان تحریرات سے انکار ہو سکانے کوئی مطلب گزرنے پر قدرت پائی بلکہ کہا تو یہ کہ ۱۱ میں مباحثہ کے واسطے نہیں آیا، نہ مباحثہ چاہتا ہوں، میں اس فن میں جاہل ہوں اور میرے اساتذہ بھی جاہل ہیں معقول بھی کر دیجئے میں تو وہی کہے جاؤں گا۔ ۱۲ وہ سوالات اور اس واقعہ کا مفصل ذکر بھی جبھی ۱۵ جمادی الآخر ۱۳۲۳ھ کو چھاپ کر سراغنہ و اتباع سب کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اسے بھی چو تھا سال ہے صدائے برخاست۔ ان تمام حالات کے بعد وہ انکاری مکاری ایسا ہی ہے کہ سرے سے یہی کہہ دیجئے کہ اللہ و رسول کو یہ دشمن دہنده لوگ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے، یہ سب بناؤٹ ہے۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حیادے۔

**مکر پنجم:** جب حضرات کو کچھ بن نہیں پڑتی، کسی طرف مفتر نظر نہیں آتی اور یہ توفیق اللہ واحد قہار

عہ: یعنی تھانوی صاحب ۱۲ اکاٹب عغی عنہ۔

نہیں دیتا کہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں بکیں، جو گالیاں دیں، ان سے بازاً نئیں جیسے گالیاں چھاپیں ان سے رجوع کا بھی اعلان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>جب توبی کرے تو نورِ توبہ کر، خفیہ کی خفیہ اور علانیہ کی علانیہ (اس کو امام احمد نے زہد میں، طبرانی نے بکیر میں اور نبیہقی نے شعب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن جید روایت کیا۔ ت)</p>	<p>اذا عملت سیئۃ فَاحدث عندها توبۃ السر بالسر و العلانیۃ رواه الامام احمد في الزهد<sup>۱</sup> و الطبرانی في الكبير والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بسند حسن جيد۔</p>
---	---

ابن فضیلؑ کریم "بِصَدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَاجَ" <sup>۲</sup> (الله کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے بھی چاہتے ہیں۔ ت) راہ خدا سے روکنا ضرور۔ ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہارے ان پر اندر ہیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علمائے اہل سنت کے فتوائے تکفیر کیا اعتبار؟ یہ لوگ ذرہ ذرہ کی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں، ان کی مشین میں ہمیشہ کفر ہی کے فوقے چھپا کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا، مولوی الحسن صاحب کو کہہ دیا، مولوی عبدالحہ صاحب کو کہہ دیا، پھر جن کی حیا اور بڑھی ہوئی ہے وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہہ دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کو کہہ دیا، پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچا گزر گئے وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ عیاذ اللہ عیاذا باللہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا۔ غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا یہاں تک کہ ان میں کے بعض بزرگواروں نے مولانا مولوی شاہ محمد حسین صاحب اللہ آبادی مرحوم و مغفور سے جا کر جڑ دی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت سید ناشیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ کو کافر کہہ دیا۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ جنت عالیہ عطا فرمائے۔ انہوں نے آیت کریمہ

<sup>۱</sup> الزهد لاحمد بن حنبل حدیث ۳۶۱ دار الكتب العربي بيروت ص ۲۹، المعجم الكبير حدیث ۳۳۱ المکتبة الفیصلیة بيروت ۲۰/۱۵۹

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۷/۲۵

"إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَّارَفْتَهُمْ" <sup>۱</sup>۔ (اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو۔) پر عمل فرمایا۔ خط لکھ کر دریافت کیا جس پر یہاں سے رسالہ انجاء البری عن وساوس المفتری لکھ کر ارسال ہوا اور مولانا نے مفتری کذاب پر لاحول شریف کا تختہ بھیجا غرض ہمیشہ ایسے ہی افتراء اٹھایا کرتے ہیں جس کا جواب وہ ہے جو تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

جھوٹے افتراء وہی باندھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔

"إِنَّمَا يَأْفِتُ الْكُذِبَ الَّذِي يَنْهَا رَبُّكُمْ" <sup>۲</sup>۔

اور فرماتا ہے:

ہم اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر۔

"فَاجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُذِبِينَ" <sup>۳</sup>۔

مسلمانو! اس مکر سخیف و کید ضعیف کا فیصلہ کچھ دشوار نہیں، ان صاحبوں سے ثبوت مانگو کہ کہہ دیا کہہ دیا فرماتے ہو، کچھ ثبوت بھی رکھتے ہو، کہاں کہہ دیا؟ کس کتاب، کس رسالے، کس فتوے، کس پرچے میں کہہ دیا؟ ہاں ہاں ثبوت رکھتے ہو تو کس دن کے لئے اٹھا رکھا ہے دکھا اور نہیں دکھا سکتے اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے تو دیکھو قرآن عظیم تمہارے کذاب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مسلمانو! تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

جب ثبوت نہ لاسکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔

"فَإِذْلِمْ يَأْتُوا إِلَيْهِ شَهِيدًا أَعْفَأُ وَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكُذِبُونَ" <sup>۴</sup>۔

-

مسلمانو! آزمائے کو کیا آزمانا، بارہا ہو چکا ان حضرات نے، بڑے زورو شور سے یہ دعوے کئے اور جب کسی مسلمان نے ثبوت مانگا، فوراً پیٹھ پھیر گئے اور پھر منہ نہ دکھا سکے مگر حیا تی ہے کہ وہ رٹ، جو منہ کو لوگ گئی ہے، نہیں چھوڑتے، اور چھوڑیں کیونکر کہ مرتا کیا نہ کرتا، اب خدا اور رسول کو گالیاں دینے والوں کے کفر پر پردہ ڈالنے کا آخری حیلہ یہی رہ گیا ہے کہ کسی طرح عوام بھائیوں کے ذہن میں جم جائے کہ علمائے اہل سنت یونہی بلا وجہ لوگوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں ایسا ہی ان دشنامیوں کو بھی کہہ دیا ہو گا۔ مسلمانو! ان مفتریوں کے پاس ثبوت کہاں سے آیا؟ کہ من گھڑت کا ثبوت ہی کیا۔ "وَأَنَّ اللَّهَ

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۵۲/۱۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۰۵/۱۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۶۱/۳

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۱۳/۲۲

لایہبُدیٰ گیدالخاًپنین<sup>۱</sup> اور اللہ دعا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ (ت) ان کا دعائے باطل تو اسی قدر سے باطل ہو گیا۔ تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

(فرماو) لاؤ اپنی برہان اگر سچے ہو۔

"قُلْ هَأْنُوا بُرْهَانٌ لِّنَّمُ صَدِيقُنَّ"<sup>۲</sup>

اس سے زیادہ کی ہمیں حاجت نہ تھی مگر بفضلہ تعالیٰ ہم ان کی کذابی کا وہ روشن ثبوت دیں کہ ہر مسلمان پران کا مفتری ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو جائے۔ ثبوت بھی بحمدہ تعالیٰ تحریری، وہ بھی چھپا ہوا، وہ بھی نہ آج کا، بلکہ سالہ سال کا، جن جن کی تکفیر کا اتهام علمائے اہل سنت پر رکھا ان میں سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو ملتی تو اسلامیل دہلوی میں کہ بیشک علمائے اہلسنت نے اس کے کلام میں بکثرت کلمات کفریہ ثابت کئے اور شائع فرمائے بایس ہمہ اولگا سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح (۱۳۰۹ھ) دیکھئے کہ بار اول (۱۳۰۹ھ) میں لکھتو مطبع انوار محمدی میں چھپا جس میں بدلاں قاہرہ دہلوی مذکور اور اس کے اتباع پر پچھتہ<sup>۳</sup> وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ ۹۰ پر حکم آخر یہی لکھا کہ علمائے محتاطین انہیں کافرنہ کہیں یہی صواب ہے وہ الجواب وبہ یقینی و علیہ الفتویٰ و هو المذهب و علیہ الاعتماد و فیہ السلامۃ و فیہ السداد<sup>۴</sup> یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہوا اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا منہبہ اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت۔

ٹائیا: "الکوکبة الشہابیۃ فی کفریات ابی الوہابیۃ (۱۳۱۲ھ)" دیکھئے جو خاص اسلامیل دہلوی اور اس کے تبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا اور بار اول شعبان ۱۳۱۲ھ میں عظیم آباد مطبع تحفہ حنفیہ میں چھپا۔ جس میں نصوص جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ سے بحوالہ صفحات کتب معتمدہ اس پر ستر<sup>۵</sup> وجہ بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا اور بالآخر یہی لکھا (ص ۶۲) ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ و مختار و مناسب واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔<sup>۶</sup>

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۵۲/۱۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۱۱/۲

<sup>۳</sup> سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح دارالاشاعت جامعہ الحجج بخش داتا در بار لاہور ص ۱۰۳

<sup>۴</sup> الکوکبة الشہابیۃ فی کفریات ابی الوہابیۃ رضا کیڈی بسمی ائمیاں ص ۶۲

**ٹالیقًا** سل السیوف الہندیۃ علی کفریات بابا النجدیۃ (۱۳۱۶ھ) "دیکھئے کہ صفر ۱۳۱۶ھ کو عظیم آباد میں چھپا، اس میں اسلیل دہلوی اور اس کے تبعین پر بوجہ قاہرہ لزوم کفر کا ثبوت دے کر صفحہ ۲۱، ۲۲ پر لکھایہ حکم فقیہ متعلق بہ کلمات سفی تھا مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے حد رکھتیں، ہمارے علمائے کرام پر کہ یہ کچھ دیکھتے۔ اس طائفہ کے پیر سے ناروا بات پر چھ مسلمانوں کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے ہیں، بایس ہبھہ نہ شدت غصب دامن اختیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، نہ قوت انقاوم حرکت میں آتی، وہ اب تک یہی تحقیق فرمادی ہے ہیں کہ لزوم والترام میں فرق ہے اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات، ہم اختیاط بر تیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے، اہ مختصر۔<sup>۱</sup>

**رابیقا:** ازالۃ العارب بحجر الکرائم عن کلب النار (۱۳۱۶ھ) دیکھئے کہ بار اول ۷۱۳۱ھ کو عظیم آباد میں چھپا، اس میں صفحہ ۱۰ پر لکھا ہم اس باب میں قول متكلمین اختیار کرتے ہیں ان میں جو کسی ضروری دین کا منکر نہیں نہ ضروری دین کے کسی منکر کو مسلمان کہتا ہے اسے کافر نہیں کہتے۔<sup>۲</sup>

**خامساً:** اسلیل دہلوی کو بھی جانے دیجئے، یہی دشناگی لوگ جن کے کفر پر اب فتوی دیا ہے جب تک ان کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر اٹھتر<sup>۳</sup> وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے ۱۱ سجنان السبوح<sup>۴</sup> میں بالآخر صفحہ ۸۰ طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا اللہ حاشا اللہ ہزار ہزار بار حاشا اللہ میں ہر گزان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، ان مقتدیوں یعنی مد عیان جدید عہد کو تواب بھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں اور امام الطائفہ (اسلیل دہلوی) کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے معن فرمایا ہے جب تک وجہ کفر، آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لئے اصلًا کوئی ضعیف ساضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يَعْلُمُ علیه۔

(اس لئے کہ اسلام غالب ہے مغلوب نہیں ہے۔ ت)

عہ: گلگو ہی واجھی اور اکے اذباب دیوبندی ۱۲ اکاٹب عقی عز

<sup>۱</sup> سل السیوف الہندیۃ علی کفریات بابا النجدیۃ رضا اکیڈمی ائذیا ص ۲۱ و ۲۲

<sup>۲</sup> ازالۃ العارب بحجر الکرائم من کلب النار رضا اکیڈمی بمبئی ائذیا ص ۱۸

<sup>۳</sup> سبُّن السبوح عن عیب کذب مقبوح دارالاشعاعت جامعہ گنج بخش لاہور ص ۹۰ و ۹۱

مسلمانو! مسلمانو! تمہیں اپنادین وایمان اور روز قیامت و حضور بارگاہِ حرمٰن یاددا کر استفسار ہے کہ جس بندہ خدا کی دربارہ تکفیر یہ شدید اختیاط یہ جلیل تصریحات اس پر تکفیر تکفیر کا افتراء کتنی بے حیائی، کیسا ظلم، کتنی گھونٹی، ناپاک بات، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں اذالہ تستحقی فاصنعن ماشیت<sup>۱</sup>۔ جب تھے حیانہ رہے تو جو چاہے کر:

ع بے حیا باش و آنچہ خواہی کن

(بیحیا ہو جا پھر جو چاہے کرت)

مسلمانو یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہیں جنہیں چھپے ہوئے دس<sup>۲</sup> اور بعض کو سترہ<sup>۳</sup> اور تصنیف کو انہیں<sup>۴</sup> سال ہوئے (اور ان دشامیوں کی تکفیر تواب چھ سال یعنی ۱۳۲۰ھ سے ہوئی ہے (جب سے المعتبد المستند چھپی) ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ و رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افتراء ہی رہ نہیں کرتیں بلکہ صراحةً صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم اختیاط والے نے ہر گزان دشامیوں کو کافرنہ کہا جب تک یقینی، قطعی، واضح، روشن، جلی طور سے ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا جس میں اصلًا، اصلًا، ہر گز کوئی گنجائش، کوئی تاویل نہ نکل سکی کہ آخر یہ بندہ خدا ہی تو ہے جو انکے الابر پر ستر<sup>۴</sup>، ستر<sup>۵</sup> وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لئے اصلًا کوئی ضعیف ضعیف محمل باقی نہ رہے<sup>۶</sup>۔ یہ بندہ خدا ہی تو ہے جو خود ان دشامیوں کی نسبت (جب تک ان کی دشامیوں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی) اٹھتر<sup>۷</sup> وجہ سے بکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ پکھا تھا کہ ہزار ہزار بار حاش اللہ میں ہر گزاں کی تکفیر پسند نہیں کرتا<sup>۸</sup>، جب کیا ان سے کوئی ملاپ تحاب رنجش ہو گئی؟ جب ان سے جائز اکی کوئی شرکت نہ تھی اب پیدا ہوئی؟ حاش اللہ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت،

<sup>۱</sup> المجمع الكبير حدیث ۲۵۸ البکتبة الفیصلیۃ بیروت ۱/۲۳۷

<sup>۲</sup> سبُّحُنَ السَّبُّوحُ عَنْ عَيْبٍ كَذَبٍ مَقْبُوحٍ دَارُ الْإِشَاعَةِ جَامِعَهُ كَجْنَجَ بَخْشُ لَاهُورِ ص ۹۱

<sup>۳</sup> سبُّحُنَ السَّبُّوحُ عَنْ عَيْبٍ كَذَبٍ مَقْبُوحٍ دَارُ الْإِشَاعَةِ جَامِعَهُ كَجْنَجَ بَخْشُ لَاهُورِ ص ۹۰ و ۹۱

صرف محبت و عداوت خدا اور رسول ہے، جب تک ان دشام دہوں سے دشام صادر <sup>عَلَيْهِ السَّلَامُ</sup> نہ ہوئی یا اللہ و رسول کی جناب میں ان کی دشام <sup>عَلَيْهِ السَّلَامُ</sup> نہ دیکھی سن تھی، اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا، غایت احتیاط سے کام لیا حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح طرح ان پر کفر لازم تھا مگر احتیاط کا ان کا ساتھ نہ دیا اور متکملین عظام کا مسلک اختیار کیا۔ جب صاف صرتح انکار ضروریات دین و دشام دہی رب اعلمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم اجمعین آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر<sup>۱</sup>۔ جوابیے کے

۱: جیسے تھانوی صاحب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں ان کی سخت گالی ۱۴۱۹ھ میں چھپی اس سے پہلے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے بلکہ ایک وقت وہ تھا کہ مجلس میلاد مبارک و قیام میں شریک اہل اسلام ہوتے ۱۲ اکاتب غنی عنہ۔

۲: جیسے گنگوہی صاحب و انبیئی صاحب کہ ان کے اتنے قول کی نسبت میرٹ سے سوال آیا تھا کہ خدا جھوٹا ہو سکتا ہے اس کے بعد معلوم ہوا کہ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتاتے ہیں۔ پھر گنگوہی صاحب کا وہ فتویٰ کہ خدا جھوٹا ہے جو اسے جھوٹا کہے مسلمان سنی صالح ہے۔ جب چھپا ہوا نظر سے گزرنا کمال احتیاط یہ کہ دوسروں کا چھپوایا ہوا تھا اس پر وہ تیقین نہ کیا جس کی بنابر تکفیر ہوجب وہ اصلی فتویٰ گنگوہی صاحب کا مہری دستخطی خود آنکھ سے دیکھا اور بار بار چھپنے پر بھی گنگوہی صاحب نے سکوت کیا تو اس کے صدق پر اعتبار کافی ہوا۔ یونہی قادیانی دجال کی کتابیں جب تک آپ نہ دیکھیں اس کی تکفیر پر جزم نہ کیا جب تک صرف مہدی یا شیل مسح بننے کی خبر سنی تھی جس نے دریافت کیا اتنا ہی کہ کوئی جنون معلوم ہوتا ہے، پھر جب امر ترسے ایک فتویٰ اس کی تکفیر کا آیا جس میں اس کی کفریہ عبارتیں بحوالہ صفحات منقول تھیں اس پر بھی اتنا لکھا کہ "اگر یہ اقوال مرزا کی تحریروں میں اسی طرح ہیں تو وہ یقیناً کافر۔" دیکھو رسالہ السوء والعقاب علی المیسیح الکاذب" صفحہ ۱۸، ہاں اب جب اس کی کتابیں بچشم خود دیکھیں اس کے کافر مرتد ہونے کا قطعی حکم دیا ۱۲ اکاتب غنی عنہ

<sup>۱</sup> در مختار کتاب الجہاد بباب المرتد مطبع مجتبی دہلی ۱/۳۵۶

معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا لاجرم حکم کفر دیا اور شائع کیا و ذلك جزاء الظالمین۔ تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے:

کندو کہ آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو ضرور مٹنا ہی تھا۔	”قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَأَهُ الْبَاطِلُ طِلَّ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْفُوقًا“ <sup>۱</sup>
---	--

اور فرماتا ہے:

دین میں کچھ جرنہیں، حق راہ صاف جدا ہو گئی ہے مگر اسی سے۔	”لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُدْسَةَ بَيْنَ الرُّشْدَيْنِ مِنَ الْغَيْرِ“ <sup>۲</sup>
--	--

یہاں چار مرحلے تھے:

- (۱) جو کچھ ان دشماں میوں نے لکھا، چھا پا ضرور وہ اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین و دشنام تھا۔
- (۲) اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے۔
- (۳) جو انہیں کافرنہ کہے، جو ان کا پاس لحاظ رکھنے جو ان کی استادی یا رشتہ یادوں تی کا خیال کرے وہ بھی ان میں سے ہے، ان ہی کی طرح کافر ہے، قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔
- (۴) جو عذر و مکر، جہاں وضلال یہاں بیان کرتے ہیں سب باطل و نار و اور پا در ہوا ہیں۔  
یہ چاروں بھرم اللہ تعالیٰ بر وجہ اعلیٰ واضح روشن ہو گئے جن کے ثبوت قرآن عظیم ہی کی آیات کریمہ نے دیئے۔ اب ایک پہلو پر جنت و سعادت سرمدی، دوسرا طرف شقاوت و جہنم ابدی ہے، جسے جو پسند آئے اختیار کرے مگر اتنا سمجھ لو کہ محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر زید و عمر و کاساتھ دینے والا کبھی فلاں نہ پائے گا، باقی ہدایت رب العزت کے اختیار میں ہے۔  
بات بھرم اللہ تعالیٰ ہر ذی علم مسلمان کے نزدیک اعلیٰ بدیریات سے تھی مگر ہمارے عوام

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۸۱/۱۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۵۶/۲

بھائیوں کو مہریں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، مہریں علمائے کرام حرمین طسین سے زائد کہاں کی ہوں گی جہاں سے دین کا آغاز ہوا اور بیکم احادیث صحیحہ کبھی وہاں شیطان کا دور دورہ نہ ہو گا لہذا اپنے عام بھائیوں کی زیادت اطمینان کو کم معظّمہ و مدینہ طیبہ کے علمائے کرام و مفتیان عظام کے حضور فتویٰ پیش ہوا جس خوبی و خوش اسلوبی و جوش دینی سے ان عملاءِ اسلام نے تصدیقیں فرمائیں بحمد اللہ تعالیٰ کتاب مستطاب "حسام الحرمين علی منحر الكفر والبین" <sup>۱۳۲۲ھ</sup> میں گرامی بھائیوں کے پیش نظر اور ہر صفحہ کے مقابل سیلیں اردو میں اس کا ترجمہ "مبین احکام و تصدیقات اعلام (۱۳۲۵ھ)" جلوہ گر۔

الہی! اسلامی بھائیوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرم اور ضد و نفسانیت یا تیرے اور تیرے حبیب کے مقابل، زید و عمر و کی حمایت سے چاحدہ محدث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہت کا، آمین، آمین، آمین۔

والحمد لله رب العالمين و افضل الصلاة و اكمل السلام على سيدنا محمد و آله و صحبه و حزبه اجمعين امين

---

رسالہ

تمہید ایمان با آیات قرآن

ختم ہوا

---

## رسالہ

### الامن والعلیٰ لناعتی المصطفیٰ بدافع البلاء

کلمہ دافع البلاء کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت بیان کرنے والوں کے لئے  
بلاؤں سے امن اور انکے مرتبے کی بندی ہے

مسٹی به نام تاریخی

### اکمال الطامة علی شرک سُوی بالامور العامة

پوری قیامت ڈھاتا (وہاپوں کے اس) شرک پر جو امور عامہ کی طرح  
(موجود کی ہر قسم پر صادق) ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئلہ ۳۵: از دہلی بارہ ہندورائے مرسلہ مولوی محمد کرامت اللہ خان صاحب عَ<sup>4</sup>  
۲۱ جمادی الآخرة ۱۴۳۱ھ

علمائے دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں زید کہتا ہے کہ پڑھنا درود تاج اور دلائل الخیرات کا

عَ: مولانا کرامت اللہ خان صاحب خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہما

شرک محض اور بدعت سینہ ہے اور تعلیم اس کی سُم قاتل شرک اس لئے کہ درود تاج میں دافع البلاء والوباء والقطط والمرض والالم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مذکور ہے، اور بدعت سینہ اس لئے کہ یہ درود بعد صد ہا سال کے تصنیف ہوئے ہیں۔ عمر و جواب میں کہتا کہ درود مقبول کا موجب خیر درکت اور باعث از دیاد محبت ہے۔ زید عربیت سے جاہل ہے وہ نہیں سمجھتا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبب ہیں دفع بلکہ، اگرچہ دافع البلاء حقیقتاً خداۓ تعالیٰ ہے۔ مختصر المعانی میں انبیت الربيع البقل<sup>۱</sup>۔ (بہار نے سبزہ اکایا۔ ت) کہ بقول مومن مجاز اور بقول کافر حقیقت فرمایا ہے۔ علاوه ازیں "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْلَمُ بِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" <sup>۲</sup> (اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک اے محبوب تو ان میں تشریف فرمائے۔ ت) اور "وَمَا أَنْسَنْتُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَّمَيْنَ" <sup>۳</sup> (ہم نے بھیجا تمصیں مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔ ت) ہمارے دعوئے پر دو بزرگ گواہ ہیں، اور کیا سال ولادت حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قحط عام کی وبا دفع نہیں ہوئی، اس کے سوا جراحتیل خلیل کا مقولہ قرآن کریم میں اس طرح درج ہے: "لَا هَبَ لَكُلُّ غُلَمًا زَكِيًّا" <sup>۴</sup> (میں عطا کروں تجھے ستر ایٹا۔ ت) یہاں بقول زید حضرت جبراٹل بھی معاذ اللہ مشرک ہو گئے کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہاب فرمار ہے ہیں۔ پس جو جواب زید کی طرف سے ہو گا وہی ہماری طرف سے۔ پھر چونکہ یہ درود معمول بہ اکثر علماء و مشائخ عظام ہے پس وہ سب بھی زید کے نزدیک مشرک ہوئے اور طرہ یہ کہ خود زید بھی اس خواہ مخواہ کے شرک سے نجح نہیں سکتا کیونکہ وہ بھی سم عہ کو قاتل اور ادویہ کو دافع درد رافع عشیاں کہتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قصیدہ اطیب النغم میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع فرمار ہے ہیں۔ سندیں تو اور بھی ہیں مگر اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ رہا صد ہا سال کے بعد تصنیف ہونے سے بدعت سینہ ہونا، یہ بھی زید کی حماقت پر دال ہے۔ خود زید جو

عہ: سُم یعنی زہر

<sup>۱</sup> مختصر المعانی، احوال اسناد الخبر، المکتبہ الفاروقیہ ملتان، ص ۸۵

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۳۳/۸

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۰۷/۲۱

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۱۹/۱۹

مولوی اسمعیل صاحب کے خطبے جمعہ میں برسر منبر پڑھتا ہے اس کے لئے اس کے پاس کوئی حدیث ہے یا وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی تصنیف ہیں۔ سبحان اللہ ان نطبقوں کا پڑھنا (جو صد ہا سال بعد کی تصنیف ہیں) تو زید کے لئے سنت ہوا رخاصان حق کی تصنیف درود کا پڑھنا بدعت سیئہ ٹھہرے، ہاں جو صینے درود کے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا پڑھنا ہمارے نزدیک بھی افضل و بہتر ہے مگر علمائے راسخین و فقراءے کا ملین نے حالت ذوق و شوق میں جو درود شریف بالفاظ بدیعہ تصنیف فرمائے ہیں جن میں جناب غوث الشقین محبوب سجافی بھی شامل ہیں اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں درج فرمائے ہیں، اور خود حضرت شیخ نے ایک مستقل رسالہ اس بارہ میں تالیف فرمایا ہے، اور جتنے درود مشائخ عظام نے تصنیف فرمائے ہیں سب اس میں درج ہیں، اور شرح سفر السعادۃ میں ۳۶ صفحے رسول خدا سے منقول ہیں باقی صحابہ و تابعین نے زیادہ کئے ہیں۔ زید جاہل نے ان سب حضرات کو معاذ اللہ مشرک بنایا ہے۔ اب علمائے اعلام سے استفسار ہے کہ قول زید کا صحیح اور موافق عقائد سلف صالح کے ہے یا عمر دکا؟ یہ تشریح و تفصیل ارشاد ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔

### الجواب:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

سلامتی والے راستے پر چلایا۔ ہمارا پروگرام درود و سلام اور برکت نازل فرمائے بلا، وباء، قحط، یماری اور دکھوں کو دور کرنیوالے ہمارے آقا و مولیٰ و مالک و معاوی محمد پر، جوز مین اور امتوں کی گردنوں کے مالک ہیں، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو فضل، فیض، عطا اور جود و کرم والے ہیں، آمین۔ کہتا ہے نقیر عبد المصطفیٰ احمد رضا سنی حنفی قادری	الحمد لله على ما علم و هدانا للذى اقوم و سلك بنا السبيل الاسلام وصلى ربنا وبارك وسلمه على دافع البلاء والقطن والمرض والالم سيدنا و مولانا و مالكنا و ماونا محمد مالك الارض و رقاب الامم وعلى الله و صحبه اولى الفضل والفيض والعطاء والجود والكرم امين قال الفقير المستدفع البلاء من
--	---

<p>تمام تعریفِ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا اور سب سے سید ھی راہ کی ہدایت فرمائی اور ہمیں برکاتی بریلوی جو نبی اعلیٰ کے بلند فضل کے بطفیل مصیبت سے بچنے کا طلب کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت کو دور فرمائیں اور اس کے دل کو روشنی اور چمک عطا فرمائیں (ت)</p>	<p>فضل نبیہ العلی الاعلیٰ صلی علیہ اللہ تعالیٰ عبد المصطفیٰ احمد رضا البھیدی السنی الحنفی القادری البرکاتی البریلوی دفع نبیہ عنہ البلاء و منح قلبه النور والجلاء۔</p>
---	---

یہ مختصر جواب موضع صواب مقتضی مقدمہ دو باب و خاتمه۔  
مقدمہ انتہام الزام و تہیید مرام میں عائدہ قاہرہ و فائدہ زاہرہ پر مشتمل۔

#### عائدہ قاہرہ

ایہاً المُسْلِمُونَ دفع نبیکم عنکم بلاءِ المجنون و فتنۃ المفتون۔ اے مسلمانو تھمارے نبی نے تم سے مجذون کی بلاء اور فتنہ انگیز کا فتنہ دور کر دیا ہے۔ ت) زید بیقید کے ایسے کلمات کچھ محل تجب نہیں منہب وہابیہ کی بنا ہی حتی الامکان حضور سید الانس والجان علیہ و علی الہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے ذکر شریف مٹانے اور محبو بان خدا جل وعلا و علیہم الصلوٰۃ والثناۃ کی تغییم قلوب مسلمین سے گھٹانے پر ہے "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْكَرٍ يَتَقْلِبُونَ" <sup>۱</sup>" (اور اب جانا چاہتے ہیں خالم کہ کس کروٹ پر پٹا کھائیں گے۔ ت) مگر تجب ان مسلمانان اہلسنت سے کہ ایسے ناپاک اقوال پر کان دھریں، بہت کان کھانے والے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہیں گے، مسلمان صحیح القیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، ایسوں کا علانج حضور میں خاموشی اور غیبت میں فراموشی، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال اپنے محبوب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی زیادہ گرجوشی کہ مخالف خود ہی اپنی آگ میں جل مجھیں گے "قُلْ مُؤْمِنُوا إِعْيُظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ أَمْدَاتِ الصُّدُوْرِ" <sup>۲</sup>" (تم فرمادو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ ت) اس تalfed کے رد میں اقوال ائمہ و علماء پیش کرنے کا کوئی محل ہی نہیں کہ یہ تم اپنے اعتقاد سے ائمہ و علماء کہتے ہو ان کے

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۲۷/۲۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱۱۹/۳

نzdیک وہ بھی تمہاری طرح معاذ اللہ مشرک بد عتی تھے، درود محمود میں کتب و صبغ کثیرہ کی تصنیف و اشاعت انھیں نے کی تمہارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ دفع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل کا خلیفہ اکبر و مدد بخش ہر خشک و ترو واسطہ ایصال ہر خیر و رکن و سیلہ فیضان ہر جو دو رحمت و شانی و کافی و قاسم نعمت و کاشف کرب و دافع زحمت وہی لکھ گئے جس کی تصریحات قاہرہ سے ان کی تصنیفات باہرہ کے آسان گونج رہے ہیں۔ فقیر غفرانہ لہ نے کتاب مستطاب سلطنة المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری ۱۴۲۹ھ میں بکثرت ارشادات جلیلہ و نصوص جزیلہ جمع کئے جن کے دینکے سے بحمد اللہ ایمان تازہ ہوا اور روئے ایقان پر احسان کا غازہ تو ان کے نزدیک حقیقتیہ شرک و بدعت تمحیں وہی سکھائے آخر ان کا بانی منہب شیخ نجدی علیہ ماعلیہ ڈنکے کی چوٹ کہتا تھا کہ ۶۰۰ برس سے جتنے علماء گزرے سب کافر تھے کیما ذکرہ المحدث العلامۃ الفھامہ شیخ الاسلام زینت المسجد الحرام سیدی احمد بن زین ابن دحلان المکی قدس سرہ الملک فی الدرر السنیۃ<sup>۱</sup>۔ (جیسا کہ حضرت محمد العلام الفقیر الشمامہ شیخ الاسلام زینت المسجد الحرام سیدی احمد بن زین ابن دحلان المکی قدس سرہ الملک فی الدرر السنیۃ میں ذکر کیا تھا۔) احادیث و کھانے کا کیا موقع کہ آخر سب کتب حدیث صحاح و سنن و مسانید و معاجم وغیرہ حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ کے بعد تصنیف ہوئیں تو ان کے طور پر معاذ اللہ وہ سب بدعت اور مصنف بد عتی۔ رہی آیت کہ رب العزة جل وعلانے بلا تخصیص لفظ و صیغہ وقت و عدد مطلقاً اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود وسلام کی طرف بلاتا ہے

اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام کہیجو۔	اللهم صل وسلام وبارک علیہ وعلی الہ وصحابہ اجمعین کلماً ولع بذکرہ الفائزون ومنع من اکثارہ الہالکون۔
اے اللہ! درود وسلام اور رکن نازل فرمآپ پر اور آپ کی آں اور آپ کے تمام صحابہ پر، جب بھی آپ کے ذکر پر شیفۃ ہوں کامیاب ہوئیوں اے اور اس کی کثرت سے انکار کریں ہلاک ہوئیوں اے (ت)	”يَأَيُّهَا النَّبِيُّنَ أَمْنُوا أَصْلُوْأَعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَسَلِّمُوا وَسَلِّمُوا“ <sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> الدرر السنیۃ فی الرد علی الوبایبیہ مکتبہ حقیقتہ دار الشفعة استانبول ترکی۔ ص ۵۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۳۳/۵۶

تولد اکل الخیرات و درود تاج وغیرہ ماسب اس حکم جانفرزادے دائرہ میں داخل، یہ بھی انہیں مقبول ہوتی نظر نہیں آتی کہ ان کتب و صبغ میں حضور والادافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف عظیمه جلیلہ و نعموت کثیرہ جزیلہ ہیں۔ اور انکے امام الطائفہ کا حکم ہے کہ "جو بشر کی سی تعریف ہو اس میں بھی اختصار کرو" ۱۔

علاوه ازیں وظیفہ درود میں صدہ بار نام اقدس لینا ہوگا اور ان کا امام لکھ چکا کہ نام چننا شرک ہے۔ اب وہ اپنے امام کی تصریح مانیں یا تمہارے خدا کا اطلاق۔ ہاں اگر انہیں کے امام الطائفہ اور اس کے آباء اجداد و اکابر کی تصانیف دکھاؤ تو شاید کچھ کام چلے کہ امام الطائفہ کو کچھ کہیں تو ایمان کی گستاخی بنے اور اس کے اکابر سے مکابر ہیں تو اس سے کیوں نکر گا ٹھی چھنے، ایسی ہی جگہ پر بدگامی کا قافیہ تنگ ہوتا ہے ہے کہ نہ پائے رفتان نہ جائے ماندن (نہ رہنے کا یارانہ چلنے کی تاب۔ت) مثلاً:

اوگا: یوں پوچھئے کہ حیادارو! صرف اس جرم پر کہ حضرات علمائے دین مصنفوں کتب رحمہم اللہ تعالیٰ زمانہ اقدس حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہ تھے انہیں کی کتابیں بدعت اور وہ معاذ اللہ اہل بدعت قرار پائیں گے یا یہ حکم امام الطائفہ اور اس کے عم نسب و پدر شریعت جد طریقت جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور اس کے جد نسب و جد شریعت و فرج طریقت شاہ ولی اللہ صاحب اور فرج نسب و تلمذ و جد الجد بیعت شاہ عبدالرحیم صاحب وغیرہم اکابر و عمالک خاندان وہلی کو بھی شامل ہوگا۔ کیا یہ حضرات زمانہ اقدس میں تھے، کیا ان کی کتابیں جبھی تصنیف ہوئی تھیں، کیا انہوں نے اپنی تصانیف کے خطبوں میں بیسیوں مختلف صیغوں سے جو درود لکھے ہیں سب لعینہ حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اگر ہیں تو بتا دو اور نہیں تو کیا ہٹ دھرمی سینہ زوری ہے کہ انکی تصانیف بدعت اور یہ بدعتی نہ ٹھہریں، کیا وحی باطنی اسماعیلی ہمیں یہ حکم تشریعی بھی آچکا ہے کہ یجوز لابائک مالا یجوز لغیرہم (تیرے آباء کے لیے جائز ہے جوان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ت) ان کا امام صاف صاف لکھ چکا کہ بعض غیر انبیاء پر بھی (جن میں اس نے اپنے پیر اور پردادا کو بھی داخل کیا ہے۔) بے وساطت انبیاء وحی باطنی آتی ہے جس میں احکام تشریعی اترتے ہیں وہ ایک جہت سے انبیاء کے پیر اور ایک جہت سے خود محقق

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الخامس فی رد الشکر الخ مطبع علمی اندر ورن لوباری دروازہ لاہور ص ۸۳

ہوتے وہ شاگرد انبیاء بھی ہیں اور ہم استاد انبیاء بھی، وہ مثل انبیاء معموم ہیں<sup>۱</sup>۔ (دیکھو صراط المستقیم مطبع ضیاء میرٹھ ص ۳۸)

دو سطر اخیر تا ص ۳۹ سطر ۱۱، دو سطر اخیر ص ۲۱ سطر ۲۵، ۲۲ تا ص ۲۵، ۲۳ مگر، ہی بدینی کامنہ کالا، پھر نبوت کیا کسی پیڑ کا نام ہے، اللہ کی شان یہ کھلم کھلا پے استادوں پیروں کو نبی بنانے والے تو امام اور ائمہ شریعت، اور علمائے سنت اس جرم پر کہ صیغناۓ درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیوں کثرت کی معاذ اللہ بدعتی بد نام۔

ٹھانیا: یہ قہمانی حکم صرف حضور داعی البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود میں ہے یا خاندان امام الطائفہ کے ایجادات میں بھی کہ شاہ صاحب کی قول الجمیل جن کے لیے ضامن و کفیل۔ اسی قول الجمیل میں اپنے اور اپنے پیر ان و مشائخ کے آداب طریقت و اشغال ریاضت کی نسبت صاف لکھا کر ہماری صحبت و سلوک آمیزی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ و ان لم یثبت تعین الأداب ولا تلك الشغال<sup>۲</sup> اگرچہ ان خاص آداب کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثبوت ہے نہ ان اشغال کا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب حاشیہ میں فرماتے ہیں:

۱۰۰ اسی طرح پیشوایان طریقت نے جلسات اور ہیأت واسطے اذکار مخصوصہ کے ایجاد کئے۔<sup>۳</sup>

مولوی خر معلی مصنف نصیریہ مسلمین نے اسکے ترجمہ شفاء العلیل میں شاہ صاحب کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے: ۱۰۱ یعنی ایسے امور کو مخالف شرع یا داخل بدعتات سینہ نہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ بعض کم فہم سمجھتے ہیں۔<sup>۴</sup>

اور سنئے اسی قول الجمیل میں اشغال مشائخ نتشہند یہ قدست اسرار ہم تصور شیخ کی ترکیب لکھی ہے کہ:

<sup>۱</sup> صراط مستقیم حب ایمان کا دوسرا شمرہ کلام کمپنی تیر تھے داس روڈ کراچی ص ۲۵، صراط مستقیم (فارسی) حب ایمان کا دوسرا شمرہ المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ لاہور ص ۳۲

<sup>۲</sup> القول الجمیل گیارہویں فصل ایم سعید کمپنی کراچی ص ۱۷۳

<sup>۳</sup> شفاء العلیل مع القول الجمیل چوتھی فصل ایم سعید کمپنی کراچی ص ۵۱

<sup>۴</sup> شفاء العلیل مع القول الجمیل چوتھی فصل ایم سعید کمپنی کراچی ص ۵۲

<p>شیخ غائب ہو تو اس کی صورت اپنے پیش نظر محبت و تفہیم کے ساتھ تصور کرے جو فائدے اس کی صحبت دیتی تھی اب یہ صورت دے گی۔</p>	<p>اذا غاب الشیخ عنہ یخیل صورتہ بین عینیہ بوصف البحبة والتعظیم فتفید صورتہ مأتفید صحبته<sup>۱</sup></p>
--	---

شفاء العلیل میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے نقل کیا:<sup>۲</sup> حق یہ ہے کہ سب راہوں سے یہ راہ زیادہ ترقیریب ہے<sup>۲</sup>۔ مکتوبات مرزا صاحب جانجناں میں ہے (جنہیں شاہ ولی اللہ صاحب اپنے مکتوبات میں نفس ذکریہ قیم طریقہ احمد یہ داعی سنت نبویہ لکھتے ہیں):

<p>دعائے حزب الاجر صحیح و شام کا وظیفہ اور حضرات خواجگان قدس اللہ اسرار ہم کا ختم شریف مشکلات کے حل کے لیے ہر روز پڑھنا چاہیے۔ (ت)</p>	<p>دعائے حزب الاجر وظیفہ صحیح و شام و ختم حضرات خواجگان قدس اللہ اسرار ہم ہر روز بجهت حل مشکلات باید خواند۔<sup>۳</sup></p>
--	---

ذر اس صحیح و شام و ہر روز کے الفاظ پر بھی نظر رہے کہ وہی الترام و مداومت ہے جسے ارباب طائفہ وجہ ممانعت قرار دیتے ہیں یہ ان داعی سنت نے بدعت اور بدعت کا حکم دیا بلکہ اس ختم اور ختم مجددی کی نسبت انہیں مکتوبات میں ہے:

<p>اس کے بعد صحیح کے حلقات کو لازم قرار دے لیں۔ (ت)</p>	<p>بعد حلقة صحیح لازم گیرد۔<sup>۴</sup> (ت)</p>
---	---

انہیں میں ہے:

<p>اس کے بعد صحیح کے حلقات کی پابندی کرنی چاہیے۔ (ت)</p>	<p>بعد از حلقة صحیح برائے موازنیت نمائید۔<sup>۵</sup></p>
--	---

سب جانے دو خود امام الطائفہ صراط مستقیم میں لکھتا ہے:

<p>اشغال مناسبہ ہر وقت و ریاضات ملائکہ ہر قرن جدا جدائی مختلف ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ</p>	<p>باشد و لہذا محققان</p>
--	---------------------------

<sup>۱</sup> القول الجميل چھٹی فصل ایجیم سعید کپنی کراچی ص ۸۲ و ۸۳

<sup>۲</sup> شفاء العلیل مع قول الجميل چھٹی فصل ایجیم سعید کپنی کراچی ص ۸۰

<sup>۳</sup> کلمات طیبات ملفوظات مظہر جان جاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۷۸

<sup>۴</sup> کلمات طیبات ملفوظات مظہر جان جاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۷۲

<sup>۵</sup> کلمات طیبات ملفوظات مظہر جان جاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۷۲

<p>کابر میں سے ہر طریقے کے محققین نے اشغال و اعمال میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی بایں وجد جو مصلحت دیکھی یا حالات کا تقاضا ہوا اسی لئے اس کتاب کا ایک باب ایسے جدید اشغال کے لیے جو اپنے اپنے وقت کی مناسبت سے شروع کئے گئے تھے کیا گیا ہے۔ (ت)</p>	<p>ہر وقت ازکابر ہر طریقہ در تجدید اشغال کو ششماکہ دہ اند بناء علیہ مصلحت دید وقت چنان اقتضا کرد کہ یک باب ازیں کتاب برائے بیان اشغال جدیدہ کہ مناسب ایں وقت ست تعین کرد شود<sup>۱</sup> اخ۔</p>
--	--

الله انصاف! یہ لوگ کیوں نہ بدعتی ہوئے۔ اور ذرا تصور شیخ کی توبخیں کہنے جسے جناب شاہ صاحب مر حوم سب را ہوں سے قریب تر را بتارہے ہیں، یہ ایمان تقویۃ الایمان پر ٹھیٹ بت پستی تو نہیں یا یہ حضرات شریعت باطنہ اسلیعیلی سے متثنی ہیں۔

هالانچ: بھلا حضور اقدس دانش البلاء مانع العطا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دانع البلاء کہنا تو معاذ اللہ شر ک ہواب جناب شاہ ولی اللہ صاحب کی خبر لیجئے وہ اپنے قصیدہ نعمیۃ الطیب النعم اور اس کے ترجمہ میں کیا بول بول رہے ہیں:

<p>ہمیں نظر نہیں آتا مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مصیبت کے وقت غنواری فرماتے ہیں۔ (ت)</p>	<p>بنظر نبی آید مر امگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جائے دست اندو، مگر میں است در ہر شدتے<sup>۲</sup>۔</p>
--	--

پھر کہا:

<p>حضور قیامت کے دن خوفزدؤں اور خوف سے بھاگنے والوں کی جائے پناہ ہے گرفتن بندگان و گزیزگاہ ایشان در وقت خوف روز قیامت<sup>۳</sup>۔</p>
--

پھر کہا:

<p>زمانہ کے ہجوم کے وقت لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ (ت)</p>	<p>نافع تیرن ایشانست مردمائ راز نزدیک ہجوم حادث زماں<sup>۴</sup>۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> صراط مستقیم مقدمة الكتاب المكتبة السلفية لاہور ص ۸، ۷

<sup>۲</sup> اطيب النغم في مدح سيد العرب والجم فصل اول تحت شعر معتمد المکروب في كل غمرة مطبع مجتبائی دہلی ص ۳

<sup>۳</sup> اطيب النغم في مدح سيد العرب والجم فصل دوم تحت شعر ملا ذعبدالله ملجماء خوفهم مطبع مجتبائی دہلی ص ۲

<sup>۴</sup> اطيب النغم في مدح سيد العرب والجم فصل چہارم تحت شعر واحسن خلق الله خلقاً وخلقہ مطبع مجتبائی دہلی ص ۶

پھر کہا:

اے خلق خدامیں بہترین ! اے بہترین عطاکنندہ والے بہترین بہترین شخصیت، اور مصیبت کے وقت امیدوار کی مصیبت کو ٹالنے والے۔ (ت)	اے بہترین خلق خدا والے بہترین عطاکنندہ والے بہترین کسیکہ امید ادا شتہ شود برائے ازالہ مصیبۃ <sup>۱</sup> ۔
--	---

پھر کہا:

آپ مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں۔ (ت)	تو پناہ دہنندہ از ہجوم کردن مصیبۃ <sup>۲</sup> ۔
---	--

اپنے دوسرے قصیدہ نعتیہ ہمزیہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

حضور کی تعریف کرنے والا جب اپنی نارسائی کا احساس کرے تو حضور کو نہایت عاجزی اور اخلاص سے پکارے اور فریاد کرے اور حضور کی پناہ اس طرح چاہے کہ اے خدا کے رسول قیامت کے دن تیری عطا چاہتا ہوں تو ہی میری ہر بلا کی پناہ ہے۔ جبھی تو میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے پناہ کا طلب گار ہوں اور میری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہیں اہ لمھنا۔ (ت)	آخر حالت مادح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راوی تذکیرہ احساس کند نارسائی خود را از حقیقت شنا آنسست کہ ندا کند خوار وزار شدہ با خلاص در مناجات و بہ پناہ گرفتن بایں طریق اے رسول خدا عطا ے ترامیخواہم روز حشر (الی قولہ) توئی پناہ از ہر بلا بسوئے تست رو آوردن من و به تست پناہ گرفتن من و در تست امید داشتن من <sup>۳</sup> اہ لمھنا۔
--	---

یہی شاہ صاحب ہماعت میں زیر بیان نسبت اویسیہ لکھتے ہیں:

اس نسبت کے ثرات یہ ہیں کہ اس جماعت (اویسیہ) کی زیارت خواب میں ہو جاتی ہے اور ہلاکت و تیگی کے اوقات میں وہ جماعت	از شرات ایں نسبت رویت آں جماعت ست در منام و فالنہا ایشان یافتمن و در مہالک و مضاائق سورت آں جماعت پر دید آمدن و
---	---

<sup>۱</sup> اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم فصل یازدهم تحت شعر و صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ مطبع مجتبائی دہلی ص ۲۲

<sup>۲</sup> اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم فصل یازدهم تحت شعر و انت مجیری من هجوم مملیة الخ مطبع مجتبائی دہلی ص ۲۲

<sup>۳</sup> اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم فصل ششم تحت اشعار و آخر مالیاً دحه الخ مطبع مجتبائی دہلی ص ۳۲ و ۳۳

حل مشکلات وے باں صورت منسوب شدن <sup>۱</sup> ۔	ظاہر ہو کر مشکلیں حل فرماتی ہے۔ (ت)
قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کے شاگرد رشید اور مرزا صاحب موصوف کے مرید تذكرة الموتی میں ارواح اولیائے کرام قدس اسرار ہم کی نسبت لکھتے ہیں:	اقاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کے شاگرد رشید اور مرزا صاحب موصوف کے مرید تذكرة الموتی میں ارواح اولیائے کرام قدس اسرار ہم کی نسبت لکھتے ہیں:

ان کی ارواح زمین و آسمان اور بہشت سے ہر جگہ جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اپنے دوستوں اور معتقدوں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ (ت)

ارواح ایشان از زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند و میر وند و دوستاں و معتقداں را در دنیا و آخرت مددگاری میفرما یند و دشمناں رہلاک می سازند<sup>۲</sup>۔

اور دفع الباء کس چیز کا نام ہے۔ مرزا صاحب کے مفہومات میں ہے:

نسبت مابین امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے میری نسبت خاص وجہ سے ہے کہ فقیر کو آنحضرت سے خاص نیاز حاصل ہے اور جس وقت کوئی عارضہ بیماری جسمانی پیش ہوتی ہے میں آنحضرت کی طرف توجہ دیتا ہوں جو باعث شفا ہو جاتی ہے۔ (ت)	امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میری نسبت خاص وجہ سے ہے کہ فقیر کو آنحضرت سے خاص نیاز حاصل ہے اور جس وقت کوئی عارضہ بیماری جسمانی پیش ہوتی ہے میں آنحضرت کی طرف توجہ دیتا ہوں جو باعث شفا ہو جاتی ہے۔ (ت)
--	---

ذر اس "نیاز خاص" پر بھی نظر ہے۔ یہی داعی سنت نبویہ فرماتے ہیں:

التفات غوث الشققین اپنے تمام متسلین کے حالات کی طرف توجہ رکھتے ہیں کوئی ان کا مرید ایسا نہیں کہ اس کی طرف آنحضرت بحاش مبذول نیست۔ (ت)	حضور غوث الشققین اپنے تمام متسلین کے حالات کی طرف توجہ رکھتے ہیں ایس طریقہ ملاقات نشده کہ توجہ معلوم شد با تکمیل از اہل ایس طریقہ ملاقات نشده کہ توجہ مبارک آنحضرت بحاش مبذول نیست۔ (ت)
---	---

ذر اس عبارت کے تیور دیکھئے اور لفظ مبارک "غوث الشققین" بھی ملحوظ خاطر ہے

<sup>۱</sup> بعات ہم بعد ॥ اکادمیہ الشاہ ولی اللہ الدہلوی حیدر آباد بھارتستان ص ۵۹

<sup>۲</sup> تذكرة الموتی مطبع مجتبائی دہلی ص ۲۱

<sup>۳</sup> کلمات طیبات مفہومات مرزا مظہر جان جاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۸۷

<sup>۴</sup> کلمات طیبات مفہومات مرزا مظہر جان جاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۸۳

اس کے یہی معنی ہے ناکہ انس و جن سب کی فریاد کو پہنچنے والے  
اور سنتے یہی نفس ذکیرہ فرماتے ہیں:

<p>ایسا ہی حضرت خواجہ نقشبند اپنے معتقدین کے حالات میں ہمچنین عنایت حضرت خواجہ نقشبند بحال معتقدان خود مصروف است مغلال در صحر ایا وقت خواب اسباب و اسپان خود بجمیت حضرت خواجہ می سپارند و تائیدات از غیب ہمراہ ایشان می شود۔<sup>۱</sup></p>
(ت)

اب تو شرک کا پانی سر سے اوپر ہو گیا، ایمان سے کمیو تمہارے ایمان پر لکھا بڑا بھاری شرک ہے جس پر مدد غیری نازل ہوتی اور یہ بات حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز کے مدائح میں گئی جاتی ہے، خدا کرے اس وقت کہیں تمہیں حدیث اعوذ بعظیم هذا الوادی<sup>۲</sup>۔ (میں اس وادی کے حکمران کی پناہ چاہتا ہوں۔ت) یا آیہ کریمہ "كَانَ بِرَجَالٍ مِّنَ الْأُنْسِ يَعْوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ"<sup>۳</sup>۔ (آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے۔ت) یاد آجائے، پھر جناب مرزا صاحب اور ان کے مداح جناب شاہ صاحب کامزہ دیکھئے، آخر تمہارا امام بحوث پریت جن پری اور اولیاء شہداء سب کو ایک ہی درجہ میں مانا رہا ہے، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں:

<p>اولیاء اللہ بعد انتقال دنیا میں تصرف فرماتے ہیں اور ان کے استغراق کا کمال اور مدارج کے رفت اُن کو اس سمت توجہ دینے کی مانع نہیں ہے اولیی اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے</p>	<p>دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ واستغراق آنہا بجهت کمال و سعت مدارک آنہا مانع توجہ بایں سمت نمی گردد و اوسیاں تحصیل مطلب کمالات باطنی از انہا نمایند و ارباب</p>
---	--

<sup>1</sup> کلمات طیبات ملفوظات مرزا مظہر جان جاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۸۳

<sup>2</sup> المعجم الکبیر حدیث ۳۱۶۶ المکتبۃ الفیصلیہ بیروت ۲/ ۲۲۱، المستدرک للحاکم کتاب معرفة الصحابة ذکر تحریم بن فائق دار

الفکر بیروت ۲/ ۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۷۲/ ۷

<p>ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہیں سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ (ت)</p>	<p>حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہمی طلبند و می یابند<sup>۱</sup>۔</p>
--	---

ذرا یہ <sup>۱۰</sup> دنیا میں اولیاء کا نصرف بعد انتقال <sup>۱۱</sup> ملحوظ رہے اور حل مشکل ودفع بلا میں کتنا فرق ہے۔ (یا علی مشکل کشا مشکلشا) اور تحفہ اثنا عشریہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر جان خدیت پر قیامت توڑ گئے، فرماتے ہیں:

<p>حضرت امیر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کی اولاد طاہرہ کو تمام افراد امت پیروں مرشدوں کی طرح مانتے ہیں اور تکوینیہ امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ جانتے ہیں اور فاتحہ اور درود و صدقات اور نذر و نیاز انکے نام ہمیشہ کرتے ہیں، چنانچہ تمام اولیاء اللہ کا یہی حال ہے۔ (ت)</p>	<p>حضرت امیر و ذریعہ طاہرہ اور تمام امت بر مثال پیران و مرشد ان می پر ستد و امور تکوینیہ را بایشان وابستہ میداند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ جمع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است<sup>۲</sup>۔</p> <p>(تحفہ مطبوعہ کلکتہ ۱۴۲۳ھ آخر ص ۳۹۶ و اول ۷۴)</p>
---	--

کیوں صاحبو! یہ کتنے برسے شر کھائے اکبر واعظم ہیں کہ شاہ صاحب حسن پر احتجاج امت بتارہ ہے ہیں، اب تو عجب نہیں کہ روافض کی طرح امت مرحومہ کو معاذ اللہ امت ملعونة لقب دیجئے بھلا دفع بلا بھی امور تکوینیہ میں ہے یا نہیں جو دامن پاک حضرت مولیٰ علی وابیت کرام سے وابستہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ سید ھم و مولا ھم و علیہم و بارک و سلم۔

طرفہ ترستے، شاہ ولی اللہ صاحب کے انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ سے روشن کہ شاہ صاحب والا مناقب اور انکے بارہ "اساندہ علم حدیث و مشائخ طریقت جن میں مولانا ابو طاہر مدفنی اوان کے والد استاذ پیر مولانا البرائیم کردی اور ان کے استاد مولانا احمد قشاشی اور ان کے استاد مولانا احمد شناوی اور شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احمد نخلی وغیرہم اکابر داخل ہیں کہ شاہ صاحب کے اکثر سلاسل حدیث انہیں علماء سے ہیں جو اہر خمسہ حضرت شاہ محمد غوث

<sup>۱</sup> تفسیر فتح العزیز تحت آیۃ ۸۳/۸۴ مطبع مسلم بن عزری پوال کنوں دہلی پارہ عم ص ۲۰۶

<sup>۲</sup> تحفہ اثنا عشریہ باب ہفتمن در امامت سہیل اکیڈیکی لاہور ص ۲۱۳

گوالیاری علیہ الرحمۃ الباری و خاص دعائے سیفی کی اجازتیں لیتے اور اپنے مریدین و معتقدین کو اجازت دیتے۔ اعمال جواہر خمسہ دو دعائے سیفی کا زمانہ اقدس حضور داعی البلاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تصنیف ہونے سے بدعت، اور اس وجہ سے ان صحابوں کا بدعتی و مروج بدعت قرار پاتا درکنار، اسی جواہر خمسہ کی سیفی میں وہ جواہر دار سیف خونخوار، جسے دیکھ کر دہبیت بیچاری اپنا جواہر کرنے کو تیار، وہ کیا کہ ناد علی کہ ایمان طائفہ پر شرک جلی۔ جواہر خمسہ میں ترکیب دعائے سیفی میں فرمایا:

<p>ناد علی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھنا چاہئے، اور وہ یہ ہے: علی (رضی اللہ عنہ) کو پکار جن کی ذات پاک مظہر عجائب ہے، جب تو انہیں پکارے گا انہیں مصائب و افکار میں اپنا مددگار پائے گا ہر پریشانی و غم فوراً دور ہو جاتا ہے آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔ (ت)</p>	<p>ناد علی ہفت بار یا سسے بار یا ایک بار بخواند و آن ایس ست ناد علیاً مظہر العجائبات، تجدہ عوناً لک فی النوائب، کل هم و غم سینجی بولایتک یا علی یا علی یا علی<sup>1</sup>۔</p>
--	--

یعنی پکار علی مرتضی (کرم اللہ وجوہ) کو کہ مظہر عجائب ہیں تو انہیں اپنا مددگار پائے گا۔ مصیبتوں میں، سب پریشانی و غم اب دور ہوتے جاتے ہیں حضور کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی۔

ذر اب شرک طائفہ کا مول قول کئے، اس نقیس سند کی قدرے تفصیل درکار ہو تو فقیر کے رسائل "انہار الانوار من یہ صلوٰۃ الاسرار" فـ ۱ و "حیات الموات فی بیان سیاع الاموات" فـ ۲ و "انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ" فـ ۳ ملاحظہ ہوں۔ ہے یہ کہ ان خاندان اماموں نے طائفہ کی مٹی اور بھی خراب کی ہے وہی الحمد۔

فـ ۱: رسالہ انہار الانوار من یہ صلوٰۃ الاسرار فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور جلد ہفتہ میں ص ۵۶۹ پر موجود ہے۔

فـ ۲: رسالہ حیات الموات فی بیان سیاع الاموات فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، جلد نہم میں ص ۶۷۵ پر موجود ہے۔

فـ ۳: رسالہ انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جلد ۲۹ میں ص ۵۳۹ پر موجود ہے۔

<sup>1</sup> جواہر خمسہ مترجم اردو مرزا محمد بیگ نقشبندی دارالاشاعت کراچی ص ۲۸۲ و ۲۵۳

کیوں صاحبو! یہ سب حضرات بھی ایمان طائفہ پر مشرک، بے ایمان، واجب العذاب، مُتّحِلُّ الفَرَان تھے یا نقویٰ الایمان کی آیتیں حد شیش امام الطائفہ کا کتبہ چھوڑ کر باقی علمائے اہلسنت ہی کو مشرک بدعت بنانے کے لئے اتری ہیں۔ اللہ ایمان و حیا بخش۔ آمین۔ غرض ان حضرات کے مقابل شاید ایسے ہی گرم دودھوں سے کچھ کام چلے جنہیں نہ لگتے بننے الگتے۔ وَلَهُ الْحَجَةُ السَّاطِعَةُ۔

### فائدہ زاہرہ

خیر، یہ تو اجمالاً ان حضرات کی خدمت گزاری تھی، اور بدعت کی بحث تو علمائے سنت بہت کتب میں عایت قصویٰ تک پہنچا چکے و من احسن من فصلہ و حقائقہ خاتم المحققین سیدنا والدر رضی اللہ عنہ المولی الماجد فی کتابہ الجلیل المفاد "اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد" (خاتم المحققین سیدنا والد ماجد رضی اللہ عنہ نے اپنی جلیل و مفید کتاب "اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد" میں اس کی تحسین و تفصیل و تحقیق کی ہے۔ ت)

فقیر غفران اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسالہ "اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة" وغیرہ اسکل میں بقدر کافی نکات چیدہ گزارش کئے اور اپنے رسالہ "منیر العین في حكم تقبيل الابها مين" فـ وغیرہ میں خاندان مذکور کے بحثت ایجاد و احداث لکھے کہ اس نو تصنیف کی صفاہ کٹنی کوبس ہیں اور حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وبا و بلا و قحط و مرغز و الم کو دفع فرمانے کے جزئیات و دو قائع جواحد ایش میں مروی ان کے جمع کرنے کی ضرورت نہ حصر کی قدرت، ان میں سے بہت سے بحمد اللہ تعالیٰ کتب و خطب علماء میں مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکے اور اب جو چاہے کتب سیر و خصائص و معجزات مطالعہ کرے۔

### نکتہ جلیلہ کلیہ

مگر فقیر غفران اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ جلیلہ کلیہ بغایت مفید القا کرے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تمام شرکیات وہابیہ کی نجگنی میں کافی و وافی کام دے، مسلمانو! کچھ خبر بھی ہے ان حضرات کا لفظ دافع البلاء اور اس کے مثال کو شرک

**فـ**: رسالہ "منیر العین في حکم تقبیل الابھا مین" فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جلد پنجم صفحہ ۲۶۹ پر موجود ہے۔ رسالہ "اقامة القيامة" جلد ۲۲ ص ۳۹۵ پر موجود ہے۔

بتانے بلکہ یہ بات پر شرک پھیلانے سے اصل مدعای کیا ہے وہ ایک دائے باطنی و مرض خفی ہے کہ اکثر عوام بیچاروں کی نگاہ سے خفی ہے ان نئے فلسفوں پر انے فلسفوں کے نزدیک شرک امور عامہ سے ہے کہ عالم میں کوئی موجود اس سے خالی نہیں یہاں تک کہ معاذ اللہ حضرات علیہ انبیاء کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام تا آنکہ عیاذ باللہ خود حضرت رب العزة و حضور پر نور سلطان رسالت علیہ افضل الصلة والتحیة، ولہذا امام الطائفہ نے جابجا و بجا مسائل جی سے گھرے کہ یہ ناپاک چھینٹا وہاں تک بڑھے، جس کی بعض مثالیں مجموعہ فتاویٰ فقیر<sup>۱</sup> العطا یا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ<sup>۲</sup> کی جلد ششم<sup>۳</sup> البارقة الشارقة علی مارقة المشارقه<sup>۴</sup> میں ملیں گی، ان کی تفصیل سے تطویل کی حاجت نہیں، یہ حضرات کہ اس امام کے مقلد ہیں "إِنَّ أَعْلَمَ أُثْرِيِّهِمْ مُشَكِّنُونَ" <sup>۵</sup> (ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ ت) پڑھتے ہوئے اسی ڈگر ہوئے، یہ حکم شرک بھی اسی دبی آگ کا دھواں دے رہا ہے، اجمال سے نہ سمجھو تو مجھ سے منفصل سنو۔

اقول: وباللہ التوفیق، نسبت و اسناد و قسم ہے: حقیقت کہ مندا یہ حقیقت سے متصف ہو۔

اور مجازی کہ کسی علاقہ سے غیر متصف کی طرف نسبت کر دیں جیسے نہر کو جاری یا حابس سفینہ کو متحرک کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت آب و کشتی جاری متتحرک ہیں۔

پھر حقیقی بھی دو<sup>۶</sup> قسم ہے: ذاتی کہ خود اپنی ذات سے بے عطاۓ غیر ہو، اور عطاۓ کہ دوسرا نے اسے حقیقت متصف کر دیا ہو خواہ وہ دوسرا خود بھی اس وصف سے متصف ہو جیسے واسطہ فی الثبوت میں، یا نہیں جیسے واسطہ فی الایاث میں۔ ان سب صورتوں کی اسنادیں تمام محاورات عقلائے جہاں والہل ہر مذہب و ملت و خود قرآن و حدیث میں شائع و ذائع، مثلاً انسان عالم کو عالم کہتے ہیں، قرآن مجید میں جابجا اول اعلم و علموا بینی اسرائیل اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت لفظ علیم وارد، یہ حقیقت عطایہ ہے یعنی بعطائے الہی وہ حقیقت متصف بعلم ہیں، اور مولیٰ عز و جل نے اپنے نفس کریم کو علیم فرمایا یہ حقیقت ذاتیہ ہے کہ وہ بے کسی کی عطا کے اپنی ذات سے عالم ہے۔ سخت احمد وہ کہ ان اطلاقات میں فرق نہ کرے۔ وہابیہ کے مسائل شرکیہ استعانت و امداد و علم غیب و

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۳/۲۳

تصرات و ندوں سماع فریاد وغیرہ ایسے فرق نہ کرنے پر منی ہیں۔ فقیر غفران اللہ تعالیٰ نے اس بحث شریف میں ایک نصیح رسالہ کی طرح ڈالی ہے اس میں متعلق نزعات وہابیہ صدھا اطلاعات کو آیات و احادیث سے ثابت اور احکام اسنادات کو مفصل بیان کرنے کا قصد ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پر نور، معطی البخار والسرور، دافع البلاء والشروع، شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہنا بھی بمعنی حقیقی عطاً ہے مخالف متعسف کو یوں توفیق تصدیق نہ ہو تو فقیر کا رسالہ "سلطنة المصطفیٰ فی ملکوت کل الواری" مطالعہ کرے کہ بعونہ تعالیٰ تحقیق و توثیق کے باع ہکتے نظر آئیں اور ایمان و ایقان کے پھول مہکتے، خیر یہاں اس بحث کی تکمیل کا وقت نہیں ترزیلایا یہی سبی کہ احمد الامرین سے خالی نہیں نسبت حقیقی عطاً ہے یا از انجا کہ حضور سبب و وسیله و واسطہ دفع البلاء ہیں لہذا نسبت مجازی، رہی تحقیق ذاتی حاشا کہ کسی مسلمان کے قلب میں کسی غیر خدا کی نسبت اس کا خطہ گزرے۔

امام علامہ سیدی تقی الملة والدین علی بن عبد الکافی سکمی قدس سرہ الملکی (جن کی امامت و جلالت محل خلاف و شبہت نہیں، یہاں تک کہ میاں نزیر حسین دہلوی اپنے ایک مہری مصدق فتویٰ میں انہیں بالاتفاق امام مجتهد مانتے ہیں) کتاب مستطاب شفاء السقام شریف میں ارشاد فرماتے ہیں:

<p>یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل ہیں یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا، تو اس معنی پر کلام کوڑھانا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔</p>	<p>لیس المراد نسبۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی الخلق والاستقلال بالافعال هذا لا يقصدہ مسلم فصرف الكلام الیه ومنعه من باب التلبیس فی الدین والتشویش علی عوام المؤحدین<sup>1</sup>۔</p>
---	---

صدقت یا سیدی جزاک اللہ عن الاسلام والمسلمین خیرًا، امین (اے میرے آقا! آپ نے چیز فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزاء خیر عطا فرمائے۔ ت)

فقیر کہتا ہے ایک دفع بلاء و امداد و عطا ہی پر کیا موقوف مخلوق کی طرف اصل وجود ہی کی اسناد

<sup>1</sup> شفاء السقام الباب الثامن في التوسل والاستغاثة الخ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۱۷۵

بعنی حقیقی ذاتی نہیں پھر عالم کو موجود کہنے میں وہابیہ بھی ہمارے شریک ہیں کیا ان کے نزدیک عالم بذاتہ موجود ہے یا جو فسطائیہ کی طرح عقیدہ حقائق الاشیاء ثابتہ (اشیاء کی حقیقت ثابت ہے۔ ت) سے منکر ہیں اور جب کچھ نہیں تو کیا ظلم ہے کہ جو محاورے صحیح و شام خود بولتے رہیں مسلمانوں کے مشرک بنانے کو ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، کیا مسلمان پر بدگمانی حرام قطعی نہیں، کیا اس کی مذمت پر آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ ناطق نہیں بلکہ انصاف کی آنکھ کھلی ہو تو اس ادعائے غبیث کا درجہ تو بدگمان سے بھی گزرا ہوا ہے، سوئے ظن کے لئے اس گمان کی گنجائش تو چاہیے، مسلمان کے بارہ میں ایسے خیال کا احتمال ہی کیا ہے اس کا موحد ہونا ہی اس کی مراد پر گواہ کافی ہے کما لا یخفی عن دکل من له عقل و دین (جیسا کہ کسی صاحب عقل و دین پر پوشیدہ نہیں۔ ت) فتاویٰ خبر یہ کتاب الایمان میں ہے:

<p>ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مجھے دہر حکم نہیں دے گا میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اور وہ داخل ہو گیا، کیا وہ قسم توڑنے والا ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ تحریر ہے کہ حانت نہیں ہوا، یہ کلمہ مجازی ہے، موحد جو خدا کو ایک مانتا ہے اس سے شرک کا صدور ناممکن ہے۔ جب داخل ہو تو رب الدہر یعنی خدا کے حکم سے داخل ہوا، اس لئے وہ حانت نہیں ہوا (الله ملحمات)</p>	<p>سئل في رجل حلف انه لا يدخل هذه الدار الا ان يحكم عليه الدهر فدخل هل يحيث اجاب لا وهذا مجاز لصورة من الموحد واذا دخل فقد حكم اي قضى عليه رب الدهر بدخولها وهو مستثنى فلا حث اهبتلخیص۔<sup>1</sup></p>
---	---

تو ایسا ناپاک ادعای بدگمانی نہیں صریح افتراء ہے، وہ بھی مسلمان پر وہ بھی کفر کا، مگر قیامت تونہ آئیگی، حساب تونہ ہو گا، ان خبات کے دعووں سے سوال تونہ کیا جائے گا، مسلمان کی طرف سے لا الہ الا اللہ جھگڑتا ہوانہ آئے گا۔ ستمگر! جواب تیار رکھا اس سختی کے دن کا، "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَّا مُنْقَبِبُ يَنْقَلِبُونَ" <sup>2</sup>۔ (اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پیٹا کھائیں گے۔ ت)

<sup>1</sup> الفتاویٰ الخیریۃ کتاب الایمان دار المعرفۃ بیروت ۸/۱

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۲/۲۷

بالجملہ اس اختہال کو بھاں راہ ہی نہیں بلکہ انہیں دو سے ایک مراد بالیقین یعنی اسناد غیر ذاتی کسی قسم کی ہواب جو اسے شرک کہا جاتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں متصور ہنظر مصدق عَنْ نسبت یا بغش حکایت۔

اول یہ کہ غیر خدا کے لیے ایسا اضافہ ماننا ہی مطلقاً شرک اگرچہ مجازی ہو، جس کا حاصل اس مسئلہ میں یہ کہ حضور داعع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفع بلاکے سبب واسطہ بھی نہیں کہ مصدق نسبت کسی طرح متحقق جو غیر خدا کو ایسے امور میں سبب ہی مانے وہ بھی مشرک۔

دوسرم یہ کہ ایسی نسبت و حکایت خاص بذاته حدیت جل وعلا ہے غیر کے لئے مطلقاً شرک اگرچہ اسناد غیر ذاتی مانے، آدمی اگر عقل وہوش سے کچھ بہار کھتنا ہو تو غیر ذاتی کا لفظ آتے ہی شرک کا خاتمہ ہو گیا کہ جب بعطائے الہی مانا تو شرک کے کیا معنی برخلاف اس طاغی سرکش کے جو عقل کی آنکھ پر مقابرہ کی پٹی باندھ کر صاف کہتا ہے پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے<sup>1</sup>۔ کسی سفیرہ مجنوں سے

عَنْ فرق یہ کہ اول میں حکم منع حکایت بنظر بطلان و عدم مطابقت ہو گا یعنی واقعہ میں موضوع ایسے صفت سے متصف ہی نہیں جو اس حکایت کا مُصحح ہو، اور دوم میں حکایت خود ہی مذکور ہو گی اگر صادق ہو کہ صدق و صحت اطلاق الزام نہیں،

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارا عقائد ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	الاتری اناؤمن بآن محدداً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مخلوق الہی میں ہر عزیز سے بڑھ کر عزیز اور ہر جلالات والے سے	اعز عزیز و اجل جلیل من خلق اللہ عزوجل ولكن
بڑھ کر جلیل ہیں مگر محمد عزوجل نہیں کہا جاتا بلکہ محمد صلی اللہ	لا یقال محمد عزوجل بل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ (ت)	(T. Majlis of Dawat-e-Sunnah)

تو درجہ اول میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ اسناد غیر ذاتی کا مطلقاً متحقق، اور دوم میں یہ کہ یہ اطلاق یقیناً جائز۔ پر ظاہر کہ دلائل وجہ دوم سب دلائل وجہ اول بھی ہیں کہ حکایات الیہ و بنویہ قطعاً صادق۔ لہذا ہم انہیں جانب کثرت بقلت توجہ کریں گے نصوص وجہ ثانی بکثرت لا ایں گے و باللہ التوفیق ۲۱ منہ دامت فیوضہ۔

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان، پہلا باب، مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۷۷

کیا کہا جائے گا کہ صفت الہی بعطائے الہی نہیں تو جو بعطائے الہی ہے صفت الہی نہیں، تو اس کا اثبات اصلاً کسی صفت الہی کا اثبات بھی نہ ہوانہ کہ خاص صفت ملزومہ الوہیت کا کہ شرک ثابت ہو بلکہ یہ تو بالبداہ صفت ملزومہ عبدیت ہوئی کہ بعطائے غیر کسی صفت کا حصول تو بندہ ہی کے لئے معقول تو اس کا اثبات صراحتاً عبدیت کا اثبات ہوانہ کہ معاذ اللہ الوہیت کا، ایک یہی حرف تمام شرکیات وہابیہ کو کیفر چنانی کے لئے بس ہے، مگر مجھے تو یہاں وہ بات ثابت کرنی ہے جس پر میں نے یہ تمہید اٹھائی ہے یعنی ان صاحبوں کا حکم شرک اللہ و رسول تک متعدد ہونا، ہاں اس کا ثبوت لیجئے ابھی بیان کرچکا ہوں کہ اس حکم ناپاک کے لئے دو ہی وجہیں منتصور، ان میں سے جو وجہ لیجئے ہر طرح یہ حکم معاذ اللہ و رسول تک منحصر جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔



**باب اول:**

وجہ اول پر نصوص سنئے اس میں چھ آیتیں اور ساٹھ حدیثیں، جملہ چھیا سٹھ نص ہیں۔

**فصل اول آیات کریمہ میں**

**آیت ۱: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**

<p>اللَّهُ أَنَّ كَافِرَوْنَ پَرِ عَذَابٍ نَّهَىٰ فَرِمَاهَ گا جَبٌ تَّکَ اے محبوب ! تو ان میں تشریف فرمائے۔</p>	<p>"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" <sup>۱</sup> -</p>
--	--

سبحان اللہ ! ہمارے حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار پر سے بھی سبب دفع بلاء ہیں کہ مسلمانوں پر تو خاص روغ و رحیم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

**آیت ۲:**

<p>ہم نے نہ بھیجا تمہیں مگر رحمت سارے جہان کیلئے۔</p>	<p>"وَمَا أَنْرَى سَلَّيْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" <sup>۲</sup> -</p>
---	---

پر ظاہر کہ رحمت سبب دفع بلاوز رحمت (جو خوب ظاہر ہے کہ رحمت سبب ہے مصیبت و رحمت کی دوری کا۔ ت)

**آیت ۳:**

<p>اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے بخشنش چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لئے رسول، تو پیشک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔</p>	<p>"وَأَوْأَتْهُمْ إِذْلِيلًا فَأَنْفَسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا" <sup>۳</sup> -</p>
---	---

آیتہ کریمہ صاف ارشاد فرماتی ہے کہ حضور پر نور غفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۳/۸

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۰۷/۲۱

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۳/۳

بارگاہ میں حاضری سبب قبول توبہ و دفع بلائے عذاب ہے، بلکہ آیت پیار دلوں پر اور بھی بلا و عذاب کہ رب العزت قادر تھا یونہی گناہ بخش دے مگر ارشاد ہوتا ہے کہ قبول ہونا چاہو تو ہمارے پیارے کی سرکار میں حاضر ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
والحمد لله رب العالمین۔

آیت ۲:

اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو آدمیوں سے دفع نہ فرمائے تو ہر ملت و منہب کی عبادات گاہ ڈھادی جائے۔	”وَلَوْلَا دُفِعَ عَنِ الْأَنْسَابِ بَعْضُهُمْ بِعُضٍ لَّهُمْ مَثُصَوَّافُ“ <sup>۱</sup>
---	--

معلوم ہوا کہ مجاہدین آلہ و واسطہ دفعی بلائیں۔

آیت ۵:

اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ عز و جل کالوگوں کو ایک دوسرے سے تو پیشک تباہ ہو جاتی زمین مگر اللہ فضل والا ہے سارے جہاں پر۔	”وَلَوْلَا دُفِعَ عَنِ الْأَنْسَابِ بَعْضُهُمْ بِعُضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَنْمُضَ وَ لِكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ“ <sup>۲</sup>
---	---

انہ مفسرین فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ مسلمان کے سبب کافروں اور نکیوں کے باعث بدلوں سے بلا دفع کرتا ہے۔

آیت ۶:

اور اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں کہیں تم انہیں روندaloتو ان سے تمہیں انجانی میں مشقت پہنچتا کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں لے لے وہ اگر الگ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔	”وَلَوْلَا رَجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْبُدُوهُمْ أَنْ تَكُوْهُمْ فَصَيِّبَيْكُمْ مِّنْهُمْ مَعْرَةٌ بَعْيَرِ عَلِمٍ لَّيْدُ خَلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ لَوْلَا يَرِيَ الدَّبَابًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ عَدَاءٌ أَلِيمٌ“ <sup>۳</sup>
--	---

<sup>1</sup> القرآن الكرييم ۲۲/۴۰<sup>2</sup> القرآن الكرييم ۲/۲۵۱<sup>3</sup> القرآن الكرييم ۳۸/۲۵

یہ فتح مکہ سے پہلے کا ذکر ہے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرؑ کے لئے مکہ معظمه تشریف لائے ہیں اور کافروں نے مقام حدیبیہ میں روکا شہر میں نہ جانے دیا صلح پر فیصلہ ہوا تاہیرؑ کی نظر میں اسلام کے لیے ایک دہتی ہوئی بات تھی اور حقیقت میں ایک بڑی فتح نمایاں تھی جسے اللہ عزوجل نے "إِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتَحًا مُّبِينًا<sup>۱</sup>"۔ (بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی۔ ت) فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تکشیں کو یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سال تمہیں داخل مکہ نہ ہونے دینے میں کئی حکمتیں تھیں کمرے معظمه میں بہت مردوں عورت مغلوبی کے سبب خفیہ مسلمان ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں تم قہر جاتے تو وہ بھی تبغیث و بندکے روندے میں آجاتے اور ان کے سوا بھی وہ لوگ ہیں جو ہنوز کافر ہیں اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لے گا اسلام دے گا ان کا قتل منظور نہیں ان وجہ سے کفار مکہ پر سے عذاب قتل و قهر موقوف رکھا گیا یہ سب لوگ الگ ہو جاتے تو ہم ان کافروں پر عذاب فرماتے۔ کیسا صریح روشن نص ہے کہ اہل اسلام کے سبب کافروں پر سے بھی بلا دفع ہوتی ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

### فصل دوم احادیث عظیمه میں

حدیث ۱: کرب العزت جل و علیہ رحماتہ ہے:

<p>میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں جب میرے گھر آباد کرنے والے اور میرے لئے باہم محبت رکھنے والے اور کچھلی رات کو استغفار کرنے والے دیکھتا ہوں اپنا غصب ان سے پھیر دیتا ہوں۔ (بیہقی نے شعب الایمان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حدیث بیان فرماتا ہے۔ ت)</p>	<p>اَنِّي لَا هُمْ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا بَأَنَّا نَظَرْنَا إِلَى عِمَارَبِيَّوْتِ وَالْمُتَحَابِيَّنِ فِي وَالْمُسْتَغْفِرِيَنِ بِالْأَسْحَارِ صَرْفَ عَنْهُمْ۔ البھیقی فی الشعوب عن انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان الله تعالیٰ يقول الحديث<sup>۲</sup></p>
---	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱/۳۸

<sup>۲</sup> شعب الایمان حدیث ۹۰۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۵۰۰، کنز العمال حدیث ۲۰۳۳ مؤسسه الرسالہ بیروت ۷/۵۷۹

حدیث ۲: کہ حضور رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں:

<p>اگر نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کے نمازی بندے اور دودھ پیتے پچھے اور گھاس چرتے چوپائے تو بیکھ عذاب تم پر بسختی ڈالا جاتا پھر مضبوط و حکم کر دیا جاتا ( طبرانی نے کبیر میں اور بیہقی نے سنن میں مسافع الدیلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت )</p>	<p>لولا عباد اللہ رکع و صبیة رضع وبهائمه رتع تصب عليکم العذاب صبائمه رض رضا۔ الطبرانی<sup>۱</sup> في الكبير والبيهقي في السنن عن مسافع الديلمي رضي الله تعالي عنہ۔</p>
--	--

حدیث ۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>بیکھ اللہ عزوجل نیک مسلمان کے سبب اس کے ہمسائے میں سو گھروں سے بلاد فخر ماتا ہے۔</p>	<p>ان اللہ تعالیٰ لیدفع بالمسلم الصالح عن مائے اہل بیت من جیرانہ البلاء۔</p>
---	--

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے یہ حدیث روایت فرمائی آیہ کریمہ ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تلاوت کی۔

<p>طبرانی نے کبیر میں ابن عمر سے اور عبد اللہ بن احمد پھر بغوی نے معالم میں اس کو روایت کیا۔ ت )</p>	<p>رواہ عنه الطبرانی في الكبير<sup>۲</sup> وعبدالله بن احمد ثم البغوی في المعالم۔</p>
--	---

حدیث ۴: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>جو ہر روز ستائیں بار سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے استغفار کرے وہ ان لوگوں میں ہو جن کی دعا قبول ہوتی ہے</p>	<p>من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ربهم</p>
---	--

<sup>۱</sup> السنن الکبریٰ للبیهقی کتاب صلوٰۃ الاستسقاء باب استحباب الخروج الخ مجلس دائرة المعارف العثمانیہ و کن ۳۲۵، المعجم البیهقی حدیث ۸۵/۷ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲۲/۰۹/۳۰۹

<sup>۲</sup> معالم التنزیل (تفسیر البغوی) تحت الآیة ۲/۲۵ دار الكتب العلمیة بیروت ۱/۷/۱، الترغیب والتربیب بحوالہ الطبرانی التربیب من اذی الجار حدیث ۳۶۹ مصطفی الباجی المصری ۳/۲۳ الدر المنشور تحت الآیة ۲/۲۵ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱/۲۶/۷

اور ان کی برکت سے تمام اہل زمین کو رزق ملتا ہے (طبرانی نے کبیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند جید کے ساتھ روایت کیا۔ ت)	<b>لهم ويرزق بهم اهل الارض۔ الطبرانی فی الكبیر<sup>۱</sup></b> عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسنده جید۔
---	---

حدیث ۵: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

کیا تمہیں مدد و رزق کسی اور کے سبب بھی ملتا ہے سوائے اپنے ضعیفوں کے۔ (بخاری نے سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	<b>هل تنصرؤن وترزقون الا بضعفائكم۔ البخاری<sup>۲</sup></b> عن سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	--

حدیث ۶: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

پیشک اللہ تعالیٰ قوم کی مدد فرماتا ہے ان کے ضعیف تر کے سبب۔ حارث نے اپنی مند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	<b>ان الله ينصر القوم بأضعفهم۔ الحارث فی مسنده<sup>۳</sup></b> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
--	--

حدیث ۷: زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے ایک کسب کرتے، دوسرے خدمت والا حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے۔ کنانے والے ان کے شاکی ہوئے، فرمایا:

کیا عجب کہ تجھے اس کی برکت سے رزق ملے۔ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کی صحیحگی، اور حاکم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	<b>لعلك ترزق به۔ الترمذی<sup>۴</sup> وصححه والحاکم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</b>
---	--

<sup>۱</sup> کنز العمال حدیث ۲۰۲۸ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۲۷۲

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب الجہاد باب من استعن بالضعفاء الخ قدیمی کتب خانہ ۱/۵۰۴

<sup>۳</sup> کنز العمال حدیث ۱۰۸۸۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۳۵۷

<sup>۴</sup> سنن الترمذی کتاب الزهد حدیث ۲۳۵۲ دار الفکر بیروت ۳/۱۵۳، المستدرک للحاکم کتاب العلم خطبة صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی

حجۃ الوداع دار الفکر بیروت ۱/۹۳

## حدیث ۸: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

<p>ابوال میری امت میں تیس ہیں انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کے سبب تم پر میںہ اترتا ہے۔ انہیں کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے۔ (طبرانی نے کبیر میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا۔ ت)</p>	<p>الابدا في امتي ثلثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون۔ الطبراني<sup>۱</sup> في الكبير عن عبدة رضي الله تعالى عنه بسنده صحيح۔</p>
---	---

حدیث ۹: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم : ابوال شام میں ہیں اور وہ چالیس ہیں جب ایک مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بد لے دوسرا قائم کرتا ہے۔

<p>انہی کے سبب میںہ دیا جاتا ہے، انہیں سے دشمنوں پر مدد ملتی ہے، انہیں کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے۔ (امام احمد نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے بسند حسن روایت کیا۔ ت)</p>	<p>يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب۔ احمد<sup>۲</sup> عن علی كرم الله تعالى وجهه بسنده حسن۔</p>
---	--

دوسری روایت یوں ہے:

<p>انہی کے سبب اہل زمین سے بلاء اور غرق دفع ہوتا ہے۔ (ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>يصرف عن أهل الأرض البلاء والعرق۔ ابن عساكر <sup>۳</sup> رضي الله تعالى عنه۔</p>
--	--

حدیث ۱۰: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ عبادة ابن الصامت حدیث ۳۲۵۹۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۸۶/۱۲، مجمع الزوائد، باب ماجاء في الابدا الخ دار الكتب بیروت ۱۸۲/۱۰، الجامع الصغیر بحوالہ الطبرانی عن عبادة بن الصامت حدیث ۳۰۳۳ دار الكتب العلمية بیروت ۱۸۲/۲۳

<sup>۲</sup> مسند احمد بن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ المكتب الاسلامی بیروت ۱۱۲/۱۰

<sup>۳</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ماجاء ان بالشام يكون الابدا دار احياء التراث العربي بیروت ۱۷۳/۲۱۳

ابدال شام میں ہیں،

<p>وہ انہیں کی برکت سے مدد پاتے ہیں اور انہیں کی وسیلہ سے رزق۔ (طبرانی نے کبیر میں عوف بن مالک سے اور اوسط میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دونوں میں بسند حسن روایت کیا۔ ت)</p>	<p>بهم ينصرون وبهم يرزقون۔ الطبراني في الكبير<sup>۱</sup> عن عوف بن مالك وفي الاوسط عن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کلاہمابسند حسن۔</p>
--	--

حدیث ۱۱: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>زمین ہرگز خالی نہ ہوگی چالیس اولیاء سے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پر توپر ہوں گے، انہیں کے سبب تمہیں یہ نہ ملے گا اور انہیں کے سبب مدد پاؤ گے (طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ ت)</p>	<p>لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل إبراهيم خليل الرحمن فيهم تسقون وبهم تنصرون۔ الطبراني في الأوسط<sup>۲</sup> عن انس رضي الله تعالى عنه بسند حسن۔</p>
--	---

حدیث ۱۲: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والثناء سے خوبو میں مشاہدہ رکھنے والے تیس شخص زمین پر ضرور رہیں گے، انہیں کی بدولت تمہاری فریاد سنی جائے گی اور انہیں کے سبب رزق پاؤ گے اور انہیں کی برکت سے یہ نہ دئے جاؤ گے (ابن حبان نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>لن يخلو الأرض من ثلاثين مثل إبراهيم بهم تغاثون وبهم ترزقون وبهم تمطرون۔ ابن حبان<sup>۳</sup> في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه</p>
---	---

<sup>۱</sup> المعجم الكبير عن عوف بن مالك حدیث ۱۲۰ المكتبة الفيصلية بيروت ۸/ ۲۵

<sup>۲</sup> المعجم الاوسط حدیث ۳۱۱۳ مکتبۃ المعرف ریاض ۵/ ۲۵، کنز العمال حدیث ۳۲۰۳ مؤسسة الرسالہ بيروت ۱۲/ ۱۸۸

<sup>۳</sup> کنز العمال بحوالہ حب فی تاریخہ عن ابی هریرہ حدیث ۳۲۰۲ مؤسسة الرسالہ بيروت ۱۲/ ۱۸۷

حدیث ۱۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

میری امت میں چالیس مرد ہمیشہ رہیں گے کہ ان کے دل ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفع کرے گا ان کا لقب ابدال ہو گا۔ (ابو نعیم نے حیله میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	لایزال اربعون رجلاً من امتی قلوبهم على قلب ابراہیم یدفع الله بهم عن اهل الارض يقال لهم الابدال۔ ابو نعیم فی الحلیة <sup>۱</sup> عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	---

حدیث ۱۴: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

چالیس مرد قیامت تک ہوا کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ زمین کی حفاظت لے گا جب ان میں کا ایک انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ اسکے بد لے دوسرا قائم فرمائیگا، اور وہ ساری زمین میں ہیں۔ (خیال نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	لایزال اربعون رجلاً يحفظ الله بهم الارض كلامات رجل ابدل الله مكانه آخر وهم في الارض كلها۔ الخلال <sup>۲</sup> عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما۔
---	---

حدیث ۱۵: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے خلق میں تین سو اولیاء ہیں کہ ان کے دل قلب آدم پر ہیں، اور چالیس کے دل قلب موٹی اور سات کے قلب ابراہیم، اور پانچ کے قلب جبریل، اور تین کے قلب میکائیل، اور ایک کا دل قلب اسرافیل پر ہے علیہم الصلوٰۃ والتسلیم۔ جب وہ ایک مرتا ہے تین میں سے کوئی ایک اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدل کیا جاتا ہے اور پانچ والے کا عوض سات اور سات کا چالیس اور چالیس کا تین سو اور تین سو کا عام مسلمین سے،

<sup>۱</sup> حلیۃ الاولیاء ترجمہ زید بن وہب ۲۲۳ دارالكتاب العربي بيروت ۱۷۳ / ۲، کنز العمال بحوالہ طب عن ابن مسعود حدیث ۳۳۶۱۲

مؤسسة الرسالہ بيروت ۱۹۰ / ۱۲

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ الخلال عن ابن عمر حدیث ۳۳۶۱۲ مؤسسة الرسالہ بيروت ۱۹۱ / ۱۲

<p>انہیں تین سو چھپن اولیاء کے ذریعہ سے خلق کی حیات موت، مینہ کا برسنا، بباتات کا گلنا، بلاوں کا دفعہ ہونا ہوا کرتا ہے۔ (ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>فیهم يحيى ويبث ويعطى وينبت ويدفع البلاء۔ ابو نعيم في الحلية<sup>۱</sup> وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه۔</p>
---	--

حدیث ۱۲: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>تین قسم کے آدمیوں نے قرآن پڑھا (دو فتمیں دنیا طلب و قاری ہے عمل بیان کر کے فرمایا) ایک وہ شخص جس نے قرآن عظیم پڑھا اور دو کو اپنے دل کی بیماری کا علاج بنایا تو اس نے اپنی رات جاگ کر اور اپنادن پیاس لیعنی روزے میں کاتا اور اپنی مسجدوں میں قرآن کے ساتھ نماز میں قیام کیا اور اپنی زاہدانہ ٹوبیاں پہنے نرم آواز سے اس کے پڑھنے میں روئے، تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ بلا کو دفع فرماتا اور دشمنوں سے مال و دولت و غنیمت دلاتا اور آسمان سے میئے بر ساتا ہے خدا کی قسم قاریان قرآن میں ایسے لوگ گوگرد سرخ سے بھی کمیاب تر ہیں۔ (ابن حبان نے الضعفاء میں اور ابو نصر سجزی نے ابانتہ میں اور دیلیحی نے حضرت بریدہ رضی اللہ</p>	<p>قراء القرآن ثلثة (فذكر الحديث الى ان قال) ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظاهبه نهاره وقاموا في مساجدهم واحبوا به تحت برانسهم فهو لاء يدفع الله بهم البلاء ويزيل من الاعداء وينزل غيث السماء فوالله هو لاء من قراء القرآن اعز من الكبريت الاحمر۔ ابن حبان<sup>۲</sup> في الضعفاء وابو نصر السجزي في الابانة والدليلى عن بريده رضي الله</p>
---	---

<sup>۱</sup> حلیۃ الاولیاء مقدمة الكتاب دار الكتاب العربي بيروت ۱/۹، تاریخ دمشق الكبير باب ماجاء ان بالشام يكون الخ دار احياء التراث

العربي بيروت ۱/۲۲۳

<sup>۲</sup> شعب الاولیاء حدیث ۲۲۲۱ دار الكتب العلمية بيروت ۲/۵۳۱ و ۵۳۲، کنز العمال بحواله حب في الضعفاء وابي نصر السجزي الخ حدیث

۱/۲۸۸۲ مؤسسة الرساله بيروت

تعالیٰ عنہ سے اور بیہقی نے شعب میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)	تعالیٰ عنه و رواه البیهقی فی الشعوب عن الحسن البصري رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	---

حدیث ۱۷: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>ستارے امان ہیں آسمان کے لئے، جب ستارے جاتے رہیں گے آسمان پر وہ آئے گا جس کا اس سے وعدہ ہے یعنی شق ہونا فنا ہو جاتا۔ اور میں امان ہوں اپنے اصحاب کے لئے جب میں تشریف لے جاؤں گا میرے اصحاب پر وہ آئے گا جس کا ان سے  وعدہ ہے یعنی مشاجرات۔ اور میرے صحابہ امان ہیں میری امت کے لیے، جب میرے صحابہ نہ رہیں گے میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے یعنی ظہور کذب و مذاہب فاسدہ و تسلط کفار۔</p> <p>چچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ (ت) امام احمد و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ الشعراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)</p>	<p>النجوم امنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعده. وإنما امنة لاصحابي فإذا ذهبوا أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي امنة لامتي فإذا ذهب أصحابي أتى لامتي ما يوعدون۔</p> <p>صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احمد و مسلم<sup>۱</sup> عن ابی موسیٰ الشعراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	--

حدیث ۱۸، ۱۹: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے پناہ۔</p>	<p>النجوم امان لاهل السماء و اهل بيته امان لامتي<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الفضائل باب بیان ان بقاء النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امان لاصحابہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۸۸/۳، مسند

احمد بن حنبل عن ابی موسیٰ الشعراً المکتب الاسلامی بیروت ۳۹۹/۳

<sup>۲</sup> الصواعق البحرقۃ بباب الامان ببقائہم دارالکتب العلمیہ بیروت ص ۳۵۱

اقول: اگر اہلیت میں تعمیم ہو جیسا کہ ظاہر حدیث ہے تو غالباً یہاں ہلاک مطلق وارتفاع قرآن عظیم وہدم کعبہ معظمہ و دیرانی مدینہ طیبہ سے پناہ مراد ہو کہ جب تک اہل بیت اطہار ہیں گے یہ جانگرا بلائیں پیش نہ آئیں گی۔ واللہ و رسولہ اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور بر تقدیر خصوص ظہور طوائف ضالہ مراد ہو،

<p>جیسا کہ مسند ابو یعلیٰ کی روایت میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں اسے روایت کیا اور اس کی صحیح کی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی پیروی کی، ان کے الفاظ یہ ہیں: ستارے زمین والوں کے لئے غرق ہونے سے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے اختلاف سے امان ہیں، الحدیث۔ (ت)</p>	<p>کیا فی روایة ابی یعلیٰ فی مسندہ عَنْ سَلِیْمَةَ بْنِ الْاکُوع رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدِ حَسْنٍ وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدِرِكِ وَصَحَّ وَتَعَقَّبَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلِفَظِهِ النَّجُومُ امَانٌ لِاهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرْقِ وَاهْلُ بَیْتِ امَانٍ لِامْتِی مِنَ الْخِلَافِ<sup>۱</sup> الْحَدِیث۔</p>
--	--

حدیث ۲۰: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>میرے اہلیت میری امت کے لے امان ہیں جب اہل بیت نہ رہیں گے امت پر وہ آئیگا جو ان سے وعدہ ہے (حاکم نے روایت کی اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کی۔ ت)</p>	<p>اہل بیتی امَانٌ لِامْتِی فَإِذَا ذَهَبَ اهْلُ ابْيَتِنَهُ يُوَدُّونَ -الْحَاكِمُ<sup>۲</sup> وَتَعَقَّبَ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔</p>
---	---

حدیث ۲۱: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل مبارک کی نشانیوں سے تھا کہ قریش کے جتنے چوپائے تھے سب نے اس رات کلام کیا اور کہا رب کعبہ کی</p>	<p>کان من دلالات حمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کل دابة كانت لقو پیش نقطت تلك</p>
---	---

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم کتاب معرفۃ الصحابة اہل بیتی امَانٌ لِامْتِی دار الفکر بیروت ۱۳۹/۳

<sup>۲</sup> المستدرک للحاکم کتاب معرفۃ الصحابة اہل بیتی امَانٌ لِامْتِی دار الفکر بیروت ۱۳۹/۳

<p>فتنم ! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل میں تشریف فرمائے ہوئے وہ تمام دنیا کی پناہ اور اہل عالم کے سورج ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>اللیلۃ و قالت حمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رب الکعبۃ و هو امان الدنیا و سراج اهلہا<sup>۱</sup></p>
--	--

حدیث ۲۲ و ۲۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>میرے رحم دل اتیوں سے حاجتیں مانگو رزق پاؤ گے اور ایک روایت میں ہے ان سے نفضل طلب کرو ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے میری رحم دل اتیوں سے بھلائی چاہو ان کی پناہ میں چین سے رہو گے۔ عقیلی اور طبرانی نے اوسط میں بلطف اول اور ابن حبان، خراطی، قضاعی، ابو الحسن موصلی اور حاکم نے تاریخ میں بلطف دوم جبکہ عقیلی نے بلطف سوم روایت کیا ہے۔ ان سب نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور متذر ک حاکم میں دوسری روایت میں برداشت علی رضی اللہ تعالیٰ</p>	<p>اطلبوا الحوائج الى ذوى الرحمة من امتى ترزقا و في لفظ اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتى تعيشوا في اكنافهم فان فيهم رحمتي وفي لفظ اطلبوا الفضل من الرحماء وفي رواية اخرى اطلبوا المعروف من رحماء امتى تعيشوا في اكنافهم۔ العقیل<sup>۲</sup> والطبرانی في الاوسط باللفظ الاول وابن حبان والخرائطي والقضاعي وابو الحسن الموصلی والحاکم في التاریخ<sup>۳</sup> بالثانی والعقیل بالثالث كلهما عن سعید<sup>۴</sup> الخدری و الآخری للحاکم في المستدرک عن على<sup>۵</sup> المرتضی رضی اللہ</p>
---	--

<sup>۱</sup> الخصائص الكبیری بحواله ابو نعیم عن ابن عباس باب مظہر فی لیلۃ مولده الخ مرکز الہست گجرات ہند ۱/۷۸

<sup>۲</sup> کنز العمال بحواله عق. طس عن ابی سعید حدیث ۲۸۰۹ مؤسسه الرسالہ بیروت ۲/۵۱۸، الجامع الصغیر بحواله عق. طس عن ابی سعید حدیث ۱۰۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۷۲

<sup>۳</sup> الجامع الصغیر بحواله الخرائطی فی مکام الاخلاق حدیث ۱/۱۱۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۲، کنز العمال بحواله الخرائطی فی مکارم الاخلاق حدیث ۲۸۰۹ مؤسسه الرسالہ بیروت ۲/۵۱۹

<sup>۴</sup> المستدرک للحاکم کتاب الرقاد اهل المعرفہ فی الدنیا الخ دارالفکر بیروت ۳/۳۲۱، کنز العمال حدیث ۷ مؤسسه الرسالہ بیروت ۲/۵۱۹

تعالیٰ عنہ۔	عنة ہے۔ (ت)
حدیث ۳۲۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:	
اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوه <sup>۱</sup> ۔	بخلانی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو۔
ع کہ معنی بود و صورت خوب را کہ یہ خوش رو حضرات اولیائے کرام ہیں کہ حسن اذلی جن سے محبت فرماتا ہے۔	

من کثرت صلوٰتہ باللیل حسن وجهہ بالنهار <sup>۲</sup> ۔	(جو رات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دن کی روشنی جیسا حسن عطا کر دیتا ہے۔ ت)
---	---

اور جو د کامل و سخا نے شامل بھی انہیں کا حصہ کہ وقت عطا شکفتہ روئی جس کا ادنیٰ شرہ۔

<p>طبرانی نے کمیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان ہی لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عقیل، خطیب، تمام رازی اپنی فوائد میں، طبرانی کمیر میں اور یہی شعب الایمان میں ان ہی سے راوی ہیں۔ ابن الہدی نے قضاۓ الحوائج میں، عقیل و دارقطنی نے افراد میں، طبرانی نے اوسط میں، تمام اور خطیب نے بواسطہ مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ابن عساکر اور خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ طبرانی نے اوسط میں، عقیل و خرائطی نے اعتلال القلوب میں، تمام و ابو سہل اور عبد الصمد بن</p>	<p>الطبرانی في الكبير عن ابن عباس بهذا اللفظ والعقيلي والخطيب وتمام الرازي في فوائدہ والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الایمان عنه وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والعقيلي والدارقطني في الأفراد والطبراني في الاوسط وتمام والخطيب في رواة مالك عن أبي هريرة وابن عساکر والخطيب في تاريخهما عن انس بن مالک والطبراني في الاوسط والعقيلي والخرائطي في اعتلال القلوب وتمام وابو سهل وعبد الصمد بن</p>
--	--

<sup>۱</sup> المعجم الكبير عن ابن عباس حدیث ۱۰۰ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۸۱ /

<sup>۲</sup> کنز العمال حدیث ۹۲۱ م مؤسسة الرسالہ بیروت ۷ / ۸۳

عبد الرحمن بن بزار نے اس کو اپنی جزء میں اور صاحب مہر انبیاء نے مہر انبیاء میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ جبکہ عبد بن حمید نے اپنی مندرجہ میں، ابن حبان نے ضعفاء میں، ابن عدی نے کامل میں اور سلفی نے طیوریات میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ابن نجgar نے اپنی تاریخ میں امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اور اللہ عنہ سے روایت کیا۔ طبرانی نے کبیر میں ابو خصیف سے اور تمام نے ابو بکر سے روایت کیا۔ بخاری نے تاریخ میں، ابن ابی الدنيا نے قضاۓ الحوائج میں، ابو یعلیٰ نے اپنے مندرجہ میں، طبرانی نے کبیر میں، عقیل و بیهقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ان سب نے بایں الفاظ ذکر کیا ہے کہ "خوش رویوں سے بھلائی طلب کرو" جیسا کہ

عبد الرحمن البزار فی جزئه و صاحب المهر انبیاء فیہما عن جابر بن عبد اللہ، وعبد بن حمید فی مسنده وابن حبان فی الضعفاء وابن عدی فی الكامل والسلفی فی الطیوریات عن ابن عمر، وابن النجgar فی تاریخه عن امیر المؤمنین علی، والطبرانی فی الكبير عن ابی خصیفة وتمام عن ابی بکرۃ، والبخاری فی التاریخ وابن ابی الدنيا فی قضاۓ الحوائج، وابو یعلی فی مسنده، والطبرانی فی الكبير والعقیلی والبیهقی فی شعب الایمان وابن عساکر عن ام المؤمنین الصدیقة کلهم بلفظ اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه<sup>۱</sup>، كما

<sup>۱</sup> اتحاف السادة المتلقين کتاب الصبر والشکر بیان حقیقتہ النعمة واقسامہا دارالفکر بیروت ۹/۹۱، کشف الخفاء تحت الحديث ۳۹۷ دارالكتب العلمية بیروت ۱۲۲/۱۲۳، تاریخ بغداد ذکر مثانی الاسماء دارالکتاب بیروت ۳/۸۵، تاریخ بغداد ترجمہ ایوب بن الولید دارالكتب العلمية بیروت ۱۲۲/۱۲۳، تاریخ بغداد ترجمہ عبد الصمد بن احمد ۵۷۲ دارالکتاب بیروت ۱۲۲/۳۳، تاریخ بغداد عصمتیہ بن محمد الانصاری ۱۴۳ دارالکتاب بیروت ۱۳/۱۵۸، الضعفاء الكبير حدیث ۳۳۰ شعب الایمان تحت الحديث ۳۵۸ دارالکتاب العلمية بیروت ۱۳/۳۹۷، (باتی بر صفحہ آئندہ)

<p>اکثر کے نزدیک ہے۔ یا اطلاعاتی جگہ التسویہ ہے جیسا کہ تمام نے ابن عباس، خطیب نے حضرت انس اور طبرانی نے ابو خصیفہ سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یا لفظ ابتووا ہے جیسا کہ دارقطنی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ ابن عدی کی کامل میں برداشت امام المومنین حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ</p> <p style="text-align: right;">۱۱۰ پی</p>	<p>عند الاکثر او التمسوا<sup>۱</sup> کما التمام عن ابن عباس و الخطیب عن انس۔ والطبرانی عن ابی خصیفہ۔ او ابتووا<sup>۲</sup> کمال الدارقطنی عن ابی هریرۃ و لفظه عند ابن عدی عن امر المؤمنین اطلاعات الحاجات وهو في کامله<sup>۳</sup></p> <p style="text-align: right;">والبیهقی فی شعب</p>
---	--

(یقینہ حاشیہ صفحہ گزشہ)

موسوعة رسائل ابن ابی الدنيا قضاۓ الحوائج حدیث ۵۳ مؤسسة الكتب الثقافية بیروت ۲/۵۱، کنز العمال بحوالہ قطفی الافراد حدیث ۹۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۵۱، الجامع الصغیر بحوالہ قطفی الافراد حدیث ۳۲ دار الكتب العلمية بیروت ۱/۹، الجامع الصغیر بحوالہ تخریج حدیث ۷۰ دار الكتب العلمية بیروت ۱/۲۷، المعجم الاوسط عن ابی هریرۃ حدیث ۹۹ مکتبۃ المعارف ریاض ۳/۲۷، کنز العمال حدیث ۹۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۵۱، المعجم الاوسط عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ۶۱۳ مکتبۃ المعارف ریاض ۷/۱، مجمع الزوائد باب ما یفعل طالب الحاجة و من یطلبها دار الكتب بیروت ۸/۱۹۳ و ۱۹۵، الكامل لابن عدی ترجمہ سلیمان بن مسلم، دار الفکر بیروت ۳/۱۱۲، المستحب من مسنون عبد بن حمید حدیث ۵۱ عالم الكتب بیروت ص ۲۳۳، اعتلال القلوب للخراطی حدیث ۳۲ و ۳۳ مکتبۃ تزار مصطفی الباز مکتبۃ المکرمۃ ۱/۱۲۶ و ۱/۱۲۷، موسوعة رسائل ابن ابی الدنيا قضاۓ الحوائج حدیث ۵۲ و ۵۳ مؤسسة الكتب الثقافية بیروت ص ۵۰ و ۵۱، الضعفاء الكبير ترجمہ سلیمان بن راقم ۲/۵۹۹ و ۱/۱۲۱ و تاریخ بغداد ترجمہ محمد بن محمد ۱/۱۲۸ دار الكتب العلمية بیروت ۳/۳۵۲ و ۳/۳۵۲۱

<sup>۱</sup> المعجم الكبير عن ابی خصیفہ حدیث ۹۸۳ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲/۳۹۶ تاریخ بغداد ترجمہ محمد بن محمد ۱/۱۲۸ دار الكتب العربی بیروت ۳/۲۲۶

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ قطفی الافراد عن ابی هریرۃ حدیث ۹۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۵۱

<sup>۳</sup> الكامل لابن عدی ترجمہ الحكم بن عبد الله دار الفکر بیروت ۲/۲۲۲

<p> حاجات طلب کرو۔ یہق نے شعب الایمان میں عبد اللہ بن جراد سے بایں الفاظ روایت کیا ہے کہ "جب بھائی طلب کرو تو خوشرویوں کے پاس طلب کرو۔" احمد بن منج نے اپنی مسند میں یزید القسمی سے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ "جب حاجات طلب کرو تو خوشرویوں کے ہاں طلب کرو۔" ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ابن مصعب انصاری، عطاء اور ابن شہاب سے روایت کیا، یہ تینوں حدیثیں مرسل ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (ت)</p>	<p>عن عبد اللہ بن جراد بلفظ اذا ابتعيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه<sup>۱</sup> واحمد بن منجع في مسنده عن یزید القسمی بلفظ اذا طلبتم الحاجات فاطلبوها<sup>۲</sup> وابن ابی شیبہ فی مصنفہ عن ابن مصعب الانصاری و عن عطاء و عن ابن شہاب الشیۃ مرسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔</p>
---	--

حدیث ۳۸: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

<p>نعمتین مسلمان فقیروں کے پاس طلب کرو کہ روز قیامت ان کی دولت ہے۔ (ابو نعیم نے حلیہ میں ابوالریبع السائح سے معضل (سخت مشکل) روایت کی۔ ت)</p>	<p>اطلبوا الابادی عند فقراء المسلمين فأن لهم دولة يوم القيمة<sup>۳</sup> - ابو نعيم في الحلية عن ابوالربيع السائح معضل۔</p>
---	---

حدیث ۳۹: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

<p>الله تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں اپنے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی سے امان</p>	<p>ان الله تعالى عباداً اختصهم لحوائج الناس يفرغ الناس إليهم في حوائجهم أو لئن الأمنون من عذاب الله۔ الطبراني</p>
--	---

<sup>۱</sup> شعب الایمان حدیث ۱۰۸۷۶ ادار کتب العلمیہ بیروت ۷/۴۳۵

<sup>۲</sup> اتحاف السادة المتنقین کتاب الصبر والشکر بیان حقیقتہ النعمۃ واقسامہا دار الفکر بیروت ۹/۹۱ کشف الخفاء تحت الحدیث ۳۹۷

دار کتب العلمیہ بیروت ۱/۱۲۳، المصنف لابن ابی شیبہ حدیث ۲۲۲۶۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۶۷ دار کتب العلمیہ بیروت ۵/۴۳۵

<sup>۳</sup> حلیۃ الاولیاء ترجمہ ابن الریبع السائح دار کتب العربی بیروت ۸/۴۹۷

فِي الْكَبِيرِ<sup>١</sup> عَنْ أَبْنَ عَبْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِسْنَدٍ حَسْنٍ - سَنَدٌ حَسْنٌ كَمَا تَحْكُمُ رِوَايَتَ كِيَاتٍ -

حدیث ۳۰: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

اذا اراد اللہ بعید خیرا استعمله على قضاء حاجہ  
الناس۔ البیهقی فی الشعب<sup>2</sup> عن ابن عمر رضی اللہ  
تعالی عنہما۔

**حدیث ۳۱:** کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

الله تعالى جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کا مرچ حجاجت بناتا ہے (مند فردوس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا۔ ت) اذا اراد اللہ بعد خیرًا صير حوائج الناس اليه مسند الفردوس<sup>3</sup> عن انس رضي الله تعالى عنه۔

حدیث ۳۲ و ۳۳: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: میری تمہاری کھاوت ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی پنکھیاں اور جھینگر اس میں گرنا شروع ہوئے وہ انہیں آگ سے ہٹا رہا ہے،

وَإِنَّمَا أَخْذُ بِحِجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَإِنْتُمْ تَغْلِطُونَ مِنْ يَدِي۔ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَاحْمِدٍ<sup>4</sup>

<sup>١</sup>كتاب العمال بحواله طبع عن ابن عمر حدیث ٢٠٠ مؤسسة الرساله بيروت ٢٥٠

<sup>٢</sup> شعب الایمان حدیث ٢٥٩ دارالکتب العلمية بیروت ٢٠١٧

<sup>3</sup> الفردوس بتأثير الخطاب حدث ٩٣٨ دار الكتب العلمية بيروت / ٢٣٣

<sup>4</sup> صحيح مسلم كتاب الفضائل بباب شفقته صلى الله تعالى عليه وسلم على أمهه الخ قديري كتب خانه كراچی ۲۲۸/۱، مستند احمد بن حنبل عن جابر رضي الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ۳/۳۹۲، مستند احمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المكتب الاسلامي

پیروت ۲/۵۳۰

عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ت) حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ت)

حدیث ۳۲: کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

تم میں ایسا کوئی نہیں کہ میں اس کا کمر بند کپڑے روک نہ رہا ہوں کہ کہیں آگ میں نہ گرپڑے۔ (طبرانی نے کہیں میں سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	لیس منکم رجل الا ان میسک بحجزته ان یقع في النار۔ الطبرانی فی الکبیر <sup>۱</sup> عن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	---

حدیث ۳۵: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: اللہ عزوجل نے جو حرمت حرام کی اس کے ساتھ یہ بھی جانا کہ تم میں کوئی جھانکنے والا سے ضرور جھانکنے گا۔

سن لو اور میں تمہارے کمر بند کپڑے ہوں کہ کہیں پے در بے آگ میں پھاند نہ پڑو جیسے پروانے اور لکھیاں۔ (احمد اور طبرانی نے کہیں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	الا انی میسک بحجز کم ان تھافتوا فی النار کما تھافت الفراش والذیاب۔ احمد و الطبرانی <sup>۲</sup> فی الکبیر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	---

اللہ اکبر! اس سے زیادہ اور کیا فرع بلا ہوگا، ولکن الوہابیہ لا یعلمون (لیکن وہابی نہیں جانتے۔ ت)۔ تنبیہ: باکیس<sup>۳</sup> سے چوالیں<sup>۴</sup> تک چوبیں حدیثیں قابل اندر ارج وجہ دو تھیں کہ قطعاً للشقف یہیں درج ہوئے۔

حدیث ۵۲۳۶: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے دعا کی:

<sup>۱</sup> المعجم الکبیر عن سمرة رضی اللہ عنہ حدیث ۱۰۰، المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۷/ ۲۶۹

<sup>۲</sup> مسنڈ احمد بن حنبل عن ابن مسعود المکتبۃ الاسلامیۃ بیروت ۱/ ۳۲۳، المعجم الکبیر عن ابن مسعود حدیث ۱۰۵، المکتبۃ الفیصلیۃ

بیروت ۱۰/ ۲۶۵

ابنی! اسلام کو عزت دے ان دونوں مردوں میں جو تھے  
زیادہ پیارا ہواں کے ذریعہ سے یا تو عمر بن الخطاب یا ابو جہل  
بن ہشام۔ (روایت کیا اس کو احمد و عبد بن حمید و ترمذی نے  
اور اسے حسن

اللهم اعز الاسلام بمحب هذين الرجلين اليك بعمر  
بن الخطاب او بابي جمهل بن هشام<sup>1</sup> - احميد و عبد بن  
احميد والترمذى وحسنه وصححه وابن سعد وابو  
يعلى والحسن

<p>اور صحیح کہا۔ اور ابن سعد وابو یعلیٰ و حسن بن سفیان نے اپنی فوائد میں۔ اور بزار، ابن مردویہ، خیثمر بن سلیمان فضائل صحابہ میں، ابو نعیم و یہنیق دلائی النبوة میں اور ابن عساکر، یہ تمام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ ترمذی نے اس سے، نسائی نے ابن عمر سے، احمد بن حمید وابن عساکر نے خباب بن الارت سے، طبرانی نے بکیر میں اور حاکم نے عبد اللہ بن مسعود سے۔ ترمذی، طبرانی اور ابن عساکر نے اس کو ابن عباس سے اور بغوی نے جعدیات میں ربیعہ بن سعدی سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور ابن عساکر نے اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے "اللهم اشدد" کے لفظ سے روایت کیا اور ابن نجاشی کی طرح اس کو بلطف حدیث دوم روایت کیا۔ ابو داؤد طیالسی اور شاشی نے اپنی فوائد میں اور خطیب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلطف صدیق روایت کیا جو آگے آرہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔</p> <p>(ت)</p>	<p>بن سفین فی فوائدہ والبزار وابن مردویہ وخیثمة بن سلیمان فی فضائل الصحابة وابو نعیم والبیهقی فی دلائلہما وابن عساکر کلہم عن امیر المومنین عمر۔ والترمذی عن انس والنسائی عن ابن عمر واحد وابن حمید وابن عساکر عن خباب بن الارت والطبرانی فی الكبير والحاکم عن عبداللہ ابن مسعود والترمذی والطبرانی وابن عساکر عن ابن عباس والبغوی فی الجعدیات عن ربیعة السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ورواہ ابن عساکر عن ابن عمر بلفظ اللهم اشدد<sup>۱</sup> وکابن النجاشی عنه بلفظ الحديث الثانی وابو داؤد الطیالسی والشاشی فی فوائدہ والخطیب عن ابن مسعود بلفظ الصدیق الاتق۔</p>
---	---

حدیث ۸۷۵۳: کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب	اللهم اعز عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:
----------------------------------	---

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ عمر بن الخطاب ۵۳۰۲ دار احیاء التراث العربي بیروت ۷/۳

اسلام کو عزت دے۔ (ابن ماجہ، ابن عدی، حاکم اور یہیقی نے اس کو امام المومنین صدیقہ سے روایت کیا اور لفظ خاصتہ کے بغیر اس کو ابوالقاسم طبرانی نے ثوبان سے، حاکم نے زبیر سے، ابن سعد نے بطریق حسن مجتبی و خیثمه بن سلیمان نے صحابہ میں اور لاکائی نے سنتہ میں اور ابو طالب عشاری نے فضائل صدیق میں اور ابن عساکر نے، ان سب نے بطریق نزال بن سبیرہ امیر المومنین سیدنا حضرت علیؓ سے اور ابن عساکر نے حضرت زبیر اور حضرت علیؓ دونوں سے، جیسا کہ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق سے "اید الاسلام" کے لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(ت)

خاصہ<sup>۱</sup> - ابن ماجہ و ابن عدی والحاکم والبیهقی عن امر المؤمنین الصدیقة وباللفظ خاصہ ابو القاسم الطبرانی عن ثوبان والحاکم عن الزبیر و ابن سعد من طریق الحسن المجتبی وخیثمة بن سلیمان فی الصحابة واللالکائی فی السنۃ وابو طالب بن العشاری فی فضائل الصدیق وابن عساکر جیبیعاً من طریق النزال بن سبیرہ عن امیر المؤمنین علیؓ و ابن عساکر عنہما اعنى الزبیر والامیر معاً کاظم الطبرانی فی الاوسط عن ابی بکر الصدیق بلفظ اید الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

اس دعائے کریم کے باعث عمر فاروق اعظم کے ذریعہ سے جو عزتیں اسلام کو ملیں جو بلا کیں اسلام و مسلمین پر سے دفع ہوئیں مخالف و موافق سب پر روش و مہین۔ ولہذا عبد اللہ

<sup>۱</sup> سنن ابن ماجہ فضل عمر رضی اللہ عنہ ایک ایم سعید کپنی کراچی ص ۱۷، کامل لابن عدی ترجمہ مسلم بن خالد دار الفکر بیروت ۲۳۱۰/۶، المستدرک للحاکم کتاب معرفة الصحابة دار الفکر بیروت ۸۳/۳، السنن الکبیری کتاب قسم الفئی والغنیمة دار صادر بیروت ۵۳۰۲/۲، المعجم الکبیر عن ثوبان حدیث ۱۳۲۸ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۹/۲، تاریخ دمشق الکبیر ترجمہ عمر بن الخطاب دار احیاء التراث العربي بیروت ۵۲/۳، کنز العمال بحوالہ خیثمة واللالکائی والعشاری حدیث ۳۲۶۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۳۲۲/۶، المعجم الاوسط حدیث ۸۲۲۹ مکتبۃ المعارف ریاض ۹/۱۹۰۲

بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ہم ہمیشہ معزز رہے جب سے عمر اسلام لائے۔ (امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری میں اور ابو حاتم رازی نے اپنی مند میں اور ابن حبان نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	مازلنا اعزہ مذہ اسلام عمر <sup>۱</sup> - البخاری فی صحیحہ و ابو حاتم الرازی فی مسنده وابن حبان عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	---

نیز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا اسلام فتح تھا اور ان کی ہجرت نصرت اور ان کی خلافت رحمت، بیشک میں نے اپنے گروہ صحابہ کو دیکھا کہ جب تک عمر مسلمان نہ ہوئے ہمیں کعبہ معظّمہ میں نماز پر قدرت نہ ملی۔ (اس کو روایت کیا ابو ظاہر سلفی نے اور اس کے بعد سیرۃ ابن اسحق میں انہیں معنوں میں۔ ت)	کان اسلام عمر فتحاً و هجرته نصراً و امارته رحمة لقد رأيتنَا و ما نستطيع ان نصلی بالبيت حتى اسلام عمر <sup>۲</sup> - رواہ ابو ظاہر السلفی و اخراً لابن اسحق في سیرتہ بمعناہ۔
---	--

نیز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

جب تک عمر مسلمان نہ ہوئے ہم نے آشکار نماز	ماصلينا ظاہرین حق اسلام عمر
---	-----------------------------

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب المناقب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تدبی کتب خانہ کراچی ۱/۵۲۰، المستدرک للحاکم کتاب معرفة الصحابة دار الفکر بیروت ۳/۸۲، الطبقات الکبری لابن سعد اسلام عمر رضی اللہ عنہ دار صادر بیروت ۳/۲۷۰، صفة الصفة ذکر اسلام عمر رضی اللہ عنہ دار المعرفة بیروت ۱/۱۷۲

<sup>۲</sup> السیرۃ النبویۃ لابن هشام اسلام ابن عمر رضی اللہ عنہ دار ابن کثیر بیروت الجزئین الاولین ص ۳۲۲، اسد الغابۃ ترجمہ عمر بن الخطاب دار الفکر بیروت ۳/۲۳۸، لریاض النصرۃ الباب الثاني فی مناقب عمر بن الخطاب حدیث ۵۸۶ دار المعرفة بیروت الجزء الثاني ص ۲۲۲

نہ پڑھی جس دن سے وہ اسلام لائے دین نے غلبہ پایا اور انہوں نے علانیہ اللہ عزوجل کی طرف بلایا (دولابی فضائل میں اسے بیان کیا۔ ت)	<b>ظهر الاسلام و دعائی اللہ علانیہ۔ اخرجه الدولابی فی الفضائل<sup>۱</sup></b>
--	---

صیبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

جب عمر مسلمان ہوئے ہم گردخانہ کعبہ حلقہ باندھ کر بیٹھ کر اور طواف کیا اور ہم پر جو سختی کرتے تھے ان سے اپنا انصاف لیا۔ ابوالفرج نے اسے صفتِ الصفوۃ میں بیان کیا۔ ت)	لما اسلم عمر جلسنا حول البيت حلقاً وطفنا به و انتصفنا من غلظ علينا۔ خرجه ابوالفرج في صفة الصفوۃ <sup>۲</sup>
---	--

حدیث ۵۸: عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی:

زید بن اسلم عن عبد الله بن سلام، والدارمي والبيهقي من طريق عطاء بن يسار عنه نحوه قوله طريق ثالث في الباب الأدنى أن شاء الله تعالى۔ بيشك میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی صفت تورات میں پاتا ہوں، اے نبی! یقیناً ہم نے تجھے بھیجا گواہ اور اپنی امت کے تمام احوال و افعال پر مطلع اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ اللہ عزوجل اس نبی کو نہ اٹھائے گا یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور اس نبی کے ذریعے	انی لاجد صفتک فی کتاب اللہ یا [یہا] النبی انا ارسلنک شاهدًا ومبشراً وندیراً الی قولہ لن یقبضه اللہ حتی یقيم به الملة العوجاء حتی یقولوا لا الہ الا اللہ و یفتح به اعیناً عییًّا واذانًا صیاراً وقلوبًا غلغاً۔ <sup>۳</sup>
---	--

<sup>۱</sup> الریاض النصرة الباب الثانی فی مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث ۵۸۶ دار المعرفة بیروت.الجزء الثانی ص ۲۲۲

<sup>۲</sup> صفة الصفوۃ ذکر اسلام عمر رضی اللہ عنہ دار المعرفة بیروت ۲۷۳/۱

<sup>۳</sup> دلائل النبوة للبيهقي باب صفة رسول اللہ فی التوراة والانجیل دار الكتب العلمیہ بیروت ۳۸۲/۱، سنن الدارمی باب صفة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الكتب قبل مبعثه دار المحسن للطباعة لقاهرة ۱۳/۱، الخصائص الکبری بحوالہ ابن عساکر والدارمی والبيهقي باب ذکرہ فی التوراة الخ مرکز للہست گجرات ہند ۱۰/۱، الطبقات الکبری ذکر صفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة والانجیل دار صادر بیروت ۱/۳۶۰، تاریخ دمشق الکبری باب ماجاء فی الكتب من نعته وصفاتہ دار احیاء التراث العربي بیروت ۳/۲۹۶۲۸

<p>سے اندر ہی آنکھیں اور بہرے کان اور غلاف چڑھے دل کھل جائیں گے۔ (روایت کیا طبرانی اور ابو نعیم نے دلائل میں، اور ابن عساکر محمد بن حمزہ بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا سے، نیز ابن عساکر نے بطريق زید بن اسلم عبد اللہ بن سلام سے، اور دارمی اور بیهقی نے بطريق عطاء بن یسار انہیں سے ایسے ہی اور طریق دیگر آئندہ باب میں آیکا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ت)</p>	<p>الطبرانی و ابو نعیم فی الدلائل وابن عساکر عن محمد بن حبزة بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام عن ابیه عن جده وابن عساکر ایضاً من طریق زید بن اسلم عن عبد اللہ بن سلام، والدارمی والبیهقی من طریق عطاء بن یسار عنہ نحوہ وله طریق شافی فی الباب الاتی ان شاء اللہ تعالیٰ۔</p>
--	--

حدیث ۵۹: کہ اللہ عزوجل نے شیعیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی پھیلی:

<p>پیش میں ایک نبی امی کو پھینخنے والا ہوں جس کے ذریعے سے بہرے کان اور غلاف چڑھے دل اور اندر ہی آنکھیں کھول دوں گا اور اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے سے جہل کے بعد علم دوں گا، اس کے ویلے سے گنمائی کے بعد بلند نامی دوں گا، اس کے ذریعے سے ناشاہی کے بعد شناخت دوں گا، اس کے واسطے سے کمی کے بعد کثرت دوں گا، اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی کر دوں گا، اس کے ویلے سے پھوٹ کے بعد یکدلی دوں گا، اس کے ویلے سے پریشان دلوں، مختلف خواہشوں، متفرق امتوں میں میل کر دوں گا۔ (ابن حاتم نے وہب بن منبه سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>انی باعث نبیا امیا افتح به اذانًا صیغاً وقلوبًا غلغاً واعیناً عبیغاً الى ان قال اهدی به من بعد الضلاله واعلم به بعد الجھالة وارفع به بعد الخیالة واسی به بعد النکرة واکثر به بعد القلة واغنى به بعد العيلة واجمع به بعد الفرقة واؤلف به بین قلوب و اهواء متشتتة وامم مختلفة ابین ابی حاتم عن وہب بن منبه<sup>1</sup>۔</p>
---	--

<sup>1</sup> الخصائص الکبیری بحوالہ ابین ابی حاتم عن وہب بن منبه مرکز اہل سنت گجرات الہنڈا ۱۳

للہ انصاف ! یہ کس قدر بلاوں کا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ویلے سے دفع ہونا ہے وللہ الحمد۔

حدیث ۲۰: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>جب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اس پر نور کے قلم سے جس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا لکھا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، میں انہیں کے واسطے سے لوں کا اور انہیں کے ویلے سے دوں گا، ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) (رافعی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تھا۔)</p>	<p>لما خلق الله العرش كتب عليه بقلم من نور طول القلم مابين المشرق والمغارب لا إله إلا الله محمد رسول الله به أخذوهه أعطى وامته افضل الامم و افضلاها أبو بكر الصديق - الرافعی<sup>1</sup> عن سليمان رضي الله تعالى عنه۔</p>
--	--

بحمد اللہ تعالیٰ اسی حدیث جلیل جامع پر ختم کیجئے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ کا تمام لینادینا اخذ و عطا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کے واسطے سے ان کے ویلے سے ہے، اسی کو خلافت عظیمی کہتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَكْثَرُهُمْ كاذِبًا۔ دیکھو ! بشادت خدا رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق پانا، مدد ملنا، یمنہ برنا، بلادور ہونا، دشمنوں کی مغلوبی، عذاب کی موتوںی، یہاں تک کہ زمین کا قیام، زمین کی تعمیربافی، غلت کی موت، غلت کی زندگی، دین کی عزت، امت کی پناہ، بندوں کی حاجت روائی، راحت رسانی سب اولیاء کے ویلے اولیاء کی برکت اولیاء کے ہاتھوں اولیاء کی وسایت سے ہے مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفع بلا کا واسطہ مانا اور شرک پسندوں نے مشرک جانا، انا لله و انا بآبیہ راجعون، اور بحمد اللہ تعالیٰ تین حدیث اخیر نے روشن و مستینز کر دیا کہ جو بلا ملی سب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باعث حاصل وزائل ہوئی، بارگاہ الہی کا لینادینا سارا کارخانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے ہاں ہاں لا و اللہ

<sup>1</sup>كنز العمال بحواله الرافعی عن سليمان حدیث ۳۲۵۸۱ مؤسسة الرسالہ بیروت ۵۲۹/۱۱

ثم باللہ ایک دفع بلا و حصول عطا کیا تمام جہان اور اس کا قیام سب انہیں کے دم قدم سے ہے عالم جس طرح ابتدائے آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ لو لا کل لما خلقت الدنیا<sup>۱</sup> (اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ت) یونہی بقا میں بھی ان کا محتاج ہے، آج اگر ان کا قدم درمیان سے نکال لیں ابھی ابھی فنا نے مطلق ہو جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو  
جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں ہے<sup>۲</sup>  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی الہ و صحبہ و بارک و کرم۔



<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ذکر عروجه الی السماء الخ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۹۷/۳

<sup>۲</sup> حدائق بخشش مکتبہ رضویہ آرام باع کراچی ۷۹/۱

**باب دوم:**

وجہ دوم پر نصوص صحیحے اور بھرم اللہ تعالیٰ کیے نصوص خجہت شکن، جان وہبیت پر بر ق اُفْلَن، اس میں چوالیں<sup>۱</sup> اور دوسو چالیس<sup>۲</sup> حدیثیں ہیں۔

**فصل اول آیات شریفہ میں**

**آیت ۷: قال ربنا تبارک وتعالیٰ:**

اور انہیں کیا بر الگا یہی ناکہ انہیں دولتمند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔	”وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ“ <sup>۱</sup>
---	---

ہاں یہ جگہ ہے کہ غیظ میں کٹ جائیں بیار دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دولتمند کر دیا اپنے فضل سے۔ اے اللہ کے رسول! مجھے اور سب اہلسنت کو دین و دنیا کا دولتمند فرمادیا اور اپنے فضل سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم۔  
میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا  
نور دن دونا تراوے ڈال صدقہ نور کا<sup>۲</sup>

**آیت ۸:**

اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دئے پر، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بیشک ہم اللہ کی طرف راغبت والے ہیں۔	”وَكُوَّأَنَّهُمْ رَاضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَوْقَلُوا حَسِبَنَا اللَّهُ سَيِّدُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا إِلَى اللَّهِ مَرْغُبُونَ“ <sup>۳</sup>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷۲/۹

<sup>۲</sup> حدائق بخشش مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی ۳/۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۵۹/۹

یہاں رب العزت جل و علانے اپنے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دینے والا فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ اللہ و رسول سے امید گلی رکھو کہ اب ہمیں اپنے فضل سے دیتے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

آیت ۹:

اللہ نے اسے نعمت بخشی، اور اے نبی! تو نے اسے نعمت دی۔	”أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَعَمْتُ عَلَيْهِ“ <sup>۱</sup>
---	--

آیت ۱۰:

آدمی کے لیے بدلتی والے ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔	”لَهُ مُعَقِّبٌ مَّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْكُمُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ طَ“ <sup>۲</sup>
--	--

بدلتی والے یہ کہ صحیح کے محافظ عصر کو بدل جاتے ہیں اور عصر کے صحیح کو، وللہ الحمد۔

آیت ۱۱:

اللہ بھیجا ہے تم پر نگہبانوں کو۔	”وَيُرِسْلُ عَلَيْكُمْ حَفَّةً“ <sup>۳</sup>
----------------------------------	--

ان آیات میں مولیٰ سبجنہ و تعالیٰ فرشتوں کو ہمارا حافظ و نگہبان فرماتا ہے۔

آیت ۱۲:

اے نبی! کافی ہے تجھے اللہ اور جو مسلمان تیرے پیرو ہوئے۔	”يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ حَسِيبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ <sup>۴</sup>
---	---

یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ صحابہ کرام کو ملا کر فرماتا ہے: اے نبی! اب کہ عمر اسلام لے آیا تجھے اللہ اور یہ چالیس مسلمان کفایت کرتے ہیں۔

جلالین میں ہے کافی ہے تجھے اللہ اور	فِي الْجَلَالِينَ حَسِيبُكَ اللَّهُ وَحَسِيبُكَ
-------------------------------------	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۷/۳۳<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۱/۱۳<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۱/۲<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۲۳/۸

من اتبعك<sup>۱</sup>۔ کافی ہے تجھے وہ جس نے تیری پیرودی کی۔ (ت)

ترجمہ شاہ ولی اللہ میں ہے:

<p>اے پیغمبر! کافی ہے جو خدا اور وہ مسلمان جنہوں نے تیری پیروی کی۔ (ت)</p>	<p>اے پیغمبر! کفایت ست ترا خدا و آنا کے پیروی تو کر ده انداز مسلمانان۔<sup>2</sup></p>
--	--

**آیت ۱۳: یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:**

بیشک عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔  
تفسیر جلالین میں ہے بیشک وہ جس نے مجھے خریدا وہ میرا  
رب یعنی میرا آقا ہے۔ (ت)

"إِنَّهُ رَبِّيْ أَحَسَنَ مَثُوايْ طَ" ۴  
فِي الْجَلَالِينَ أَنَّهُ إِلَٰهُ الذِّي اشْتَرَانِي رَبِّي سَيِّدِي ۵

آیت ۱۲:

۱۰۷ اے زندان کے ساتھیو! تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پیائے گا۔

آست۱۵:

اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھکارا پاتا  
سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیو۔ یعنی بادشاہ مصر  
کے سامنے۔

وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا يَعْلَمُ مِنْهُمَا مَا أَدْعُكُنِي عَنْ دَرَبِكَ<sup>۶</sup>

**آیت ۱۶:** اس پر مولیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

<sup>1</sup> جالين كلان تحت الآية ٨/٢٣ اصح المطابع ويلي ص ١٥٣

<sup>2</sup> فتح الرحمن في ترجمة القرآن (ترجمة شاه ولی الله) مطبع باشی دہلی ص ۱۸۷

٣ القرآن الكريم / ١٢ / ٢٣

<sup>4</sup> جلالين كلام تحت الآية ١٢٣/١٢ اصح المطابع ويللي ص ١٩١

٣١ / ١٢ القرآن الكريم<sup>٥</sup>

٦ القرآن الكريم / ١٢ / ٣٣

<p>تو اسے بھلا دیا شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا۔</p> <p>جلالین میں ہے یعنی ساقی کو شیطان نے یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کے رب کے آگے کرنا بھلا دیا۔ (ت)</p>	<p>"فَأَنْسَهُ الشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ"<sup>۱</sup></p> <p>فی الجَّالِلَيْنِ ای الساق الشیطن ذکر یوسف عن ربِّهِ<sup>۲</sup>-</p>
---	---

آیت ۱۷:

<p>یوسف نے کہا پڑ جا پئے رب کے پاس سواں سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔</p>	<p>"قَالَ إِنِّي حِجْرٌ إِلَى سَارِلَكَ فَمَسَلْهُ مَا بَلَى الْمِسْوَةِ الَّتِي قَطَعْتُ آيُّدِيَّهُنَّ"<sup>۳</sup>-</p>
--	--

سبحان الله! بادشاہ وغیرہ کو تو مجازی پروردش کے باعث اس کا رب، تیرارب، میرارب کہنا صحیح ہو، اللہ فرمائے اللہ کا رسول فرمائے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہنا شرک۔

آیت ۱۸: رب جل وعلا اپنے مبارک بندے عیلیٰ ابن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے:

<p>اور جب تو بناتا مٹی سے پرند کی شکل میری پروانگی سے، پھر پھونک مارتا اس میں تو وہ ہو جاتی پرند میری پروانگی سے، اور تو اچھا کرتا مادر زادا نہ ہے اور سفید داغ والے کو میری پروانگی سے، اور جب تو قبروں سے مُردے نکالتا میری پروانگی سے۔</p>	<p>"وَإِذْ تَحْقِنُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَمَيْةً لِلطَّيْرِ إِذْنِ فَتَسْفَحُ فِيهَا فَتَنْجُونُ كَيْرَبًا ذِيَّةً وَتُنْبِرُ إِلَّا كَمَيْةً لَأَبْرَصَ إِذْنِ فَإِذْ تُخْرِجُ الْمُوْتَيْرَبًا ذِيَّةً"<sup>۴</sup>-</p>
---	---

دفعہ بلاۓ مرض وابرائے اکہ وابرص میں کتنا فرق ہے۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۲/۱۲

<sup>۲</sup> جلالین کلام تحت الآیة ۳۲/۱۲ اصح المطابع، بیلی ص ۱۹۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۵۰/۱۲

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۱۱۰/۵

## آیت ۱۹: حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

<p>میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی مورت پھر پھونکتا ہوں اسکیں تو وہ ہو جاتی ہے پرند اللہ کی پروانگی سے، اور میں شفاء دیتا ہوں مادرزاداں ہے اور بدن بگڑے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کی پروانگی سے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے اور جو گھروں میں بھر رکھتے ہوتا کہ میں حلال کر دوں تمہارے لئے بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔</p>	<p>"أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الظِّيْنَ كَهْيَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُهُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا إِذَا دَنَ اللَّهُ وَأُبْرِي إِذَا كَمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُمِّي السَّوْلِي بِإِذَا دَنَ اللَّهُ وَأُنْسِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَنَّ خَرُونَ لَفِي دُبُوبٍ لَكُمْ (إِلَى قَوْلِهِ) وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" <sup>۱</sup></p>
--	---

سبحان اللہ! عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جو فرمادی ہے ہیں میں خلق کرتا ہوں، شفادیتا ہوں، مردے جلاتا ہوں، بعض حراموں کو حلال کئے دیتا ہوں۔ ان اسنادوں کی نسبت کیا حکم ہوگا!

## آیت ۲۰:

<p>نکاح کر دو اپنی بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بندوں اور کنیزوں کا۔</p>	<p>"وَأَنِّي حُوَالْأَيْلِي مِنْكُمْ وَالصِّلْحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَ إِمَامِكُمْ" <sup>۲</sup></p>
---	---

یہاں مولا عزوجل ہمارے غلاموں کو "ہمارا بندہ" فرمادی ہے۔ اللہ کی شان زید کابندہ، عمر کابندہ، اس کا بندہ، اس کا بندہ اللہ فرمائے رسول فرمائے صحابہ فرمائیں انہمہ فرمائیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ کہا اور شرک فروشوں نے حکم شرک جزا، شاندہ ان کے نزدیک زید و عمر و خدا کے شریک ہو سکتے ہوں گے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

## آیت ۲۱:

<p>وہ لوگ کہ پیروی کریں گے اس بھیجے ہوئے غیب کی باتیں بتانے والے بے پڑھے کی جسے لکھا پائیں گے اپنے پاس توریت و انجیل میں، وہ انہیں حکم</p>	<p>"أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَعْلَمَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِسَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ</p>
--	--

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۳/۴۳۹ و ۵۰

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۲/۳۲

<p>دے گا بھلائی کا اور روکے گا برائی سے، اور حلال کرے گا ان کے لیے ستری چیزیں اور حرام کرے گا ان پر گندی چیزیں، اور انہارے گا ان پر سے ان کا بھاری بوجھ اور سخت تکلیفوں کے طوق جوان پر تھے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)</p>	<p>بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا مِنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَابِ وَيَصْحُّ عَنْهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَى الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ<sup>۱</sup></p>
---	--

جان جہاں وجہاں جان اس جان وجان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک مبارک ہاتھوں پر قربان جس نے ہماری پیٹھوں سے بھاری بوجھ انہار لئے ہماری گردنوں سے تکلیفوں کے طوق کاٹ دے۔ اللہ انصاف! اور دافع بلا کے کہتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

آیت ۲۲: سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب عزوجل سے عرض کی:

<p>اے رب ہمارے! اور ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیج کہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور وہ پیغمبر انہیں گناہوں سے پاک کر دے، پیشک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔</p>	<p>"رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَّاسُولًا مَّنْهُمْ يَشْتَهِيْهِمْ أَيْتَنَا وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرِيْهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيْرُ الْحَكِيمُ" <sup>۲</sup></p>
--	--

یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے کہ:

<p>میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)</p>	<p>اناً دَعْوَةُ ابْرَاهِيمَ <sup>۳</sup></p>
--	---

آیت ۲۳: خود رب العزة جل وعلاء فرماتا ہے:

<p>جس طرح بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا اور تمہیں پاکیزہ بناتا اور تمہیں قرآن و علم سکھاتا اور ان بالتوں کا</p>	<p>"كَمَا أَنْسَنَنَا فِيهِمْ رَّاسُولًا مَّنْكُمْ يَشْتَهِيْهِمْ أَيْتَنَا وَيُرِيْهِمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ</p>
--	--

<sup>1</sup> القرآن الكريمه ۷/۱۵۷

<sup>2</sup> القرآن الكريمه ۲/۱۲۹

<sup>3</sup> دلائل النبوة بباب ذکر مولا المصطفیٰ الخ دار الكتب العلمية بيروت ۸۱/۱، الدر المنشور تحت الآية ۲/۱۲۹ دار احياء التراث العربي بيروت

تم کو علم دیتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

مَالِمُ تَلْمُذُونَ وَأَنْعَلَمُونَ ﴿١﴾<sup>۱</sup>

آیت: ۲۲

بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر جبکہ بھیجاں میں ایک رسول انہیں میں سے کہ پڑھتا ہے ان پر آیتیں اللہ کی اور پاک کرتا ہے انہیں گناہوں سے اور علم دیتا ہے انہیں قرآن و حکمت کا اگرچہ تھے اس سے پہلے بیشک کھلی گراہی میں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لِّأَنَّمَا مَنَّ أَنْفُسِهِمْ يَسْتَأْمِنُوا عَلَيْهِمْ أَيْتَهُمْ وَيُرِيدُ كُلَّهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْتَّبَرَّ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَغْيٍ ضَلَالٌ مُّبِينٌ<sup>۲</sup>

اللہ ہے جس نے بھیجاں پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے یہ ان پر آیات الیہ پڑھتا اور انہیں ستر اکتا اور انہیں کتاب و حقائق کا علم بخشتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے نیز پاک کرے گا اور علم عطا فرمائے گا ان کی جس کے لوگوں کو جواب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب حکمت والا ہے، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّةِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسْتَأْمِنُوا عَلَيْهِمْ أَيْتَهُمْ وَيُرِيدُ كُلَّهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَغْيٍ ضَلَالٌ مُّبِينٌ ﴿٣﴾ وَأَخْرِيَنَ مِنْهُمْ لَسَا يَعْلَمُوا إِيمَانُهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>۳</sup> ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوَيْطِي لَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ<sup>۴</sup>

الحمد للہ! اس آیہ کریمہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا فرمانا، گناہوں سے پاک کرنا، ستر اپنا صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خاص نہیں بلکہ قیام قیامت تک تمام امت مر حومہ حضور کی ان نعمتوں سے محظوظ اور حضور کی نظر رحمت سے محفوظ رہے۔ والحمد

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۵۱/۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۶۳/۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۳۶۲/۲۲

للہ رب العالمین۔

بیضاوی شریف میں ہے:

<p>یعنی یہ دوسرے جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم دیتے اور خرابیوں سے پاک کرتے ہیں تمام مسلمان ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد قیامت تک ہوں گے۔</p>	<p>هم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

معالم شریف میں ہے:

<p>ابن زید نے فرمایا: یہ دوسرے لوگ تمام اہل اسلام ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور یہی معنی امام مجاهد شاگرد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن ابی الحجج نے روایت کئے۔</p>	<p>قال ابن زيد هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (إلى يوم القيمة) وهي روایة ابن ابی الحجج عن مجاهد<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

الحمد لله! قرآن عظیم میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعریفوں کا اس قدر اہتمام ہے کہ چار جگہ یہ اوصاف بیان فرمائے دو جگہ سورہ بقرہ، تیرے آل عمران، چوتھے سورہ جمعہ، اور اسکے آخر میں تو وہ جانفزا کلے ارشاد ہوئے جنہیں نے ہم خختہ بختوں کی تقدیر جگادی بیاردوں پر بھلی گرا دی۔ والحمد لله رب العالمین۔

آیت ۲۶: جب ابو لبابہ وغیرہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غزوہ تبوک میں ہمراہ رکاب سعادت حاضرہ ہوئے تھے اپنے آپ کو مسجد اقدس کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ نہ کھولیں گے نہ کھلیں گے، آیت اُتری:

<p>اے نبی! لے لو ان توبہ کرنے والوں کے مالوں سے صدقہ کہ تم پاک کرو انہیں اور تم ستر اکر دو</p>	<p>"حَدَّدْنَاهُمْ صَدَقَةً لِتُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّهَ كَيْمَهُمْ بِهَا</p>
--	--

<sup>۱</sup> انوار التنزيل (تفسير البيضاوي) تحت الآية ۲۲/۳ دار الفکر بيروت ۵/۷۳۷

<sup>۲</sup> معالم التنزيل (تفسير البغوي) تحت الآية ۲۲/۳ دار الكتب العلمية بيروت ۳/۷۳۱

انہیں گناہوں سے اس صدقے کے سبب، اور دعائے رحمت کروان کے حق میں کہ تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ طَرَفَ صَلَوةَكَ سَكُونَ لَهُمْ<sup>۱</sup>

دیکھو حضور دافع البلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں گناہوں سے پاک کیا اور حضور نے بلا گناہ ان کے سروں سے ٹالی، اور جب حضور کی دعا ان کے دلوں کا چین ہوا تو یہی دفع الم ہے صلی اللہ تعالیٰ علی دافع البلاء والالم وعلی الہ وصحابہ وبارک وسلم۔

آیت: ۲۷

الله عزوجل کے یہاں شفاعت کے مالک وہی ہیں جنہوں نے رحمٰن کے ساتھ عہد و پیمان کر کھا ہے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عَدْمَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا<sup>۲</sup>

<sup>۲</sup>

آیت: ۲۸

جنہیں مشرکین اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان میں شفاعت کے مالک صرف وہی ہیں جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم رکھتے ہیں (یعنی عیلیٰ و عزیز و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْأَعْلَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>۳</sup>

<sup>۳</sup>

ان آیات میں مولیٰ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو شفاعت کامال ک بتاتا ہے اور عہد و پیمان مقرر ہو جانے سے تقویٰ الایمان کی اس بدگای کا منہ بھی سی دیا کہ شفاعت میں کسی کی خصوصیت نہیں جسے چاہے گا کھڑا کر دے گا۔

آیت: ۲۹

نادانوں کو اپنے مال کہ خدا نے تمہاری ٹیک بنائے ہیں نہ دو اور انہیں ان میں سے رزق

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ كُلُّمُ قَبْلَأً وَأَمْرُدُ قُوْهُمْ فِيهَا وَ

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۰۳/۹

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۸۷/۱۹

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۸۶/۳۳

دو اور کپڑے پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔	اَكْسُوهُمْ وَقُوْلُهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ①
---	---

آیت: ۳۰

جب ترکہ باشٹے وقت قرابت والے اور بیتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو۔	”وَإِذَا حَضَرَ الْقُسْطَةَ أُولُو الْقُزْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَأَنْهِرُ قَوْهُمْ وَهُنَّهُ وَقُوْلُهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ②“
---	--

آیت: ۳۱

جب وحی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمھارے ساتھ ہوں تم ثابت قدی دوایمان والوں کو۔	”إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلِئَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَمَنِ اتَّبَعَنِي أَمْنَأُ طَ“ <sup>3</sup>
--	--

آیت: ۳۲

فتم ہے ان فرشتوں کی کہ تمام کار و بار دنیا ان کی تدبیر سے ہے۔	”فَالْمُدَبِّرُاتِ أَمْرًا ④“
---	-------------------------------

یہ صفت بھی بالذات ذات الہی جل و علا کی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ : "يُدَبِّرُ الْأَمْرَ" <sup>5</sup> کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ (ت)  
خازن و معالم انتزیل میں ہے:

یعنی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: یہ مدد رات الامر ملائکہ ہیں کہ ان کاموں پر مقرر کئے گئے جن کی کارروائی اللہ عز و جل	قال ابن عباس هم الْمَلَائِكَةُ وَكُلُوا بِأَمْرِ رَبِّكُمْ اللَّهِ تَعَالَى الْعِلْمُ بِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ
---	--

<sup>1</sup> القرآن الكرييم ۵ / ۳<sup>2</sup> القرآن الكرييم ۸ / ۳<sup>3</sup> القرآن الكرييم ۱۲ / ۸<sup>4</sup> القرآن الكرييم ۵ / ۷۹<sup>5</sup> القرآن الكرييم ۵ / ۳۲

<p>نے انہیں تعلیم فرمائی، عبد الرحمن بن سابط نے فرمایا: دینا میں چار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیہم السلام۔ جبریل تو ہواں اور لشکروں پر مؤکل ہیں (کہ ہواں چلانا، لشکروں کو فتح و شکست دینا ان کا تعلق ہے) اور میکائیل باراں و روئیدگی پر مقرر ہیں۔ (کہ مینه بر ساتے اور درخت اور گھاس اور کھیتی لگاتے ہیں) اور عزرائیل قبض ارواح پر مسلط ہیں۔ اسرافیل ان سب پر حکم لے کر اترتے ہیں علیہم السلام جمعین۔</p>	<p>بن سابط ید ببر الامر فی الدنیا اربعة جبریل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل علیہم السلام، اما جبریل فمئکل بالریاح والجنود و امام میکائیل فمئکل بالقطر والنیات و اما ملک الموت فمئکل بقبض الانفس و اما اسرافیل فهو ينزل علیہم بالامر<sup>۱</sup></p>
--	---

الله اکبر! قرآن عظیم وہاں پر ایک سے ایک سخت تر آفت ڈالتا ہے۔ حدیث میں فرمایا:

<p>قرآن متعدد معانی رکھتا ہے۔ (اس کو ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>القرآن ذر وجوهہ۔ رواہ ابو نعیم<sup>۲</sup> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>
--	---

علماء فرماتے ہیں قرآن عظیم اپنے ہر معنی پر جھٹ ہے۔

<p>انہمہ کرام ہمیشہ قرآن کے تمام معنی سے استدلال کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید کے وجہ اعجاز میں سے عظیم ترین وجہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے اپنے رسالہ "الزلال الانقلی"</p>	<p>ولم یزد الائمه یحتجون به علی وجوہه و ذلك من اعظم وجوه اعجازه وقد فصلناها هذ المرا م ف رسالتنا</p>
---	--

<sup>۱</sup> لباب التأویل (تفسیر الخازن) تحت الآية ۷۹ / ۵ دار الكتب العلمية بيروت ۳۹۱ / ۳، معالم التنزيل (تفسير البغوي) تحت الآية ۷۹ / ۵

دار الكتب العلمية بيروت ۳۹۱ / ۳

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ ابی نعیم عن ابن عباس حدیث ۲۳۶۹ مؤسسة الرسالہ بيروت ۱/ ۵۵۱

من بحر سبقة الاتقیٰ میں بیان کردی ہے۔ (ت)	الزلال الانقیٰ من بحر سبقة الاتقیٰ
---	------------------------------------

اب آیہ کریمہ کے دوسرے معنی مجھے، تفسیر بیضاوی شریف میں ہے:

یعنی یا ان آیات کریمہ میں اللہ عزوجل ارواح اولیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے جب وہ اپنے پاک مبارک بدنوں سے انتقال فرماتی ہیں کہ جسم سے بقوت تمام جدا ہو کر عالم بالا کی طرف سبک خراہی اور دریائے ملکوت میں شناوری کرتی ظہیر ہائے حضرت قدس تک جلد رسائی پاتی ہیں پس اپنی بزرگی و طاقت کے باعث کار و بار عالم کے تدبیر کرنے والوں سے ہو جاتی ہیں۔

اوصفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الابدان غرقاً اى نزعاً شديداً من اغراق النازع في القوس وتنشط الى عالم الملكوت وتسبح فيه فتسبق الى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات<sup>1</sup>۔

اب توبہ محمد اللہ تعالیٰ اولیائے کرام بعد وصال عالم میں تصرف کرتے اور اس کے کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں فللہ الحجۃ البالغۃ۔ علامہ احمد بن محمد شہاب خنجری عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی میں امام جمیع الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی و امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سے اس معنی کی تائید میں نقل فرماتے ہیں:

یعنی اس لئے کہا گیا کہ جب تم کاموں میں متھیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو۔ مگر یہ حدیث نہیں ہے جیسا کہ بعض کو وہم ہوا۔ اور اسی لئے مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملبدے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔

ولذا قيل اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من أصحاب القبور الا انه ليس بحديث كما توهّم ولذا اتفق الناس على زيارة مشاهد السلف والتوصل بهم الى الله وان انكرا بعض الملاحدة في عصرنا والمشتكي اليه هو الله<sup>2</sup>۔  
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔

<sup>1</sup> انوار التنزيل (تفسیر البيضاوی) تحت الآية ۹/۵ دار الفکر بیروت ۵/۲۲۵

<sup>2</sup> عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی (حاشیۃ الشہاب علی البيضاوی) تحت الآیة ۹/۵ دار الكتب العلمیة بیروت ۹/۳۹۹

ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صفت حضرت عزت کی ہے، نبی نبیں یہ خاص صفت اسی کی ہے۔ رب عزوجل فرماتا ہے:

<p>اے نبی! ان کافروں سے فرمادہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی، اب کہہ دیں گے کہ اللہ، تو فرمایا پھر ڈرتے کیوں نبیں۔</p>	<p>"قُلْ مَنْ يَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ أَفَمْ يَشْكُرُ الْمُسَعَ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمَّرَاطِرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَقُلْ أَفَلَا تَشْكُرُونَ" <sup>۱</sup>"</p>
---	--

قرآن عظیم خود ہی فرماتا ہے کہ یہ صفت اللہ عزوجل کے لئے ایسی خاص ہے کہ کافر مشرک تک اس کا اختصاص جانتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے، تو اللہ ہی کو بتائیں گے دوسرے کا نام نہ لیں گے اور خود ہی اس صفت کو اپنے مقبول بندوں کیلئے ثابت فرماتا ہے کہ: قسم ان محبوبان خدا کی جو عالم میں تدبیر و تصرف کرتے ہیں۔ "ایمان سے کہنا و مبایت کے دھرم پر قرآن عظیم شرک سے کیوں نکر بچا۔ اے ناپاک طائفے کی سنگت والو! جب تک ذاتی و عطاوی کے فرق پر ایمان نہ لاوے گے کبھی قرآن و حدیث کے قبروں سے پناہ نہ پاؤ گے، اور اس پر ایمان لاتے ہی یہ تمہاری شرکیات کے راگ متعلق تدبیر و تصرف و استمداد و استعانت و دافع البلاء و حاجت رواد مشکلشا و علم غیب و ندا وغیرہ با سب کافور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مبارک منصور (نصرت دئے گئے، مدد دئے گئے) بندے آنکھوں دیکھے منصور نظر آئیں گے۔

تو پیشک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ (ت)	"أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ" <sup>۲</sup>
--------------------------------------	---

آیت: ۳۳

تو فرمایا تمہیں موت دیتا ہے وہ مرگ کافرشہ جو تم پر مقرر ہے۔	"قُلْ يَسْتَوْلِمُ مَلَكُ الْبَوْتَ الَّذِي وُحِلَّ يَكْمَ" <sup>۳</sup>
---	--

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۳۱/۱۰

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۲/۵۸

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۱۱/۳۲

آیت: ۳۲

موت دی اسے ہمارے رسولوں نے۔	"تَوَفَّتُهُ مُرْسُلُنَا" <sup>۱</sup> ۔
-----------------------------	--

حالانکہ خود فرماتا ہے:

اللہ ہے کہ موت دیتا ہے جانوں کو۔	"أَللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ" <sup>۲</sup> ۔
----------------------------------	---

آیت: ۳۵

(جبریل نے مریم سے کہا) کہ میں عطا کروں تھے ستر ایٹا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	"لَا هَبَّ لِكَ غُلَمًا زَكِيًّا" <sup>۳</sup> ۔
---	--

اللہ اللہ! اب تو جبریل بیٹا دے رہے ہیں۔ بھلانجیدی کے یہاں اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وہابیہ تو اسی کو روتوت تھے کہ محمد بن حنفیش، احمد بن حنفیش نام رکھنا شرک ہے یہاں قرآن عظیم سیدنا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جبریل بخش تارہا ہے۔ وَلَهُ الْحَجَةُ السَّامِيَةُ۔ آیت: ۳۶

پیش کردار اپنے نبی کا مددگار ہے اور جبراً نیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے مدد پر ہیں۔	"فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَنَّبِيلُ وَصَالِحُ الْيُومِينِينَ وَالْمُلِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ" <sup>۴</sup> ۔
---	---

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

یہ نیک مسلمان ابو بکر صدیق و عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ (طبرانی نے بکیر میں اور ابن مردویہ اور خطیب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا تھا۔	صالح الیومینین ابو بکر و عمر رواہ الطبرانی فی الکبیر و ابن مردویہ والخطیب عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	---

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲۰/۲۱<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۳۹/۲۲<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۱۹/۱۹<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۲۲/۷<sup>۵</sup> المعجم الكبير حدیث ۷۷/۱۰۳ المکتب الغیصیلیہ بیروت ۱۰/۲۵۳، الدر المنشور بحوالہ ابن مردویہ وابی نعیم تحت الایة ۲۲ / ۳ دار احیاء التراث

العربی بیروت ۸/۲۰۸

بلکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں یوں ہی تھا:

نیک مسلمان ابو بکر و عمر اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔	وصالح المؤمنین ابو بکر و عمر والملائکہ بعد ذلك
(ت)	ظہیر <sup>۱</sup> ۔

یہاں اللہ عزوجل اپنے نام مبارک کے ساتھ اپنے محبوبوں کو فرماتا ہے اللہ اور جبرائیل اور ابو بکر و عمر مدگار ہیں

آیت ۷۸:

ہدہ نے ملک سب سے آکر سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی میں نے ایک عورت پائی کہ وہ ان کی مالک ہے اور اسے سب کچھ دیا گیا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔	إِنَّمَا وَجَدْتُ أَمْرًا كَتَبْتُ لَهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ <sup>۲</sup> ۔
---	--

یہاں بادشاہ کو رعایا کا مالک فرمایا تو رعایا کہ آزاد غلام سب اس کے مملوک ہوئے مگر کوئی اگر محبوبان خدا کو اپنا مالک اور اپنے آپ کو ان کا بندہ مملوک کہے وہابیہ کے دین میں شرک ٹھہرے۔

آیت ۳۸:

جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا سب آدمیوں کو جلا لیا۔	وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَانَ لَهَا أَحْيَا إِلَّا أَنْ أَحْيِ اللَّاتِي جَيَّبَ عَلَيْهَا <sup>۳</sup> ۔
--	--

یہ آیت اس کے بارے میں ہے جس نے کسی کے قتل ناحق سے احتراز کیا یا قاتل سے قصاص نہ لیا چھوڑ دیا اسے فرماتا ہے کہ اس نے اس شخص کو زندہ کیا اور ایک اسی کو کیا گویا تمام آدمیوں کو جلا لیا۔ معالم شریف میں ہے:

اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا اور اس کے قتل سے اجتناب کیا۔ (ت)	وَمَنْ أَحْيَا هَا وَتَوَرَّعَ عَنْ قَتْلِهَا <sup>۴</sup> ۔
--	--

1

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۷/۲۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۵/۳۲

<sup>4</sup> معالم التنزيل (تفسیر بغوي) تحت الایة ۵/۳۲ دار الكتب العلمية بيروت ۲/۲۵

اس میں ہے:

اور جس نے اسے زندہ کیا یعنی جو قصاص اس پر واجب ہو چکا تھا وہ معاف کر دیا اور قصاص میں اس نے قتل نہیں کیا۔ت)	وَمِنْ أَحْيَاهَا إِلَى عَفَّةِ الْعَمَنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصَاصُ لِهِ فِلْمٌ يُقْتَلُهُ <sup>۱</sup> ۔
---	--

وابی صاحب بتائیں کہ دفع بلازیادہ ہے یا زندہ کرنا، جلالینا، حیات دینا۔

آیت: ۳۹

یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو یہ فرمایا، اور رب عزوجل نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے:	أَلَا تَرَوْنَ أَقْيَقَ أُؤْنِي الْكَيْنَ وَأَنَّا خَيْرُ الْمُنْذَلِينَ <sup>۲</sup> ۔
--	---

اے نوح جب تو اور تیرے ساتھ والے کشی پڑھک بیٹھ لیں تو میری حمد بجالانا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب میرے مجھے برکت والا اتارنا اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔	وَقُنْ هَبِّ أَنْزِنِي مُذَلَّا مُلْبِرَ كَأَوْنَتْ خَيْرُ الْمُنْذَلِينَ <sup>۳</sup> ۔
---	--

یہ اللہ عزوجل کی خاص صفت نبی صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے لئے کیسی ثابت فرمائی اور جب نبی صدیق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہتر اتارنے والے راحت و نعمت بخشنے والے ہوئے تو دفع البلاء سے بھی بڑھ کر ہوئے کمالاً یخفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ت)

آیت: ۴۰

یعنی اے مسلمانو! تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور	إِنَّمَا أُولَئِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
--	--

<sup>۱</sup> معالم التنزيل (تفسير البغوي) تحت الاية دار الكتب العلميه بيروت ۲۵/۲

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۵۹/۱۲

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۲۹/۲۳

اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے اور زکوہ دیتے اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔	اَمْنُوا لَذِيْنَ يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوْنَهُمْ لِرَكْعَوْنَ <sup>۱</sup>
---	---

اقول: (میں کہتا ہوں۔ ت) یہاں اللہ ورسول اور نیک بندوں میں مدد کو مختص فرمادیا کہ بس یہی مددگار ہیں تو ضرور یہ مدد خاص ہے جس پر نیک بندوں کے سوا اور لوگ قادر نہیں عام مددگاری کا علاقہ تو ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ قال تعالیٰ:

مسلمان مرد اور مسلمان عورت میں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْصُهُمْ أَذْلِيَّاً عَبْعِدُهُمْ <sup>۲</sup>
--	--

حالانکہ خود ہی دوسری جگہ فرماتا ہے:

اللہ کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں۔	”مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مَنْ وَلِيٌّ <sup>۳</sup> “
--------------------------------------	--

معالم میں ہے:

نہیں ہے ان کے لیے یعنی آسمان اور زمین والوں کیلئے اس کے، یعنی سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی یعنی مددگار۔ (ت)	(مَالِهِمْ) ای ما لَا هُلَّ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ (من دونہ) ای من دون اللہ (من ولیٰ) ناصر <sup>۴</sup>
---	---

وہی صاحبو! تمہارے طور پر معاذ اللہ کیسا کھلا شرک ہوا کہ قرآن نے خدا کی خاص صفت امداد کو رسول و صلحاء کے لیے ثابت کیا ہے قرآن ہی جا بجا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے سوا دوسرے کی صفت نہیں، مگر محمد اللہ اہل سنت دونوں آئیوں پر ایمان لاتے اور ذاتی اور عطا کی کافر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالذات مددگار ہے، یہ صفت دوسرے کی نہیں، اور رسول و اولیاء اللہ کے قدرت دینے سے مددگار ہیں، وہی الحمد، اب اتنا اور سمجھ لجئے مددگار ہے کہ لیے ہوتی ہے؟ دفع بلاء کے واسطے۔ توجب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے مقبول بندے۔ نص قرآن مسلمانوں کے مددگار ہیں تو قلعہ دافع البلاء بھی ہیں، اور فرق وہی ہے کہ اللہ

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۵/۵

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۹/۷

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۸/۲۲

<sup>۴</sup> معالم التنزيل (تفسیر البغوي) تحت الآية ۱۸/۲۶ دار الكتب العلمية بيروت ۳/۱۳۲

سبحانه بالذات دافع البلاء ہے اور انبياء و اولياء علیهم الصلوٰۃ والثناٰء بعطائے خدا۔ والحمد لله العلي الاعلى۔

### پنج آیت از تورات و انجیل وزبور مقدسہ

آیت ۳۲، تورات شریف: امام بخاری حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دارمی و طبرانی و یعقوب بن سفین حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ تورات مقدس میں حضور پر نور دافع البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت یوں ہے:

اے نبی ! ہم نے تجھے بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سننے والا اور بے پڑھوں کے لیے پناہ (الی قوله تعالیٰ) معاف کرتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔	<b>یا یا النبی انا ارسلنک شاهدًا ومبشّرًا ونذیرا حرزاً للامیین (الی قوله تعالیٰ) یغفو یغفر۔<sup>1</sup></b>
--	---

حرز بھی رب العزت جل وعلا کی صفات سے ہے۔ حدیث میں ہے:

اے ضعیفوں کی پناہ ! اے غریبوں کے خزانے !	<b>یا حرزاً الضعفاء یا کنز الفقراء۔<sup>2</sup></b>
--	---

علامہ زرقانی شرح مواہب شریف میں فرماتے ہیں:

یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ دینے والے ہیں مگر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بطور مبالغہ	<b>جعله نفسه حرزاً مبالغة لحفظه لهم في الدارين<sup>3</sup></b>
--	--

<sup>1</sup> سنن الدارمی باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الكتب قبل مبعثه دار المحسن للطباعة قاهرۃ / ۱۳، دلائل النبوة للبیهقی باب صفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات والانجیل دار الكتب العلمیہ بیروت / ۱۷، صحیح البخاری کتاب البيوع / ۲۸۵، و کتاب التفسیر سورۃ الفتح / ۱۷ تریی کتب خانہ کراچی، الخصائص الکبیری باب ذکرہ فی التوراة والانجیل الخ مرکز ہلسنت گھرات الہند / ۱۰، الطبقات الکبیری لابن سعد ذکر صفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة والانجیل دار صادر بیروت / ۳۶۰ و ۳۶۲

2

<sup>3</sup> شرح الزرقانی علی المواہب المدنیۃ

خود پناہ کھا (جیسے عادل کو عدل یا علم کو علم کہتے اور اس وصف کی وجہ یہ ہے کہ) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں اپنی امت کے محافظ و نگہبان ہیں۔ والحمد لله رب العالمین۔

**آیت ۳۲، از تورات:** ہاں ہاں خبردار و ہوشیار، اے نجدیان نابکار، ذرا کم سن نو پیدا عیارہ خام پارہ وہبیت نکارہ کے نئے سے کلچے پر ہاتھ دھر لینا تورات وزبور کی دو آیتیں تلاوت کی جائیں گے نو خیز وہبیت کی نادان جان پر قبر الہی کی بجلیاں گراں کے افسوس تمہیں تورات وزبور کی تکذیب کرتے کیا لگتا تھا جب تم قرآن کی نہ سنوا اللہ کا کندب تم ممکن گنو مگر جان کی آفت گل کی غل تو یہ ہے کہ آیات جناب شاہ عبدالعزیز صاحب نے نقل فرمائیں کلام الہی بتائیں، یہ امام الطائفہ کے نسب کے پچھا، شریعت کے باپ، طریق کے دادا۔ اب انہیں نہ مشرک کہئے بنتی ہے نہ کلام الہی پر ایمان لانے کو روٹھی وہبیت ملتی ہے، نہ پائے رفتمنہ جائے ماندن (نہ رہنے کا یارا، نہ چلنے کی تاب۔ ت)۔

دو گونہ رنج و عذاب است جان <sup>لیلی</sup> را بلائے صحبت مجنوں و فرقہ مجنوں <sup>۱</sup>

(لیلی کی جان کو دو قسم کا دکھ اور عذاب ہے، مجنوں کی صحبت اور اس کی جدائی کی مصیبت۔ ت)

ہاں اب ذرا گھبرائے دلوں، شرمائی چتوںوں سے جائی انکھڑیاں اوپر اٹھائیے اور بھم اللہ وہ سنتے کہ ایمان نصیب ہو تو سنی ہو جائیے، جناب شاہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں تورات کے سفر چہارم میں ہے:

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا بیشک ہاجرہ کے اولاد ہو گئی اور اس کے بچوں میں وہ ہو گا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہے اور سب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی اور گڑ کرنا نہ میں۔	قال اللہ تعالیٰ لابراهیم ان هاجرة تلد ويكون من ولدھا من يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخشوع <sup>۲</sup> ۔
--	--

وہ کون؟ محمد رسول اللہ سیدالکون معطی العون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قربان تیرے اے بلند ہاتھ والے، اے دوجہاں کے اجائے۔ حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے ہماری عاجزی و

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> تحفہ اثنا عشریہ باب ششم در بحث نبوت و ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سیل اکیڈمی لاہور ص ۱۶۹

محاجی کے ہاتھ ہر لیسم بے قدرت سے بچائے اور تجھ جیسے کریم روف و رحیم کے سامنے پھیلائے، والحمد لله رب العالمین۔

اسے حمد جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا

ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستاں بتایا<sup>۱</sup>

آیت ۳۲، از زبور مقدس: نیز تجھہ میں زبور شریف سے منقول:

اے احمد! رحمت نے جوش مارا تیرے لبوں پر، میں اس لئے تجھے برکت دیتا ہوں، تو اپنی تلوار حماکل کر کہ تیری چک اور تیری تعریف غالب ہے، سب امتنیں تیرے قدموں میں گریں گی، تجھی کتاب لا یا اللہ برکت و پاکی کے ساتھ مکہ کے پہاڑ سے بھر گئی زمین احمد کی حمد اور اس کی پاکی بولنے سے، احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

یا احمد فَاضْرَبْتُ الرَّحْمَةَ عَلَى شَفْتِيْكَ مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ اَبْارَكْتُ عَلَيْكَ فَتَقْلِدَ السَّيْفَ فَأَنْبَهَنِكَ وَحَمَدَكَ الْغَالِبُ (الْيَوْمَ) وَالْاَمْمَ يَخْرُونَ تَحْتَكَ كِتَابَ حَقٍّ جَاءَ اللَّهُ بَهُ مِنَ الْيَمِينِ وَالتَّقْدِيسُ مِنْ جَبَلِ فَارَانِ وَامْتَلَاعُ الْاَرْضِ مِنْ تَحْمِيدِ اَحْمَدَ وَتَقْدِيسِهِ وَمَلْكُ الْاَرْضِ وَرَقَابُ الْاَمْمِ<sup>۲</sup> -

اے احمد پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مملوک خوشی دشادمانی ہے، تمہارے لئے تمہارا مالک پیارا سراپا کرم سراپا رحمت ہے، والحمد لله رب العالمین۔

عہد ما بالب شیریں دہناں بست خدائے مَا هم بِنَدِه وَإِسْ قَوْمٌ خَدَاوَنْدَانِد<sup>۳</sup>

(ہمارا عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے میٹھے منہ والوں کے لبوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ہم سب غلام ہیں اور یہ قوم مالکوں کی ہے۔ ت)

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا<sup>۴</sup>۔

والہذا حضرت امام اجل عارف بالله سیدی سہل بن عبد الله تسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،

<sup>1</sup> حدائق بخشش مکتبہ رضویہ کراچی حصہ دوم ص ۵۳

<sup>2</sup> تجھہ اثنا عشریہ باب ششم در بحث نبوت و ایمان انبیاء علیہم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سہیل اکیڈمی لاہور ص ۱۶۹

3

<sup>4</sup> حدائق بخشش مکتبہ رضویہ آرام باع کراچی ص ۲

پھر امام اجل قاضی عیاض شفقاء شریف، پھر امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں نقاؤنڈ کیرا، پھر علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نسیم الریاض، پھر علامہ محمد عبدالباقي زرقانی شرح مواہب میں شرحاً و تفسیراً افرماتے ہیں:

جو ہر حال میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ولی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلًا خبردار نہ ہو گا۔	من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع احواله وير نفسه في ملکه لا يذوق حلاوة سنته ۱۔ والعياذ بالله رب العالمين۔
--	---

فائدہ عظیمہ: الحمد للہ سینوں کی اقبالی ڈگری۔ ان آیات تورات و زبور پر نقیر غفران اللہ تعالیٰ لہ کو دو ۲ آیت تورات و انجلی مبارک مع چند احادیث کے یاد آئیں مگر ان کے ذکر سے پہلے امام الطائفہ کے ایک انجان پنے کا اقرار سن لیجئے۔ تقویۃ الایمان فصل ثانی اشراک فی العلم کے شروع میں لکھا ہے:  
..جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے قفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے تو کھولے جب چاہے نہ کھولے۔ "انتہی" ۲۔  
بھولا نادان لکھتے تو لکھ گیا مگر

کیا خبر تھی انقلاب آسمان ہو جائیگا دین نجدی پانماں سنبیاں ہو جائیگا

غیریں مسکین کیا جانتا تھا کہ وہ تو چند روق بعد یہ کہنے کو ہے کہ ۳۰ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ۳۰۔  
یہاں اس کے قول سے تمام عالم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار تام ثابت ہو جائیگا بیچارے مسکین عزیز کے دھیان میں اس وقت یہی لو ہے یہاں کی کنجیاں تھیں

<sup>۱</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الباب الثاني لزوم مجته محدثه صلی اللہ علیہ وسلم المطبعة الشرکة الصحافية ۲/۱۶، نسیم الریاض فی شرح القاضی عیاض الباب الثاني لزوم مجته محدثه صلی اللہ علیہ وسلم مرکز الہست گجرات ہند ۳۳۲/۳ و ۳۳۳/۷، المواہب اللدنیہ المقصود السابع المکتب الاسلامی بیروت ۲۹۹/۳، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ الفصل الاول دار المعرفة بیروت ۲/۲۳۰۰

<sup>۲</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثاني مطبع علیی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۳

<sup>۳</sup> تقویۃ الایمان الفصل الرابع مطبع علیی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

جو جامع مسجد کی سیرھیوں پر بساطی ف پیے پیے بیچتے اس کی خواب میں بھی خیال نہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب جل و علا نے اس بادشاہ جبار جلیل الاقتدار عظیم الاختیار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا کنجیاں عطا فرمائی ہیں ہاں ہم سے سن اور وہ سن کر سن ہو جا۔

آیات و احادیث عطاۓ مفاتیح عالم بحضور پر نور مولائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آیت ۲۳، از تورات شریف: نبیقی وابو نعیم دلائل النبوة میں حضرت ام الدرداء سے راوی میں نے کعب احرار سے پوچھا: تم تورات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت کیا پاتے ہو؟ کہا: حضور کا وصف تورات مقدس میں یوں ہے:

<p>محمد اللہ کے رسول ہیں ان کا نام متوكل ہے، نہ درشت خوہیں نہ سخت گو، نہ بازاروں میں چلانے والے، وہ کنجیاں دئے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے پھوٹی آنکھیں بینا اور بہرے کان شنو اور ٹیڑھی زبانیں سیدھی کر دے یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اس کا سچی نہیں وہ نبی کریم ہر مظلوم کی مدد فرمائیں گے اور اسے کمزور سمجھے جانے سے بچائیں گے۔</p>	<p>محمد رسول اللہ اسمہ المتوكل لیس بفیظ ولا غلیظ و لا سخاب فی الاسواق واعطی المفاتیح لیبصرا اللہ به اعیناً عوراً ویسمع به أذائنا صماً ویقيم به السنة معوجة حتى یشهدوا ان لا الله الا الله وحدة لا شريك له یعین المظلوم ویمنعه من ان یستضعف <sup>۱</sup></p>
---	---

آیت ۲۵، از انجیل جلیل: حاکم بافادہ تصحیح اور ابن سعد و نبیقی وابو نعیم روایت کرتے ہیں ام المومنین و محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بعلماء ایسا و علیہا وسلم فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت و شانجیل پاک میں مکتوب ہے:

<sup>۱</sup> الخصائص الكبیری باب ذکرة في التوراة والإنجیل مرکز الہلسنت گھرات الہند ۱/۱، دلائل النبوة للبیهقی باب صفة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی التوراة والإنجیل دار الكتب العلمیہ بیروت ۱/۷۷

ف: بساطی خودہ فروش۔ ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والا۔

<p>نہ سخت دل ہیں نہ درشت خُو، نہ بازاروں میں شور کرتے، انہیں کنجیاں عطا ہوئی ہیں۔ باقی عبارت مش لورات مبارک ہے۔</p>	<p><b>لاظف ولا غلظ ولا سخاب في الاسواق واعطى المفاتيح</b> <b>الخ مثل ما مرّ سواءً بسواءً</b></p>
---	--

حدیث ۶۱: بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور مالک المفاتیح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>میں سورہ تھا کہ تمام خزانَ زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔</p>	<p><b>بینا ان نَأْمَ اتَّيْتَ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ</b> <b>فِي يَدِي</b><sup>۲</sup></p>
---	---

حدیث ۶۲: امام احمد و ابو بکر بن ابی شیبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے راوی حضور مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا، رعب سے میری مدد فرمائی گئی (کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک سن کر کاپنے) اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں، الحدیث۔</p>	<p><b>اعطیت مَالِمٍ يَعْطُ اَحَدَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلَ نَصْرَتِ</b> <b>بِالرَّعْبِ وَاعطیت مَفَاتِحِ الْأَرْضِ الْحَدِيثُ</b><sup>۳</sup></p>
--	---

امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کی صحیحیت کی۔

حدیث ۶۳: امام احمد اپنی مسند اور ابن حبان اپنی صحیح اور ضایاء مقدرسی صحیح مختارہ، ابو نعیم دلائل النبوة

<sup>۱</sup> الخصائص الكبیری باب ذکرة في التوراة والإنجيل الخ مركز إلهیست گجرات الہند / / المسعدی درک للحاکم کتاب التاریخ کان اجود النّاس بالخبر دار الفکر بیروت ۲/۲۱۳، الطبقات الكبیری لابن سعد ذکر صفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة والإنجیل دار صادر بیروت

۳۶۳/۱

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب الاعتراض باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجماع الكلم قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۱۰۸۰، صحیح مسلم کتاب المساجد و موضع الصلوة قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۹۹

<sup>۳</sup> مسند احمد بن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ المكتب الاسلامی بیروت ۱/۹۸، المصنف لابن ابی شیبہ کتاب المناقب حدیث ۳۱۲۳۸ دارالکتب العلیہ بیروت ۲/۳۰۸، الخصائص الكبیری باب اختصاصه صلی اللہ علیہ وسلم بالنصر بالرعب مرکز اہل سنت گجرات الہند ۲/۱۹۳

میں بسند صحیح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور مالک تمام دنیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

دنیا کی کنجیاں ابلق گھوڑے پر رکھ کر میری خدمت میں حاضر کی گئیں جبریل لے کر آئے اس پر نازک ریشم کا زین پوش بانفش و نگار پڑا تھا۔	اتیت بمقالید الدنیا علی فرس ابلق جاء نبے جبریل علیہ قطیفۃ من سندس <sup>۱</sup> ۔
---	---

حدیث ۲۳: امام احمد مسنداً و طبرانی مجمع بکیر میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پر نور ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا ہوئیں سوا ان پانچ کے۔ یعنی غیوب خمسہ۔	اوتیت مفاتیح کل شیعی الا الخمس <sup>۲</sup> ۔
---	---

علامہ حفظی عاشیہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں:

پھر یہ پانچ بھی عطا ہوئیں ان کا علم بھی دے دیا گیا۔	ثم اعلم بها بعد ذلك <sup>۳</sup> ۔
---	------------------------------------

اسی طرح علامہ سیوطی نے بھی خصائص کباری<sup>۴</sup> میں نقل فرمایا: علامہ مداری شرح فتح المبین امام ابن حجر مکی میں فرماتے ہیں یہی حق ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

حدیث ۲۵: یعنی یہی مضمون احمد و ابو یعلی<sup>۵</sup> نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث آخر ابو نعیم حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور مالک غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجده حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں:

<sup>۱</sup> مسنند احمد بن حنبل، عن جابر رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳/۳۲۸، الخصائص الکبیری بحوالہ احمد و ابن حبان وابن

نعمیم باب اختصاصہ بالنصر مکرزاں بگرات الہند ۲/۱۹۵

<sup>۲</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ابن عمر رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۸۵، المعجم الكبير عن ابن عمر رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۲/۳۶۱

<sup>۳</sup> حواشی الحفظی علی الجامع الصغیر علی ہامش السراج المنیر الحدیث اوتیت مفاتیح الخ المطبعة الازھریة المصریہ مصر ۲/۷۳

<sup>۴</sup> الخصائص الکبیری باب اختصاصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالنصر بالرعب مکرزاں سنت گجرات الہند ۲/۱۹۵

<sup>۵</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۸۲

جب حضور میرے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا سجدے میں پڑے ہیں، پھر ایک سفید ابر نے آسمان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، پھر وہ پر دہ ہٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبز ریشمیں پھونوا بچھا ہے اور گوہر شاداب کی تین کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک ہٹنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، سب پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا۔ پھر اور ابر نے آ کر حضور کو ڈھانپا کہ میری نظر سے چھپ گئے۔ پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے واہ وہ ساری دنیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضہ میں نہ آئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

لما خرج من بطنی فنظرت الیه فاذا انابہ ساجد ثم رایت سحابة بیضاء قد اقبلت من السماء حتى غشیته فغیب عن وجهی ثم تجلت فاذا انابہ مدرج في ثوب صوف ابيض وتحته حريرة خضراء وقد قبض على ثلاثة مفاتیح من المؤلوع الرطب واذا قائل يقول قبض محمد على مفاتیح النصرة و مفاتیح الربح و مفاتیح النبوة ثم اقبلت سحابة اخرى حتى غشیته فغیب عن عینی ثم تجلت فاذا انابہ قد قبض على حريرة خضراء مطوية واذ قائل يقول بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلها لم یبق خلق من اهلها الا دخل فی قبضته<sup>۱</sup> - هذا مختصر - والحمد لله رب العالمين

حدیث ۲۶: حافظ ابو زکریا تیجی بن عائز اپنی مولد میں بروایت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت آمنہ زہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رضوان خازن جنت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعد ولادت حضور سید الکوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پردوں کے اندر لے کر گوش اقدس میں عرض کی:

<sup>۱</sup> الخصائص الکبیزی بحوالہ ابو نعیم عن ابن عباس باب ماظھر فی لیلۃ مولده مرکز إلہست گجرات الہند ۲۸/۱

<p>حضور کے ساتھ نصرت کی کنیاں ہیں رعب و دبدبہ کا جامہ حضور کو پہنایا گیا ہے جو حضور کا چرچا سنے کا اس کا دل ڈر جائے گا اور جگر کا نپ اٹھے گا اگرچہ حضور کو نہ دیکھا ہو اے اللہ کے نائب ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>معک مفاتیح النصرة قد البست الخوف والرعب لايس مع احد بذرک الا وجل فؤاده وخف قلبه وان لم يرك يا خليفة الله <sup>۱</sup>۔</p>
---	---

ایمان کی آنکھ میں نور ہو تو ایک اللہ کا نائب ہی کہنے میں سب کچھ آگیا، اللہ کا نائب ایسا ہی تو چاہئے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ایک دنیا کے کتنے کا نائب کہیں کا صوبہ اسکی طرف سے وہاں کے سیاہ و سپید کا مختار ہوتا ہے مگر اللہ کا نائب کسی پھر کا نائب ہے "وَمَا قَدْرُوا لِلَّهَ حَقّ قَدْرِهِ" <sup>۲</sup>۔ (اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہئے تھی۔ ت) بے دولتوں نے اللہ ہی کی قدرت نہ جانی لا واللہ اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک میں تصرف نام کا اختیار رکھتا ہے جب تو اللہ کا نائب کہلا یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدیث ۲۷: امام داری اپنی سنن میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور ماک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ محبوس ہوں گے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ ناامید</p>	<p>اناً أول الناس خروجاً اذا بعثوا واناً قائد هم اذا ودوا واناً خطيبهم اذا انصتوا واناً شفيعهم اذا حبسوا واناً مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي <sup>۳</sup>۔</p>
---	---

<sup>1</sup> الخصائص الكبیری بباب ما ظهر في ليلة مولده صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکز إلہست گجرات الہند ۱/۴۹

<sup>2</sup> القرآن الكريم ۶/۹۱ و ۹۳/۴۰

<sup>3</sup> مشکوٰۃ المصاہبیج بحوالہ الترمذی والدارمی بباب فضائل سید المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی ص ۵۱۳، سنن الدارمی بباب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضل حدیث ۳۶۹ دار المحسن للطباعة القاهرة، الخصائص الكبیری بباب اختصاصه صلی اللہ علیہ وسلم

بانہ اول من تنشق الارض منه مرکز إلہست گجرات الہند ۲/۴۸

الحدیث۔	
ہوں گے، عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ ہو گا۔	

والحمد لله رب العالمين، شکر اس کریم کا جس نے عزت دینا اس دن کے کاموں کا اختیار پیارے روپ و رحیم کے ہاتھ میں رکھا  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس نے شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں:

درال روز ظاہر گرد کے وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نائب ملک یوم الدین ست روز روز اوست و حکم حکم او بحکم رب العالمین <sup>۱</sup> ۔	اس دن ظاہر ہو جائے کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک یوم دین کے نائب ہیں۔ وہ دن آپ کا ہو گا اور اس میں رب العالمین کے حکم سے آپ کا حکم چلے گا۔ (ت)
---	--

حدیث ۲۸: ابن عبد ربہ کتاب بہبیۃ المجالس میں راوی کہ حضور پر نوراً فضل صلوٰات اللہ تسلیماتہ علیہ فرماتے ہیں:

ینصب الی یوم القیمة منبر علی الصراط وذکر الحدیث (الی ان قال) ثم یأقی ملک فیقیف علی اول مرقاۃ من منبری فینادی معاشر المسلمين من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانما ملک خازن النار ان الله امری ان ادفع مفاتیح جهنم الی محمد وان محمدًا امری ان ادفع الی ابی بکرٍ هاد اشہدواهاد اشہدوا اثم یقف ملک آخر علی ثانی مرقاۃ من منبری فینادی معاشر المسلمين من عرفنی	روز قیامت صراط کے پاس ایک منبر بچایا جائیگا پھر ایک فرشتہ آکر اس کے پہلے زینہ پر کھڑا ہو گا اور ندا کرے گا اے گروہ مسلمانان ! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا میں مالک داروغہ دوزخ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابو بکر صدیق (رضی الله عنہ) کے سپرد کر دوں، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ پھر ایک اور فرشتہ دوسرے زینہ پر کھڑا ہو کر پکارے کا: اے گروہ مسلمین ! جس نے مجھے جانا
---	--

<sup>۱</sup> مدارج النبوة

<p>اس نے جانا اور جس نے نہ جانا تو میں رضوان داروغہ جنت ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جنت کی سنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے سپرد کر دوں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ (علامہ ابراہیم بن عبد اللہ المدنی الشافعی نے اپنی تحقیقی کتاب الاكتفاء فی فضل الصدیق من کتابہ الاكتفاء فی فضل الاربعة الخلفاء<sup>1</sup> میں بیان کیا ہے۔ ت)</p>	<p>فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا رضوان خازن الجنان ان الله امرني ان ادفع مفاتيح الجنة الى محمد وان محمدا امرني ان ادفعها الى ابي بكر هما اشهدوا اهاد شهدوا الحديث۔ (اور دہ العلامہ ابراہیم بن عبد اللہ المدنی الشافعی فی الباب السابع من کتاب التحقيق فی فضل الصدیق من کتابہ الاكتفاء فی فضل الاربعة الخلفاء<sup>1</sup>۔</p>
--	--

حدیث ۲۹: حافظ ابوسعید عبد الملک بن عثمان کتاب شرف النبوة میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>روز قیامت اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا دو منبر نور کے لا کر عرش کے داہنے باہمیں بچھائے جائیں گے ان پر دو شخص پڑھیں گے، داہنے والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان داروغہ بہشت ہوں مجھے اللہ عزوجل نے حکم دیا کہ جنت کی سنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔</p>	<p>اذا كان يوم القيمة وجمع الله الاولين والآخرين يُؤتى بمنبرين من نور فينسب احدهما عن يمين العرش والأخر عن يساره ويعلوهما شخصان فينادي الذي عن يمين العرش معاشر الخلاص من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا رضوان خازن الجنان ان الله امرني ان اسلم مفاتيح الجنة الى محمد وان محمدا امرني ان اسلمهما الى ابي بكر وعمر ليدخلها محبيهما الجنۃ لا فأشهدوا</p>
---	---

پھر بائیں والا پکارے گا: اے جماعت مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک دار و غمہ دوزخ ہوں مجھے اللہ عزوجل نے حکم دیا کہ دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں، سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ (اس کو بھی کتاب الکتفاء میں کتاب الاحادیث الغرفی فضل الغرفی فضل الشیخین ابو بکر و عمر میں باب ہفتہم میں بیان کیا۔ ت)

ثم ینادی الذی عن یسار العرش معشر الخلائق من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانَ مالک خازن النار ان اللہ امرنی ان اسلام مفاتیح النار الى محمد و محمد امرنی ان اسلیھما الی ابی بکر و عمر لید خلا مبغضیھما النار الافاشهدوا<sup>۱</sup> او ردا ایضاً فی الباب السابع من کتاب الاحادیث الغرفی فضل الشیخین ابو بکر و عمر من کتاب الکتفاء۔

یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں روایت کی:

روز قیامت نہ اکی جائے گی کہاں ہیں اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم لائے جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا تم خے چاہو جنت میں داخل کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو۔ (علامہ شہاب ثقابی نے نسیم الریاض شرح شفاء امام تقاضی عیاض میں فصل ۱۱ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن غیوب پر مطلع کیا گیا، میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کے ہم معنی ہے۔ ت)

ینادی يوم القیمة این اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فیؤتی بالخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم فیقول اللہ لهم ادخلوا من شئتم الجنة ودعوا من شئتم او ما هو بمعناه ذکرہ العلامہ الشہاب الخفاجی فی نسیم الریاض<sup>۲</sup> شرح شفاء الامام القاضی عیاض فی فصل ما اطلع عليه النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الغیوب. و قال او ما هو بمعناه۔

<sup>۱</sup> منا حل الشفاء و منها حل الصفاء بتحقيق شرف المصطفى حديث ۲۳۸۸ دارالبشاير الاسلامية بيروت ۵/۳۹۰ و ۵/۳۹۱

<sup>۲</sup> نسیم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض بحوالہ الغیلانیات فصل و من ذلك ما اطلع عليه من الغیوب مرکز اہلسنت گجرات الہند ۳/۱۶۲

حدیث ۷۰: وَلِهُذَا سِيدُنَا مُولَا عَلِيٌّ كَرَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهُهُ الْكَرِيمُ نَفَرَ مِنْ قَسْمِ النَّارِ مِنْ قَسْمِ دُوزَخٍ هُوَ -  
یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔

<p>اس کو شاذان نے جزءِ رِدَالشَّمْس میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے محبوں میں رکھے جیسا کہ وہ خود اس سے محبت فرماتا ہے اور اس پر راضی ہے اس کے محبوں کے جمال کے صدقے۔ آمین۔ (ت)</p>	<p>رواه شاذان<sup>۱</sup> الفضیلی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جزءِ رِدَالشَّمْس جعلنا اللہ ممن والاہ کما یحبہ ویرضاہ بجاہ جمال محببۃ امین۔</p>
--	---

بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے احادیث حضور والاصوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ میں داخل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی (کرم اللہ وجوہہ الکریم) کو قسمِ النار فرمایا۔ شفاء شریف میں فرماتے ہیں:

<p>بیشک اصحاب صحاب و ائمہ حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولیٰ علی (کرم اللہ وجوہہ الکریم) کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ترین امت ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کو رنگے گا، اور یہ کہ مولا علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قسم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اس کے صدقے ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ (ت)</p>	<p>قد خرج اهل الصحیح ولائمۃ ما اعلم به اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مماؤ عدهم بہ من الظہور علی اعدائہ (الی قوله) وقتل علی و ان اشقاها الذی یخضب هذہ من هذہ ای لحیته من زاسہ وانه قسمیم النار یدخل اولیاء الجنة واعداء النار<sup>۲</sup> رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنابہ امین!</p>
--	---

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ شاذان الفضیلی فی رِدَالشَّمْس حدیث ۷۵ م مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۳۲۷

<sup>۲</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل و من ذالک مَا اطلع عليه من الغیوب البکتبة الشرکة الصحفیة ۱۸۳ و ۱۸۴

شیم میں عبارت نہایہ:

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں قسم دوزخ ہوں۔ (ت)	ان علیّاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انْ قَسِيمُ النَّارِ۔
--	---

ذکر کر کے فرمایا:

<p>ابن اثیر ثقہ ہے اور جو کچھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ اپنے رائے سے نہیں کہا جاسکتا ہے، لہذا وہ مرفوع کے حکم میں ہو گا کیونکہ اس میں اجتہاد کی مجال نہیں اھ۔ میں کہتا ہوں شیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حضرت علی سے مروی نہیں جانتے چنانچہ انہوں نے اسے ابن اثیر کے ثقہ ہونے کی طرف پھیر دیا ہے اور ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ ولله الحمد۔ (ت)</p>	<p>ابن الاشیر ثقة وما ذكره على لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفع اذا لا مجال فيه للاجتهاد<sup>۱</sup> اه اقول: كلام النسيم انه لم يرد مرويًا عن على فاحوال على وثاقة ابن الاشیر وقد ذكرنا تخریجه والله الحمد۔</p>
--	--

مدارج شریف میں ہے:

<p>مرwoی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کی دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے اوپر، اور ایک روایت میں ہے کہ کرسی پر کھڑا کریگا اور جنت کی چاپی آپ کے سپرد فرمائے گا۔ (ت)</p>	<p>آمدہ است کہ ایتادہ میکند او را پروردگاروے یعنی عرش و در روایتے بر عرش و در روایتے بر کرسی و مسپار دبوے کلید جنت<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

ملائی! ذرا انصاف کی کنجی سے دیدہ عقل کے کواڑھوں کر کیے کنجیاں دیکھئے جو مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکابر خلیفہ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں۔ اور اب اپنا وہ بلائے جان اقرار یاد کریجئے<sup>۳</sup> جس کے ہاتھ کنجی ہوتی ہے قتل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے<sup>۴</sup>۔ دیکھ جنت الہی یوں قائم ہوتی ہے۔ والحمد لله رب العالمین۔

<sup>۱</sup> نسیم الریاض فصل و من ذالک ما اطلع عليه من الغیوب مرکز اہلسنت گجرات الہند ۱۴۳/۳

<sup>۲</sup> مدارج النبوة باب هشتم مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۲۷۳/۱

<sup>۳</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علیمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۳

## فصل دوم احادیث منیفہ میں

تین و صل پر مشتمل:

**وصل اول:** اعظم و اجل محدث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جانفرزا اسناد میں جن سے ایمان کی جان میں جان آئے ایمان کی آنکھ نور و ایقان پائے، وباللہ التوفیق۔

**حدیث اے:** بخاری شریف میں سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے جب ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے میں کمی کی سید عالم مغز اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>ابن جمیل کو کیا برا لگا یہی ناکہ وہ محتاج تھا اللہ و رسول نے اسے غنی کر دیا، حمل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>ما ینقم ا بن جمیل الا انہ کان فقیراً فاغناه اللہ و رسوله<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

**حدیث ۲۷:** فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>جس کا کوئی نگہبان نہ ہو اللہ و رسول اس کے نگہبان ہیں (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا، اور ابن ماجہ نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔)</p>	<p>اللہ و رسولہ مولیٰ من لا مولیٰ له۔ الترمذی وحسنہ و ابن ماجہ عن امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ<sup>۲</sup></p>
---	---

علامہ مناوی تیسیر میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی ارشاد حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی حافظ نہیں اللہ و رسول اس کے حافظ ہیں۔</p>	<p>ای حافظ من لاحافظ له۔<sup>۳</sup></p>
--	--

**حدیث ۲۸:** کہ جب سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسکے بیہاں تشریف لے گئے اور ان کے میتیم بچوں کو خدمت اقدس میں

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ بباب قول اللہ تعالیٰ وفي الرقب والغارمين قدیمی کتب خانہ پشاور ۱۹۸۴

<sup>۲</sup> سنن الترمذی بباب ماجاء فی میراث الخال حديث ۲۱۱۰ دار الفکر بیروت ۳۳/۲ سنن ابن ماجہ ابواب الزکوٰۃ بباب ذوی الارحام اپنے ایم کمپنی کراچی ص ۲۰۱

<sup>۳</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحديث اللہ و رسولہ مولیٰ من لا مولیٰ له مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۱/۲۰۶

یاد فرمایا وہ حاضر ہوئے حضرت عبد اللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کر کے فرماتے ہیں:

<p>میری ماں نے حاضر ہو کر حضور پناہ بیکساں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری تیسی کی شکایت عرض کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان پر محتاجی کا اندیشہ کرتی ہے حالانکہ میں ان کا ولی و کار ساز ہوں دنیا و آخرت میں۔ (امام احمد اور طبرانی اور ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>فجاءات امناً فَكَرِتْ يَتَبَيَّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِبْلَةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا وَلَيَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيٌّ وَابْنُ عَسَكِرٍ رضي اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	--

۔ غم نخورد آنکہ حفظیش توئی والی و مولیٰ و ولیش توئی

(وہ غم نہیں کھاتا جس کا محافظ، والی، آقا اور ولی تو ہے۔ ت)

حدیث ۷۴: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>محبت ابو بکر و عمر کی ایمان سے ہے اور ان کا بغض کفر، اور محبت الانصار کی ایمان سے ہے اور ان کا بغض کفر، اور محبت عرب کی ایمان سے ہے اور ان کا بغض کفر، اور میرے اصحاب کو جو برائیں اس پر اللہ کی لعنت، اور جو ان کے معاملہ میں میرالخط رکھے میں روز قیامت اس کا حافظ و نگہبان ہوں گا (ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>حُبُّ ابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ الْإِيمَانِ وَبِغَضْهُمَا كَفْرٌ وَحُبُّ الْأَنْصَارِ مِنَ الْإِيمَانِ وَبِغَضْهُمِ كَفْرٌ وَحُبُّ الْعَرَبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَبِغَضْهُمِ كَفْرٌ وَمَنْ سَبَّ اصْحَابَ فَعْلَيْهِ لِعْنَةُ اللَّهِ وَمَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ فَإِنَّا أَحْفَظْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ ابْنُ عَسَكِرٍ<sup>۲</sup> عَنْ جَابِرٍ رضي اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

حدیث ۷۵ و ۷۶: دنیا کی ظاہری زینت و حلاوت اور مال حلال کما کراچی جگہ خرچ کرنے

<sup>۱</sup> مسنود احمد بن حنبل عن عبد اللہ بن جعفر المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۰۵ و ۲۰۳، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۳۳۰۳ عبد اللہ بن

Georgetown دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۹/۲۷۳ و ۲۷۳/۱

<sup>۲</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۵۳۰۲ عمر بن الخطاب دار احیاء التراث العربي بیروت ۷/۳۱۸

کی خوبی اور حرام کما کر بری جگہ اٹھانے کی برائی بیان فرمائے کار شاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>اور بہت اللہ اور رسول کے مال سے اپنے نفس کی خواہشوں میں ڈوبنے والے ہیں جن کے لیے قیمت میں نہیں مگر آگ۔ (احمد اور ترمذی نے خولہ بنت قیس سے روایت کیا اور اس کو حسن صحیح کہا اور یہیئی نے شعب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>ورب متخوضٍ فیما شاعت نفسہ من مال اللہ ورسوله لیس له یوم القیمة الا النار۔ احمد<sup>1</sup> والترمذی وقال حسن صحيح عن خولة بنت قیس والبیهقی فی الشعب عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔</p>
--	---

حدیث ۷۷: جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مانفعنی مال، قطعاً مانفعنی مال ابی بکر مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر روئے اور عرض کی: هل انا و مالی الالک یا رسول اللہ میری جان و مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے یا رسول اللہ۔

<p>احمد<sup>2</sup> فی مسنده بسنده صحيح عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>	<p>احمد<sup>2</sup> فی مسنده بسنده صحيح عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

حدیث ۷۸: آیہ کریمہ:

<p>تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ (ت)</p>	<p>”فُلَّا أَسْكُنْنُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤْدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ“<sup>3</sup></p>
---	--

کے اسباب نزول میں مردوی انصار کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور عاجزی کرنے ہوئے گھٹشوں کے بل کھڑے ہوئے اور عرض کی:

<p>ہمارے مال اور ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ</p>	<p>اموالنا و ما فی ایدینا اللہ و</p>
--	--------------------------------------

<sup>1</sup> مستند احمد بن حنبل عن خولة بنت قیس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۸۷، سنن الترمذی کتاب الزهد بباب ماجاء في اخذ المال حدیث ۲۳۸۱ دار الفکر بیروت ۲/۱۶۶، شعب الایمان حدیث ۷۷ دار الكتب العلمیہ بیروت ۵/۳۹۶ و ۳۹۷

<sup>2</sup> مستند احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۲۵۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۲۲/۲۳

ہے سب اللہ و رسول کا ہے۔ (جریر کے بیٹوں اور ابی حاتم اور مردویہ نے مقدم سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماً سے روایت کیا۔ ت)	<b>رسولہ۔ ابناء جریر<sup>۱</sup> وابی حاتم ومردویہ عن مقدم</b> <b>عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماً۔</b>
--	--

حدیث ۲۹: کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز حنین زنان وصیان بنی ہوازن کو اسی فرمایا اور اموال و غلام و کنیز مجاہدین پر تقسیم فرمادئے اب سرداران قبیلہ اپنے اہل و عیال و اموال حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے مانگنے کو حاضر ہوئے رُہبر بن صرد جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ۔

(۱) امنن علینا رسول اللہ فی کرم فانک المرء نرجوہ وندخر

(۲) امنن علی بیضۃ قد عاقها قدر فشتت شیلہا فی دھرها غیر

(۳) ابقت لذ الدھر هنافاً علی حَرَنْ علی قلوبهم الغباء والغُرُ

(۴) ان لم تدار کھم نعیاء تنشرهَا یارجح الناس حلمًا حین یختبر

(۱) یا رسول اللہ! ہم پر احسان فرمائیے اپنے کرم سے، حضور ہی وہ مرد کامل و جامع فواضل و محاسن و شماکل ہیں جس سے ہم امید کریں اور جسے وقت مصیبت کے لئے ذخیرہ بنائیں۔

(۲) احسان فرمائیے اس خاندان پر کہ تقدير جس کے آڑے آئی اس کی جماعت تتربر ہو گئی اس کے وقت کی حالتیں بدل گئیں۔

(۳) یہ بدحالیاں ہمیشہ کے لئے ہم میں غم کے وہ مرثیہ خواں باقی رکھیں گی جن کے دلوں پر رنج و غیظ مستولی ہو گا۔

(۴) اور حضور کی نعمتیں جنہیں حضور نے عام فرمادیا ہے ان کی مدد کونہ پہنچیں تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں اے تمام جہان سے زیادہ عقل والے! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم)

<sup>۱</sup> جامع البیان (تفسیر طبری) تحت الآیة ۲۲/ ۲۳ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۵/ ۲۲، تفسیر ابن ابی حاتم تحت الآیة ۲۳/ ۲۲ مکتبہ تزار مصطفیٰ البازمکہ المکرمة ۱۰/ ۲۷، الدر المنثور بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ ۲۳/ ۲۲ دار احیاء التراث

یہ اشعار سن کر سید ارحام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میرے اور بنی عبدالمطلب کے حصے میں آیا ہے میں نے تمہیں بخش دیا۔ قریش نے عرض کی جو کچھ ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ انصار نے عرض کی جو کچھ ہمارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ طبرانی نے مجمع صغیر کی تلاشیات میں کہا کہ ۷۲۷ھ میں رمادہ رملہ پر عبید اللہ بن رماحس قیسی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو عمرو زیاد بن طارق نے جن کی عمر ۱۲۰ سال ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جرول زہیر بن ضرد جشمی کو کہتے ہوئے سن، پھر انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ (ت)

قال فلیما سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هذا  
الشعر قال مكان لی ولبنی عبدالطلب فهو لكم و  
قالت قریش مكان لنا فهو الله ولرسوله وقالت  
الانصار مكان لنا فهو الله رسوله الطبرانی فی ثلاثیات  
معجمہ الصغیر حدثنا عبید الله ابن رما حس  
القیسی بر مادة الرمالۃ سنة اربع وسبعين ومائتين  
ثنا ابو عمرو زیاد بن طارق وكان قد اتت عليه عشر وعشرون  
ومائة سنة قال سمعت ابا جرول زہیر بن صردن  
الجشی<sup>۱</sup> يقول فذکرہ۔

حدیث ۸۰: کہ اسود بن مسعود ثقیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی نے

عند القحط اذا ما اخطاء المطر

انت الرسول الذى ترجى فواضله

حضرورہ رسول ہیں کہ حضور کے فضل کی امید کی جاتی ہے قحط کے وقت جب مینہ خطا کرے

(عمر بن شیبہ نے بطريق عامر الشعبي سے روایت کیا، حافظ نے الاصابہ میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا اس کا ذکر ابن فتحون نے ذیل میں کیا۔ ت)

عمر بن شيبة من طريق عامر الشعبي ذكره الحافظ  
في الاصابة وقال ذكره ابن فتحون في الذيل<sup>۲</sup>۔

<sup>۱</sup> المعجم الكبير عن زبیر بن صرد الجشی حدیث ۵۳۰۳ المکتبة الفیصلیة بیروت ۵/۷۰ و ۲۶۹، المعجم الصغیر من اسمہ عبید اللہ دار

الکتب العلمیہ بیروت ۲/۳۷، المعجم الاوسط حدیث ۲۶۶ مکتبۃ المعارف ریاض ۵/۱۹-۳۱۸

<sup>۲</sup> الاصابة فی تبییز الصحابة ترجمہ ۱۲۸ اسود بن مسعود ثقیفی دار الفکر بیروت ۱/۷۵

حدیث ۸۱: ایک اعرابی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| وقد شغلت امیر الصبی عن الطف | (۱) اتیناک والعندر اعید می لبابها |
| من الجوع ضعف لا يبر ولا يحل | (۲) والقت بکفیها الفتی لاستکانة   |
| واین قرار الخلق الالا الرسل | (۳) ولیس لنا الا الیک فراونا      |

(۱) ہم در دولت پر شدت تحطیکی ایسی حالت میں حاضر ہوئے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں (جنہیں ان کے والدین بہت عزیز رکھتے ہیں ناداری کے باعث خادمہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے کام کاچ کرتے کرتے ان کے سینے شق ہو گئے) ان کی چھاتیوں سے خون بہہ رہا ہے مائیں بچوں کو بھول گئی ہیں۔

(۲) جوان قوی کو اگر کوئی لڑکی دونوں ہاتھوں سے دھکا دے تو ضعف گرسنگی سے عاجزانہ زمین پر ایسا گرپٹا ہے کہ منہ سے کڑوی میٹھی بات نہیں نکلتی۔

(۳) اور ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں، اور خود مخلوق کو جائے پناہ ہے ہی ہماں مگر رسولوں کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وبارک وسلم۔

یہ فریاد سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنایت عجلت منبر اطہر پر جلوہ فرمایا ہوئے اور دونوں دست مبارک بلند فرما کر اپنے رب عزوجل سے پانی مانگا، ابھی وہ پاک مبارک ہاتھ جھک کر گلوے پر نور تک ن آئے تھے کہ آسمان اپنی بجھیوں کے ساتھ امداد اور بیرون شہر کے لوگ فریاد کرتے آئے کہ یا رسول اللہ! ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حوالینا لاعینا ہمارے گردد رس ہم پرنہ بر س۔ فوراً برمدینے پر سے کھل گیا، آس پاس گھرا تھا اور مدینہ طیبہ سے کھلا ہوا۔ یہ ملاحظہ فرمای کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندہ دندان نما کیا اور فرمایا: اللہ کے لیے ہے خوبی ابو طالب کی، اس وقت وہ زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، کون ہے جو ہمیں اس کے اشعار سنائے۔

مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! شاید حضور یہ اشعار سننا چاہتے ہیں جو ابو طالب نے نعت اقدس میں عرض کئے تھے

(۱) وابیض یستسقی الغمام بوجهہ      ثمال الیتامی عصیۃ للارامل

(۲) تلوزبہ الہلاک من الہأشم      فهم عنده فی نعمة وفواضل

(۱) وہ گورے رنگ والے کہ ان کے منز کے صدقے میں ابر کا پانی مانگا جاتا ہے۔ تیبیوں کے جائے پناہ، بیواوں کے نگہبان۔  
 (۲) بنی ہاشم (جیسے غیور لوگ) تباہی کے وقت ان کی پناہ میں آتے ہیں اُنکے پاس ان کی نعمت و فضل میں بسر کرتے ہیں۔  
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اجل ذلك اردت۔ ہاں یہی نظم ہمیں مقصود تھی۔

<p>الله تعالیٰ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے طفیل باران رحمت عطا فرمائے جو نافع کامل ترین اور سب کو شامل ہوآئیں (ت)</p> <p>بیہقی نے دلائل میں بسند صالح روایت کیا جیسا کہ حافظ الشان عسقلانی نے اور دیلیلی نے مسند الفردوس میں اس کا افادہ فرمایا ان دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)</p>	<p>صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سقانًا بجاهه عند الغیث النافع الاتم الاعم امین!</p> <p>البیهقی<sup>۱</sup> فی الدلائل بسند صالح کما افادہ حافظ الشان العسقلانی والدیلی فی مسند الفردوس کلامہما عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

یہ حدیث نفس محمد اللہ تعالیٰ اول تا آخر شفاعة مومنین و شفاعة منافقین ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسندیدہ فرمودہ اشعار میں یہ الفاظ خاص ہمارے مقصود رسالہ ہیں کہ حضور کے سوا ہمارا کوئی نہیں جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں۔ خلق کیلئے جائے پناہ نہیں سوا برکاتہ انبیاء، علیہم الصلوٰۃ والشَّاء کے، وہ گورے رنگ والا پیارا جس کے چاند سے منہ کے صدقے میں یہ نہ اترتا ہے، وہ تیبیوں کا حافظ، وہ بیواوں کا نگہبان، وہ ملجن اموا کہ بڑے بڑے تباہی کے وقت اُنکی پناہ میں آکر اس کی نعمت اس کے فضل سے چین کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک و سلم۔

حدیث ۸۲: کہ جب جرانہ کے اموال غنیمت حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش و

<sup>۱</sup> دلائل النبوة للبیهقی باب استسقاء النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ دار الكتب العلمیہ بیروت ۶/۱۳، فتح الباری شرح صحیح البخاری بباب سوال الناس الامام الاستسقاء ۲۲۹/۳

دیگر اقوام عرب کو عطا فرمائے اور انصار کرام نے اس میں سے کوئی شے نہ پائی انھی (اس خیال سے کہ شاید حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم پر اب وہ نظر توجہ و کرم نہ رہی شاید اب اپنی قوم قریش کی طرف زیادہ التفات فرمائیں بمقتضائے سنت عشاق کہ دوسروں پر لطف محبوب زائد دیکھ کر رنجیدہ و کبیدہ ہوتے ہیں) ملال گزرا یہاں تک بعض کی زبان پر بعض کلمات شکایت آمیز آئے حضور اقدس نے سناء، خاطر انور پر ناگوار گزرا، انھیں جمع کر کے ارشاد فرمایا:

<p>کیا میں نے تمہیں نہ پایا گراہ پس اللہ عزوجل نے تمہیں راہ دکھائی، کیا میں نے تمہیں نہ پایا محتاج پس اللہ عزوجل نے تمہیں تو نگری دی۔</p>	<p>الم اجد کم ضلا لا فھدا کم الله الم اجد کم عالة فاغنا کم الله<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

اور صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسنند امام احمد میں یوں ہے:

<p>اے گروہ انصار! کیا میں نے نہ پایا تمہیں گراہ پس اللہ عزوجل نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت کی، اور تمہارے آپس میں پھوٹ تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ویلے سے تم میں موافقت کر دی، اور تم محتاج تھے اللہ عزوجل نے میرے واسطے سے تمہیں تو نگری بخشی (عبدالله بن زید بن عاصم سے اسے روایت کیا گیا اور اسی طرح احمد نے حضرت انس سے نیز احمد، عبد بن حمید اور رضیاء نے ابوسعید خدری سے روایت کیا</p>	<p>یا معاشر الانصار الم اجد کم ضلا لا فھدا کم الله بی، وکنتم متفرقین فالفکم الله بی، وکنتم عالة فاغنا کم الله تعالیٰ بی۔ رواہ عن عبد الله بن زید بن عاصم<sup>۲</sup> و نحوه لاحمد عن انس<sup>۳</sup> وله ولعبد بن حمید والضیاء عن ابی سعید<sup>۴</sup> رضی الله تعالیٰ۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شیبہ کتاب المغازی غزوہ حنین الخ حدیث ۳۶۹۸۶ دارالکتب العلمیہ بیروت ۷/۳۱۹

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الطائف قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۲۶۰، صحیح مسلم کتاب الزکوۃ بباب اعطاء المؤففة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۳۹، مسنند احمد بن حنبل عن عبدالله بن زید رضی الله عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳/۲۲

<sup>۳</sup> مسنند احمد بن حنبل عن انس رضی الله عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳/۱۰۲، ۱۰۳ او ۲۵۳

<sup>۴</sup> کنز العمال بحوالہ حمود عبد بن حمید عن ابی سعید الخدری حدیث ۲۲/۳۳۳ مسنونۃ الرسالہ بیروت ۱/۱۲

رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ (ت)	عنہم۔
---------------------------	-------

النصار کرام ہر کلے پر عرض کرتے جاتے تھے:

ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب اور رسول اللہ کے غضب سے جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله۔
---	---------------------------------------

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: الا تحيرون جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کی:

الله ورسول کا احسان زائد ہے اور اللہ ورسول کا فضل بڑا ہے۔	الله ورسولہ امن و افضل۔
---	-------------------------

حضرت نے فرمایا: تم چاہو تو جواب دے سکتے ہو۔ انصار کرام روئے اور بار بار عرض کرنے لگے:

الله ورسول کا احسان زائد ہے اور اللہ ورسول کا فضل بڑا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)	الله ورسولہ امن و افضل۔ ابوبکر بن ابی شیبہ <sup>۱</sup> فی مصنفہ عن ابی سعید بن الحدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	---

حدیث ۸۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

جوز میں کسی کی ملک نہیں وہ اللہ اور رسول کے رسول کی ہے بیہقی نے شعب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موسوٰ صوّلار روایت کیا۔ (ت)	موتَانُ الارضِ اللہ ورسوله البیهقی <sup>۲</sup> فی الشعب عن ا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موسوٰ۔
--	---

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب المغازی حدیث ۳۶۹۸۲ دار الكتب العلمیة بیروت ۷/۳۱۹

<sup>۲</sup> السنن الکبریٰ للبیهقی کتاب احیاء الموات بآب لا یترک ذمی یحییه الخ دار صادر بیروت ۲/۱۳۳

حدیث ۸۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

قدیم زمینیں اللہ و رسول کی ملک ہیں۔ اسی میں طاؤس سے مرسلًا مروی ہے۔ (ت)	<b>عادی الارض من الله ورسوله هو فيها عن طاؤس<sup>۱</sup> مرسلًا۔</b>
---	--

اُقول: بن، جنگل، پہاڑوں اور شہروں کی ملک افتابہ زمینوں کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ ان پر ظاہری ملک بھی کسی کی نہیں یہ ہر طرح خالص ملک خدا رسول ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ورنہ مخلوں، احاطوں، گھروں، مکانوں کی زمینیں بھی سب اللہ و رسول کی ملک ہیں اگرچہ ظاہری نام من تو کا لگا ہوا ہے۔ زبور شریف سے رب العزت کا نام سن ہی چکے کہ احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا<sup>۲</sup>، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ تخصیص مکانی ایسی ہے جیسے آیہ کریمہ "وَالْأَمْرِيَّةُ مَيْذِلَلَةٌ"<sup>۳</sup> میں تخصیص زمانی کہ حکم اس دن اللہ کے لئے ہے، حالانکہ ہمیشہ اللہ ہی کا ہے۔ مگر وہ دن روز ظہور حقیقت و انتظام ادعاء ہے۔ لاجرم صحیح بخاری شریف کی حدیث نے ساری زمین بلا تخصیص اللہ و رسول کی ملک بتائی وہ کہاں؟ وہ اس حدیث آئندہ میں:

حدیث ۸۵: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

یقین جان لو کہ زمین کے مالک اللہ و رسول ہیں جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں کتاب الجنہ باب یہود کا جزیرہ العرب سے اخراج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)	<b>اعلموا ان الارض لله ولرسوله البخاري<sup>۴</sup> في الجهاد من الجامع الصحيح بباب اخراج اليهود من جزيرة العرب عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه۔</b>
--	---

حدیث ۸۶: اعشی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس مس اپنے بعض اقارب کی ایک

<sup>۱</sup> السنن الکبریٰ للبیہقیٰ کتاب احیاء الموات باب لا یترک ذمی یحبیبه الخ دار صادر بیروت ۱۳۳/۶

<sup>۲</sup> تحقیق اثنا عشریہ باب ششم در بحث نبوت و ایمان انبیاء سہیل اکیڈمی لاہور ص ۱۶۹

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۹/۸۲

<sup>۴</sup> صحیح البخاری کتاب الجنہ باب اخراج اليهود من جزیرہ العرب قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۹۷، صحیح مسلم باب اجلاء اليهود من

جزیرہ العرب قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۹۳

فرياد لے کر حاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرضی مسامع تدشیہ پر عرض کی جس کی ابتداء اس مصرع سے تھی ع  
یامالک الناس و دیان العرب

(اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا و سزادینے والے)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فریاد سن کر شکایت رفع فرمادی۔

الامام احمد حدثنا محمد بن ابی بکر بن المقدی ثنا ابو معشرن البراء ثنی صدقۃ بن طیسلة ثنی معن بن ثعلبة المازنی والجی بعد ثنی الاعشی المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فانشدته یامالک الناس و دیان العرب الحدیث<sup>۱</sup> و رواه الامام الاجل ابو جعفر بن الطحاوی فی معانی الائچ حديثنا ابن ابی داود ثنا المقدی ثنا ابو معشر الی آخرہ نحوہ سندا<sup>۲</sup> و متناً و رواه ابن عبد اللہ ابن الامام فی زوائد مسنده من طریق عوف بن کہمیس بن الحسن عن صدقۃ بن طیسلة حدثی معن بن ثعلبة المازنی والجی بعدہ قالوا ثنا الاعشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذکرہ<sup>۳</sup> قلت ولیہ اعنی عبد اللہ عز و جل حافظ الشان فی الاصابة<sup>۴</sup>۔ انه رواه فی الزوائد والعبد الضعیف غفار اللہ تعالیٰ له قدر واه فی المسند نفسه ایضاً کما سمعت وللہ الحمد و رواه البغوي و ابن السکن و ابن ابی عاصم کلهم من طریق الجنید بن امین بن عروة بن نضلة بن طریق بن بهصل الحرمانی عن ابیہ عن جدہ نضلة و لفظ البغوي عنہ حدثنا ابی امین حدثی ابی ذرۃ عن ابی نضلة عن رجل منهم یقال له الاعشی و اسیہ عبد اللہ بن الاعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذکر القصہ و فیہ فخرج حتی ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعادبہ و انشأ یقول یامالک الناس و دیان العرب الحدیث<sup>۵</sup>۔

<sup>۱</sup> مسنند احمد بن حنبل المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۱/۲، مجمع الزوائد کتاب النکاح بباب النشووز دارالکتاب بیروت ۲/۲۳۱

<sup>۲</sup> شرح معانی الائچ کتاب الکراہیہ بباب روایۃ الشعر الخ ایچ ایم سعید کپی کراچی ۲/۲۰۱

<sup>۳</sup> زوائد عبد اللہ بن احمد کتاب الادب بباب ماجاء فی الشعیر حدیث ۱۲۸ دارالبشاائر الاسلامیہ بیروت ص ۳۲۳

<sup>۴</sup> الاصابة فی تمییز الصحابة ترجمہ ۳۵۳۳ عبد اللہ بن الاعور دار الفکر بیروت ۳/۵۲

<sup>۵</sup> الاصابة فی تمییز الصحابة بحوالہ البغوي ترجمہ ۸۷۱ نضلة بن طریف دار الفکر بیروت ۵/۷۳۳

یہ حدیث جلیل اتنے ائمہ کبار نے باسانید متعددہ روایت کی اور طریق اخیر میں یہ لفظ ہیں کہ:  
 اعشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ لی اور عرض کی کہ: اے ماں آدمیاں، وائے جزا اوسرا دہ عرب  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک و سلم۔

**حدیث ۸۷:** حارث بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی:

ابعث معی من یدعو الی دینک فانالہ جار۔  
میرے ساتھ کسی شخص کو حضور ارسال فرمائیں جو میری قوم کو  
حضور کے دین کی طرف دعوت کرے اور وہ میری پناہ میں ہوگا۔

حضرور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا ہارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنے والوں نے عہد شکنی کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں اشعار کئے از انجلہ یہ شعر ہے

**منكم فان محمد لا يغدر**

اے حارث! جو کوئی تم میں اپنے پناہ دئے ہوئے کے عہد سے بے وفا کی کرے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے پناہ دیتے ہیں وہ سچی پناہ ہوتی ہے۔

فجاء الحارث فأعتذر و دوى الانصارى وقال يا  
محمد انى عاذبك من لسان حسain . الزبير بن بكار  
حدثنى عى مصعب ان الحارث بن عوف اتى النبي  
صلى الله تعالى عليه وسلم فذكره .  
حارث رضى الله تعالى عنه نے حاضر ہو کر عذر کیا اور انصاری  
شہید کی دیت دی اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ! میں  
حضور کی پناہ مانگتا ہوں حسان کی زبان سے۔ زیر بن بکار نے  
کہا مجھے میرے چپا مصعب نے حدیث بیان کی کہ حارث بن  
عوف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر  
پھر پوری حدیث بیان کی۔ (ت)

**حدیث ۸۸:** صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو مسعود بدبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے:

انہ کاں یضرب غلامہ فجعل یقول اعوذ بالله قال  
یعنی وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام نے کہنا شروع کیا، اللہ  
کی دبائی، اللہ کی دبائی۔

<sup>1</sup> الاصابة في تمييز الصحابة بحواله الزبير ترجمة الحارث بن عوف دار الفكر بيروت ٢٣٠/١٩٥٧

انہوں نے ہاتھ نہ روکا۔ غلام نے کہا: رسول اللہ کی دہائی۔ فوڑا چھوڑ دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم! بے شک اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر۔ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔	جعل يضر به فقال أعد برسول الله ، فتركه فقال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم و الله اقدر عليك منك علیہ قال فاعتنه <sup>۱</sup>
---	---

الحمد لله! اس حدیث صحیح کے تیور دیکھئے، حیا ہو تو وہیت کو ڈوب مرنے کی بھی جگہ نہیں، یہ حدیث تو خدا جانے بیار دلوں پر کیا کیا قیامتیں توڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہائی دینا ہی ان کے دہائی مچانے کو بہت تھی نہ کہ وہ بھی یوں کہ سیدنا ابو مسعود بدربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں وہ اللہ عزوجل کی دہائی دیتا رہا میں نے نہ چھوڑا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہائی دی فوڑا چھوڑ دیا۔

علماء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہائی سن کر حضور کی عظمت دل پر چھائی ہاتھ روک لیا۔ اقول: (میں کہتا ہوں۔ ت) یعنی پہلی بات ایک معمول ہو جانے سے ایسی موثر نہ ہوئی، انسان کا قاعدہ ہے کہ جس بات کا محاورہ کم ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ عزوجل کی عظمت سے ناشی ہے۔ محمد اللہ حدیث کے یہ معنی ہیں اگرچہ دہابیہ کے طور پر تو اس کا درجہ شرک سے بھی کچھ آگے بڑھا ہوا ہے۔

حدیث ۸۹: یہی مضمون عبدالرازق نے اپنی مصنف میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا:

یعنی ایک صاحب اپنے غلام کومار ہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی دہائی۔ اتنے میں غلام نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا اب کہا رسول اللہ کی دہائی۔ فوڑا اس	قال بيـنـاـرـ جـلـ يـضـرـ بـ غـلامـ الـهـ وـ هـوـ يـقـولـ أـعـذـ بـ لـهـ إـذـ بـ صـرـ بـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـ سـلـمـ فـقـالـ أـعـذـ بـ رـسـوـلـ اللـهـ فـالـقـلـ <sup>۱</sup>
---	--

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب صحة المسائلیک قدیمی کتب خانہ کراچی

<p>صاحب نے کوڑا ہاتھ سے ڈال دیا اور غلام کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سننا ہے خدا کی قسم پیشک اللہ عزوجل جس سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دہائی دینے والے کو پناہ دی جائے۔ ان صاحب نے عرض کی: یا رسول اللہ! تو وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔</p>	<p>مکان فی یہہ و خلی عن العبد فقل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما و اللہ انه احق ان یعاذ من استعاذه به من فقل الرجل یار رسول اللہ فهو حر لوجه اللہ<sup>۱</sup></p>
--	--

اقول: الحمد لله اس حدیث نے تو اور بھی پانی سر سے تیر کر دیا، صاف تصریح فرمادی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام کی دونوں دہائیاں بھی سینیں اور پہلی دہائی پر ان کا نہ رکنا اور دوسرا بھی ملاحظہ فرمایا مگر افسوس کہ وہ بیت کی ذلت و مردودیت کو نہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غلام سے فرماتے یہں کہ تو مشرک ہو گیا اللہ کے سو امیری دہائی دیتا ہے اور وہ بھی کس طرح کہ اللہ عزوجل کی دہائی چھوڑ کرنا آقا سے ارشاد کرتے ہیں کہ یہ کیا شرک اکبر، خدا کی دہائی کی وہ بے پرواہی اور میری دہائی پر یہ نظر، ایک تو میری دہائی مانی اور وہ بھی یوں کہ خدا کی دہائی نہ مان کر افسوس آقا و غلام کو مشرک بناناد رکنار خود جو اس پر نصیحت فرماتے ہیں وہ کس مزے کی بات ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے، دہائی تو اپنی بھی قائم رکھی اور اپنی دہائی دینے پر نہ دینی بھی ثابت رکھی، صرف اتنا رشارد ہوا کہ خدا کی دہائی زیادہ ماننے کے قابل تھی۔ الحمد لله کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینو ہابیہ کے جھوٹے قرآن تقویۃ الایمان کی کچھ قدر نہ فرمائی اسے سخت ذلت پہنچائی جس میں اس کا امام لکھتا ہے:

"اول معنی شرک و توحید کے سمجھنا چاہیے اکثر لوگ پیروں پیغمبروں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، ان سے مادیں مانگتے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے کوئی علی بخش کوئی غلام محی الدین، کوئی مشکل کے وقت کسی کی دہائی دیتا ہے، غرض کہ جو کچھ ہندوا پنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان اولیاء و انبیاء سے کر گزرتے ہیں اور دعوی مسلمانی کا کئے جاتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ صاحب نے

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحواله عبدالرزاق عن الحسن تحت الآية ۳۶۲ / دار أحياء التراث العربي بيروت ۲ / ۵۰۲، كنز العمال بحواله عب عن الحسن حدیث ۲۵۶۷ مؤسسة الرسالہ بيروت ۹ / ۲۰۳

کہ نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں<sup>۱</sup>۔ "اہ مختصرًا ان دفع البلاء کے منکروں سے بھی اتنا پوچھ لیجئے کہ کسی کی پناہ یعنی اس کی دہائی دینی دفع بلاہی کے لیے ہوتی ہے یا کچھ اور وہ لکن الوہابیۃ قوم یعتمدون۔ (اور قوم وہابیہ حد سے بڑھنے والی ہے۔ ت)

حدیث ۹۰: ابن ماجہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

یعنی ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ناگاہ ایک اوونٹ دوڑتا آیا یہاں تک کہ حضور کے سر مبارک کے قریب آ کر کھڑا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اوونٹ! ٹھہرا گر تو سچا ہے تو تیرے سچ کا پھل تیرے لیے ہے اور جھوٹا ہے تو تیرے جھوٹ کا وباں تجھ پر ہے، اس کے ساتھ یہ بات پیش کر جو ہماری پناہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امان رکھی ہے اور جو ہمارے حضور التجالائے وہ نام روادی سے بری ہے۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ اوونٹ کیا عرض کرتا ہے؟ فرمایا: اس کے مالکوں نے اسے حلال کر کے کھالینا چاہا تھا یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور تمہارے نبی کے حضور فریاد لایا۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ اتنے میں اس کا مالک یا کہا اس کے مالک دوڑتے آئے، اوونٹ نے جب انہیں دیکھا پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

قال کنا جلو سا عند رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قبل بغير تعدوا حتى وقف على هامة رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ايها البيعر اسكن فان تلك صادقاً فلك صدقك وان تلك كاذباً فعليك كذبك مع ان الله تعالیٰ قد امن عائذنا وليس بخائب لائذنا فقلنا يارسول الله ما يقول هذا البعير، فقال هذا بغير هم اهله بنحره واكل لحمه فهرب منه و استغاث بنيكم بينما نحن كذلك اذا قبل صاحبه او قال اصحابه يتعادون فلما نظر اليهم البعير عاد الى هامة رسول الله صلی اللہ

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۲

سر انور کے پاس آگیا اور حضور کی پناہ پکڑی، اس کے مالکوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارا اونٹ تین دن سے بھاگا ہوا ہے آج حضور کے پاس ملا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سنتے ہو اس نے میرے حضور ناٹش کی ہے اور زبہت ہی بری ناٹش ہے۔ وہ بولے: یا رسول اللہ! یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا: یہ کہتا ہے کہ وہ رسول تمہاری امانت میں پلا گرمی میں اس پر اسباب لاد کر سبزہ ملنے کی جگہ تک جاتے اور جاڑے میں گرم مقام تک کوچ کرتے، جب وہ بڑا ہوا تو تم اسے سانڈ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نطفے سے تمہارے بہت اونٹ کر دیے جو چرتے پھرتے ہیں، اب جو اسے یہ شاداب برس آیا تم نے اسے ذبح کر کے کھا لینا چاہا۔ وہ بولے: یا رسول اللہ! خدا کی قسم! یونہی ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مملوک کا بدله اس کے مالکوں کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ وہ بولے: یا رسول اللہ! تو ہم اسے نہ پیچیں گے نہ ذبح کریں گے۔ فرمایا: غلط کہتے ہو اس نے تم سے فریاد کی تو تم اس کی فریاد کونہ پہنچے اور میں تم سے زیادہ اس کا مستحق ولائق ہوں کہ فریادی پر رحم فرماؤں اللہ عزوجل نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی اور ایمان والوں کے دلوں میں رکھی ہے، پس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ان سے سوروپے کو خرید لیا اور اس سے ارشاد فرمایا: اے اونٹ!

علیہ وسلم فلاذبها فقلوا یا رسول اللہ هذا بعيرنا هرب من ذثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك. فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما انه یشكوا لی فبئست الشکایۃ۔ فقلوا یا رسول اللہ ما یقول؟ قال یقول انه ربی فی امنکم احوالاً وکنتم تحملون علیہ فی الصیف الی مواجه الکلاء فاذا کان الشتاء رحلتم الی موضع الدفاع فلیما کبر استغلالتم فرزقکم اللہ ابلاساۓ ایضاً فلیما ادرکته هذه السنة الخصبة همیتم بذبحه واکل لحیہ۔ فقلوا او اللہ کان ذلك یا رسول اللہ۔ فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذَا جزاء المیلوك الصالح من موالیہ۔ فقلوا یا رسول اللہ فان لا نبیعه ولا ننحره۔ فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذبتم قد استغاث بکم فلم تغيثوه وانا اولی بالرحمة منکم فان اللہ نزع الرحمة من قلوب البیافقین واسکنها فی قلوب المؤمنین۔ فأشترأه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منه بمائۃ درهم وقال یا یا بعیر!

چلا جا کہ تو اللہ عزوجل کے لئے آزاد ہے۔ یہ سن کر اس نے سر اقدس پر اپنی بولی میں کچھ آواز کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس نے دوبارہ آواز کی حضور نے پھر آمین کہی۔ اس نے سہ بارہ عرض کی حضور نے پھر آمین کہی اس نے چوتھی بار کچھ آواز کی اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا: اس نے کہا اے نبی اللہ! اللہ عزوجل حضور کو اسلام و قرآن کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین، پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی امت سے خوف دور کرے جس طرح حضور نے میر خوف دور کیا میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ جل وعلا حضور کی امت کے خون ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے (کہ کفار کبھی انہیں استیصال نہ کر سکیں) جیسا حضور نے میرا خون بچایا، میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ سبحانہ امت والا کی سختی اتنے آپس میں نہ رکھے (باہمی خونزیزی سے دور رہیں)، اس پر میں نے گریہ فرمایا کہ یہ سب مرادیں میں اپنے رب عزوجل سے مانگ چکا اور اس نے مجھے عطا فرمادیں مگر یہ کچھلی منع فرمائی اور مجھے جبراً میں امین علیہ الصلوٰۃ وال تسیم نے اللہ عزوجل کی طرف سے خبر کر دی کہ میری امت کی فنا توار سے ہے۔ قلم پل چکا شدنی پر۔

انطلق فانت حر لوجه اللہ تعالیٰ۔ فرغی علی ہاماۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین۔ ثم رغی فقال امین۔ ثم رغی الرابعة فبکی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فقلنا یا رسول اللہ ما یقول هذا البعیر؟ قال قال جزاک اللہ ایها النبی عن الاسلام والقرآن خیراً۔ فقلت امین۔ ثم قال سکن اللہ رب امتك يوم القیمة کما سکنت ربی فقلت امین۔ ثم قال حقن اللہ دماء امتك من اعدائهم کما حقنت دمی فقلت امین۔ ثم قال لا جعل اللہ باس امتك بینها فبکیت فلن هذه الخصال سألت ربی فاعطانیها ومعنى هذه وخبرني جبریل عليه السلام عن اللہ عزوجل ان فناء امتي بالسيفجري القلم بیا ہو کائن۔ کذا اور دہ عازیا

لہ الامام الحافظ ذکی الدین عبدالعزیز البندری  
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی کتاب الترغیب والترہیب<sup>۱</sup>

یوں ہی کتاب الترغیب والترہیب میں امام حافظ ذکی الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وارد ہے۔ (ت)

فقیر نے اس رسالہ میں بنظر اختصار اکثر احادیث کا خلاصہ لکھا یا صرف محل استدلال پر اختصار کیا۔ یہ حدیث نہیں کہ ایک اعلیٰ اعلام نبوت و معجزات جلیل حضرت رسالت علیہ و علیہ الفضل الصلوٰۃ والتحمیہ سے تھی بلکہ تمامہ ذکر کرنی مناسب سمجھی، یہاں موضع استناد وہ پیاری پیاری اسناد ہے کہ جو ہماری پناہ لے اللہ عز و جل اسے پناہ دیتا ہے اور جو ہم سے التجا کرے نامراہ نہیں رہتا۔

الحمد لله رب العالمين اور خدا جانے دافع البلا کش شے کا نام ہے۔

حدیث ۹۱: عبد اللہ بن سلامہ بن عمیر اسلامی صحابی ابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

میں نے سراتہ بن حارثہ نجاری شہید غزوہ بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح کیا دنیا کی کوئی چیز میں نے ایسی نہ پائی جو انکے ساتھ شادی ہونے سے مجھے زیادہ پیاری ہو میں نے دوسرو پے ان کا مہر کیا تھا اور پاس کچھ نہ تھا جو انہیں سمجھیوں، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی پر بھروسہ ہے، پس میں خدمت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور حال عرض کیا۔

تزوجت ابنة سراقة ابن حارثة النجارى وقتل بيدر  
فلم اصب شيئاً من الدنيا كان احب الى من نكاحها  
اصدقتها مائتى درهم فلم اجد شيئاً اسوقه اليها  
فقلت على الله رسوله المغول فجئت رسول الله صلى  
الله تعالیٰ عليه وسلم فأخبرته الحديث.

حضور نے ایک جہاد پر انہیں بھیجا اور فرمایا:

میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل تمہیں اتنی غنیمت دلادے  
گا کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دو۔

ارجو ان یغنیک اللہ مہرز و جتناک۔

ایسا ہی ہوا، و لہ الحمد۔

امام ثقہ محمد بن عمر و اقد نے ابی حدرد

الامام الثقة محمد بن<sup>۲</sup> عمرو اقد

<sup>۱</sup> الترغیب والترہیب الترغیب فی الشفقة علی خلق اللہ تعالیٰ مصطفیٰ البانی مصر ۸/۳ - ۷/۲۰

<sup>۲</sup> کتاب المغازی سریہ خضراء امیرہا ابو قتادۃ مؤسسة الاعلیٰ للمطبوعات بیروت ۲/۸۷ - ۷/۷۷

<p>جو سلامہ مذکور رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس پر انکی سند سے روایت کیا، اور امام محقق علی الاطلاق نے فتح میں اس کی توثیق فرمائی اور ہم نے اسے (اپنے رسالے) منیر العین میں بیان کیا۔ (ت)</p>	<p>عن ابی حدردوہ وابن سلامۃ المذاکور رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسنده الیہ وقد علی توثیقہ الامام المحقق علی الاطلاق فی الفتح و ذکرنا فی منیر العین۔</p>
---	--

حدیث ۹۶ و ۹۷: غزوہ خیبر شریف میں خیر کو جاتے وقت حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں رجڑ پڑتے چلے۔

(۱) اللهم لولانت ما اهتدينا

(۲) فاغفر داء لك ما أبقيانا

(۳) وثبت الاقدام ان لا قينا

(۱) خدا گواہ ہے یا رسول اللہ! اگر حضور نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ زکوٰۃ دیتے نہ نماز پڑھتے۔

(۲) تو بخش دیجئے ہم حضور پر قربان جو گناہ ہمارے رہ گئے ہیں اور ہم پر حضور سکینہ اتنا ریس۔

(۳) اور جب ہم دشمنوں سے مقابل ہوں تو حضور ہمیں ثابت قدم رکھیں ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

یہ حدیث صحیح بخاری<sup>۱</sup> و صحیح مسلم و سنن ابی داود و سنن نسائی و مسند احمد و غیرہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطرق عدید ہے اور پچھلا مصرعہ زیادات صحیح مسلم و امام احمد سے ہے۔

<p>ایاس بن سلمہ کے طریق پر ان کے والد سلمہ بن اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔</p>	<p>رواہ من طریق ایاس بن سلمہ عن ابیہ سلمہ بن الکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۳۰۲، صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسیر بباب غزوۃ خیبر قدیمی

کتب خانہ کراچی ۲/۳۰۲، سنن النسائی کتاب الجہاد والسیر بباب من قاتل فی سبیل اللہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۲/۳۰۲، مسند احمد بن

حنبل عن سلمہ بن الکوع المکتب الاسلامی بیروت ۵۰/۲

ہم حدیث صحیح بخاری مع شرح امام احمد قسطلانی مسند بے ارشاد الساری کے الفاظ کریمہ مختصر ذکر کریں:

<p>یعنی یزید بن ابو عبید اپنے مولیٰ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقدس خیر کوچلے، رات کا سفر تھا، حاضرین سے ایک صاحب حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پچھا حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے عامر! ہمیں کچھ اشعار اپنے نہیں سناتے، اور ابن الحلق نے نصر بن دہر اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کیا کہ میں نے سفر خیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنائے اے ابن اکوع! اتر کر کچھ اپنے اشعار ہمارے لئے شروع کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس امر کا امر فرمایا۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے اترے اور قوم کے سامنے یوں حدی خوانی کرتے چلے کہ: یا رب! اگر حضور نہ ہوتے ہم راہ نہ پاتے نہ زکوٰۃ و نماز بجالاتے۔ ہم حضور پر بلا گداں ف ہوں ہمارے جو گناہ باقی رہے ہیں بخش دیجئے۔ ان اشعار میں مخاطب</p>	<p>(عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الى خیر فسرنا ليلاً فقال رجل من القوم) هو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (عامر ياعامر الاتسمينا من هنیهاتک) وعند ابن اسحق من حدیث نصر بن دھرن الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول في مسيرة الى خیر لعامر بن الاکوع فاحد لنا من هنیها تلک ففیہ انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو الذی امرہ بذلك و كان عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجلاً شاعراً فنزل يحذو بال القوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا اصليننا فاغفر دعاء لك. المخاطب بذلك النبی صلی اللہ تعالیٰ</p>
---	--

ف: قربان ہونے والا، دوسرے کی بلا اپنے اوپر لینے والا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یعنی حضور کے حقوق حضور کی مدد میں جو قصور ہم سے ہوئے حضور معاف فرمادیں۔ حضور کے لئے خطاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل سے ایسا خطاب کرنا معقول نہیں (انہم فرماتے ہیں کہ کسی پر فدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس پر اگر کوئی بلاء یا تکلیف آتی تو وہ اپنے اپر لے لی جائے اس کی محافظت میں اپنی جان دے دی جائے تو اللہ عزوجل کو اس کلام کا مخاطب کیونکر بنا سکتے ہیں) رہا یہ کہ ابتداء میں اللہ ہے اس سے مقصود حضرت عزت جل جلالہ کو پکارنا نہیں (کہ یہ اللہ عزوجل سے عرض قرار پائے) بلکہ اس کے نام سے ابتدائے کلام ہے اور حضور ہم پر سینکڑے اہلیں مقابلہ دشمن کے وقت اور ہمیں ثابت قدم رکھیں یعنی اپنے رب جل و علاستے ان مراعات کی دعا فرمادیں۔ یہ اشعار سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: یہ کون اونٹوں کو روائ کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: عامر بن اکوع۔ حضور نے فرمایا: اللہ اس پر رحمت کرے۔ اور مسند احمد (و صحیح مسلم) میں بروایت ایاس بن سلمہ (اپنے والد ماجد سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے) ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے) فرمایا: تیرا رب تیری مغفرت فرمائے اور حضور (ایسی جگہ) جب کسی خاص شخص کا

علیہ وسلم ای اغفرلنا تقصیرنا فی حقک ونصرک اذ لا یتصور ان یقال مثل هذا الکلام للباری تعالیٰ و قوله اللهم لم یقصد بها الدعاء وانما افتح بها الکلام (ما باقینا) ای ما خلّفنا وراءنا من الاثم (و القین) ای او سل ربک ان یلقین (سکینۃ علینا) و ثبت الاقدام ای وان یثبت الاقدام (ان لا قینا) العدو (فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الاکوع قال يرحمه الله) و عند احمد من روایة ایاس بن سلمة فقال غفر لك ربک قال وما استغفر رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لانسان يخصه الا استشهد قال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما في مسلم (وجبت له الشهادة بدعائك له)

<p>نام لے کر دعائے مغفرت فرماتے تھے وہ شہید ہو جاتا تھا (الہذا) حاضرین میں سے ایک صاحب یعنی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ صحیح مسلم میں تصریح ہے عرض کی: یا رسول! حضور کی دعا سے عامر کے لئے شہادت واجب ہو گئی حضور نے ہمیں ان سے نفع کیوں نہ لینے دیا یعنی حضور انہیں ابھی زندہ رکھتے کہ ہم ان سے بہرہ مند ہوتے۔ انتہی۔</p>	<p>(یا نبی اللہ لولا امتعتنابه) ابقيته لنا للتمتع به<sup>۱</sup></p>
--	--

یہ پچھلے لفظ بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ ۱۰ حضور انہیں زندہ رکھتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابن اسحاق نے اس سند سے روایت کی:

<p>بیان کیا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن الحارث نے انہوں نے ابی الهیشم بن نصر بن دھرن الاسلامی سے کہ انکے والد نے سفر خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عامر بن اکوع کو یہ فرماتے ہوئے سناؤ اس کا ذکر کر دیا۔ (ت)</p>	<p>حدیثی محمد بن ابراہیم بن الحارث عن ابی الهیشم بن نصر بن دھرن الاسلامی ان اباہ حدثہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول في مسيرة الى خيبر لعامر بن الاکوع فذكرة<sup>۲</sup></p>
--	--

اسی میں ہے:

<p>امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خدا کی قسم شہادت واجب ہو گئی، یا رسول اللہ! کاش حضور ہمیں ان کی زندگی سے بہرہ یاب رکھتے۔ وہ روز خیبر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>	<p>فقائل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجبت والله يا رسول الله لاما متعتنابه، فقتل يوم خيبر شهيداً<sup>۳</sup>۔</p>
--	---

نیز امام احمد نے سند میں بطريق ابن اسحاق روایت فرمائی:

<p>ہمیں حدیث بیان کی یعقوب نے کہ ہمیں میرے باپ نے بحوالہ ابن اسحاق حدیث بیان کی کہ ہمیں محمد بن ابراہیم بن حارث تیس نے سند و متن مذکور کے ساتھ</p>	<p>حدیثنا یعقوب ثنا ابی عن ابن اسحاق ثنا محمد بن ابراہیم بن الحارث التیسی الحدیث سنداً و متنابیداً انه اقتصر</p>
--	--

<sup>۱</sup> ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کتاب المغازی حدیث ۳۲۹۶ دارالکتب العلمیہ بیروت ۹۷/۲۱۳

<sup>۲</sup> السیرۃ النبویۃ لابن بشام ذکر المسیرۃ الى خیبر دار ابن کثیر بیروت الجزئین الثالث والرابع ص ۳۲۸، ۳۲۹

<sup>۳</sup> السیرۃ النبویۃ لابن بشام ذکر المسیرۃ الى خیبر دار ابن کثیر بیروت الجزئین الثالث والرابع ص ۳۲۹

<sup>۴</sup> مسند احمد بن حنبل حدیث نصر بن دھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳/۲۳

<p>حدیث بیان کی سوائے اس کے کہ انہوں نے صرف اشعار پر اکتفاء کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا مبارک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ذکر نہیں کیا۔ اور اس روایت میں "فخذلنَا" کی جگہ لفظ "فاحذلنَا" ہے۔ شاید یہی زیادہ درست ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (ت)</p>	<p>علی الاشعار ولم یذکر دعاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفيه فاحذلنَا مکان قوله فخذلنَا و لعل هذا هو الاصوب والله تعالیٰ اعلم۔</p>
---	---

حدیث ۹۳: صحیحین میں امام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ انہوں نے ایک تصویر دار قلیں خریدا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے دروازے پر رونق افزوز رہے اندر قدم کرم نہ رکھا، امام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چہرہ انور میں اثر نار ارضی پایا (اللہ انہیں نار ارض نہ کرے دونوں جہان میں) عرض کرنے لگیں:

<p>یار رسول اللہ! امیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں مجھ سے کیا خطا ہوئی۔</p>	<p>یار رسول اللہ اتوب الی اللہ والی رسولہ ماذا اذنبت ۱</p>
--	--

حدیث ۹۵: چالیس<sup>۲</sup> صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باہم بیٹھے مسئلہ قدر و جبر میں بحث کرنے لگے ان میں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے روح امین جبریل علیہ السلام نے خدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی: یار رسول اللہ! حضور اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں کہ انہوں نے نئی راہ لکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے وقت باہر تشریف لائے کہ وہ وقت حضور کی تشریف آوری کا نہ تھا صحابہ سمجھے کوئی نئی بات ہے۔ آگے حدیث کے پیارے پیارے الفاظ دلکش و دلنواز یوں ہیں:

<p>یعنی حضور پر نور صلووات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ ان پر اس حالت میں برآمد ہوئے کہ رنگ</p>	<p>وخرج عليهم ملتمعاً لونه متوردة وجنناه كانيات فقاً</p>
--	--

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب اللباس باب من کرہ القعود علی الصور قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۸۱/۲، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینۃ باب تحریر م تصویر صورة الحیوان قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۰۱/۲، مسنند امام احمد بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما المكتب الاسلامی بیروت ۱۹۸۴/۱۰، مصنف عبدالرزاق باب التماثیل و ماجاء فیه حدیث ۳۹۸/۲

چہرہ اقدس کا (شدت جلال سے) دہک رہا ہے، دونوں رخسارہ مبارک گلاب کی طرح سرخ ہیں گویا انار ترش کے دانے پھوٹ نکلے ہیں، صحابہ کرام یہ دیکھتے ہی حضور کی طرف (عاجزی کے ساتھ) کلائیں کھولے ہاتھ تحریراتے کا نپتے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہم اللہ و رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ (طبرانی نے بکیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

بحب الرمان الخامض فنهضوا الى رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاسرين اذر عهم ترعداً كفهمه و اذر عهم فقالوا علينا الى الله و رسوله الحديث . الطبراني<sup>1</sup> في الكبير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلی الله تعالى علیہ وسلم .

ان احادیث سے ثابت کہ صدیقہ و صدیق و فاروق وغیرہم اتنا لیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے توبہ کرنے میں اللہ قابل التوب جل جلالہ کے نام پاک کے ساتھ اس کے نائب اکبر نبی التوبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک بھی ملایا اور حضور پر نور خلینہ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا حالانکہ توبہ بھی اصل حق حضرت عزت عز جلالہ کا ہے۔ والہذا حدیث میں ہے ایک قیدی گرفتار کر کے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لا یا گیا وہ بولا:

اللهم ! میری توبہ تیری طرف ہے، نہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لا یا گیا وہ بولا:

اللهم اذ اتوب اليك ولا اتوب الى محمد۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

حق کو حق والے کے لئے پہچان لیا۔ احمد و حاکم نے اسے روایت کیا اور اس کی تصحیح کی اور اس کو اسود بن سریع سے روایت کیا۔ (ت)

عرف الحق لاهلها . احمد<sup>2</sup> والحاکم وصححه وروی عن الاسود بن سریع رضي الله تعالى عنه۔

<sup>1</sup> المعجم الكبير عن ثوبان رضي الله عنه المكتبة الفيصلية بيروت ٩٦٩٥/٢

<sup>2</sup> مسنند احمد بن حنبل حدیث اسود بن سریع رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳۳۵/۳، کنز العمال حدیث ۸۷۲۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۳۷، کنز العمال حدیث ۱۱۲ مسنون سریع رسالہ بیروت ۵۳۶/۳، کشف الخفاء حدیث ۱۷۲۵ ادارۃ کتب العلومیة بیروت ۵۵/۲

حدیث ۹۶: صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جب ان کی توبہ قبول ہوئی انہوں نے مولائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی:

یار رسول اللہ ان من توبتی ان اخلع من مالی صدقۃ مال سے نکل جاؤں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صدقہ کر کے۔ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	یار رسول اللہ ان من توبتی ان اخلع من مالی صدقۃ الی اللہ والی رسولہ <sup>1</sup> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
--	---

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے:

یعنی اس حدیث میں اللہ و رسول کی طرف صدقہ کرنے کے معنی اللہ و رسول کے لیے تصدق ہیں، تو حاصل یہ کہ اپنا سارا مال خاص خدا اور رسول کے نام پر تصدق کر دوں تبارک و تعالیٰ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس میں الی بمعنی لام ہے۔ (ت)	ای صدقۃ خالصۃ للہ ولرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فآلی بمعنی اللام <sup>2</sup> ۔
---	---

حدیث ۹۷: یمن کی ایک بی بی اور ان کی بیٹی بارگاہ نیکس پناہ محبوب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، دختر کے ہاتھ میں بخاری بخاری لگانے سونے کے تھے، مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تعطین زکوٰۃ هذا اس کی زکوٰۃ دے گی۔ عرض کی: نہ فرمایا: ایسڑی

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ ۱۹۲/۱ و کتاب الوضایا ۳۸۶/۲ و کتاب المغازی ۳۲۳/۲، صحیح مسلم کتاب التوبۃ باب حدیث توبہ قریبی کتب خانہ کراچی ۳۶۰/۲، سنن ابن داود کتاب الایمآن والنذر باب من نذر ان یتصدق بما له آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۳۳/۲، سنن النسائی کتاب الایمآن باب اذا هدی ماله علی وجه النذر نور محمد کار خانہ کراچی ۱۳۷/۲، السنن الکبریٰ للبیهقی کتاب الزکوٰۃ ۱۸۱/۳ و کتاب السیر ۳۵/۹ و کتاب الایمآن ۲۸/۱۰ دار صادر بیروت، مستند امام احمد حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳۵۲، ۳۵۹، ۳۵۳/۳،

المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب المغازی حدیث ۳۶۹۹۶ دار الكتب العلمیة بیروت ۷/۴۵

<sup>2</sup> ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کتاب المغازی دار الكتب العلمیة بیروت ۳۹۲/۹

ان یسروک اللہ بھیاً يوم القيمة سوارین من نار۔ کیا تجھے یہ بھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انکے بد لے تجھے آگ کے دو کنگن پہنائے؟ ان بی بی نے فوراً وہ کنگن اتار کر ڈال دئے اور عرض کی:

<p>یا رسول اللہ! یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (احمد و ابو داؤد ونسائی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسنداں میں کلام نہیں<sup>۱۱</sup> روایت کیا۔ ت)</p>	<p>همانِ اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احمد<sup>۱</sup> و ابو داؤد والنسائی عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسنداں لامقالہ فیہ۔</p>
---	---

حدیث ۹۸: کہ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی انہوں نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی:

<p>یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کا محلہ جس میں مجھ سے خطہ سرزد ہوئی چھوڑتا ہوں اور اپنے مال سے اللہ و رسول کے نام پر تصدق کر کے باہر آتا ہوں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>یا رسول اللہ افی اهجر دار قومی التي اصبت بها الذنب وانخلع من مالی صدقة الى الله والى رسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>
--	--

حضرور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو لبابہ! تہائی مال کافی ہے۔ انہوں نے ثلث مال اللہ و رسول کے لئے صدقہ کر دیا عز جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

<p>طبرانی نے کبیر میں اور ابو نعیم نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے حسین بن سائب بن ابو لبابہ سے بحوالہ اپنے باپ کے روایت کیا وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:</p>	<p>الطبراني في الكبير وأبو نعيم عن ابن شهاب<sup>۲</sup> الزهرى عن الحسين بن السائب بن ابي لبابة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال لما تاب الله على جئت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم</p>
---	---

<sup>۱</sup> سنن ابی داود کتاب الزکوٰۃ باب الکنز ما هو وزکوٰۃ الحلی آنقبا عالم پر لیں لاہور ۱/۲۸، سنن النسائی کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الحلی نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱/۳۳۳، مسنند امام احمد عن عبد اللہ بن عمرو المکتب الاسلامی بیروت ۲/۷۸۰ و ۲۰۳، مسنند امام احمد عن اسماء بنت یزید المکتب الاسلامی بیروت ۲/۳۶۱

پھر پوری حدیث ذکر کی۔ (ت)	علیہ وسلم فقلت فذ کرہ۔ <sup>۱</sup>
---------------------------	-------------------------------------

یہ حدیثیں جان وہبیت پر صریح آفت ہیں کہ تصدق کرنے میں اللہ عزوجل کے ساتھ اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک ملایا جاتا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقبول رکھتے ہیں، وله الحجۃ البالغۃ۔

اسی قبلی سے ہے افضل الوالیاء المحمدیین سیدنا صدیق اکبر امام المشاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کہ حضرت مولانا العارف بالله القوی، مولوی قدس سرہ المعنوی نے مثنوی شریف میں نقل کی کہ جب حضرت صدیق عتیق سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے حاضر بارگاہ عالم پناہ ہوئے

گفت مادوبندگان کوئے تو کردمش آزاد ہم برزوئے تو<sup>۲</sup>

(صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم دونوں آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں میں نے آپ کی خاطر اسکو آزاد کر دیا ہے۔)

اور پہلے مصرع میں جو کچھ حضرت صدیق اکبر اپنے مالک و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں اس پر تو دیکھا چاہئے، وہبیت کا جن کتنا مچلے، نجدیت کی آگ کہاں تک اچھلے، مگر ہاں امیر المومنین غیظالنما فقیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ سیاست دکھایا چاہئے کہ بھوت بھالگے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے پانی کا چیننا وادیجئے کہ آگ دے، وہ کہاں؟ وہ اس حدیث آئندہ میں، وبالله التوفیق۔

حدیث ۹۹: شاہ صاحب ازلہ الخفاء میں بحوالہ روایت ابو حذیفہ السخنی بن بشر و کتاب مستطاب الرياض النصرۃ فی مناقب العشرہ ناقل کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں برس مرتب فرمایا:

میں حضور پر نور آقا و مولائے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکنت بارگاہ میں تھا پس میں حضور کا بندہ	کنت مع رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکنت عبدہ
--	---

<sup>۱</sup> المعجم الكبير عن أبي لبابة حدیث ۲۵۰۹ المکتبة الفیصلیة بیروت ۳۳/۵، کنز العمال بحوالہ طب وابی نعیم عن الزہری حدیث

۱۷۰۳۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۵۹۱/۶، کنز العمال بحوالہ طب وابی نعیم عن الزہری حدیث ۳۶۰۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۲۳/۶

<sup>۲</sup> مثنوی معنوی معاتبه کر دن حضرت رسول با صدیق الخ و فرث ششم نورانی کتب خانہ پشاور ص ۲۹

اوّر حضور کا خدمتی تھا۔	و خادمه <sup>۱</sup> ۔
<p>اقول: یہ حدیث ابو حذیفہ مذکور نے فتوح الشام اور حسن بن بشران نے اپنی فوائد میں ابن شہاب زہری وغیرہ ائمہ تابعین سے نیز ابن بشران نے امامی، ابو احمد دہقان نے حرز حدیثی، ابن عساکر نے تاریخ لاکائی نے کتاب السنۃ میں افضل التابعین سیدنا سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ عنہم سے روایت کی جب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے لوگوں پر ان کے شدت جلال سے عجب بیبیت چھائی بیہاں تک کہ لوگوں نے باہر بیٹھنا چھوڑ دیا کہ جب تک امیر المؤمنین کا بر تاؤ نہ معلوم ہو متفرق رہو، لوگ بولے صدیق اکبر کی نرمی اس درجہ تھی کہ مسلمانوں کے پچھے جب انہیں دیکھتے دوڑتے ہوئے باپ باپ کہتے انکے پاس جاتے وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، اور ان کی بیبیت کی یہ حالت ہے کہ مردوں نے اپنی مجلس چھوڑ دیں۔ جب امیر المؤمنین کو یہ خبر پہنچی حکم دیا کہ جماعت نماز کے لئے پکار دیں۔ لوگ حاضر ہوئے امیر المؤمنین منبر پر وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر اپنے قدم رکھتے تھے اور فرمایا کہ مجھے کافی ہے صدیق کے قدموں کی جگہ بیٹھوں، جب سب جمع ہوئے امیر المؤمنین نے منبر الطہر سید ازہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا حمد و شالا الہی و درود رسالت پناہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہوا:</p>	

لوگو! میں جانتا ہوں کہ تم مجھ میں سختی و درشتی پاتے تھے اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا بندہ اور خدمتگار تھا۔	یا یہا النَّاسُ اُنِّی قَدْ عَلِمْتُ انَّكُمْ كَنْتُمْ تَؤْنَسُونَ مِنِي شَدَّةً وَغَلَظَةً وَذَلِكَ اُنِّی كَنْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنْتَ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ۔
--	--

حضور کی نرمی و رحمت وہ ہے جس کی نظر نہیں، اللہ عزوجل نے خود اپنے اسمائے کریمہ سے دونام حضور کو عطا فرمائے روف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں حضور کے سامنے شمشیر برہنہ تھا وہ چاہتے مجھے نیام میں فرماتے چاہتے چلنے دیتے، میں اسی حال پر رہا بیہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے راضی تشریف لے گئے، اور خدا کا شکر ہے اور میری سعادت، پھر صدیق مسلمانوں کے کام کے والی ہوئے، ان کی نرمی و رحمت و کرم کی حالت تم سب پر روشن ہے

<sup>۱</sup>كتاب العمال حدیث ۲۸۱/۵ مؤسسة الرسالة بيروت، الریاض الناصرة في مناقب العشرة الفصل التاسع دار المعرفة بيروت ۲۷/۲

فکنت خادمه و عونه میں ان کا خادم اور ان کا سپاہی تھا۔ اپنی شدت ان کی نرمی کے ساتھ لاتا، ان کے سامنے تیغ عریاں تھا وہ چاہتے نیام میں کرتے خواہ رواں فرماتے، میں اسی حال پر رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور خدا کا شکر ہے اور میری سعادت، اب کہ میں تمہارا ولی ہوا، جان لو کہ وہ شدت دوئی ہو گئی درجوں بڑھ گئی، مگر کس پر ہو گی۔ ان پر جو مسلمانوں پر ظلم و تعدی کریں، اور دینداروں کے لئے تو میں خود ان کے آپس سے بھی زیادہ نرم و مہربان ہوں، جسے ظلم و زیادتی کرتے پاؤں گا اسے نہ چھوڑوں گا اس کا ایک گال زمین پر رکھ کر دوسرے گال پر اپنا پاؤں رکھوں گا یہاں تک کہ حق کو قبول کر لے۔ سعید بن مسیب و ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا:

خدا کی قسم عمر نے جو فرمایا پورا کر دکھایا، وہ رعیت کے لئے مہربان باپ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مختصر ہے۔ اور بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی ہے۔ (ت)	فوفی عمر واللہ بیماقال وکان ابا العیال۔ <sup>۱</sup>
---	--

دیکھو امیر المومنین فاروق اعظم کا سا اشد الناس فی امر اللہ بر ملا بر سر منبر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ بتا رہا ہے اور جمیع عام صحابہ کرام سنتا اور برقرار کھتا ہے۔ وَلَهُ الْحِدْوَلِهِ الْحَجَّةُ السَّامِيَّةُ (تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اسی کی جھٹ بلند ہے۔ ت) امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجم ترویج تراویح جسے اس جانب فاروقیت مائب نے بدعت مان کر اچھاتا یا اور فرمایا:

یہ بدعت بہت خوب و حسن ہے۔	نعم البدعة هذه <sup>۲</sup> ۔
---------------------------	-------------------------------

وہابی یہڑے کے بعض احیویٹ بہادر مثل نواب بھوپالی تقویٰ وغیرہ صراحتاً معاذ اللہ گمراہ بد عقی لکھ ہی چکے اب اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ ماننے پر شرک کا اطلاق کرتے انھیں کیا

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الکبیر ترجمہ ۵۳۰۲ عمر بن الخطاب دار احیا التراث العربي بیروت ۷/۲۱۰، ۲۱۱، کنز العمال بحوالہ ابن بشیر ان وابی

احمد دھقان واللالکائی حدیث ۱۴۸۳ ام مؤسسة الرسالة بیروت ۵/۲۸۳

<sup>2</sup> صحیح البخاری کتاب الصوم باب فضل من قامر رمضان قدری کتب خانہ کراچی ۱/۶۹۶

گلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اذالم تستحق فاصنع ما شئت <sup>۱</sup>	جب تو یجا ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔ (ت)
---------------------------------------	--

ع بیحیا باش ہرچہ خواہی کن

بیحیا ہو جا پھر جو چاہے کر۔ (ت)

مگر صاحبو! ذرا سوچ کر کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا دامن زیر سگ خارا دبا ہے

یوں نظر دوڑے نہ تر چھی تان کر

اپنا بیگانہ ذرا پھچان کر

اے عبید الہوا، اے عبید الدراہم و عبید الدنیا! اب بھی عبد النبی، عبد الرسول۔ عبد المصطفیٰ کو شرک کہنا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

حدیث ۱۰۰: محمد اللہ ایک سے ایک زائد سنتے جائیے: ایک دن امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شہزادہ گلگوں قبا امام حسین شہید کر بلارضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بر سر منبر گود میں لے کر فرمایا:

ہمارے سروں پر بال کس نے لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے ہی بآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے ہیں۔	هل انبت الشعر على رؤسنا لا ابوك۔
--	----------------------------------

یعنی جو کچھ عزت، نعمت و دولت ہے سب حضور ہی کی عطا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ابن سعد نے طبقات میں سید امام حسین، اللہ تعالیٰ ان کے جد کریم، ان کے والد ماجد، ان کی والدہ ماجدہ، ان کے بھائی اور ان کے بیٹوں پر برکات و سلامتی نازل فرمائے، سے روایت کیا۔ (ت)	ابن سعد في الطبقات <sup>۲</sup> عن السيد الحسين صلی اللہ تعالیٰ علی جده و ابیه و امه و اخیه و علیہ و بنیہ و بارک و سلم۔
---	---

حدیث ۱۰۱: کہ ایک بار امیر المؤمنین حسن مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علی جدہ الکریم و علیہ وسلم نے کاشانہ

<sup>1</sup> المعجم الكبير حدیث ۲۵۳، ۲۵۸، المکتبة الفیصلیہ بیروت ۷/۲۳۶، ۲۳۶

<sup>2</sup> الطبقات الکبریٰ لابن سعد

خلافت فاروقی پر اذن طلب کیا بھی اجازت نہ آئی تھی کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر حاضر ہو کر اذن مانگا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی، یہ حال دیکھ کر سیدنا امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آگئے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں بلا بھیجا، انھوں نے آکر کہا: یا امیر المؤمنین! میں نے خیال کیا کہ اپنے صاحبزادے کو تو اذن دیا نہیں مجھے کیوں دیں گے، فرمایا:

<p>آپ ان سے زیادہ مستحق اذن ہیں اور یہ بالسر پر اللہ عزوجل کے بعد کس نے الگائے ہیں سو تمہارے (اس کو دارقطنی نے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>انت احق بالاذن منه و هل انبت الشعر في الراس بعد الله إلا انتم۔ رواه الدارقطني<sup>۱</sup></p>
--	--

حدیث ۱۰۲: سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا:

<p>ای میرے بیٹے! میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں۔</p>	<p>ای بنی لوجعلت تأتینا تغشان۔</p>
---	------------------------------------

ایک دن میں گیاتر معلوم ہوا کہ تھائی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے با تین کر رہے ہیں اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے پر رکے ہیں عبد اللہ پڑھے ان کے ساتھ میں بھی واپس آیا، اس کے بعد امیر المؤمنین مجھے ملے، فرمایا: لام اراک جب سے پھر میں نے آپ کو نہ دیکھا یعنی تشریف نہ لائے میں نے کہا: یا امیر المؤمنین! میں آیا تھا آپ معاویہ کے ساتھ خلوت میں تھے آپ کے صاحبزادے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا:

<p>آپ ابن عمر سے مستحق تر ہیں یہ جو آپ ہمارے سروں پر دیکھتے ہیں یہ اللہ ہی نے تو لگائے ہیں۔</p>	<p>انت احق من ابن عمر فأنها انبت ماترا في رعوسنا الله ثم انتم<sup>۲</sup></p>
---	---

<sup>۱</sup> الدارقطنی

<sup>۲</sup> كنز العمال بحواله ابن سعد وابن راویہ حدیث ۷۶۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۵۵/۳، الریاض النصرة فی مناقب العشرة الیاب

الثانی دارالکتب العلمیہ بیروت ۳۲۱/۲

پھر آپ سے ایک اور روایت میں ہے:

<p>کیا سر پر بال کسی اور نے الگئے ہیں سوائے تمہارے؟ (خطیب نے بیکی بن سعید انصاری کے طریق سے عبید بن حنین سے روایت کی کہ مجھے حسین بن علی نے حدیث بیان کی۔ یونہی سعد اور راہبویہ کے بیٹوں نے روایت کی۔ اور ایک اور حدیث جس کو محب الدین طبری نے ریاض الف Zahra میں بطریق عبید بن حنین دونوں شہزادوں یعنی حسین کریمین میں سے ایک کے بارے میں روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ (ت)</p>	<p>هل انبت الشعر غيركم۔ الخطيب من طريق يحيى بن سعيد ن الانصارى عن عبيد بن حنين ثنى الحسين ابن على رضى الله تعالى عنهمَا وكذا ابنا سعد وراهو يه والآخر رواها الحافظ محب الدين الطبرى في الرياض النضرة من طريق عبيد بن حنين لاحد الرحى حنين رضى الله تعالى عنهمَا۔</p>
--	--

حافظ الشان امام عقلانی الاصابۃ فی تمییز الصحابة میں اسے بروایت خطیب ذکر کر کے فرماتے ہیں: سننہ صحیح<sup>۱</sup> اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان حدیثوں کا سنانا کہیں وہابی صاحبوں کو راضی بھی نہ کر دے۔

<p>تم فرمادو کہ مر جاؤ اپنی گھن میں، اللہ خوب جانتا ہے دونوں کی بات۔ (ت)</p>	<p>"قُلْ مُؤْمِنُوْنَ إِعْظَلُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّمُ الْبَدَلُ مِنْ الصُّدُوْرِ" <sup>۲</sup>۔</p>
--	---

شہزادوں سے امیر المؤمنین کے اس فرمانے کا مطلب بھی وہی ہے جو لفظ اول میں تھا کہ یہ بال تمہارے مہربان باپ ہی نے الگئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح ارکین سلطنت اپنے آقازادوں سے کہتے ہیں کہ جو نعمت ہے تمہاری ہی دی ہوئی ہے یعنی تمہارے ہی گھر سے ملی ہے۔

حدیث ۱۰۳: کہ حضرت ہر زہرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ابیها و علی بعلما و بنیها و بارک و سلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر خدمت انور سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یا رسول اللہ انحلہمَا یا رسول اللہ! ان دونوں کو کچھ عطا فرمائیے۔ قال نعم

<sup>۱</sup> الاصابۃ فی تمییز الصحابة ترجمہ ۱۷۲۰ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمَا دار الفکر بیروت ۱۹۸۷

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۹/۳

قاسم خزانِ الہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں منظور۔ اما الحسن فقد نحلته حلی و ہبیتی و اما الحسین فقد نحلته نجدتی وجودی حسن کو تو میں نے اپنا حلم اور بیت عطا کی اور حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشنا۔

ابن عساکر <sup>۱</sup> عن محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)	عن ابیه و عمه عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	---

حدیث ۱۰۳: کہ جب حضرت خاتون فردوس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا نبی اللہ انھلہمَا یا نبی اللہ! ان دونوں کو کچھ عطا ہو۔ فرمایا:

میں نے اس بڑے کو بیت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے کو محبت و رضا کی نعمت دی۔ (عسکری نے امثال میں جابر بن سمرہ سے انہوں نے ام ابی بن بر کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔ ت)	نحلت هذا الكبير المهابة والحلم ونحلت هنا الصغير المحبة والرضا۔ العسکری <sup>۲</sup> في الامثال عن جابر بن سمرة عن ام ابی بن بر کتاب رضی اللہ عنہم۔
---	--

حدیث ۱۰۵: کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس مرض میں وصال مبارک ہوا ہے اس میں دو جہاں کی شاہزادی اپنے دونوں شہزادوں کو لئے اپنے پدر کریم علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلیم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی:

یار رسول اللہ! یہ میرے دونوں بیٹے ہیں انہیں اپنی میراث کریم سے کچھ عطا فرمائیں۔	یار رسول اللہ هذان ابنای فور ثہما شئیا۔
---	---

ارشاد ہوا:

حسن کے لیے تو میری بیت اور سرداری ہے	اما حسن فله ہبیتی و سُؤددی و اما حسین
--------------------------------------	---------------------------------------

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵۵۹ حسین بن علی رضی اللہ عنہ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۳۱/۱۳

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ العسکری فی الامثال حدیث ۱۰۷-۱۰۸ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۷۰/۱۳

اور حسین کے لیے میری جرأت اور میرا کرم (طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندہ اور ابن عساکر نے بتول الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا تھا)	<b>فَلَهُ جَرَأْتٌ وَجُودٌ۔ الطَّبَرَانِيٌّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنِ مَنْدَهٖ وَابْنِ عَسَاكِرٍ عَنِ الْبَتُولِ الزَّهَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا۔</b>
---	--

اقول: **وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ** حلم و محبت وجود و شجاعت و رضا و محبت کچھ اشیائے محسوسہ واجسام ظاہرہ تو نہیں کہ ہاتھ میں اٹھا کر دے دیے جائیں اور بتول زہرا کسوال بصیغہ عرض و درخواست تھا کہ حضور انھیں کچھ عطا فرمائیں جسے عرف نحۃ میں صیغہ امر کہتے ہیں اور وہ زمان استقبال کے لیے خاص کہ جب تک یہ صیغہ زبان سے ادا ہوگا زمانہ حال منقصی ہو جائے گا اس کے بعد قبول و قوع جو کچھ ہو گا زمانہ تکلم سے زمانہ مستقبل میں آئے گا اگرچہ بحالت فروatalصال اسے عرف ازمانہ حال کہیں بہر حال درخواست قبول کو زمانہ ماضی سے اصلًا تعلق نہیں، اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نعم ہاں دوں گا۔ لاجرم یہ قبول زمان استقبال کا وعدہ ہوا فَإِنَّ السُّؤالَ مَعَادٍ فِي الْجَوَابِ إِذَا نَعِمْ أَنْحَلْهُمَا إِذَا كے متصل ہی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے اس شاہزادے کو یہ نعمتیں دیں اور اس شہزادے کو یہ دو لتیں بخشیں۔ یہ صیغہ ظاہرہ ماضی کے ہیں اور اس سے زمان و عده تھا اور زمان و عده عطا نہیں کہ وعدہ عطا پر مقدم ہوتا ہے۔ لاجرم یہ صیغہ اخبار کے نہیں بلکہ انشا ہیں جس طرح باع و مشتری کہتے ہیں بعث اشتیریت میں نے پیگی میں نے خریدی۔ یہ صیغہ کسی گز شہتہ خرید و فروخت کی خبر دینے کے نہیں ہوتے بلکہ انہیں سے بیع و شرایپا ہوتی ہے انشا کی جاتی ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمانے ہی میں کہ میں نے اسے یہ دیا اسے یہ دیا حلم وہیت وجود و شجاعت و رضا و محبت کی دو لتیں شاہزادوں کو بخش دیں یہ نعمتیں یہ خاص خزانہ ملک السیواں والارض جل جلالہ کی ہیں۔

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵۵۹ میں بن علی رضی اللہ عنہ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۳۰/۱۲، المعجم الكبير حدیث ۱۰۲۱ المکتبة الفیصلیة بیروت ۳۲۳/۲۲، کنز العمال بحوالہ ابن مندہ کر حدیث ۱۸۸۳۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۷/۲۲۸، کنز العمال بحوالہ طب و ابن مندہ کر حدیث ۳۲۲/۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۱۲، کنز العمال بحوالہ ابن مندہ طب ابی نعیم، کر حدیث ۷۰۹/۷ مؤسسة الرسالہ

۱ تانہ بخت خداۓ بخشنده سے ایں سعادت بزور بازو نیست

(یہ سعادت اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی جب تک عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ ت)

تو وہ جوز بان سے فرمادے کہ میں نے دیں اور اس فرمانے ہی سے وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں قطعاً یقیناً وہی کہ سکتا ہے جس کا ہاتھ اللہ وہاب رب الارباب جل جلالہ کے خزانوں پر پہنچتا ہے جسے اس کے رب جل و علانے عطا و منع کا اختیار دیا ہے، ہاں وہ کون، ہاں واللہ وہ محمد رسول اللہ ماذوان و مختار حضرۃ اللہ قاسم و متصرف خزانِ اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والحمد لله رب العالمین، لاجرم امام اجل احمد بن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب مستطب جوہر منظہم میں فرماتے ہیں:

وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ حق جل و علانے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خواں سب ان کے ہاتھوں کے مطیع اکنے ارادے کے زیر فرمان کر دیئے جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	هو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم الذی جعل خزانی کرمہ و موائد نعمہ طوع یدیہ و تحت ارادتہ یعطی من یشاء ۲۔
--	---

ان مباحثت قدسیہ کے جانقراہیان فقیر کے رسالہ سلطنت المصطفیٰ فی ملکوتِ کل الوزی میں بحثت ہیں و اللہ الحمد۔

حدیث ۱۰۶: صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

پیشک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی کفر و شرک کا مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر مٹاتا ہے، میں حشر یعنی مخلوق کو حشر دینے والا ہوں کہ میرے قدموں پر تمام لوگوں کا حشر ہو گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	ان لی اسیاء انا محبید وانا احمد وانا المیاھی الذی ییحوی اللہ لی الکفر وانا الحاشر الذی ییحشر علی قدمی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
---	---

اس کو مالک، احمد، ابو داود طیاری کی، ابن سعد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طبرانی، حاکم، بیهقی، ابو نعیم اور دیگر محدثین نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا۔ (ت)	<b>مالك واحمد وابو داود الطیالسی وابن سعد و البخاری<sup>۱</sup> و مسلم والترمذی والنمسائی والطبرانی و الحاکم والبیهقی وابونعیم وآخرون عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</b>
--	--

حدیث ۷۱۱۰: صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں محمد ہوں اور احمد اور سب انبیاء کے بعد آنے والا اور خلائق کو حشر دینے والا اور توبہ کا نبی اور رحمت کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو روایت کیا احمد، مسلم اور طبرانی نے کبیر میں	<b>انا محمد واحمد والمدقی والحاضر ونبي التوبة ونبي الرحمة (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔</b> <b>احمد و مسلم<sup>۲</sup> والطبرانی فی الکبیر</b>
--	--

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ الصفا قریبی کتب خانہ کراچی ۲۷/۲، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی اسمائہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریبی کتب خانہ کراچی ۲۶/۲، الشیائل مع سنن الترمذی باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث ۳۶۵ دار الفکر بیروت ۵۷۲/۵، مستند احمد بن حنبل عن جبیر بن مطعم المکتب الاسلامی بیروت ۸۳/۳، مؤطاً لاماً مالک ماجاء فی اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میر محمد کتب خانہ کراچی ص ۷۳، الطبقات الکبری ذکر اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار صادر بیروت ۱۰۵، المستدرک للحاکم کتاب التاریخ ذکر اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار الفکر بیروت ۲۰۲/۲، دلائل النبوة للبیهقی باب ذکر اسماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۵۵/۱۵۵، مستند ابی داود طیالسی احادیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ الجزء الرابع ص ۱۲، دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الثالث ذکر فضیلته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باسمائہ عالم الکتب بیروت ۱۲/۱

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی اسمائہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریبی کتب خانہ کراچی ۲۶/۲، مستند احمد بن حنبل عن ابی موسی الشععری المکتب الاسلامی بیروت ۳۹۵/۳ (باقی بر صفحہ آئندہ)

ابو مولیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اور اس کی مثل احمد، ابن مسعود، ابن الی شیبہ اور بخاری نے تاریخ میں اور ترمذی نے شماکل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابن مردویہ نے تفسیر میں، ابو نعیم نے دلائل میں، ابن عدی نے کامل میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور دیلمی نے مسنن الفردوس میں حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابن عدی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اور ابن سعد نے مجاهد سے مرسلًا روایت کیا۔ اس میں راوی کی بیشی کرتے رہے مگر حاشر پر سب متفق ہیں۔ (ت)	عن ابی موسیٰ الاشعربی و نوحہ احمد وابن اسعد وابی شیبہ والبخاری فی التاریخ والترمذی فی الشماکل عن حذیفہ وابن مردویہ فی التفسیر وابو نعیم فی الدلائل وابن عدی فی الكامل وابن عساکر فی تاریخ دمشق والدیلمی فی مسنن الفردوس عن ابی الطفیل وابن عدی عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وابن سعد عن مجاهد مرسلاً بیزیدون وینقصون وکلہم علی الحاشر متفقون۔
--	--

حدیث ۱۱۲: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کنسیہ یہود میں تشریف لے جا کر دعوت اسلام فرمائی، کسی نے جواب نہ دیا، دوبارہ فرمائی، کوئی نہ بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم نے نہ مانا تو سن لو خدا کی قسم میں ہی حشر دینے

ابیتم فواللہ انا الحاشر وانا

(باقیہ حاشیہ صحیح گزشتہ)

شماکل الترمذی مع سنن الترمذی باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار الفکر بیروت ۵/۲۷۵، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ذکر اسماء الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار اصادر بیروت ۱۰۲/۴، المصنف لابن الی شیبہ کتاب الفضائل حدیث ۳۴۸۳ دار الكتب العلمیہ بیروت ۳۵۱/۶، دلائل النبوة لابی نعیم الفصل الثالث ذکر فضیلته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الكتب العلییہ بیروت ۱۲/۱، کنز العمال بحوالہ عد. وابن عساکر عن ابی الطفیل حدیث ۳۳۱۶۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۱/۳۶۲، الفردوس بیانشور الخطاب حدیث ۹۷ دار الكتب العلمیہ بیروت ۱/۳۲، الطبقات الکبریٰ ذکر اسماء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار اصادر بیروت ۱۰۵/۱

<p>والا ہوں، میں ہی خاتم الانبیاء ہوں، میں ہی نبی مصطفیٰ ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو (حاکم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور اس کی تصحیح کی۔ ت)</p>	<p>العاقب و انَّ النَّبِيَّ الْمُصْطَفَى أَمْتَنِمْ أَوْكَذِبُتُمْ - الحاکم<sup>۱</sup> وصححه عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

حدیث ۱۱۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو اپنے قدموں پر حشر دوں گا، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کی بلا محفر مانتا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>انَا اَحْمَدُ وَانَا مُحَمَّدٌ وَانَا الْحَاسِرُ الذِّي اَحْشَرَ النَّاسَ عَلَى قَدْمِيٍّ وَانَا الْمَاهِيُّ الذِّي يَمْحُوا اللَّهُ لِي الْكَفَرَ<sup>۲</sup>۔</p>
--	--

یہ اسم ماہی بھی ہمارے مقصود رسالہ سے ہے نیز بجہت اسناد اور نیز یوں کہ معاذ اللہ کفر سے بدتر اور کیا بلا ہے، توجو پیار اماہی کفر ہے اس سے بڑھ کر کون دافع البلاء ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مگر اس نام پاک حاشر کی اسناد کو وہابی صاحب بتائیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا فرماتا ہے ہیں کہ میں حشر دینے والا ہوں میں اپنے قدموں پر خلائق کو حشر دوں گا۔ تم نے تو قرآن مجید سے یہ سن ہو گا کہ نشر کرنا حشر دینا خدا کی شان ہے، یہاں بھی تمہارا امام الطائفہ تھی کہے گا کہ نبی نے اپنے آپ کو خدا کی شان میں ملا دیا، خدا کی شان تم مد عیان علم و ایمان ابھی خدا کی شان ہی کے معنی نہ سمجھے، نبی کی سب شانیں خدا کی شان ہیں، تو خدا کی بعض شانیں ضرور نبی کی شان ہیں کہ موجہہ کلیہ کو اس کا لکھ موجہہ جزئیہ لازم ہے، ہاں وہ شان جس سے خدا کی لازم آئے نبی کے لیے نہیں ہو سکتی، دفع بلا یا سماع ندا یا فریاد کو پہنچانا یا سرا د کار دینا وغیرہ امور نزع ایہ کہ بعطائے رحمانی ووساطت فیض رباني سے مانے جاتے ہیں لزوم الوہیت سے کیا تعلق رکھتے ہیں ولکن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (لیکن جسے اللہ تعالیٰ نور عطا نہ فرمائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ ت)

حدیث ۱۱۴: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: میرا نام قرآن میں محمد اور انجل میں

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم كتاب معرفة الصحابة قصة ذكر رؤيا عبد الله بن سلام دار الفكر بيروت ۳/۲۵۱

<sup>۲</sup> المعجم الكبير عن جابر رضي الله عنه حدیث ۷۵ المكتبة الفيصلية بيروت ۲/۸۲، الكامل لابن عدی و هب بن وهب الخ دار الفكر

احمد اور تورات میں احید ہے و انیسا سیت احید لانی احید عن امتو نار جہنم اور میرا نام احید اس لئے ہوا کہ میں اپنی امت سے آتش دوزخ کو دفع فرماتا ہوں۔

آپ کے رب کے لیے حمد اور آپ پر درود وسلام ہو اے احید، اے نبی حمد۔ اس کو ابن عدی اور ابن عساکر نے سید نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ (ت)	<b>فوجہ ربک الحمد وعلیک الصلوٰۃ والسلام یا احید یا نبی الحمد۔ ابن عدی و عساکر<sup>۱</sup> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔</b>
--	--

وہابی صاحبو! تمہارے نزدیک احید بیارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دافع البلاء تو ہے ہی نہیں، کہہ دو کہ وہ تم سے نار جہنم بھی دفع نہ فرمائیں اور بظاہر امید تو ایسی ہی ہے کہ جو جس نعمت الہی کا منکر ہوتا ہے اس نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے موافق معاملہ فرماتا ہوں۔	<b>انَا عَنْدَ ظُنْ عَبْدِي بِـ<sup>۲</sup></b>
---	---

جب تمہارا گمان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دافع بلا نہیں تو تم اسی کے مستحق ہو کہ وہ تمہارے لئے دافع البلاء نہ ہوں۔ ایک بار فقیر کے یہاں اس مسئلہ کا ذکر تھا کہ راضی دیدار الہی کے منکر ہیں اور وہابی شفاعت نبوی کے۔ فقیر نے کہا ایک یہی مسئلہ نزاعیہ ہے جس میں ہم اور وہ دونوں راست گویں ہم کہتے ہیں دیدار الہی ہو کا اور ہم حق کہتے ہیں ان شاء اللہ الغفار ہمیں ہو گا، راضی کہتے ہیں نہ ہو گا وہ حق کہتے ہیں ان شاء اللہ القهار انہیں نہ ہو گا، ہم کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق ہے اور ہم قطعاً حق پر ہیں ان کے کرم سے ہمارے لئے ہو گی، وہابی کہتے ہیں کہ شفاعت محال مطلق ہے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں امید ہے کہ اتنے لئے نہ ہو گی۔ ع

گُر بر تحرام ست حرامت بادا  
(اگر تجھ پر حرام ہے تو حرام رہے۔ ت)

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير باب معرفة اسمائیه الخ دار احیاء التراث العربي ۲/۲۱، الكامل لابن عدی ترجمہ اسحق بن بشر دار الفکر بیروت

۳۹۳/۱

<sup>۲</sup> مسنند احمد بن حنبل المکتب الاسلامی بیروت ۲/۱۵، الترغیب والترغیب فی الاکثار من ذکر اللہ حدیث مصطفیٰ الیا بی مصر

۳۹۳/۲

حاضر ان گفتند کاے صدر الواری راست گو گفتی دو ضد گورا جرا

گفت من آئینہ ام مصقول دوست<sup>۱</sup> ترک و ہندو در من آں بیند کر اوست

(حاضرین نے عرض کی کہ اے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دو متصاد بات کرنے والوں کو کیسے درست قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دوست کا قائمی کیا ہوا آئینہ ہوں، ترک اور ہندو مجھ میں وہی دیکھتا ہے جیسا وہ خود ہے۔ ت)

حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

روز قیامت میری شفاعت حق ہے تو جو اس پر یقین نہ لائے وہ اس کے لاکن نہیں (ابن منیع نے اپنی مجمم میں زید بن ارقم اور دس سے چند زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔ ت)	شفاعتی یوم القیمة حق فین لم یؤمن بها لم یکن من اهلها۔ ابن منیع فی معجیہ <sup>۲</sup> عن زید بن ارقم وبضعة عشر من الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
--	--

علامہ منادی تیسیر میں لکھتے ہیں: اطلاق علیہ التواتر<sup>۳</sup>۔ اس حدیث کو متواتر کہا گیا۔

باجملہ وہ تمہارے لئے دافع البلاء نہ سہی مگر لا و اللہ ہمارا اٹھکانا تو ان کی بارگاہ یہیں پناہ کے سوانحیں۔

منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں آپ ہم پر تور حمت کیجئے

بلکہ لا و اللہ اگر بغرض غلط بغرض باطل عالم میں ان سے جدا کوئی دوسرا حامی بن کر آئے بھی تو ہمیں اس کا احسان لینا منظور نہیں وہ اپنی حمایت اٹھا کر کھے ہمیں ہمارے مولائے کریم جل جلالہ نے بے ہمارے استحقاق بے ہماری لیاقت کے اپنے محبوب کا کر لیا اور اسی کی وجہ کریم کو محمد قدیم ہے اب ہم دوسرے کا بننا نہیں چاہتے جس کا کھائیے اسی کا کالائیے۔

۱

<sup>۲</sup>کنز العمال بحوالہ ابن منیع حدیث ۳۹۰۵۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۹۹/۰۳

<sup>۳</sup>التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث شفاعتی یوم القیمة حق مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۷۸/۲

سے چودل باد لبرے آرام گیرد      زوصل دیگرے کے کام گیرد  
 (جب ایک محبوب سے دل آرام پاتا ہے تو دوسرا کے وصل سے اسے کیا کام۔ ت)  
 یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں      منت غیر کوئی اٹھائی کوئی ترس جتا یہ کیوں  
 رباعی: اے واہ وہ حبیب را لکھید ہمہ کار      بار ان درود، بر رخ پاکش بار  
 دستے کہ بد امان کریم ش زدہ ایم      ز نہار بدست دیگر انش مسپار  
 (اے اللہ! اس حبیب کو ہر معاملے کی چابی عطا فرماس کر رخ زیب اپ درود کی بارش برسا، جس ہاتھ سے ہم نے اس کا دامن کرم تھاما ہے  
 ہر گز ہم کو دوسروں کا دست مگر نہ بناتے)  
 سے تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پنه ڈال  
 جھٹر کیاں کھائیں کھاں چھوڑ کے صدقہ تیرا  
 صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم و علی الک و صحبک و بارک و کرم۔ والحمد لله رب العالمین۔  
 خیر، ان اہل شر کے منہ کیا لگتے، مسلمان نظر فرمائیں کہ عیاذًا بالله نار جہنم سے سخت تر کون سی بلا ہوگی مگر اس کا دفع دفع البلا  
 نہیں ہے یہ کہ دہبیہ کے پاس نہ عقل ہے نہ دین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔  
 حدیث ۱۱۵: صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسنداً امام احمد میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے انہوں نے حضور اقدس رحمت  
 عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع دیا خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا حضور  
 کیلئے لوگوں سے لڑتا جھکڑتا تھا، فرمایا:

میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبایا تو اسے میں نے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم۔	وجدتہ فی غمرات من النار فاخرجته الی ضحضاح <sup>۱</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> صحیح البخاری باب بنیان الكعبہ قصہ ابی طالب / ۵۸۸ و کتاب الادب المشترک ۲/ ۹؛ صحیح مسلم کتاب الایمان باب شفاعة النبي  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا بی طالب قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/ ۱۵، مسنداً حمید بن حنبل عن عباس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت

حدیث ۱۱۶: کہ حضور رحمۃللہ علیہ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی: هل نفعت اباظالیں۔ حضور نے ابوطالب کو کچھ نفع دیا؟ فرمایا:

میں اسے دوزخ کے غرق سے پاؤں تک کی آگ میں نکال لایا۔ (اس کو بزار، ابو یعلیٰ، ابن عذر اور تمام نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	<b>اخر جتہ من غیرہ جہنم الی ضحضاح منها۔ البزار</b> وابو یعلیٰ وابن عذر وتمام عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
--	--

وابی صالح! مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک کافر کے باب میں فرمائے ہیں کہ اسے میں نے غرق آتش سے کھینچ لیا اسے میں نکال لایا۔ اور تم حضور کو مسلمانوں کے لیے بھی دافع البلاء نہیں مانتے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف، قدر تیں، اختیار دیکھیں، دنیا کیا بلا ہے آخرت کے کار خانوں کی بائیں انکے ہاتھ میں سپرد ہوئی ہیں اور نہ بغیر اللہ عزوجل کے ماذون و مختار کئے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے قیدی کی سزا بدل دے جس عذاب میں اسے رکھا ہو وہاں سے اسے نکال لے یہ وہی پیارا ہے جس کی عزت و جاہت جس کی محبویت نے دو جہاں کے اختیارات اسے دلا دئے۔ آخر حدیث سن چکے:

عزت دینا اور تمام کار و بار کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی۔	<b>الکرامۃ والیفاتیح یومئذ بیدی ۲</b>
اس کا ہاتھ سب ہاتھوں پر بُند ہے سب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی	<b>یدہ فوق الجیع وید الجمیع مبسوطة الیہ</b>

تورات شریف کا ارشاد سن چکے:

اس کا ہاتھ سب ہاتھوں پر بُند ہے سب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی	<b>یدہ فوق الجیع وید الجمیع مبسوطة الیہ</b>
--	---

<sup>1</sup> مسنود ابی یعلیٰ عن جابر رضی اللہ عنہ حدیث ۲۰۳۳ مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۹۹۹، کامل لابن عذر ترجیہ اسماعیل بن مجاہد دار الفکر بیروت ۱۹۹۵، مجمع الزوائد کتاب صفة النار تفاوت اهل في العذاب دار الكتاب العربي بیروت ۱۹۹۰

<sup>2</sup> سنن الدارہ باب ما اعطی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الفضل حدیث ۲۹ دار المحسان للطباعة القاهرہ ۱۹۸۰، مشکوٰۃ المصائب باب فضائل سید المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی ص ۵۱۳، الخصائص الکبریٰ باب اختصاصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانہ اول من تنشق

عنہ الارض مرکزہلسنت گجرات الہند ۲۱۸/۲

بالخشوع<sup>۱</sup>۔ اور گڑگڑانے میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدیث ۷۷: صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>بیشک یہ قبریں ان کے ساکنوں پر اندھیرے سے بھری ہیں اور بے شک میں اپنی نماز سے انہیں روشن کر دیتا ہوں۔</p> <p>اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر آپ کے نور و جمال اور جود و عطا کے مطابق درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ اس نے اور ابن حبان نے بحوالہ ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کیا ہے۔ (ت)</p>	<p>ان هذه القبور مملوقة على أهلها ظلمة واني انورها بصلاتي عليهم۔</p> <p>صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم قدر نوره وجماله وجوده ونواله عليه وعلى آلہ امین۔ هو وابن حبان<sup>2</sup> عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	--

حدیث ۱۱۸: امام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں جب انکی وفات ہوئی اور انکی عدت گزری سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پیام نکاح دیا، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ میں تین باتیں ہیں: ان امراء کبیرۃ۔ میری عمر زائد ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: انہا اکبر منک میں تم سے بڑا ہوں۔ عرض کی: وانا امرأة غيّور میں رشناک عورت ہوں۔ (یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ شکر نجی کا اندیشہ ہے۔) فرمایا: ادعوا اللہ عزوجل فیذہب عنک غیرتك میں اللہ عزوجل سے دعا کروں گا وہ تمہارا شک دور فرمائے گا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! وانا امرأة مصيبة یا رسول اللہ اور میرے بچے ہیں (یعنی ان کی پرورش کا خیال ہے۔) فرمایا: هم الی اللہ والی رسولہ۔ بچہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہیں۔

احمد بن حنبل <sup>3</sup> حدثنا وکیع ثنا اسماعیل	احمد بن حنبل <sup>3</sup> حدثنا وکیع ثنا اسماعیل
--	--

<sup>1</sup> تکمہ اثنا عشریہ باب شش در بحث نبوت و ایمان سہیل اکیڈمی لاہور ص ۱۶۹

<sup>2</sup> صحیح مسلم کتاب الجنائز فصل في الصلة على القبر قد کی کتب خانہ کراچی ۳۰۰/۱، السنن الکبیری کتاب الجنائز باب الصلة على القبر الخ دار صادر بیروت ۲/۳

<sup>3</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا المکتب الاسلامی بیروت ۳۲۱/۲، المعجم الكبير عن ام سلمہ حدیث ۳۹۹ و ۵۸۵ و ۹۷۳ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲۳۸/۲۳ و ۲۳۸/۳ و ۲۳۸/۴

<p>ہمیں حدیث بیان کی اسلیل بن عبد الملک بن ابوالصیراء نے، مجھے حدیث بیان کی عبد العزیز بن بنت ام سلمہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اور یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں مذکور ہے۔ (ت)</p>	<p>بن عبد الملک بن ابی الصغیراء ثنوی عبد العزیز ابن بنت امر سلمة عن امر سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہما والحدیث فی السنن النسائی<sup>۱</sup> وغیرہ۔</p>
---	--

حدیث ۱۱۹: کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر مسیح لذاب میں فرمایا:

<p>خوش ہو کہ اگر وہ نکلا اور میں تم میں تشریف فرماؤ تو اللہ تمہیں کافی ہے اور اللہ کار رسول، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>ابشروا فان یخرج وانا بین اظہر کم فَاللّهُ كافیکم و رسولہ۔</p>
<p>طبرانی نے کبیر میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ (ت)</p>	<p>الطبرانی فی الکبیر<sup>۲</sup> عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔</p>

یہاں سخت ترین اعداء کے مقابلے میں اللہ و رسول کو کفایت فرمانے والا بتایا کہ خوش ہو بے خوف رہو اللہ و رسول کے ہوتے تمہیں کچھ اندر یہ نہیں۔ اللہ اللہ ایسی جلیل حاجت روایتوں مشتمل شایوں میں اللہ عز و جل کے نام اقدس کے ساتھ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک ملنا وہابیہ کے زخمی کلیجیوں پر خدا جانے کہاں تک نمک چھڑ کے گا۔ و اللہ الحمد۔

حدیث ۱۲۰: امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم فرمایا، اتفاق سے ان دونوں میں کافی مالدار تھا میں نے اپنے بھی میں کہا اگر کبھی میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا تو وہ دن آج ہی ہے، میں اپنا آدھاماں حاضر لایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ما ابقيت لاهلک تم نے اپنے گھروں کے لئے کیا باقی رکھا؟ میں نے عرض کیا: ابقيت لهم ان کے لئے بھی باقی چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا: ما ابقيت لهم آخر ان کے لیے کتنا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی: مثلہ اتنا یہی۔ اور صدیق اکبر اپنا سارا مال تمام و کمال لے کر حاضر ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا بکر

<sup>۱</sup> الاصابة بحوالہ النسائی ترجمہ ۱۲۰۵ امر سلمہ بنت ابی امیہ دار الفکر بیروت ۷/۳۲۶، ۳۲۷

<sup>۲</sup> المعجم الکبیر حدیث ۳۰ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲۳۰/۷۰۴

ما ابقيت لاهلک۔ اے ابو بکر! گھروں کے لئے کیا باقی رکھا؟ عرض کی: ابقيت لهم الله ورسوله۔ میں نے گھروں کے لئے اللہ و رسول کو باقی رکھا ہے جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے تھا: میں ابو بکر سے کبھی سبقت نہ لے جاؤں گا۔

<p>دارمی، ابو داود، ترمذی، شاشی، ابن ابی عاصم اور ابن شاذین نے سنۃ میں اور حاکم نے مستدرک میں اور ابو نعیم نے حلیۃ میں اور یہ حق نے سنن میں اور ضیاء نے مختارہ میں سب نے امیر المؤمنین (عمر فاروق) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔</p> <p>دارمی، ابو داود اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا۔ (ت)</p>	<p>الدارمی<sup>۱</sup> وابو داود والترمذی و قال حسن صحيح و الشاشی وابن ابی عاصم وابن شاهین فی السنۃ و الحاکم فی المستدرک وابو نعیم فی الحلیۃ والبیهق فی السنن والضیاء فی البختارۃ کلہم عن امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	--

حدیث ۱۲۱: کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امام بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا:

<p>مجھے اپنے گھروں میں سب سے پیارا وہ ہے جسے اللہ عز وجل نے نعمت دی اور میں نے نعمت دی۔ (ترمذی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>احب اهلی من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔</p> <p>الترمذی<sup>۲</sup> عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاۃ میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی سب صحابہ ایسے ہی تھے جنہیں اللہ نے نعمت بخشی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم</p>	<p>لهم يکن احد من الصحابة الا وقد انعم اللہ علیہ رسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ</p>
---	---

<sup>۱</sup> سنن الترمذی کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما دار الفکر بیروت ۳۸۰/۵، سنن ابی داود کتاب الزکوۃ باب الرخصة فی ذالک آفتاب عالم پر لیں لاہور ۲۳۶/۱، سنن الدارمی باب الرجل یتصدق بجیع ما عنده حدیث ۱۲۲۷ دار المحسن للطباعة

القاهرة ۳۲۹/۳، کنز العمال حدیث ۳۵۲۶ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲/۳۹۱

<sup>۲</sup> سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب اسامہ بن زید حدیث ۳۸۲۵ دار الفکر بیروت ۵/۲۷

نے نعمت بخشی، مگر یہاں مراد وہ ہے کہ جس کی تصریح قرآن عظیم میں ارشاد ہوئی ہے کہ جب فرماتا تھا تو اس سے جسے اللہ تعالیٰ نے نفع مت دی اور اے نبی! تو نے اسے نعمت دی، اور وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں کسی کا خلاف نہ اصلًا شک، اور آیت اگرچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اتری مگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مصدق اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ٹھہرایا کہ پستابع پدر ہے، افادہ فی المرقّۃ۔

علیہ وسلم الا ان المراد المنصوص علیہ فی الكتاب و هو قولہ تعالیٰ و اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ و هو زید لا خلاف فی ذلک ولا شک<sup>۱</sup> الخ۔

اقول: نہ صرف صحابہ بلکہ تمام اہل اسلام اولین و آخرین سب ایسے ہی ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے نعمت دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمت دی۔ پاک کر دینے سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی جس کا ذکر آیات کریمہ میں سن چکے کہ "وَمَا أَنْهَىٰنَا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَا شِئْنَا" <sup>۲</sup>۔ یہ نبی پاک اور سترہ اکردویتا ہے بلکہ لا والله تمام جہان میں کوئی شے ایسی نہیں جس پر اللہ کا احسان نہ ہو اللہ کے رسول کا احسان نہ ہو۔ فرماتا ہے:

ہم نے نہ بھیجا تمہیں مگر رحمت سارے جہان کیلئے۔	وَمَا أَنْهَىٰنَا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَا شِئْنَا
--	---

<sup>۳</sup>۔

جب وہ تمام عالم کے لئے رحمت ہیں تو طبعاً سارے جہان پر ان کی نعمت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اہل کفر و اہل کفران اگر نہ مانیں تو کیا نقصان۔

راست خواہی ہزار چشم چنان      کور بہر کہ آفتاب سیاہ  
 (اگرچہ تو ایسی ہزار آنکھوں کا اندازا ہونا بہتر ہے نہ کہ آفتاب کا سیاہ ہونا۔ ت)

<sup>۱</sup> مرقّۃ المفاتیح کتاب المناقب والفضائل باب اہل بیت النبی تحت الحدیث ۷۷ المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ ۵۳۶/۱۰

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۲۹/۲

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۰۷/۲۱

حدیث ۱۲۲: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اسے رزق دیا۔ (ابوداؤد اور حاکم نے بسندر صحیح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً الحديث.- ابو داود والحاکم <sup>۱</sup> بسندر صحیح عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	--

پہلی حدیث میں حضور نے فرمایا تھا: "ہم نے غنی کر دیا۔" احادیث عطیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں تھا کہ فرمایا: "حسن کو مہابت ہم نے دی، علم ہم نے دیا۔ حسین کو شجاعت ہم نے دی، کرم ہم نے دیا، محبت کا مرتبہ، رضا کا مقام ہم نے عطا کیا۔" حدیث اسماء میں تھا: "اسے نعمت ہم نے بخشی۔" یہاں ارشاد ہوتا ہے: "رزق ہم نے دیا۔" صلی اللہ تعالیٰ علیک وعلی الک قدر جو دک و نوالک و بارک و سلم۔

حدیث ۱۲۳: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

بیشک تشریف لایا تمہارے پاس وہ رسول تمہاری طرف بھیجا ہوا جو ضعف و کمال سے پاک ہے تاکہ وہ رسول زندہ فرمادے غلاف چڑھے دل، اور وہ رسول کھول دے اندھی آنکھیں، اور وہ رسول شنووا کر دے بہرے کانوں کو، اور وہ رسول سیدھی کر دے ٹیڑھی زبانوں کو، یہاں تک کہ لوگ کہہ دیں کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں۔ (دارمی نے اپنی سنن میں جیبر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	لقد جاءَكَمِ رسُولِ الْيَكْمِ لِيُسْبِّهَنَ وَ لَا كَسْلَ لِيُحْجَى قَلْوَبًا غَلْفًا وَ يُفْتَحَ أَعْيَنَّا عَيْنِيَا وَ يُسْمِعَ أَذَانَّا صَمِّيَا وَ يُقْيِيمَ السَّنَةَ عَوْجًا حَتَّى يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ۔ الدَّارِمِي <sup>۲</sup> فِي سُنْنَتِهِ عَنْ جَبِيرِ بْنِ نَفِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔
--	--

اقول: صحیح اذقال اخبارنا حبیۃ بن شریح ثقة شیخ البخاری

<sup>۱</sup> سنن ابی داود کتاب الخراج والغئی باب فی ارزاق العمال آفتقب عالم پر لیں لاہور ۵۲/۲، المستدرک للحاکم کتاب الزکوة دار الفکر بیروت

<sup>۲</sup> کنز العمال حدیث ۸۰۶/۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۹۳/۳

<sup>۳</sup> سنن الدارمی باب مکان علیہ النّاس قبل مبعث النّبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث ۹ دار المحسن للطباعة القاهرة ۱/۱۵

فی صحیحه وابو داود والترمذی بل واحمد وابن معین وهمام من اقرانه ثناً بقیة بن الولید ثقة من الاعلام من رجال مسلم وقد زال ما يخشى من لیسہ بقوله ثناً بحیر بن سعد ثقة ثبت عن خالد بن معدان ثقة عابد من رجال الستة عن جبیر بن نفیر بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ثقة جلیل مخضرم من الثنینیة وقد روی ابن السکن والباؤردی وابن شاهین مطولاً عن عبد الرحمن عن جبیر بن نفیر عن ابیه قال ادرکت الجاهلیة واتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم بالیمن فاسلیل کبر اسیل سعید بن المیسیب اوفوق علا ان المرسل حجۃ عندنا وعند الجمهور والحدیث مسلسل بالحمدیین حیوۃ الی جبیر کلہم اهل حصن۔

حدیث ۱۲۳: کہ دو اونٹ مست ہو کر بگئے تھے، کسی کو پاس نہ آنے دیتے، مالکوں نے باع میں بند کر دئے تھے، باع اجازتے تھے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور شکایت آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دروازہ کھولنے کا حکم دیا، مامور نے اندریشہ کیا مبارا حضور کو ایڈا دیں۔ فرمایا خوف نہ کر، کھول دے۔ کھول دیا۔ ایک دروازے ہی کے پاس کھڑا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سجدے میں گرپا۔ حضور نے مہارڈال کر حوالے کیا۔ دوسرا منتہ باع پر تھا، جب وہاں تشریف لے گئے اس نے بھی حضور کو دیکھتے ہی سجدہ کیا، حضور نے اسے بھی باندھ کر پسرو دیکھ کر عرض کی:

یار رسول اللہ! چو پائے تک حضور کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے حضور کے ذریعے سے ہمارے پاس جو کچھ ہے تو اس سے بہت بہتر ہے، حضور نے ہمیں گمراہی سے پناہ دی، حضور نے ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی تو کیا حضور ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ (ابن قانع وابو نعیم نے غیلان بن اسامة<sup>1</sup> شفیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

یا نبی اللہ تسجد لک البھائم فما تَلَّهُ عَنْنَا بِكَ احسن من هذا اجرتنا من الضلالة واستنقذتنا من الہلکة افلأ تذن لنا بالسجود۔ ابن قانع وابو نعیم عن غیلان بن اسامة الشفیعی رضی اللہ

<sup>1</sup> دلائل النبوة لابن نعیم الفصل الثانی والعشرون ذکر سجود البھائم عالم الكتب بيروت الجزء الثاني ص ۳۷-۳۶

روایت کیا۔ اس کے متعدد طرق ہیں جو کہ بعض بعض میں داخل ہیں۔ ت)	تعالیٰ عنہ وله طرق وقد دخل بعضہ ان بعض۔
--	---

وہابیہ کہ گمراہی پسند وہلاکت دوست ہیں، ان سخت ترین بیانات کو بلا کیوں سمجھیں گے کہ ان سے پناہ دینے والے نجات بخشے  
والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء جائیں۔

حدیث ۱۲۵: جب وفد ہوازن خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے اموال واللہ و عیال  
کہ مسلمان غنیمت میں لائے تھے حضور سے مانگے اور طالب احسان والا ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب ظہر کی نماز پڑھ چکو تو کھڑے ہو نا اور یوں کہنا ہم رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں مومنین پر اپنی عورتوں اور بچوں کے باب میں (نسائی نے عمر بن شعیب سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	اذا صَلَّيْتُمُ الظَّهَرَ فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَابْنَائِنَا۔ النَّسَائِيُّ <sup>۱</sup> عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما۔
---	--

حدیث فرماتی ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفس نفس تعلیم فرمائی کہ ہم سے مدد چاہنا نماز کے بعد یوں کہنا کہ ہم  
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں۔

وہابی صاحبو! "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" <sup>۲</sup> کے معنی کہنے سے استعانت تو خدا ہی کے ساتھ خاص تھی، یہ ارشاد کیسا ہے کہ  
ہم سے استعانت کرنا۔ اور زمان حیات دنیاوی اور اس کے بعد کا تفرقہ وہابیہ کی جہالت ہی نہیں بلکہ سراسر ضلالت ہے قطع نظر  
اس بات سے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سب بحیات حقیقی دنیاوی جسمانی زندہ ہیں، جو بات خدا کے لیے

<sup>1</sup> سنن النسائي كتاب الهمة هبة المشاع نور محمد كارخانه تجارت كتب کراچی ۱۳۶۲/۲

<sup>2</sup> القرآن الكريمه ۲/۸

خاص ہو چکی غیر خدا کے ساتھ شرک ٹھہر چکی، اس میں حیات و موت، قرب و بعد، ملکیت و بشریت خواہ کسی وجہ کا تفرقہ کیسا کیا بعد موت ہی شرکت خدا کی صلاحیت نہیں رہتی جمال حیات شریک ہو سکتے ہیں یہ جنون و بابیہ کو ہر جگہ جلا کا ہے جس نے انہیں حمایت تو حیدر کے زعم میں الامشک بنادیا ہے ایک بات کو کہیں گے شرک ہے پھر کبھی موت حیات کا فرق کریں گے کبھی قرب و بعد کا کبھی کسی اور وجہ کا، جس کا صاف حاصل یہ نہل کا ہے کہ یہ انوکھے موحد بعض فتنم مخلوق خدا کا شریک جانتے ہیں جب تو وہ بات کہ غیر کے لیے اس کا اثبات شرک تھا ان کے لئے ثابت مانتے ہیں۔ اب کھلا کر ائمہ امام نے تقویۃ الایمان میں ان وہابی صاحبوں ہی کی نسبت ہکھا تھا کہ:

۱۰۱ اکثر لوگ شرک میں گرفتار ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کئے جاتے ہیں، سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ، تھج فرمایا اللہ صاحب نے کہ نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ، مگر شرک کرتے ہیں<sup>۱</sup>۔  
یہ فتنہ یاد رکھنے کا ہے کہ انکی بہت فاحشہ جہالتوں کی پرده دری کرتا ہے و باللہ التوفیق۔

حدیث ۱۲۶: طبرانی مجمع اوسط میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہ۔ وہ فوراً ٹھہر گیا۔	ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر الشمس فتاخرت ساعة من نهار <sup>۲</sup> ۔
---	--

اقول: اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے لیے پلٹا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی۔ امام اجمل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی صحیح کی۔ الحمد للہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں ان کا حکم جاری ہے تمام مخلوق الہی کو

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں مطیع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۳

<sup>۲</sup> المعجم الاوسط حدیث ۵۰۵ مکتبۃ المعارف ریاض ۵/۳۳، مجمع الزوائد کتاب علامات نبوت باب حبس الشمس صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم دارالکتاب بیروت ۲۹۶/۸

ان کے لئے حکم اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے، وہ محبوب اجل و اکرم و خلیفۃ اللہ الاعظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے گہوارہ میں چاند ان کی غلامی بجالاتا، جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف جھک جاتا۔ حدیث میں ہے سید ناعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما عم مکرم سید اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سے عرض کی: مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک مجزے کا دیکھنا ہوا،

<p>میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے جس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔</p>	<p>رأیتك في المهد تداعى القبر واليہ باصبعك فحیث اشتراط اليہ مآل۔</p>
---	--

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے روئے سے بہلاتا، میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدے میں گرتا۔</p> <p>بیہقی نے دلائل میں اور امام شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن صابوی نے مائتین میں اور خطیب وابن عساکر نے تاریخ بغداد و دمشق میں بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (ت)</p>	<p>انی کنت احدیثه ویحدثنی ویلمہنی عن البکاء واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش۔</p> <p>البیهقی فی الدلائل<sup>۱</sup> والامام شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابوی فی المائتین و الخطیب وابن عساکر فی تاریخ بغداد ودمشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

امام شیخ الاسلام صابوی فرماتے ہیں: فی المعجزات حسن یہ حدیث مجذرات میں حسن ہے۔

جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافۃ الکبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتباٰ کرے آفتاب وماہتاب درکنار، وَاللّٰهُ الْعَظِيمُ۔ ملئکہ

<sup>۱</sup> الخصائص الکبیڈی بحوالہ البیهقی والصابوی وغیرہ باب مناغاة للقبر الخ مرکز للہست گجرات الپند ۵۳/۱، کنز العمال بحوالہ حق فی الدلائل وغیرہ حدیث ۳۸۲۸ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۹۸۳/۱

مدبرات الامر کے تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں تمام مخلوقِ الہی کی طرف رسول بھیجا گیا۔ (اس کو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	ارسلت الی الخلق کافہ۔ رواہ مسلم <sup>۱</sup> عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	--

قرآن فرماتا ہے:

برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر کہ تمام اہل عالم کو ڈر سنانے والا ہو۔	تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيُنَذِّرَ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا <sup>۲</sup> ۔
---	--

اہل عالم میں جبیع ملائکہ بھی داخل ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہوئی "حَتَّى تَوَاهَّثُ بِالْحِجَابِ"<sup>۳</sup>۔ یہاں تک کہ سورج پر دے میں جا چھپا۔ فرمایا: "سُرْدُوهَا عَلَى"<sup>۴</sup>۔ پلٹا لاؤ میری طرف۔ امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مردی کہ سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول میں ضمیر آفتاب کی طرف ہے اور خطاب ان ملائکہ سے ہے جو آفتاب پر متین ہیں یعنی نبی اللہ سلمان نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لے آؤ، وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز اوفرمائی۔ معالم التنزیل شریف میں ہے: حکی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال معنی قوله ردوہا علی يقول سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام بامر اللہ عزوجل للملائكة المؤکلین بالشمس ردوہا علی یعنی الشمس فردوہا علیہ حتى صلی العصر فی وقتہا<sup>۵</sup>۔

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب المساجد و موضع الصلوٰۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۹۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱/۲۵

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۳۸/۳۲

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۳۸/۳۳

<sup>۵</sup> معالم التنزیل (تفسیر البغوي) تحت الآية ۳۸/۳۳ دار الكتب العلمية بيروت ۵۲/۳

سیدنا لقمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نوابان بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحمیۃ سے ایک جلیل القدر نائب ہیں پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ سب سچہ و تعالیٰ کی بے شمار حمتیں امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی پر کہ مواہب لدنیہ و منح محمدیہ میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانہ راز الہی و جائے نفاذ امر ہیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p> <p>یعنی خبردار ہو میرے ماں باپ قربان ان پر جو بادشاہ و سردار ہیں اس وقت سے کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابھی آب و گل کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے وہ جس بات کا ارادہ فرمائیں اس کا خلاف نہیں ہوتا، تمام جہان میں کوئی ان کا حکم پھیرنے والا نہیں۔</p>	<p>هو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانۃ السر و موضع نفوذ الامر فلا ينفذ امر الامنه ولا ينقل خير الاعنة صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p> <p>الابنی من كان ملکاً وسيداً وأدمر بين الماء والطين وافق اذا امر امراً لا يكون خلفه وليس لذاك الامر في الكون صارف<sup>۱</sup></p>
---	--

اقول: اور ہاں کیوں نہ کوئی ان کا حکم پھیر سکے کہ حکم الہی کسی کے پھیرے نہیں پھرتا۔

<p>اس کی قضاء کو رد کرنے والا اور اس کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ (ت)</p>	<p>لاراد لقضائہ ولا معقب لحكمہ۔</p>
---	-------------------------------------

یہ جو کچھ چاہتے ہیں خدا ہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ صحیح بن حاری و مسلم و نسائی و غیرہ میں حدیث صحیح جلیل ہے کہ ام المومنین صدیقه اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں:

<p>یا رسول اللہ! میں حضور کے رب کو نہیں دیکھتی مگر حضور کی خواہش میں جلدی و شتابی کرتا ہوا۔</p>	<p>ما ازی ربک الایسرا ع هو اک<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

مسلمانو! ذرا دیکھنا کوئی وہاں ناپاک ادھر ادھر ہوتا سے باہر کر دو اور کوئی جھوٹا متصوف

<sup>۱</sup> الموابہ اللدنیۃ المقصد الاول توطیۃ المکتب الاسلامی بیروت ۵۶/۱

<sup>۲</sup> صحيح البخاری کتاب التفسیر باب قوله ترجی من تشاء الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۷۰۲/۲

(باتی بر صفحہ آئندہ)

نصاری کی طرح غلو و افراط والا دباچپا ہوتا سے بھی دور کر دو اور تم عبدہ و رسول کی سچی معیار پر کانٹے کی تول مستقیم ہو کر یہ حدیث سنو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

<p>یعنی ابو طالب یمار پڑے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے گئے ابو طالب نے عرض کی: اے بھتیجے میرے! اپنے رب سے جس نے حضور کو بھیجا ہے میری تدرستی کی دعا کیجئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی: الہی! میرے چچا کو شفادے۔ یہ دعا فرماتے ہی ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کسی نے بندش کھول دی، حضور سے عرض کی: اے میرے بھتیجے! بیشک حضور کا رب جس کی تم عبادت کرتے ہو حضور کی اطاعت <sup>ع</sup> کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (اس کلمہ پر انکار نہ فرمایا بلکہ اورتا کیداً و تائیداً) ارشاد کیا کہ اے چچا! اگر تو اس کی اطاعت کرے تو وہ تیرے ساتھ بھی یونہی معاملہ فرمائے گا۔</p> <p>(ابن عدی)</p>	<p>مرض ابوطالب فعادة النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقل يا ابن اخي ادع ربك والذى يعثثك يعافيني فقال اللهم اشف عني فقام كأنما نشط من عقال فقال يا بن اخي ان ربك الذى تعبدة ليطيعك فقال وانت يا عباده لو اطعته ليطيعنك ابن عدى <sup>1</sup> من طريق الهيثم البكاء عن ثابت بن البناني عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه۔</p>
--	---

ع: یہاں اطاعت کے معنی ہر مراد محبوب حسب مراد محبوب فوجہ موجود فرمادے ۲ امنہ۔

(بیتہ حاشیہ صحیح گزشتہ)

صحیح البخاری کتاب النکاح باب الشغار قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۶/۲، صحیح مسلم کتاب الرضاع باب جواز هبته انویتها لضرتها قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۷، سنن النسائی ذکر امر رسول اللہ فی النکاح نور محمد کار خانہ تجارت کتب کراچی ۲/۲۷، مسنداً احمد بن حنبل عن

عائشہ رضی الله عنہا المکتب الاسلامی بیروت ۲/۳۳

<sup>۱</sup> الكامل لابن عدی ترجمہ الهیثم بن جمّاز دار الفکر بیروت ۷/۲۵۶۱

نے بطریق، یہ شیم الکاء انہوں نے ثابت بنی سے انہوں نے  
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

اور حدیث سنئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیشک بالیقین میں روز قیامت تمام جہان کا سید ہوں، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، کوئی شخص ایسا نہ ہو گا جو میرے نشان کے نیچے نہ ہو کشاںش کا انتظار کرتا ہو۔ میں چلوں گا اور لوگ میرے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ دروازہ جنت پر تشریف فرمائے ہو کر دروازہ حکلواؤں کا سوال ہو گا کون ہیں؟ میں فرمائں گا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔ کہا جائے گا مر جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ پھر جب میں اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا اس کے لئے سجدہ شکر میں گروں گا اس پر کہا جائے گا:

اپنا سراٹھاً اور جو کہنا ہو کہو تمہاری اطاعت کی جائے گی اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔	ارفع راسک وقل تطاع و اشفع تشفع۔
--	---------------------------------

پس جو لوگ جل چکے تھے وہ اللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔

حاکم نے متدرک <sup>۱</sup> وابن عساکر عن عبادۃ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا۔ (ت)	الحاکم فی المستدرک وابن عساکر عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	---

اسی باب سے ہے حدیث کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ان ربی استشارنی فی امتح ماذا افعل بهم بیشک میرے رب نے میری امت کے باب میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ فقلت ماشتیت یارب ہم خلقک و عبادک میں نے عرض کیا کہ اے رب میرے! جو تو چاہے کہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔ فاستشارنی الشانیہ اس نے دوبارہ مجھ سے مشورہ پوچھا۔ فقلت له کذلک میں نے اب بھی وہی عرض کی۔ فاستشارنی الشانیہ اس نے سہ بارہ مجھ سے مشورہ لیا۔ فقلت له کذلک میں نے پھر وہی عرض کی۔ فقلال تعالیٰ انی لن اخزیک فی امتك

<sup>۱</sup> اتحاف السادة المتقدین بحوالہ الحاکم وابن عساکر صفة الشفاعة دار الفکر بیروت /۳۰۰، کنز العمال بحوالہ الحاکم وابن عساکر حدیث

۲۳۳۰۳۸ مؤسسة الرسالہ بیروت

یا احمد تو رب عزوجل نے فرمایا: اے احمد! بیٹک میں ہر گز تجھے تیری امت کے معاملہ میں رسوانہ کروں گا۔ وہ بشرنی ان اول من یہ دخل الجنة معی من امتنی سبعون الفاً مع کل الف سبعون الفاً لیس علیہم حساب اور مجھے بشارت دی کہ میرے ستر ہزار امتی سب سے پہلے میرے ساتھ داخل بہشت ہوں گے ان میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے جن سے حساب تک نہ لیا جائیگا۔ آگے حدیث اور طویل و جلیل ہے جس میں اپنے اور اپنی امت مر حومہ کے فضائل جلیل ارشاد فرمائے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم وبارک و سلم آمین!

امام احمد اور ابن عساکر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)	<b>الامام احمد<sup>1</sup> وابن عساکر عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ</b>
---	--

بِمَدِّ اللَّهِ يَهْيَ مَعْنَىٰ ہُنَّ اسْ حَدِيثَ کَہ رَبُّ الْعَزَّةِ رُوزْ قِيمَتْ حَضْرَتْ رَسُولُّتْ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالْتَّحْمِيَّةِ سَمْجُونْ اولِینْ وَآخِرِینْ میں فرمائے گا:

کلہم یطلبوں رضاۓ اُن اطلب رضا کیا محمد<sup>2</sup>۔  
یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میری تیری رضا چاہتا ہوں  
اے محمد!

میں نے اپنا ملک عرش سے فرش تک تجھ پر قربان کر دیا صلی اللہ علیک وعلیٰ الرحمن وبارک وسلام۔

اے مسلمانو، اسے سنبھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع کے ندائی! آفتاب و ماہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب ان کے وارث، ان کے فرزند، انکے دلبند، غوث الشقین، غوث الکوئین، حضور پر نور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کر لے۔ امام اجل سیدی نور الدین ابو الحسن علی شطحونی قدس سرہ الروفی (جنمیں امام جلیل

<sup>١</sup> مسنداً حميد بن حنبل عن حذيفه رضي الله عنه المكتتب الإسلامي بيروت ٣٩٥/٥، كنز العمال بحواره حم وابن عساكر حدث ٣٢١٠٩ مؤسسة الرساله بيروت ٣٨٤/٦، الخصائص الكبڑى باب اختصاصه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن امته وضع عنهم الامر مركز للإنت

جگات ہند / ۲۱۰

<sup>2</sup> مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) تحت الابة ٣٢/٢ إدا، الكتب العلمية بيروت ٨٤/٣

عارف باللہ سیدی عبد اللہ بن اسعد مکی یا نبی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرآۃ الجنان میں الشیخ الامام الفقیہ المقرادی<sup>۱</sup>) سے وصف کیا۔ کتاب مستطاب بجیۃ الاسرار شریف میں خود روایت فرماتے ہیں:

<p>یعنی امام ابی حضرت ابوالقاسم عمر بن مسعود وزیر اور حضرت ابو حفص عمر کمیاتی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بر ملا زمین سے بلند کرہ ہوا پر مشی فرماتے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرنے نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیادن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم! کہ تمام سعید و شقی مجھ پر بیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوط زن ہوں، میں تم سب پر جنت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)</p>	<p>خبرنا ابو محمد عبد السلام بن ابی عبد اللہ محمد بن عبد السلام بن ابراہیم بن عبد السلام البصری الاصل البغدادی المؤلد والدار بالقاهرة سنۃ احدی وسبعين وستمائة قال اخبرنا الشیخ ابو الحسن على بن سلیمان البغدادی الخباز ببغداد سنۃ ثلث و ثلثین وستمائة قال اخبرنا الشیخان الشیخ ابو حفص عمر الکمیاتی ببغداد سنۃ احدی و تسعین و خمسیائة قالا كان شیخنا الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنه یمشی فی الهواء علی رؤوس الاشهاد فی مجلسه و یقول ما تطلع الشمیس حتی تسلم علی و تجئی السنۃ الی وتسلم علی و تخبرنی بما یجري فیها و یجیء الشہر و یسلم علی و تخبرنی بما یجري فیہ و یجیئ الاسبوع و یسلم علی و تخبرنی بما یجري فیہ و یجیئ الیوم و یسلم علی</p>
--	---

<sup>۱</sup> مرآۃ الجنان

کا وارث ہوں۔ چہ فرمایا ہے آپ نے اے میرے آقا، بخدا آپ یقین پر مبنی کلام فرماتے ہیں جس میں کوئی شک اور وہم راہ نہیں پاتا۔ بے شک آپ سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اور آپ کو عطا ہوتا ہے تو آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ ز آپ کو امر کیا جاتا ہے تو آپ عمل کرتے ہیں۔ اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ (ت)

ويخبرني بما يجري فيه وعزة ربِي ان السعداء و الاشقياء ليعرضون على عيني في اللوح المحفوظ انا غائص في بحار علم الله ومشاهدته انا حجة الله عليكم جميعكم انا نائب رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم ووارثه في الارض<sup>1</sup> - صدقتك يا سيدى والله فانما انت كلمت عن يقين لاشك فيه ولا وهم يعتريه انا تنطق فتنطق وتعطى فتفرق وتومر فتفعل والحمد لله رب العالمين۔

اس حدیث کے متعلق کلام نے قدرے طول پا یا مگر الحمد للہ کہ مقصود رسالہ سے باہر نہ آیا و باللہ التوفیق۔  
حدیث ۱۲۷: صحیح مسلم شریف و سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ و مجمع بکری طبرانی میں سید ناربیعہ بن کعب اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے:

میں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا ایک شب حضور کے لیے آب و ضوء وغیرہ ضروریات لایا (رحمت عام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بحر رحمت جوش میں آیا) ارشاد فرمایا: ما انک کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں۔ میں نے عرض کی: میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں

قالَ كُنْتَ أَبْيَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتَهُ بِوْضُوئِهِ وَحَاجَتْهُ فَقَالَ لِي سَلْ (وَلِفَظُ الطَّبَرَانِي فَقَالَ يَوْمًا يَأْرِبِيْعَةَ سَلَنِي فَاعْطِيْكَ رَجَعَنَا لِفَظُ مُسْلِمٍ) قَالَ فَقَلَتْ أَسْأَلَكَ مِرْأَفَتَكَ فِي الْجَنَّةِ

<sup>1</sup> بهجه الاسرار ذکر کلماً اخبر بها عن نفسه الخ دار الكتب العلمية بيروت ص ۵۰

<p>اپنی رفاقت عطا فرمائیں۔ فرمایا: کچھ اور؟ میں نے عرض کی:</p> <p>میری مراد تو صرف یہی ہے۔ فرمایا: تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔</p>	<p>فقاًلَ أَوْغِيرُ ذَلِكَ قَلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعْنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثِيرَةِ السُّجُودِ<sup>۱</sup>۔</p>
---	---

### ع کہ حیف باشد از وغیر او تم نئے

(حیف ہے اس سے اس کے غیر کی تمنا کرنا۔ ت)

سائل ہوں تر اماگنٹا ہوں تجھ سے تجھی کو

معلوم ہے اقرار کی عادت تری مجھ کو

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔"

الحمد لله یہ جلیل و نقیص حدیث صحیح اپنے ہر بڑے سے وہابیت کش ہے۔ حضور القدس خلیفۃ الرسل العظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلقاً بلا قید و بلا تحصیص ارشاد فرمانا سل مانگ کیا مانگتا ہے، جان وہابیت پر کیسا پہلا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت روافرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں جب تو بلا تقیید ارشاد ہوا: مانگ کیا مانگتا ہے یعنی جو جی میں آئے مانگو کہ ہماری سرکار میں سب کچھ ہے۔

گرخیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدر کا ہش بیا وہرچہ میخواہی تمنا کن

(اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں آور جو چاہتا ہے مانگ لے۔ ت)

شیخ شیوخ علماء الہند عارف بالله عاشق رسول اللہ برکۃ المصطفیٰ فی هذه الدیار سیدی شیخ محقق مولانا عبد الحنفی محدث دہلوی

قدس سرہ القوی شرح مشکوکۃ شریف میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں:

<p>مطلق سوال سے کہ آپ نے فرمایا (اے ربیعہ)</p>	<p>از اطلاق سوال کہ فرمودش بخواه تحصیص</p>
--	--

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب فضل السجود والحدیث علیہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۳۱، سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب وقت قیام النبی

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اللیل آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۸۷۱، کنز العمال حدیث ۱۹۰۰۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۷/۳۰۶، المعجم

الکبیر عن ربیعہ حدیث ۲۵۷ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۵/۵۷۵ و ۵/۵۷۴

<p>مانگ۔ اور کسی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معالم آپ کے دستِ اقدس میں ہے، جو چاہیں جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرما دیں۔</p> <p style="text-align: right;">(ت)</p>	<p>نکرد بسطو بے خاص معلوم میشود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرچہ خواہد و کرخواہد باذن پر ورد گار خود دہد۔<sup>۱</sup></p>
--	--

### فَإِنْ مَنْ جَوَدَ الدُّنْيَا وَضَرَّهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ الْلَّوْحِ وَالْقَلْمَ<sup>۲</sup>

یہ شعر قصیدہ برده شریف کا ہے جس میں سیدی امام اجل محمد بوصیری قدس سرہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں: "یا رسول اللہ! دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوان جود و کرم سے ایک حصہ میں اور لوح و قلم کے تمام علوم جن میں مکان و مایکون جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت تک ہونے والا ہے ذرہ ذرہ با تفصیل مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں۔"

اور پہلا شعر کہ ۱۱۰ گرگ خیریت دنیا و عقبی انج ۱۱۰ حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ قصیدہ نقیۃ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا ہے: الحمد لله یہ عقیدے ہیں ائمہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب عالم تاب میں، بخلاف اس سرکش طاغی شیطان لعین کے بندہ داعی جو کہ ایمان کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکری رکھ کر کہتا ہے: "جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں"۔<sup>۳</sup>

<p>درود و سلام نازل فرمائے ربِ محمدِ محمدِ مصطفیٰ پر اور آپ کی آل پر، اور دوسرا گروہ آپ کی شان میں تنقیص کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ائکے حال اور ان کے شر سے بچائے اور سلامت رکھ، آمین (ت)</p>	<p>الا صلی ربِ محمد علی محمد وآلہ وسلم و اخري منتقصیہ واعاذنا من حآلهم و شرهم وسلم امین۔</p>
--	--

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے مستفاد ہوتا ہے</p>	<p>یؤخذ من اطلاقه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الامر بسؤال ان</p>
--	--

<sup>۱</sup> اشعة اللمعات كتاب الصلوة بباب السجود وفضله الفصل الاول مكتبة نوریہ رضویہ سکھر ۳۹۲/۱

<sup>۲</sup> الكواكب الدرية في مدح خير البرية (قصیدہ برده) الفصل العاشر مرکز الہنسن جگرات الہند ص ۵۹

<sup>۳</sup> تقویۃ الایمان الفصل الرابع فی ذکر ردا الشراك فی العبادۃ مطبع علیی اندر ورون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

الله تعالى مکنه من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق <sup>۱</sup>	کہ اللہ عزوجل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرمادیں۔
---	--

والحمد لله رب العالمين۔

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں  
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں<sup>۲</sup>

پھر اس حدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جان وہابیت پر یہ کیسی آفت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر  
حضرت رہبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور سے جنت مانگتے ہیں کہ اسئلہ مرافتک فی الجنة یا رسول اللہ ! میں حضور سے سوال  
کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والا عطا ہو۔

وابی صاحبو! یہ کیا کھلا شرک وہابیت ہے جسے حضور مالک جنت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحمیۃ قول فرمادی ہے ہیں، وَلِلّهِ الْحَجَةُ السَّامِیَةُ۔  
حدیث ۱۲۸: حدیث صحیح و جلیل و عظیم سخت وہابیت کش جسے نسائی و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و طبرانی و حاکم و نیہقی نے  
سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور امام ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و نیہقی نے صحیح اور حاکم  
نے برشرط بخاری و مسلم صحیح کہا اور امام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم منذری وغیرہ انہم نقد و تنقیح نے اس کی تصحیح کو مسلم  
و درقرار رکھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تائینا کو دعا لعلیم فرمائی کہ بعد نماز کہئے:

اللهم انی اسئلک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه باک الی ربی فی حاجتی هذہ لیقضی لی اللهم	اللی! میں تجھ سے مدد مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی سے جو مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ ! میں حضور کے ولی سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روائی
---	--

<sup>1</sup> مرقأة المفاتيح كتب الصلوٰۃ باب السجود وفضله الفصل الاول تحت حدیث ۸۹۶ السکتبۃ الحبیبیۃ کوئٹہ ۶۱۵/۲

ہو، الہی! انہیں میرا شفیع کر ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرم۔

فسفعہ فی۔<sup>۱</sup>

یہ حدیث خود ہی بیمار دلوں پر زخم کاری تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاجت کے وقت ندا بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغانت والتجاب ہی، مگر حسن حسین شریف کی بعض روایات نے سر سے پانی تیری دیا۔ اس میں لتفظی لی<sup>۲</sup> بصیغہ معروف ہے یعنی یار رسول اللہ! حضور میری حاجت روافر مادیں۔ مولانا فاضل علی قاری علیہ رحمۃ الباری حرز شیئن شرح حسن حسین میں فرماتے ہیں:

اور ایک نسخہ میں بصیغہ فاعل ( فعل معروف) ہے، یعنی آپ میری حاجت روائی فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ میری حاجت روائی و مقصد برآری میں سبب و سیلہ بن جائیں۔ چنانچہ اسناد مجازی ہو گا۔ (ت)

وفي نسخة بصيغة الفاعل اي لتفظى الحاجة لي المعنى تكون سبباً لحصول حاجتى ووصول مرادى فالاسناد مجازى<sup>۳</sup>۔

اب دافع البلاء کو شرک ماننے کا مول قول کہتے۔

<sup>۱</sup> سنن الترمذی کتاب الدعوات حدیث ۳۵۸۹ دار الفکر بیروت ۳/۲۶، سنن ابن ماجہ ابواب اقامة الصلوة بباب ما جاء في صلوة الحاجة ایضاً ایم سعید کمپنی کراچی ص ۱۰۰، صحیح ابن خزیمة باب صلوة الترغیب والتھیب حدیث ۱۲۱۹ المکتب الاسلامی بیروت ۲۶/۲، المعجم الكبير عثمان بن حنیف حدیث ۸۳۱ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۱۸/۹، المستدرک للحاکم کتاب صلوة التطوع دعاء رد البصر دار الفکر بیروت ۲/۳۱، دلائل النبوة للبیهقی باب فی تعليمه الضریر ما كان فيه شفاء الخ دار الكتب العلمیۃ بیروت ۲/۲۲۸، عمل الیوم واللیلة للنسائی حدیث ۲۵ دار ابن حزم بیروت ۱۵۹/۱۲۰، الترغیب والتھیب الترغیب في صلوة الحاجة مصطفی البانی مصر ۱/۳۷۷، ۲/۳۷۵۔

<sup>۲</sup> الحسن الحسین منزل یوم الاثنین صلوة الحاجة افضل المطابع ص ۱۲۵

<sup>۳</sup> حرز شیئن شرح الحسن الحسین مع الحسن الحسین منزل یوم الاثنین صلوة الحاجة افضل المطابع ص ۱۲۵

**ثُمَّ أَقُول:** (پھر میں کہتا ہوں۔ت) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں نایبنا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز یوں عرض کرو ہمارا نام پاک لے کر ندا کرو ہم سے استمداد والجبا کرو، شرک وہبیت کو قفر جہنم میں پہنچانے کو بس یہی تحاک : اولًا: جو شرک ہے اس میں تفرقہ زمانہ حیات و بعد وفات یا تفرقہ قرب و بعد یا غیبت و حضور سب مردود و مقتبو، جس کا بیان اور پرمند کو۔

**ثانيًا:** حاصل تعلیم یہ نہ تھا کہ دور رکعت نماز پڑھ کر دعا کا بالائی طکڑا تواللہ عزوجل سے عرض کرنا پھر ہمارے پاس حاضر ہو کر یا محمد سے اخیر تک عرض کرنا، اور دعائیں سنت اخفا ہے اور آہستہ کہنے میں وہبیت کی عقل ناقص پر غیبت و حضور یکساں ہے، عادی طور پر دونوں ندا بالغیب ہوں گی، مگر قیامت تو سیدنا عثمان بن حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کردی کہ زمانہ خلافت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی دعا ایک صاحب حاجتند کو تعلیم فرمائی اور ندا بعد الوصال سے جان وہبیت پر آفت عظمیٰ ڈھائی۔ مجسم کبیر امام طبرانی میں یہ حدیث یوں ہے کہ ایک شخص امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوا کرتے امیر المومنین ان کی طرف التفات نہ فرماتے نہ ان کی حاجت پر غور کرتے، ایک دن عثمان بن حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شکایت کی، عثمان بن حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

وضو کی جگہ جا کرو ضو کرو پھر مسجد میں جا کر دور رکعت نماز پڑھو  
پھر یوں دعا کرو کہ الٰہی! میں تجھ سے سوال کرتا اور تیری طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روافرمائیے۔ اور اپنی حاجت کا ذکر کرو، شام کو پھر میرے پاس آنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔

ائت المبیضاً فتوضاً ثُمَّ أَتَ المسجد فصل فيه  
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَلَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَاتِّوْجِهَ إِلَيْكَ بِنِيَّةً  
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ  
إِنِّي أَتِوْجِهُ بِكَ إِلَيْ رَبِّي فَيَقْضِي حاجتِي وَتَذَكَّرُ حاجتَكَ وَ  
رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ۔

صاحب حاجت نے جا کر ایسا ہی کیا، پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، دربان آیا ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین (عثمان غنی) نے

اپنے ساتھ مندرجہ بھایا اور فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے اپنی حاجت عرض کی، امیر المومنین نے فوراً روا فرمائی، پھر ارشاد کیا؛ اتنے دنوں میں تم نے اس وقت اپنی حاجت کی۔ اور فرمایا: جب کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے ہمارے پاس آنا۔ اب یہ صاحب امیر المومنین کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو جزاً خیر دے امیر المومنین نہ میری حاجت میں خور فرماتے تھے نہ میری طرف التفات لاتے، یہاں تک کہ آپ نے میری سفارش ان سے کی۔ عثمان بن حنیف نے فرمایا:

خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے بارے میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہے یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کی شکایت حضور سے عرض کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: موضع وضو پر جا کر وضو کر کے دور کععت نماز پڑھ پھر یہ دعا کیں پڑھ۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم! ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے با تین ہی کڑہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس انکھیارے ہو کر آئے گویا کبھی انکی آنکھوں میں کچھ نقصان نہ تھا۔

والله مأکلمته ولكن شهدت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واتا هر جل ضریر تشکی الیه ذہاب بصرہ فقال له النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلام ایت البيضاۃ فتوضا ثم صل رکعتین ثم ادع بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنیف فوالله ماتفرقنا وطال بنا الحديث<sup>۱</sup> حتى دخل علينا الرجل کانہ لم یکن به ضررقط۔

امام طبرانی اس حدیث کی متعدد اسنادیں ذکر کر کے فرماتے ہیں: والحدیث صحیح<sup>۲</sup>۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ والحمد لله رب العالمین۔

حدیث ۱۲۹: کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مدینہ طیبہ سے ارشاد فرمایا:

صبر کرو اور شاد ہو کہ بیشک میں نے تمہارے

اصبروا و ابشر و افانی قدبارکت

<sup>۱</sup> المعجم الكبير عن عثمان بن حنیف حدیث ۸۳۸ المکتبة الفیصلیة بیروت ۱۸/۹

<sup>۲</sup> الترغیب والترحیب بحوالۃ الطبرانی الترغیب فی صلوٰۃ الحاجۃ مصطفی الباجی مصر ۲۷/۶

رزق کی پیانوں پر برکت کردی ہے۔ (بزار نے اپنی مند میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	<b>علی صاعکم و مدکم۔ البزار فی مسندهٗ<sup>۱</sup> عن امیر الیومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</b>
---	---

اس حدیث نے بتایا کہ اہل مدینہ کے رزق میں برکت رکھنے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت فرمایا۔

### (رسالہ ﷺ) مسند البزار فی التشریح بید الحبیب<sup>۲</sup>

(عقلمند کا مقصد کہ بے شک احکام شرع عبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں)

احادیث تحریم حرم مدینہ بحکم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

حدیث ۱۳۰: صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی:

الی! بیشک! ابراهیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ معظمه کو حرم کر دیا اور میں دونوں سلگستان مدینہ طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بناتا ہوں۔ (بخاری، مسلم اور احمد اور طحاوی نے شرح معانی الآثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	<b>اللهم ان ابراهیم حرم مکة وانی احرم مابین لابتیها۔ هما واحمد<sup>۲</sup> والطحاوی فی شرح معانی الآثار عن انس رضی اللہ عنہ۔</b>
--	--

حدیث ۱۳۱: نیز صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بیشک! ابراهیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ معظمه کو حرم بنادیا اور اس کے ساکنوں کے لیے دعا فرمائی، اور بیشک میں نے مدینہ طیبہ کو حرم	<b>ان ابراهیم حرم مکة ودعا لاهلها وانی حرمت المدینة کیا حرم ابراهیم مکة وانی</b>
---	--

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ البزار حدیث ۳۸۱۲۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲۵/۱۲

<sup>2</sup> صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب یزفون النسلان قدری کتب خانہ کراچی ۱/۷۷، صحیح البخاری، کتاب المغازی غزوہ احمد قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۷۷، مصحح البخاری، کتاب الاعتاصام باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۰۹۰، صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینة قدری کتب خانہ کراچی ۱/۲۳۱، مسنداً احمد بن حنبل عن انس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۳۲۹، شرح المعانی الآثار کتاب الصید باب صید المدینة ایم سعید کپنی کراچی ۱/۳۲۲

<p>کر دیا جس طرح انہوں نے ملک کو حرم کیا اور میں نے اس کے پیانوں میں اس سے دونی برکت کی دعا کی جو دعا انہوں نے اہل مکہ کے لیے کی تھی (ان سب نے عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>دعوت فی صاعهاً و مدهاً بیشَّی ما دعا ابراہیم لاهل مکة۔ هم<sup>۱</sup> جیبیعاً عن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

حدیث ۱۳۲: نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی: الہی! پیشک ابراہیم تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور تو نے ان کی زبان پر کہ معظمه کو حرام کیا اللہم وانا عبدک ونبیک وانی احرم مابین لابتیہا<sup>۲</sup>۔ الہی! اور میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں میں مدینہ طیبہ کی دونوں حدود کے اندر ساری زمین کو حرم بناتا ہوں۔ امام طحاوی نے اس کے قریب روایت کی اور یہ زائد کیا:

<p>رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کا پیشک کاٹیں یا پتے جھاڑیں یا اس کے پرندوں کو کپڑیں۔</p>	<p>ونھی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یعذن شجرہا او یخبط او یؤخذ طیرہا<sup>۳</sup>۔</p>
--	--

حدیث ۱۳۳: صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>پیشک میں حرم بناتا ہوں دو سو سو گلخ مدینہ کے درمیان کو کہ اس کی بولیں نہ کائی جائیں</p>	<p>انی احرم مابین لابتی المدینۃ ان یقطع عضاهما او یقتل</p>
--	--

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب البیویع باب برکة صاع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۸۲/۱، صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ و دعا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۲۰/۱، مسندا حمد بن حنبل عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۰/۲، شرح معانی الآثار کتاب الصید باب صید المدینۃ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۳۲۲/۲

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ و دعا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۲۲/۱، سنن ابن ماجہ ابواب المنسک بباب فضل المدینۃ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۳۲، کنز العمال حدیث ۳۳۸۸۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۲۵/۲

<sup>۳</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینۃ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۳۲۳/۲

اور اس کا شکار نہ مارا جائے (مسلم اور احمد اور طحاوی نے سعد بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	صیدھا۔ ہو و احمد <sup>۱</sup> والطحاوی عن سعد بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	---

حدیث ۱۳۲: نیز صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بیشک ابراہیم نے مکہ معظمه کو حرم کر دیا اور میں مدینہ کے دونوں سنگلارخ کے درمیان کو حرم کرتا ہوں (مسلم اور طحاوی نے رافع بن خدنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم مابین لابتیها۔ ہو والطحاوی <sup>۲</sup> عن رافع بن خدنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	--

حدیث ۱۳۵: نیز صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں:

اللہم! بیشک ابراہیم نے مکہ معظمه کو حرام کر کے حرم بنادیا اور بیشک میں نے مدینہ کے دونوں کناروں میں جو کچھ ہے اسے حرم بنا کر حرام کر دیا کہ اس میں کوئی خون نہ گرایا جائے نہ لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے نہ کسی پیڑ کے پتے جھازیں مگر جانور کو چارہ دینے کیلئے۔	اللهم ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حرمًا و انی حرمت المدینة حرامًا مابین ما زمیها ان لا یهرا ق فیها دمرو لا یحمل سلاح لقتال ولا یخطب فیها شجرة الابعلف <sup>۳</sup>
--	---

حدیث ۱۳۶: نیز صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں:

اللہم! بیشک میں نے تمام مدینیہ کو حرم کر دیا	اللہم ان قد حرمت مابین لابتیها
--	--------------------------------

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضائل المدینة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۲۰/۱، مسندا حمد بن حنبل عن سعد بن ابی وقار رضی اللہ

عنه المکتب الاسلامی بیروت ۱۸/۱، شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینة ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۳۲۱/۲

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضائل المدینة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۲۰/۱، شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینة ایچ ایم سعید

کپنی کراچی ۳۲۲/۲

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۲۳/۱

<p>جس طرح تو نے زبان ابراہیم پر حرم محترم کر حرم بنایا (مسلم، احمد اور رویانی نے ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>کیا حرمت علی لسان ابراہیم الحرم ہو واحد<sup>۱</sup> و الرویانی عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

حدیث ۷۷: نیز صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>بیشک ابراہیم نے بیت اللہ کو حرم بنایا اور امن والا کر دیا اور میں نے مدینہ طیبہ کو حرم کیا کہ اس کے خاردار درخت بھی نہ کاٹے جائیں اور اس کے جانور شکار نہ کئے جائیں (مسلم اور طحاوی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>ان ابراہیم حرم بیت اللہ و امنہ و انی حرمت المدینۃ مابین لابتیها لا یقطع عضاهما ولا یصاد صیدها۔ هو والطحاوی<sup>۲</sup> عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔</p>
--	--

حدیث ۱۳۸: صحیحین میں ہے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

<p>تمام مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم کر دیا اور اس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک سبزہ و درخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔ بخاری اور مسلم اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا۔ ت)</p>	<p>حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مابین لابتی المدینۃ وجعل اثنا عشر میلًا حول المدینۃ حتی۔ هما واحد<sup>۳</sup> وعبد الرزاق فی مصنفه۔</p>
---	--

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۴۰۳، مسنند احمد بن حنبل عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۵/۹۰۳، کنز العمال بحوالہ حمد والرویانی عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث ۷۵ مؤسسة الرسالہ بیروت

۲۲۲/۱۲

<sup>۲</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینۃ ایج ایم سعید کپنی کراچی ۲/۳۲۳، کنز العمال بحوالہ مسلم حدیث ۱۰۸/۳۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲/۲۳۲

۲۲۲/۱۲

<sup>۳</sup> صحیح البخاری فضائل المدینۃ باب حرم المدینۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۲۵۱، صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۲۳۲، مسنند احمد بن حنبل عن ابی بریرۃ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲/۷۸۳، المصنف لعبد الرزاق کتاب حرمۃ المدینۃ حدیث ۹/۲۰۲۶۱

۹/۲۰۲۶۱ المجلس العلی بیروت ۷/۱۳۵

ابن جریر کی روایت یوں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پیڑ کاٹنا یا ان کے پتے جھالانا حرام فرمایا۔ (اس کو خبیب ہذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)	حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شجرہ ان یعضد او یخبط۔ رواہ عن خبیب <sup>۱</sup> الہذلی <sup>۲</sup> رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	--

حدیث ۱۳۹: صحیح مسلم شریف میں ہے رافع بن خدنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مدینہ طیبہ کو حرم بنا دیا۔ (مسلم اور طحاوی نے معانی الآثار میں روایت کیا۔ ت)	ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم مابین لابقی المدینۃ۔ هو والطحاوی <sup>۲</sup> فی معانی الأثار۔
---	---

حدیث ۱۴۰: نیز صحیح مسلم و معانی الآثار میں عاصم احوال سے ہے:

یعنی میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم بنا دیا؟ فرمایا: ہا، اس کا پیڑ نہ کانا جائے اس کی گھاس نہ چھیل جائے، جو ایسا کرے اس پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔ وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى۔	قلت لانس من مالك أحمرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینۃ قال نعم الحديث <sup>۳</sup> -زاد ابو جعفر فی روایة لا يعضد شجرها <sup>۴</sup> ولیسلم فی اخری نعم هی حرام لا يختلى خلاها فین فعل ذلك فعليه لعنة الله و المائكة والناس اجمعین <sup>۵</sup> ۔
---	---

حدیث ۱۴۱: سنن ابی داؤد میں ہے سعد بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

۱

<sup>2</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۲۰، شرح معانی الآثار الصید باب صید المدینۃ ایم سعید کپنی کراچی ۲/۳۲۲

<sup>3</sup> صحیح مسلم کتاب الحج فضل المدینۃ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۲۱

<sup>4</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید باب صید المدینۃ ایم سعید کپنی کراچی ۲/۳۲۳

<sup>5</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۲۱

بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرم محترم کو حرم بنا دیا۔	ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم هذا الحرم <sup>۱</sup> ۔
--	---

حدیث ۱۳۲: شر جیل کہتے ہیں ہم مدینہ طیبہ میں کچھ جال لگا رہے تھے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جال پھینک دیے اور فرمایا:

تمہیں خبر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا شکار حرام قرار دیا ہے۔ (امام ابو جعفر نے شرح طحاوی میں اس کو بیان کیا ہے۔ ت)	تعلیموا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم صیدہا۔ الامام ابو جعفر <sup>۲</sup> فی شرح الطحاوی۔
---	--

ابو بکر بن ابی شیبہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کی:

بیشک بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے دونوں سنگلاخ کے مابین کو حرم کر دیا۔	ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم مابین لابتها <sup>۳</sup> ۔
---	--

حدیث ۱۳۳: ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مدینے کو حرم بنا دیا ہے کہ اس کے پیڑنہ کاٹے جائیں نہ پتے جھاڑیں۔	ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم مابین لابقی المدینۃ ان يعذى شجرها او يخبط <sup>۴</sup> ۔
---	---

حدیث ۱۳۴: ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ایک چڑیا پکڑتی تھی اسے لئے ہوئے باہر گیا میرے والد ماجد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے شدت سے میرا کان مل کر چڑیا کو چھوڑ دیا اور فرمایا:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کا شکار حرام فرمادیا ہے۔	حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صید مابین لابتها <sup>۵</sup> ۔
---	---

<sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب المنساک باب فی تحریم المدینۃ آفیاب عالم پر یہ لاهور ۲۷۸/۱

<sup>2</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینۃ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۳۲۲/۲

<sup>3</sup>

<sup>4</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینۃ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۳۲۲/۲

<sup>5</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینۃ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۳۲۲/۲

حدیث ۱۲۵: صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

پیش رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیچ کو حرم بنادیا اور فرمایا: چراگاہ کو کوئی اپنی حمایت میں نہیں لے سکتا سو اللہ ورسول کے جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم البقیع و قال لاحمی اللہ و رسولہ <sup>۱</sup> ۔
--	---

روی الشیۃ الامام الطحاوی (تینوں احادیث امام طحاوی نے روایت کیں۔ ت)

یہ سولہ<sup>۲</sup> حدیثیں ہیں، پہلی آٹھ میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ طیبہ کو حرم کر دیا، اور پچھلی آٹھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ حضور کے حضور کے حرم کر دینے سے مدینہ طیبہ حرم ہو گیا، حالانکہ یہ صفت خاص اللہ عز و جل کی ہے۔ پہلی آٹھ سے پانچ میں اپنے پدر کریم سید نا البر ایم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف بھی یہی نسبت ارشاد ہوئی کہ کہ معظمه کی حرم محترم انسوں نے حرم کر دی انہوں نے امن و ای بنا دی، حالانکہ خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

پیش کہ معظمه کو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے کسی آدمی نے نہ نہیں کیا۔ (بخاری اور ترمذی نے ابی شریح بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	ان مکہ حرمہا اللہ تعالیٰ ولم يحرمها الناس۔ البخاری والترمذی <sup>۲</sup> عن ابی شریح ن البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	---

یہ اسنادیں خاص ہمارے رسائل کی مقصود ہیں مگر یہاں جان وہیت پر ایک آفت اور سخت و شدید تر ہے، مدینہ طیبہ کے جگہ کا حرم ہونا نہ فقط انہیں سولہ بلکہ انکے سوا اور بہت احادیث کثیرہ وارد ہیں۔

حدیث<sup>۱</sup> صحیحین: انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مدینہ یہاں سے یہاں تک حرم ہے اس کا	المدینة حرم من كذا الى كذا
------------------------------------	----------------------------

<sup>۱</sup> شرح معانی الآثار بباب احياء الارض المیتة ایم سعید کمپنی کراچی ۱۷۵/۲

<sup>۲</sup> صحیح البخاری ابواب العمرۃ بباب لا یعهد شجر الحرم قد کی کتب خانہ کراچی ۱/۲۳۷، سنن الترمذی کتاب الحج حدیث ۸۰۹ دار الفکر

<p>لایقطع شجرہا۔ ہما و احمد<sup>۱</sup> والطحاوی واللفظ للجامع الصحيح۔</p> <p>روایت کیا اور لفظ جامع اسچیح کے ہیں۔ ت)</p>	<p>پیغمبر نہ کاثا جائے۔ امام بخاری اور مسلم اور احمد اور طحاوی نے مدینہ حرم ہے (بخاری و مسلم اور طحاوی اور ابن جریر نے روایت کیا اور لفظ مسلم کے ہیں۔ ت)</p>	<p>لایقطع شجرہا۔ ہما و احمد<sup>۱</sup> والطحاوی واللفظ للجامع الصحيح۔</p>
<p>حدیث<sup>۱۸</sup> صحیحین: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:</p> <p>مدینہ کوہ عیر سے جبل ثور تک حرم ہے۔ احمد اور ابو داؤد نے ایک روایت میں یہ اضافہ کیا کہ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے اور اس کا شکار نہ پھڑکایا جائے۔</p>	<p>المدينة حرم ما بین عیر الی کذا ولی مسلم والطحاوی ما بین عیر الی ثور الحديث<sup>۳</sup> زاد احمد وابو داؤد فی روایة لایختلى خلاها ولا ينفر صیدها<sup>۴</sup>۔</p>	<p>المدينة حرم ما بین عیر الی کذا ولی مسلم والطحاوی ما بین عیر الی ثور الحديث<sup>۳</sup> زاد احمد وابو داؤد فی روایة لایختلى خلاها ولا ينفر صیدها<sup>۴</sup>۔</p>

<sup>۱</sup> صحیح البخاری فضائل مدینہ باب حرمة مدینۃ النبی کتب خانہ کراچی ۲۵/۱، صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل مدینۃ النبی کتب خانہ کراچی ۲۳۱/۱، کنز العمال بحوالہ حم وغیرہ حدیث ۳۲۸۰۲ مؤسسه الرسالہ بیروت ۲۳۱/۲، مسنود احمد بن حنبل عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۲۲/۳

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل مدینۃ النبی کتب خانہ کراچی ۲۳۲/۱

<sup>۳</sup> صحیح البخاری فضائل مدینہ باب حرمة مدینۃ النبی کتب خانہ کراچی ۲۵/۱، صحیح مسلم کتاب الحج باب فضائل مدینہ النبی کتب خانہ کراچی ۲۳۲/۱، سنن ابی داؤد کتاب المناسک باب فی تحريم المدینۃ آفت قلب عالم پر لیں لاہور ۲۷۸/۱، مسنود احمد بن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۸۱، شرح معانی الاثار کتاب الصید باب صید المدینۃ ایم سعید کپنی کراچی ۳۲۱/۲

<sup>۴</sup> مسنود احمد بن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۹/۱، سنن ابی داؤد کتاب المناسک باب فی تحريم المدینۃ آفت قلب عالم پر لیں لاہور ۲۷۸/۱

**حدیث ۱۰: صحیح مسلم:** سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک سے مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

بیشک یہ امن والی حرم ہے۔ (مسلم، احمد، طحاوی اور ابو عوانہ نے روایت کیا۔ ت)	انھا حرم امن، هو واحمد <sup>۱</sup> والطھاوی وابو عوانة۔
--	--

**حدیث ۱۱:** امام احمد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ہر نبی کے لیے ایک حرم ہوتی ہے اور میری حرم مدینہ ہے۔	لکل نبی حرم و حرمی المدینۃ <sup>۲</sup> ۔
--	---

**حدیث ۱۲:** عبد الرزاق حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے:

بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر گروہ مردم کو کہ حاضر مدینہ ہواں کے خاردار درختوں کو منوع فرمادیا۔	ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کل دافۃ اقبلت علی المدینۃ من العضة الحدیث <sup>۳</sup> ۔
--	---

**حدیث ۱۳:** امام طحاوی بطریق مالک عن یونس بن یوسف عن عطاب بن یسار کہ لڑکوں نے ایک روپاہ کو کھیر کر ایک گوشے میں کر دیا تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکوں کو دور کر دیا، امام مالک فرماتے ہیں اور مجھے اپنے یقین سے یہ یاد ہے کہ فرمایا:

کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرم میں ایسا کیا جاتا ہے؟	انی حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یُصنع هذا <sup>۴</sup> ۔
--	--

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۲۳ و مسنند احمد بن حنبل عن سہل بن حنیف المکتب الاسلامی بیروت ۳/۸۲ و کنز العمال بحوالہ ابی عوانہ حدیث ۳۸۰۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۳۰/۲ و شرح معانی الآثار کتاب الصید باب صید المدینۃ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۲/۳۲۲

<sup>۲</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ابن عباس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۳۸

<sup>۳</sup> المصنف لعبد الرزاق باب حرمة المدینۃ حدیث ۷/۱۳۷ مجلس العلوم بیروت ۹/۲۶۱

<sup>۴</sup> شرح معانی الآثار کتاب الصید صید المدینۃ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۲/۳۲۲

حدیث<sup>۲۳</sup>: مند الفردوس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بیفع اور اس حرم سے ستر ہزار شخص ایسے اٹھائے گا کہ بیحسب جنت میں جائیں گے اور ان میں ہر ایک ستر ہزار کی شفاعت کرے گا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔	یبعث اللہ عزوجل من هذہ البقعة ومن هذا الحرم سبعين الفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين الفاً وجوههم كالقمر ليلة البدار <sup>۱</sup>
--	--

اور اگر وہ حدیثیں گئی جائیں جن میں کہ معظمہ و مدینہ طیبہ کو حریم فرمایا تو عدد کثیر ہیں، بالجملہ حدیثیں اس باب میں حد تواتر پر ہیں، تو باقین ثابت کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے جنگل کا بتا کید تام و اہتمام تمام وہی ادب مقرر فرمادیا جو کہ معظمہ کے جنگل کا ہے،

باہیں ہمہ طائفہ تالفہ وہابیہ کا امام بد فرجام بکال دریہ دہنی صاف صاف لکھ گیا:<sup>۱۰</sup> گروپیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاشنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گروپیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے<sup>۲</sup>

یکوں، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک منہب ملعون مشرب اسی لئے نکلا ہے کہ اللہ و رسول تک شرک کا حکم پہنچائے پھر اور کسی کی کیا گئی۔ تق ہزار ترق بر روئے بد دینی۔ اب دیکھتا ہے کہ اس امام بے لگام کے مقلد کہ بڑے موعد بنے پھرتے ہیں اپنے امام کا ساتھ دیتے ہیں یا محمد رسول اللہ پڑھنے کی کچھ لاج رکھتے ہیں۔ اللہ کے بے شمار درودیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ادب داں غلاموں پر۔

تسبیہ نبیہ: مسلمانو! صرف یہی نہ سمجھنا کہ اس گمراہ امام الطائفہ کے نزدیک حرم محترم حضور پر نور مالک الامم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہی شرک ہے، نہیں نہیں بلکہ اس کے منہب

<sup>۱</sup> الفردوس بسما ثور الخطاب حدیث ۸۱۲۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۵/۲۰۷ و کنز العمال حدیث ۳۹۶ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲/۲۲۲

<sup>۲</sup> تقویۃ الایمان مقدمة الكتاب مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۸

میں جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سراپا طہارت کے لیے مدینہ طیبہ کو چلے اگرچہ چار پانچ ہی کوس کے فاصلے سے (کہ کہیں وہیت کے شرک شد الرحال کاما تھا نہ تھمکے) اس پر راستے میں بے ادبیاں بیہود گیاں کرتے چلنا غرض عین وجز ایمان ہے یہاں تک کہ اگر اپنے ماں و آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمت و جلال کے خیال سے باذب مہذب بن کر چلے گا اس کے نزدیک مشرک ہو جائے گا۔ اسی کتاب ضلالات ماب کے اسی مقام میں "رستے میں نامعقول باتیں کرنے سے"<sup>۱</sup>۔ پچنا بھی انہیں امور میں گناہ یا جنہیں خدا پر افتراء کرتا ہے "یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں جو کوئی کسی پیر و نیغمہ کے لیے کرے اس پر شرک ثابت ہے"<sup>۲</sup>۔

سبحان اللہ! نامعقول باتیں کرنا بھی جزو ایمان نجد یہ ہے بلکہ حق پوچھو تو ان کا تمام ایمان اسی قدر ہے وہ تو خیر یہ ہو گئی کہ مجہد الطائفہ کو یہ عبارت لکھتے وقت آیہ کریمہ "فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجَّ" <sup>۳</sup> (تونہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تنڈ کرہ ہونے کوئی گناہ نہ کسی سے جگلہ اج کے وقت۔ ت) پوری یادنہ آئی ورنہ راہ مدینہ طیبہ میں فتنہ و فور کرتے چلنا بھی فرض کہہ دیتا وہ بھی ایسا کہ جو وہاں فتن سے بازاً مشرک ہو جائے، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔

**لطیفہ حکّہ:** حضرات نجدیہ اخداد الانصار، کیا افعال عبادت سے پچھا انبیاء و اولیاء ہی کے معاملے سے خاص ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرک کے کام جائز، نہیں نہیں جو شرک ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے، تو آپ حضرات جب اپنے کسی نذیر بیشیر یا پیر فقیر یا مرید رشید یا دوست عنیز کے یہاں جایا کجھئے تو راستے میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ماتھا رگڑتے چلا کجھئے ورنہ دیکھو کھلم کھلا مشرک ہو جاؤ گے ہر گز مغفرت کی بونہ پاؤ گے کہ تم نے غیر حج کی راہ میں ان باتوں سے نجٹ کر وہ کام کیا جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتایا تھا اور اس جو تی پیزار میں یہ نفع کیسا ہے کہ ایک کام میں تین مزے، جدال ہونا تو خود ظاہر اور جب بلا وجہ ہے تو فسق بھی حاضر اور رفت کے معنی ہر معمول بات کے ٹھہرے تو وہ بھی حاصل۔ ایک ہی بات میں ایمان نجدیت کے تینوں رکن کامل۔ ولا حoul ولا قوة الا بالله العلی

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان مقدمة الكتاب مطبع علمی اندر رون لوہاری دروازہ لاہور ص ۷۶ و ۸

<sup>۲</sup> تقویۃ الایمان مقدمة الكتاب مطبع علمی اندر رون لوہاری دروازہ لاہور ص ۷۶ و ۸

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۹۷/۲

العظمیم۔ الحمد لله خامس برق بار رضا خرم سوزی نجدیت میں سب سے نرالانگ رکھتا ہے، والحمد لله رب العالمین۔

### تمثیل و تکمیل

اقول: وبِاللَّهِ التوفيق (میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ت) احکام الہی کی دو قسمیں ہیں: تکوینیہ مثل احیاء و اماتت و قضائے حاجت ودفع مصیبت و عطائے دولت و رزق و نعمت و فتح و شکست وغیرہ باعالم کے بندوبست۔

دوسرے تشریعیہ کہ کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا مسلمانوں کے سچے دین میں ان دونوں حکوموں کی ایک ہی حالت ہے کہ غیر خدا کی طرف بروجہ ذاتی احکام تکوینی کی اسناد بھی شرک۔

<p>الله تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان کے لیے خدا کی الوہیت میں کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین میں اور راہیں نکال دی ہیں جن کا خدا نے انہیں حکم نہ دیا۔</p>	<p>قالَ اللَّهُ تَعَالَى "أَمْ لَهُمْ شُرٌّ كَوْا أَشْرَعُوا إِلَهٌ مِّنَ الِّلَّٰهِينَ مَا لَمْ يَأْدُ فِي إِلَهٌ طُّ" <sup>۱</sup></p>
--	--

اور بروجہ عطائی امور تکوینی کی اسناد بھی شرک نہیں۔

<p>فَتَمَّ اَنْ مَقْبُولٌ بَنْدُوں کی جو کار و بار عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔</p>	<p>قالَ اللَّهُ تَعَالَى: "فَالْمُدَبِّرُاتِ أَمْرًا" <sup>۲</sup></p>
--	--

مقدمہ رسالہ میں شاہ عبدالعزیز کی شہادت سن چکے کہ:

<p>حضرت امیر (مولانا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) اور ان کی اولاد کو تمام امت اپنے مرشد جیسا سمجھتی ہے اور امور تکوینیہ کو ان سے وابستہ جانتی ہے۔ (ت)</p>	<p>حضرت امیر وذریۃ طاہرہ اور اتمام امت برمثال پیران و مرشدان می پرستند و امور تکوینیہ را بایشان والبستہ میدانند۔ <sup>۳</sup></p>
---	---

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲۱/۳۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۵/۸۰

<sup>3</sup> تکہ اثنا عشریہ باب ہفتمن در امامت سمیل اکیڈمی لاہور ص ۲۱۳

مگر کچے وہابی ان دو قسموں میں فرق کرتے ہیں، اگر کہنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرض کی یا فلاں کام حرام کر دیا تو شرک کا سودا نہیں اچھلتا، اور اگر کہنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمت دی یا غنی کر دیا تو شرک سوجھتا ہے۔ یہ انکا زرا تحکم ہی نہیں خود اپنے مذہب نامہذب میں کچا پن ہے۔ جب ذاتی اور عطائی کا تفرقہ اٹھادیا پھر احکام میں فرق کیا، سب کا یکساں شرک ہو نالازم، آخر ان کا مام مطع و عام کہہ گیا کہ:

”کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں“<sup>۱</sup>۔ نیز کہا:

”کسی کام کو روایا ناروا کر دینا اللہ ہی کی شان ہے“<sup>۲</sup>.

صف ترکھا:

”کسی کی راہ و رسم کو مانتا اور اسی کے حکم کو اپنی سند سمجھنا یہ بھی انہیں باقتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے مٹھرائی ہیں تو جو کوئی یہ معالمه کسی مخلوق سے کرے تو اس پر بھی شرک ثابت ہے“<sup>۳</sup>۔ اور آگے اس کا قول:

”سو اللہ کے حکم پہنچنے کی راہ بندوں تک رسول ہی کا خبر دینا ہے“<sup>۴</sup>.

اس میں وہ رسول کو حاکم نہیں مانتا صرف مخبر ویعام رسائی مانتا ہے اور اس سے پہلے حصہ کے ساتھ تصریح کر چکا ہے کہ:

”پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ برے کام پر ڈرایوے اور بھلے کام پر خوشخبری سنادیوے“<sup>۵</sup>

نیز کہا کہ:

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثالث مطبع علمی اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۰

<sup>2</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثالث مطبع علمی اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۰

<sup>3</sup> تقویۃ الایمان الفصل الرابع مطبع علمی اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

<sup>4</sup> تقویۃ الایمان الفصل الرابع مطبع علمی اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

<sup>5</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثاني مطبع علمی اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

۱۰) انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنا یا سوان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں سو لوگوں کو سکھلاتے ہیں<sup>۱</sup>۔ صرف بتانے جانے پہچانے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم ان کے ہیں فرانپش کو انہوں نے فرض کیا محمرمات کو انہوں نے حرام کر دیا۔

آخر ہمیں جو احکام معلوم ہوئے اپنے بزرگوں سے آئے انہیں ان کے اگلوں نے بتائے، یونہی طبقہ بطیقہ تبع کوتا بعین، تابعین کو صحابہ، صحابہ کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو کیا کوئی یوں کہے گا کہ نماز میرے باپ نے فرض کی ہے یا زنا کو میرے استاد نے حرام کر دیا۔ نبی کی نسبت اگر یوں کہئے گا تو وہی ذاتی عطاً کا فرق مان کر، اور کسی کی راہ ماننے اور اس کا حکم سند جانے کو ان افعال سے گن چکا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے خاص کئے ہیں اور انہیں غیر کے لیے کرنے کا نام اشراک فی العبادة رکھا، اور اس قسم میں بھی مثل دیگر اقسام تصریح کی کہ:

۱۱) پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لاکن ہیں یا یوں سمجھے کہ انکی اس طرح کی تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے<sup>۲</sup>۔ تو ذاتی عطاً کا تفرقہ دین خجدی میں قیامت کا تفرقہ ڈال دے گا۔ وہ صاف کہہ چکا: "نہیں حکم کسی کا سوائے اللہ کے اس نے تو یہی حکم کیا ہے کہ کسی کو اس کے سوامت مانو"<sup>۳</sup>۔

جب رسول کو ماننے ہی کی نہ ٹھہری تو رسول کو حاکم مانا اور فرانپش و محمرمات کو رسول کے فرض و حرام کر دینے سے جانا کیونکر شرک نہ ہو گا، غرض وہ اپنی دھن کا پکا ہے، ولہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید شدید سے مدینہ طیبہ کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب فرض کیا اور اس میں شکار وغیرہ منع فرمایا، مگر یہ جوار شاد ہوا کہ "مدینے کو حرم میں کرتا ہوں۔" اس چوٹی کے موحد نے کہ جا بجا کہتا ہے کہ "خداء کے سوا کسی کو نہ مانو" صاف صاف حکم شرک جڑو یا اور اللہ واحد ہمارے

غضب کا کچھ خیال نہ کیا" وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَبِ

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی فی رد الاشراک فی العلم مطبع علیمی اندرون لاہاری دروازہ لاہور ص ۷۱

<sup>2</sup> تقویۃ الایمان مقدمة الكتاب مطبع علیمی اندرون لاہاری دروازہ لاہور ص ۸

<sup>3</sup> تقویۃ الایمان الفصل الرابع مطبع علیمی اندرون لاہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

یُقْلِمُونَ<sup>۱</sup>" اور اب جان جائیں گے خالم کہ کس کروٹ پلا کھائیں گے۔ ت) تو مناسب ہوا کہ بعض احادیث وہ بھی ذکر کر جائیں جن میں احکام تشریعیہ کی اسناد صرتح ہے، اور اب اس قسم کی خاص دو آیتوں کا ذکر بھی محمود، اگرچہ آیات گزشتہ سے بھی دو آیتوں میں یہ مطلب موجود، اور ان کے ذکر سے جب عدد آیات انصاف عقود سے متجاوز ہو گا تو تکمیل عقد کے لیے تین آیتوں کا اور بھی اضافہ ہو کہ پچاس کا عدد پورا ہو جس طرح احادیث میں بعونہ تعالیٰ پانچ حمسین یعنی ڈھائی سو کا عدد کامل ہو گا، ورنہ استیغاب آیات <sup>۲</sup> میں منظور، نہ احادیث میں مقدر، واللہ الہادی الی منائر النور،

ع۱: مشاگیہ احکام تشریعیہ کی آیات بحثت ہیں جن سے دو ہی یہاں مذکور، یوں نبی اس مضمون میں کہ خلاف کو موت فرشتے دیتے ہیں، صرف دو آیتیں اوپر گزریں، قرآن پاک میں پانچ آیتیں اس مضمون کی اور ہیں، ہم ان پانچ کو یہاں ذکر کر دیں کہ اول پانچ آیتیں کتب سابقہ سے مذکور ہوئی ہیں ان کے سبب پچاس پوری صرف قرآن عظیم سے ہو جائیں۔

بیشک وہ لوگ جنہیں موت دی فرشتوں نے۔

آیت ۱: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلِكَةُ"<sup>۲</sup>

ہمارے رسول ان کے پاس آئے انہیں موت دینے کو۔

آیت ۲: "جَاءَ عَنْهُمْ رَأْسُ لَيْلَاتِ يَوْمَ الْقُرْبَانِ<sup>۳</sup>"

کاش تم دیکھو جب کافروں کو موت دیتے ہیں فرشتے۔

آیت ۳: "وَلَوْ تَرَى إِذْ يَوْمَ الْقُرْبَانِ كَفَرُوا لِلْمَلِكَةُ"<sup>۴</sup>

بیشک آج کے دن رسولی اور مصیبت کافروں پر ہے جنہیں موت

آیت ۴: "إِنَّ الْخَرْبَى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكُفَّارِ<sup>۵</sup> إِنَّ الَّذِينَ

فرشتے دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ستم ڈھائے

تَوْفِيقُهُمُ الْمَلِكَةُ طَالِبِيَّ أَنْتُمْ<sup>۶</sup>"

ہوئے ہیں۔

ایسا ہی بدله دیتا ہے اللہ پر ہیرگاروں کو جنہیں موت فرشتے دیتے

آیت ۵: "كَذَلِكَ يَعْزِزُهُ اللَّهُ أَنْتَقِنَ<sup>۷</sup> إِنَّ الَّذِينَ تَسْوِفُهُمُ

ہیں پاکیزہ حالت میں۔

الْمَلِكَةُ طَيِّبَيْنَ<sup>۸</sup>"

جعلناً مِنْهُمْ بفضل رحمته أمين (اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے انہیں میں سے کر دے آمین۔ ت)

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲۲۷/۲۶

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۹۷/۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۷۲/۷

<sup>۴</sup> القرآن الكريم ۵۰/۸

<sup>۵</sup> القرآن الكريم ۲۷، ۲۸/۱۲

<sup>۶</sup> القرآن الكريم ۳۲ و ۳۱/۱۲

ہم پہلے وہ تین آیتیں تلاوت کریں کہ پھر احکام تشریعیہ کا بیان آیات و احادیث سے مسلسل رہے و باللہ التوفیق۔

کوئی جان نہیں جس پر ایک نگہبان معین نہ ہو۔

یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم اے نبی! لوگوں کو انہیروں سے نکال لور و شنی کی طرف انکے رب کی پرداگی سے غالب سرا ہے گئے کی راہ کی طرف۔

اور بیٹک بالیقین ہم نے مولیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے مولیٰ! تو نکال لے اپنی قوم کو انہیروں سے روشنی کی طرف۔

آیت ۳۶: "إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلِمَهَا حَافِظَهُ" <sup>۱</sup>۔

آیت ۳۷: "إِنَّ رَبَّكَ لَذُكْرٌ لَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الظَّالِمِينَ الظُّلْمُ إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْأَرْضَ إِلَيْهِ يُبَدِّلُ دِينَ رَبِّهِمْ إِلَى حِصْرَةِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ" <sup>۲</sup>۔

آیت ۳۸: "وَلَقَدْ أَرَسَ سَلَّمًا مُّوسَىٰ بِإِيمَانِهِ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِ إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْأَرْضَ" <sup>۳</sup>۔

اقول: انہیں کفر و ضلالت ہیں اور روشنی ایمان و ہدایت جسے غالب سرا ہے گئے کی راہ فرمایا۔ اور ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، ایک سے نکالنا قطعاً دوسرے میں داخل کرنا ہے۔ تو آیات کریمہ صاف ارشاد فرمادی ہیں کہ بنی اسرائیل کو مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کفر سے نکالا اور ایمان کی روشنی دے دی اس امت کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر سے چھڑاتے ایمان عطا فرماتے ہیں، اگر انہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہ کام نہ ہوتا انہیں اس کی طاقت نہ ہوتی تو رب عز و جل کا انہیں یہ حکم فرمانا کہ کفر سے نکال لو معاذ اللہ تکلیف مالا بیطلق تھا۔

الحمد لله اقرآن عظیم نے کیسی تندیب فرمائی امام و بابیہ کے اس حصر کی کہ:

"پیغمبر خدا نے بیان کر دیا کہ مجھ کونہ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی، میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے نفع و نقصان کامال ک نہیں تو دوسرے کا تو کیا کر سکوں۔ غرض کہ کچھ قدرت مجھ میں نہیں، فقط پیغمبر کا مجھ کو دلوی ہے اور پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳/۸۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱/۱۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۵/۱۳

کہ برعے کام پر ڈرایوے اور بھلے کام پر خوشخبری سنادیوے دل میں یقین ڈال دینا میرا کام نہیں انبیاء میں اس بات کی کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو کہ مرادیں پوری کردیوں یا فتح و شکست دے دیوں یا غنی کردیوں یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیوں ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں عاجز اور بے اختیار<sup>۱</sup> احمد بن حنبل۔

مسلمانو! اس گراہ کے ان الفاظ کو دیکھو اور ان آیتوں اور حدیثوں سے کہ اب تک گزریں ملا دیکھو یہ کس قدر شدت سے خداو رسول کو جھلکا رہا ہے، خیر اسے اس کی عاقبت کے حوالے کجھے، شکر اس اکرم الاکر میں کا بجالائیے جس نے ہمیں ایسے کریم اکرم دائم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایمان دلوایا ان کے کرم سے امید واشق ہے کہ بعونہ تعالیٰ محفوظ بھی رہے۔

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا

تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا<sup>۲</sup>

ہاں یہ ضرور ہے کہ عطاۓ ذاتی خاصہ خدا ہے "إِنَّكُمْ لَا تَنْهَايُونَ مِنْ أَحَبْبَتِكُمْ" (میک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو۔ ت) وغیرہ میں اسی کا تذکرہ ہے کچھ ایمان کے ساتھ خاص نہیں پسیہ کوڑی بھی بے عطاۓ خدا کوئی بھی اپنی ذات سے نہیں دے سکتا۔

تاخدا نہ دے سلیمان کے دہد

(جب تک خدا نہ دے سلیمان کیسے دے سکتا ہے۔ ت)

یہی فرق ہے جسے گم کر کے تم ہر جگہ بکے اور "أَفَتُؤْمِنُنَبِعْضِ الْكِتَابِ وَتَنْفِرُونَ بِبَعْضٍ" (اور خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ ت) میں داخل ہوئے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے کامل دائیٰ عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ (ت)	<b>نسائل اللہ العافیۃ وتمام العافیۃ ودوام العافیۃ و</b> <b>الحمد للہ رب العالمین۔</b>
---	--

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الشانی فی رد الشک فی العلم مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۵

<sup>2</sup> حدائق بخشش وصل اول مکتبہ رضویہ کراچی ص ۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۵۶/۲۸

<sup>4</sup> القرآن الکریم ۸۵/۲

لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ پچھلے دن پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔

نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب حکم کریں اللہ و رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار ہے اپنی جانوں کا اور جو حکم نہ مانے اللہ و رسول کا وہ صریح مگر اسی میں بہکا۔

آیت ۲۹: "قَاتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَأْتِيُونَ مَعَ الْأُخْرَ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" <sup>۱</sup>

آیت ۵۰: "مَا كَانَ لِيُوْمٌ وَلَا مُؤْمِنٌ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لِهِمُ الْخَيْرٌ مِّنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ حَلَّ صَلَالًا مُّبِينًا" <sup>۲</sup>

یہاں سے ائمہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبل طوع آفتاب اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مول لے کر آزاد فرمایا اور تدبی بنیا تھا، حضرت زینب بنت جوش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا، اول تواریخی ہوئیں اس مگاں سے کہ حضور اپنے لئے خواتینگاری فرماتے ہیں، جب معلوم ہاکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے طلب ہے انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ! میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنابر انکار کیا، اس پر یہ آیہ کریمہ اتری، اسے سن کر دونوں بہن بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تائب ہوئے اور نکاح ہو گیا<sup>۳</sup>۔

ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عز و جل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پر خواہی نخواہی راضی ہو جائے خصوصاً جبکہ وہ اس کافونہ ہو خصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندان کو اکب ثریا سے بھی بلند وبالاتر ہو، باس ہمہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہو ایام نہ ماننے پر رب العزة جل جلالہ نے یعنیم وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض الہ کے ترک پر فرمائے جاتے

<sup>۱</sup> القرآن الكريمه ۲۹/۹

<sup>۲</sup> القرآن الكريمه ۳۶/۳۳

<sup>۳</sup> الجامع لاحکام القرآن (امام قرطی) تحت الآية ۳۶/۳۳ دار الكتاب العربي بيروت ۱۹۷۵/۱۲ والدر المنشور تحت الآية ۳۶/۳۳ دار احياء

التراث العربي بيروت ۲/۵۳۸ و ۳/۵۳۸

اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنانام اقدس بھی شامل فرمایا یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہو گئی مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلًا اختیار نہ رہا جونہ ماننے گا صریح گمراہ ہو جائے گا دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح و جائز امر تھا، وللذ ائمہ دین خدا و رسول کے فرض میں فرق فرماتے ہیں کہ خدا کیا ہوا فرض اس فرض سے اقوی ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے۔ اور ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد ہیں جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فرمادیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنی فرمادیں۔ امام عارف باللہ سید عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میزان الشریعة الکبڑی باب الوضو میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں:

<p>یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابر ائمہ میں ہیں جن کا ادب اللہ عزوجل کے ساتھ ہے نسبت اور ائمہ کے زائد ہے اسی واسطے انہوں نے وضو میں نیت کو فرض نہ کیا اور وتر کا نام واجب رکھا، یہ دونوں سنت سے ثابت ہیں نہ کہ قرآن عظیم سے، تو امام نے ان احکام سے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرض میں فرق و تمیز کر دیں اس لئے کہ خدا کا فرض کیا ہوا اس سے زیادہ مؤکد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے فرض کر دیا جبکہ اللہ عزوجل نے حضور کو اختیار دے دیا تھا کہ جس بات کو چاہیں واجب کر دیں جسے نہ چاہیں نہ کریں۔</p>	<p>کان الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اکثر الائمة ادبًا مع اللہ تعالیٰ ولذلک لم یجعل النية فرضاً وسی الوتر واجبًا لكونهما ثبتاً بالسنة لا بالكتاب فقصد بذلك تمییز ما فرضه اللہ تعالیٰ وتمییز ما اوجبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان ما فرضه اللہ تعالیٰ اشد مما فرضه رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم من ذات نفسه حين خیره اللہ تعالیٰ ان یوجب ماشاء اولاً یوجب <sup>۱</sup>۔</p>
---	--

اس میں بارگاہ و حی ولصرع احکام کی تصویر دکھا کر فرمایا:

<sup>۱</sup> میزان الشریعة الکبڑی باب الوضو دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۷۴

<p>یعنی حضرت عزت جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تھا کہ شریعت میں جو حکم چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرمادیں جس طرح حرم مکہ کے نباتات کو حرام فرمانے کی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ کائیں سے ممانعت فرمائی حضور کے پچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یار رسول اللہ! گیاہ اذخر کو اس حکم سے نکال دیجئے۔ فرمایا: اچھا نکال دی، اس کا کاشنا جائز کر دیا۔ اگر اللہ سمجھا نے حضور کو یہ رتبہ نہ دیا ہو تو تاکہ اپنی طرف سے جو شریعت چاہیں مقرر فرمائیں تو حضور ہرگز جرات نہ فرماتے کہ جو چیز خدا نے حرام کی اس میں سے کچھ مستثنی فرمادیں۔</p>	<p>کان الحق تعالیٰ جعل له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یشرع من قبل نفسه ماشاء كما في حديث تحريم شجر مكة فأن عيّه العباس رضي الله تعالیٰ عنه لما قال له يا رسول الله الا الاذخر فقال صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم الا الاذخر ولو ان الله تعالیٰ لم يجعل له ان یشرع من قبل نفسه لم یتجراً صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم ان یستثنى شيئاً مما حرم له اللہ تعالیٰ<sup>1</sup>۔</p>
---	--

اقول: یہ مضمون متعدد احادیث صحیح میں ہے:

حدیث ۱: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیحین میں:

<p>یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یار رسول اللہ! مگر اذخر کو وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ فرمایا: مگر اذخر۔</p>	<p>فقال العباس رضي الله تعالى عنه الا الاذخر لساغتنا و قبورنا، فقال الا الاذخر<sup>2</sup>۔</p>
--	---

حدیث ۲: ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نیز صحیحین میں:

<p>ایک مرد قریش نے عرض کی: مگر اذخر</p>	<p>قال رجل من قریش الا الاذخر</p>
---	-----------------------------------

<sup>1</sup> میزان الشریعة الکبیری فصل فی بیان جملة من الامثلة المحسوسة الخ دارالکتب العلمية بیروت ۲۰/۱

<sup>2</sup> صحیح بخاری، کتاب العمرۃ، باب باب لاینفر صیدالحرم قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۲۷، صحیح مسلم کتاب الحج باب تحريم مکہ الخ

قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/۳۸، ۳۳۹

یار رسول اللہ کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں صرف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مگر اذخر مگر اذخر۔	یا رسول اللہ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بَيْوَتِنَا وَقَبُورَنَا۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَذْخَرُ إِلَّا ذَخْرٌ <sup>۱</sup> ۔
--	--

حدیث ۳: صحیہ بنت شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنن ابن ماجہ میں:

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: مگر اذخر کہ وہ گھروں اور قبروں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر۔	فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّمَا نَعْهُ إِلَّا إِلَّا ذَخْرًا فَأَنَّهُ لِلْبَيْوَتِ وَالْقَبْوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَذْخَرُ <sup>۲</sup> ۔
---	--

نیز میزان مبارک میں شریعت کی کئی قسمیں کیں، ایک وہ جس پر وحی وارد ہوئی،

یعنی شریعت کی دوسری قسم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب عزوجل نے ماذون فرمادیا کہ خود اپنی رائے سے جو راہ چاہیں قائم فرمادیں، مردوں پر راشم کا پہننا حضور نے اسی طور پر حرام فرمایا اور اسی حرمت مکہ سے گیا اذخر کو استثناء فرمادیا۔ اگر اللہ عزوجل نے مکہ معظمه کی ہر جڑی بوٹی کو حرام نہ کیا ہوتا تو حضور کو اذخر کے مستثنی فرمانے کی کیا حاجت ہوتی۔ اور اسی قبیل سے ہے حضور کا ارشاد کہ اگر امت پر مشقت کا اندر یہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک ہٹا دیتا۔ اور اسی باب سے ہے کہ جب حضور نے فرض حج بیان فرمایا کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ!	الثانی ما اباح الحق تعالى لنبيه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یسنہ علی رایہ ہو کتحریم لبس الحریر على الرجال و قوله في حدیث تحريم مكة الا الاذخر ولو لا ان اللہ تعالیٰ کان یحرم جميع نبات الحرم لم یستثنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا الاذخر و نحو حدیث لو قلت نعم لوجبت ولم تستطعوا في جواب من
---	---

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب العلم بباب کتابۃ العلم تدبی کتب خانہ کراچی ۲۲/۱، صحیح مسلم کتاب الحج بباب تحريم مکہ الخ تدبی کتب خانہ

کراچی ۱/۳۹۶

<sup>۲</sup> سنن ابن ماجہ ابواب المتأسلک فضل المدينة ایچ ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۳۱

<p>کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فرمایا: نہ، اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے اور پھر تم سے نہ ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ حضور اپنی امت پر تخفیف و آسانی فرماتے اور مسائل زیادہ پوچھنے سے منع کرتے اور فرماتے ہیں مجھے چھوڑ رہو جب تک میں تمہیں چھوڑوں۔</p>	<p>قَالَ لَهُ فِي فِرِيزَةِ الْحَجَّ إِلَى عَمَرٍ يَأْرُسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَوْ قَلْتَ نَعَمْ لَوْ جَبَتْ وَقْدَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفَفُ عَلَى أَمْتَهِ وَيَنْهَا هُمْ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَيَقُولُ اتَرْ كُونَى مَاتَرْ كَنْمٌ<sup>۱</sup> أَهْبَاطَصَارَ۔</p>
--	--

اقول: یہ مضمون بھی کہ "میں نماز عشا کو موخر فرمادیتا"<sup>۱</sup> متعدد احادیث صحیح میں ہے۔

حدیث ۲: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجعم بکیر طبرانی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>اگر ضعیف کے ضعف اور مریض کے مرض کا پاس نہ ہوتا تو میں نماز عشا کو پیچھے ہٹا دیتا۔</p>	<p>لولا ضعف الضعیف و سقم السقیم لا خرت صلوٰۃ العتبیة<sup>۲</sup></p>
--	--

حدیث ۵: ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنند احمد و سنن ابی داؤد و ابن ماجہ وغیرہ میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>اگر کمزور کی نتوانی اور بیمار کے مرض اور کامی کے کام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدمی رات تک موخر فرمادیتا۔ ابن ابی حاتم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا: اگر میں اپنی امت پر بوجھ محسوس نہ کرتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک ہٹا دیتا۔ (ت)</p>	<p>لولا ضعف الضعیف و سقم السقیم و حاجة ذی الحاجة لا خرت هذه الصلوٰۃ الى شطر الليل<sup>۳</sup>۔ و رواة ابی حاتم بلفظ لولا ان يشقى على امتنا لآخرت صلوٰۃ العشاء الى ثلث الليل<sup>۴</sup>۔</p>
---	--

<sup>۱</sup> میزان الشریعة الکبیری فصل شریف فی بیان الذم من الائمه الخ دار الكتب العلمیة بیروت ۶۷

<sup>۲</sup> المعجم الکبیر عن عباس حدیث ۱۲۶۱ المکتبة الفیصلیة بیروت ۳۰۹

<sup>۳</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب وقت العشاء آفتاب عالم پرس لاهور ۲۱/۱، سنن ابین ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب وقت العشاء ایج ایم سعید کمپنی

<sup>۴</sup> کراچی ص ۵۰، مسنند احمد بن حنبل عن ابی سعید الخدری المکتب الاسلامی بیروت ۵/۳

حدیث ۶: ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد وابن ماجہ و محمد بن نصر کی روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر پنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی یا آدمی رات تک ہٹا دیتا۔	لولان اشق علی امتو لاخرت العشاء الی ثلث اللیل او نصف اللیل <sup>۱</sup> ۔
---	---

واخر جهہ ابن حجریر فقل الی نصف اللیل<sup>۲</sup>۔ (ابن حجریر نے روایت کیا، فرمایا: آدمی رات تک۔ت) اور ان کے سواحدا بیث صحیح عنقریب اسی معنی میں آتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نیز یہ مضمون کہ <sup>۱۰</sup> میں ہاں فرمادوں توجہ ہر سال فرض ہو جائے<sup>۱۱</sup> متعدد احادیث صحابہ میں ہے۔

حدیث ۷: ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند احمد و مسلم<sup>۳</sup> والنسائی (امام احمد، مسلم اور نسائی کے نزدیک۔ت)

حدیث ۸: امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہر سال فرض نہیں اور میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے۔ (اس کو احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ت)	لا ولوقلت نعم لوجبت۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ <sup>۴</sup> ۔
---	--

<sup>1</sup> سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ وقت العشاء آفتاب عالم پر لیں لاہور ص ۵۰، کنز العمال بحوالہ حم و محمد بن نصر حدیث ۱۹۳۸۲ مؤسسة

الرسالہ بیروت ۷/۳۹۹

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فرض الحج مرة في العبر قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۳۲/۱، سنن النسائی کتاب مناسک الحج باب وجوب الحج نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱/۲، مسنند احمد بن حنبل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۵۰۸/۲

<sup>4</sup> سنن الترمذی کتاب الحج باب ماجاء کم فرض الحج حدیث ۸۱۲ دار الفکر بیروت ۲۲۰/۲، سنن الترمذی کتاب التفسیر باب و من سورة المائدۃ حدیث ۳۰۶۶ دار الفکر بیروت ۵/۳۰، سنن ابن ماجہ ابواب المناسک باب فرض الحج ایضاً مسند احمد بن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۳

حدیث ۹: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے:

میں ہاں فرمادوں تو فرض ہو جائے پھر تم نہ سنونہ بجالاؤ۔ (اس کو احمد، دارمی اور نسائی نے روایت کیا۔ ت)	لو قلت نعم لو جبت ثم اذا لاتسعنون ولا تطعون رواه احمد <sup>1</sup> والدارمی والننسائی۔
---	---

حدیث ۱۰: انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے:

اگر میں ہاں فرمادوں تو واجب ہو جائے اور اگر واجب ہو جائے تو بجانہ لاو اور اگر بجانہ لاو تو عذاب کئے جاؤ (اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ت)	لو قلت نعم لو جبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتكم۔ روہ ابن ماجہ <sup>2</sup>
--	--

اور مضمون اخیر کہ "مجھے چھوڑ رہو" یہ بھی صحیح مسلم و سنن نسائی میں اسی حدیث ابو ہریرہ کے ساتھ ہے کہ فرمایا:

اگر میں فرماتا ہاں، تو ہر سال واجب ہو جاتا اور پیش کر سکتے۔	لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم۔
---	---------------------------------

پھر فرمایا:

مجھے چھوڑ رہو جب تک میں تمہیں چھوڑوں کہ اگلی امتیں اسی کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے خلاف مراد چلنے سے ہلاک ہو سکیں تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم فرماؤں تو جتنی ہو سکے	ذروني ما تر كتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على انبياائهم فإذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا انهيتكم
---	--

<sup>1</sup> سنن النسائی کتاب مناسک الحج باب وجوب الحج نور محمد کارخانہ کراچی ۲/۱، سنن الدارمی کتاب مناسک الحج باب کیف وجوب الحج

دارالمحاسن للطباعة القاهرة ۲/۲۶۳، مسنداً احمد بن حنبل عن ابن عباس المكتب الاسلامي بيروت ۱/۵۵۵

<sup>2</sup> سنن ابن ماجہ باب مناسک باب فرض الحج ایچ ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۳

بجالاً واجب بات سے منع فرماؤں تو اسے چھوڑ دو۔ (اس کو تہا ابن ماجہ نے ہی روایت کیا۔ ت)	عن شیعی فدعوہ۔ رواہ ابن ماجہ <sup>۱</sup> مفرد۔
---	---

یعنی جس بات میں میں تم پر وجوب یا حرمت کا حکم نہ کروں اسے کھوڈ کرنے پوچھو کہ پھر واجب حرام کا حکم فرمادوں تو تم پر تنگی ہو جائے۔

یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کا نہ حکم دیا نہ منع فرمایا وہ مباح و بلاحرج ہے۔ وہابی اسی اصل اصول سے جاہل ہو کر ہر جگہ پوچھتے ہیں خداور رسول نے اس کا کہاں حکم دیا ہے۔ ان احتجاجوں کو اتنا ہی جواب کافی ہے کہ خداور رسول نے کہاں منع کیا ہے، جب حکم نہ دیا نہ منع کیا تو جواز رہا، تم جو ایسے کاموں کو منع کرتے ہو اللہ و رسول پر افترا کرتے بلکہ خود شارع بنتے ہو کہ شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں اور تم منع کر رہے ہو۔ مجلس میلاد مبارک و قیام وفات و سوم وغیرہ مسائل پر بعثت و بابیہ سب اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔ علیٰ حضرت حجۃ الغلط بقیۃ السلف خاتمة المحتسبین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد نے کتاب مستقطب اصول الرشاد لفیلم مبانی الفساد میں اس کا بیان اعلیٰ درجہ کاروشن فرمایا ہے۔ فنور اللہ منزلہ وَا كرمن عنده نزلہ أَمِين۔ امام احمد قسطلانی مواہب الدینیہ شریف میں فرماتے ہیں:

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے ہیں متین فرمادیتے۔	من خصائصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه کان یخص من شاء بیأشاء من الاحکام <sup>۲</sup>
--	---

علامہ زرقانی نے شرح میں بڑھایا: علامہ زرقانی نے شرح میں بڑھایا: من الاحکام وغیرہا۔ کچھ احکام ہی کی خصوصیت نہیں حضور جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں<sup>۳</sup> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فرض الحج مرتبہ العبر قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۳۲/۱، سنن النسائی کتاب مناسبات الحج باب وجوب الحج نور محمد کارخانہ کراچی ۱/۲، سنن ابن ماجہ باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایم سعید کمپنی کراچی ص ۲

<sup>۲</sup> المواہب الدینیۃ المقصد الرابع الفصل الثانی المكتب الاسلامی بیروت ۲۸۹/۲

<sup>۳</sup> شرح الزرقانی علی المواہب الدینیۃ المقصد الرابع دار المعرفة بیروت ۵/۳۲۲

امام جلیل جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے خصائص الکبیری شریف میں ایک باب وضع فرمایا:

باب اختصاصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانہ یخص	باب اس بیان کا کہ خاص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔
من شاء بیاشاء من الاحکام <sup>۱</sup> ۔	

امام قسطلانی نے اس کی نظر میں پانچ واقعے ذکر کئے اور امام سیوطی نے دس، پانچ وہ اور پانچ اور۔ فقیر نے ان زیادات سے تین واقعے ترک کر دئے اور پندرہ اور سترھائے، اور ان کی احادیث بتوفیق اللہ تعالیٰ جمع کیں کہ جملہ باعثیں<sup>۲</sup> واقعے ہوئے و اللہ الحمد ان کی تفصیل اور ہر واقعے پر حدیث سے دلیل سنئے:

حدیث صحیحین<sup>۳</sup> میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان کے ماموں ابوبردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں عرض کی: یا رسول اللہ وہ تو میں کرچکا ب میرے پاس چھ<sup>۴</sup> مہینے کا بکری کا پچھے ہے مگر سال بھروسے اچھا ہے۔ فرمایا:

اجعلها مکانہا ولن تجزی عن احد بعدك <sup>۵</sup> ۔	اس کی جگہ اسے کر دو اور ہر گز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔
---	--

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے نیچے ہے:

خصوصیہ لہ لا تکون لغیرہ اذکان لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یخص من شاء بیاشاء من الاحکام <sup>۶</sup> ۔	یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ابوبردہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔
---	---

<sup>۱</sup> الخصائص الکبیری باب اختصاصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانہ یخص من شاء الخ مرکز اہلسنت گجرات الہند ۲۶۲/۲

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب العیدین باب الخطبة بعد العید قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۳۲/۱، صحیح مسلم کتاب الاضای باب وقتہا قریبی کتب خانہ کراچی ۱۵۳/۲

<sup>۳</sup> ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کتاب العیدین حدیث ۹۶۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲۷/۲

نیز حدیث<sup>۱</sup> صحیحین میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قربانی کے لئے جانور عطا فرمائے ان کے حصے میں ششماہہ بکری آئی حضور سے حال عرض کیا۔ فرمایا:  
صَحِّ بِهَا<sup>۲</sup>۔ تم اسی کی قربانی کر دو۔ سنن بیہقی میں بسند صحیح اتنا اور زائد ہے:

تمہارے بعد اور کسی کے لیے اس میں رخصت نہیں۔	ولار خاصۃ فیہا لاحد بعدك <sup>۲</sup> ۔
---	---

شیخ محقق اشیعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں:

قول صحیح کے مطابق احکام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد تھے۔ (ت)	احکام مفوض بود بوبے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بر قول صحیح <sup>۳</sup> ۔
---	--

حدیث "صحیح مسلم میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے جب بیعت زنان کی آیت اتری اور اس میں ہرگناہ سے بچنے کی شرط تھی کہ لا یعصینک فی معروف، اور مردے پر بین کر کے رونا چیخا بھی گناہ تھا میں نے عرض کی:

یار رسول اللہ! فلاں گھروالوں کو استثناء فرماد تھے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا تو مجھے ان کی میت پر نوٹے میں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ مستثنی کر دیے۔	یار رسول اللہ الا آل فلان فانہم كانوا اسعد و نی ف الجاهلیة فلا بد لی من ان اسعدہم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا آل فلان <sup>۴</sup> ۔
--	--

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الا ضای باب قسمۃ الا ضای بین الناس قریبی کتب خانہ کراچی ۸۳۲/۲، صحیح مسلم کتاب الا ضای باب سن

الاضحیہ قدری کتب خانہ کراچی ۱۵۵/۲

<sup>2</sup> السنن الکبریٰ للبیہقیٰ کتاب الضحاہیٰ باب لایجزی الجنع الخ دار صادر بیروت ۲۷۰/۹، کنز العمال حدیث ۱۲۲۵۲ مؤسسة الرسالہ

بیروت ۱۰۵/۵

<sup>3</sup> اشعه اللمعات شرح المشکوٰۃ باب الا ضحیۃ الفصل الاول مکتبۃ نوریہ رضویہ سکھر ۶۰۹/۱

<sup>4</sup> صحیح مسلم کتاب الجنائز فصل فی نهی النساء عن النياحة قریبی کتب خانہ کراچی ۳۰۳/۱

اور سنن نسائی میں ارشاد فرمایا: اذْ هُبِیْ فَاسْعِدْ يَهَا۔ جاَانَ كَا سَا تَحْ دَے آ۔  
یہ گئیں اور ہاں نوحہ کر کے پھر واپس آ کر بیعت کی<sup>۱</sup>۔

ترمذی کی روایت میں ہے: فاذن لہا<sup>۲</sup>۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نوحہ کی اجازت دے دی۔  
مسند احمد میں ہے، فرمایا: اذْ هُبِیْ فَكَافِيْهِمْ<sup>۳</sup>۔ جاَانَ كَا بَدْلَه اتَّارَآ وَ۔

امام نووی اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں یہ حضور نے خاص رخصت ام عطیہ کو دے دی تھی خاص آل فلاں کے بارے میں  
وللشارع ان یخص من العبوم ماشاء<sup>۴</sup>۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہے خاص فرمادیں۔  
یہی مضمون حديث<sup>۵</sup> ابن مردویہ میں عبد اللہ ابن عباس سے خواہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما سے ہے:

اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ جالبیت میں میرا باپ اور بھائی فوت ہوئے تو فلاں عورت نے میرا ساتھ دیا تھا اور اب اس کا بھائی فوت ہوا ہے۔ (ت)	انہا قالت یا رسول اللہ کان ابی و اخی ماتا فی الجاہلیة و ان فلانة اسعدتني و قد مات اخوها الحدیث <sup>۶</sup> ۔
--	--

حدیث ۱۳: ترمذی میں اسلام بنت دیزید انصاری رضی اللہ عنہما سے ہے انہوں نے بھی ایک نوحہ کا بدلہ اتنا نے کی اجازت مانگی  
حضرور نے انکار فرمایا،

میں نے کئی بار حضور سے عرض کی، آخر حضور نے اجازت دے دی۔ پھر میں نے کہیں نوحہ نہ کیا۔	قالت فراجعته مراراً فاذن لی ثم لم انح بعد ذلك <sup>۷</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> سنن النسائی کتاب البيعة باب بيعة النساء نور محمد کارخانہ کراچی ۱۸۳/۲

<sup>۲</sup> سنن الترمذی کتاب التفسیر تحت الآية ۱۲/۲۰ حدیث ۳۳۱۸ دار الفکر بیروت ۲۰۲/۵

<sup>۳</sup> مسند احمد بن حنبل ۲/۳۰۸ و ۳۰۷ والدر المنشور تحت الآية ۱۲/۲۰ بیروت ۱۳۳/۸

<sup>۴</sup> شرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم کتاب الجنائز فصل في نهي النساء عن النياحة قد کتب خانہ کراچی ۱/۳۰۳

<sup>۵</sup>

<sup>۶</sup> سنن الترمذی کتاب التفسیر سورۃ المتنحنة حدیث ۳۳۱۸ دار الفکر بیروت ۲۰۲/۵

حدیث ۱۷: احمد طبرانی میں مصعب بن نوح سے ہے ایک بڑی بیوی نے وقت بیعت نوہ کا بدلہ اتارے کا اذن چاہا، فرمایا:  
اذھبی فکافیهم<sup>۱</sup> - جاؤ عوض کر آؤ۔

میں کہتا ہوں ظاہر ہے کہ ہر رخصت صاحت رخصت کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہوتی۔ چنانچہ جو ہم نے ذکر کیا اس کی وجہ سے امام نووی کے قول کا انکار نہیں ہوتا کہ پیشک یہ بطور خاص آل فلاں کے بارے میں ام عطیہ کو رخصت دینے پر محمول ہے۔ اور اسکی مثل سے قربانی کے بارے میں ابو بردہ اور عقبہ کی حدیثوں میں واقع تعارض کا اشکال بھی مندفع ہو جاتا ہے خصوصاً اس زیادتی کے ساتھ جو بیہقی میں مذکور ہے کہ پیشک یہ حکم ہے خبر نہیں ہے اور اس میں شک نہیں کہ شارع علیہ السلام نے جب ابو بردہ کو مختص فرمایا تو ان کے ماسواہ ایک عدم اجزاء کے عموم میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح جب عقبہ کو خاص فرمایا تو ہر مرتبہ یہ بات صادق آئی کہ تیرے بعد ہر گز یہ کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا، تو سمجھ لے، تحقیق بہت سے علماء پر یہ بات مخفی رہی۔ (ت)

اقول: فظاہر ان کلار خصّة تختص بصاحبته لا شرکة فيها لغيرها فلا ينكر بما ذكرنا على قول النووي ان هذا محمول على الترجيح لام عطية في الـ فلان خاصة وبمثله يندفع ما استشكلوا من التعارض في حديثي التضحية لابي بردة وعقبة لاسيما مع زيادة البيهقي المذكورة فإنه حكم لا خبر ولا شك ان الشارع اذا خص ابا بردة كان كل من سواه داخل في عموم عدم الاجزاء وكذا حين خص عقبة فصدق في كل مرة لن تجزى احداً بعد فافهم فقد خفى على كثير من الاعلام۔

حدیث ۱۵: طبقات ابن سعد میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے جب ان کے

عہ: محمل ہے کہ یہ بی بی ام عطیہ ہوں لہذا اتعہ جدا گانہ نہ شمار ہوا ۱۲۱۴ مس

<sup>۱</sup> الدر المنشور بحواله احمد وغیره الآية ۶۰/۱۲ ادار احیاء التراث العربي بیروت ۸/۳۳۱

شوہر اول جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

تسلبیٰ ثالثاً مَا شئت <sup>۱</sup>	تین دن سنگار سے الگ رہو پھر جو چاہو کرو۔
------------------------------------	--

یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس حکمِ عام سے استثناء فرمادیا کہ عورت کو شوہر پر چار مہینے و سو دن سوگ واجب ہے۔

حدیث ۱۶: ابن السکن میں ابو نعمان ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ایک شخص نے ایک عورت کو پیام نکاح دیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مہر دو۔ عرض کی: میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا:

کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی سورت نہیں آتی، وہ سورۃ سکھانا ہی اس کا مہر کر، اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔ (اس کو سعید بن منصور نے مختصر اگر وایت کیا ت)	اما تحسن سورۃ من القرآن فاصدقها السورة ولا یکون لاحد بعدك مهراً <sup>۲</sup> - رواہ سعید بن منصور مختصراً۔
---	--

حدیث ۱۷: ابی داؤد ونسائی و طحاوی وابن ماجہ و خزیمہ میں عم عمارہ بن خزیمہ بن ثابت النصاری اور حدیث<sup>۱۸</sup> مصنف ابن ابی شیبہ و تاریخ بخاری و مسنداً بیلی و صحیح ابن خزیمہ و مجمع کبیر طبرانی میں حضرت خزیمہ اور حدیث<sup>۱۹</sup> حارث بن اسامہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا وہ نیچ کر کر گیا اور گواہ مانگا، جو مسلمان آتا اعرابی کو جھڑکتا کہ خرابی ہوتی رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے (مگر گواہی نہیں دیتا کہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ تھا) اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے گفتگو سن کر بولے: انا اشهد انک قد بایعته میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔

<sup>۱</sup> الطبقات الکبیریٰ لابن سعد ذکر جعفر بن ابی طالب دار صادر بیروت ۳/۱، کنز العمال حدیث ۲۸۰، مؤسسة الرسالہ بیروت ۹/۵۰۶

<sup>۲</sup> الاصابة في تبيين الصحابة ترجمہ ابو التعبان الازدي دار الفکر بیروت ۲/۲۷۴

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم موجود تو تھے ہی نہیں تم نے گواہی کیسے دی؟ عرض کی:

<p>یار رسول اللہ! میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا یا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں۔</p>	<p>بتصدقک یا رسول اللہ<sup>1</sup> (وفی الشانی) صدقتك بما جئت به وعلمت انک لاتقول الا حقا<sup>2</sup> (وفی الثالث) انا اصدقک على خبر السماء والارض الا اصدقک على الاعرابی<sup>3</sup>۔</p>
--	--

اس کے انعام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی گواہی دو مرد کی شہادت کے برابر فرمادی اور ارشاد فرمایا:

<p>خریبہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انہیں کی شہادت بس ہے۔</p>	<p>من شهد له خزیمة او شهد عليه فحسبه<sup>4</sup>۔</p>
--	---

ان احادیث سے ثابت کہ حضور نے قرآن عظیم کے حکم عام "وَأَشْهِدُوا ذَوَيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ"<sup>5</sup>۔ (اور اپنے میں دو لفظ کو گواہ کرلو۔) سے خریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنی فرمادیا۔

حدیث ۲۰: صحاح ستہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں

<sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب القضاء باب اذا علم الحاکم صدق الحال آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۵۲/۲ او شرح معانی الائکر کتاب القضاء والشهادات حدیث کفایة شہادۃ خزیمة الخ ایضاً مسید کبینی کراچی ۳۱۰/۲

<sup>2</sup> کنز العمال بحوالہ ع حدیث ۳۰۳۷ مؤسسة الرسالہ بیروت ۸/۳۷ و المعجم الكبير حدیث ۳۰۳۷ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۸/۳۷ و اسد الغابۃ ترجمہ بن ثابت دار الفکر بیروت ۱۳۲۶

<sup>3</sup> کنز العمال حدیث ۳۰۳۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۸/۳۷

<sup>4</sup> المعجم الكبير عن خزیمة حدیث ۳۰۳۷ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۸/۳۷ و کنز العمال بحوالہ مسنند ابی یعلی وغیرہ حدیث ۳۰۳۸ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۸۰/۳

<sup>5</sup> القرآن الکریم ۲/۲۵

حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزدیکی کی۔ فرمایا: غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی: نہ فرمایا: لگتا ر دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی: نہ۔ فرمایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی: نہ۔ اتنے میں خرے خدمت اقدس میں لائے گئے حضور نے فرمایا: انہیں خیرات کر دے۔ عرض کی: اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر؟ مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں۔

<p><b>فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقت</b></p> <p>رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسنے بیہاں تک کہ دنداں مبارک ظاہر ہوئے، اور فرمایا: جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔</p>	<p><b>نواجذہ و قال اذهب فاطعہ اہلک<sup>۱</sup></b></p>
---	--

مسلمانوں اگناہ کا ایسا کفارہ کسی نے بھی نہ سنا ہوا سادو من خرے سرکار سے عطا ہوتے ہیں کہ آپ کھالو، کفارہ ہو گیا۔ وَاللّهِ يَعْلَمُ  
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دے، ہاں ہاں یہ بارگاہ نیکس پناہ "فَأَوْلَئِكَ  
يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِ<sup>۲</sup>" (توایسوں کی برائیوں کو اللہ بخلائیوں سے بدل دے گا۔ ت) کی

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الصوم باب اذا جامع في رمضان الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۵۹، صحیح البخاری کتاب الہمۃ باب اذا وہب هبة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۵۳، صحیح مسلم کتاب الصیام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۵۲، سنن الترمذی کتاب الصوم باب ما جاء في كفارۃ القطر الخ حدیث ۷۲۷ قدیمی کتب خانہ کراچی ۷۵/۲، سنن ابن داؤد کتاب الصیام باب كفارۃ من ائمۃ اهلہ فی رمضان آفتقب عالم پر لیں لاہور ۳۲۵، سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء في الصیام باب ما جاء في كفارۃ من ائمۃ الخ ائمۃ عیید کمپنی کراچی ص ۱۲۱، مسند احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۸۱/۲، مسند الدارمی کتاب الصیام باب الذی یقع علی امرؤته فی شهر رمضان دار المحسن للطباعة قاهرۃ ۳۳۳ و ۳۳۴، سنن الدارقطنی کتاب الصیام باب القبلة للصائم حدیث ۳۶۷ دار المعرفۃ بیروت ۳۱۰/۲، سنن الدارقطنی کتاب الصیام باب القبلة للصائم حدیث ۲۲۷/۲۳۶۲۲/۲۳۶۲۳ دار المعرفۃ بیروت ۳۲۶/۲، السنن الکبری کتاب الصیام باب کفارۃ من ائمۃ اہلہ فی نهار رمضان دار صادر بیروت ۲۲۱/۲۲۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۵/۴۰

خلافت کبریٰ ہے، ان کی ایک نگاہ کرم بہادر کو حنات کر دیتی ہے جب تو احمد الرحمین جل جلالہ نے گناہگاروں، خطوازوں، تباہ کاروں کو ان کا دروازہ بتایا کہ:

گناہگار تیرے دربار میں حاضر ہو کر معافی چاہیں اور تو شفاعت فرمائے تو خدا کو توبہ قبول کرنے والامہربان پائیں۔	<b>وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ "الآلية" ۱۔</b>
--	--

والحمد لله رب العالمين۔

یہی مضمون حدیث<sup>۲۱</sup> مسلم میں ام المومنین صدیقہ<sup>۲</sup> رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حدیث<sup>۲۲</sup> مند بزار و مجتمع اوسط طبرانی میں عبد اللہ بن عمر<sup>۳</sup> رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔

حدیث<sup>۲۳</sup>: دارقطنی میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے ہے، ارشاد فرمایا:

تو اور تیرے اہل و عیال یہ خُرے کھالیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔	<b>کل انت و عیالك فقد كفر الله عنك ۴۔</b>
---	---

ہر ایہ میں ہے، فرمایا:

تو اور تیرے بچے کھالیں تجھے کفارے سے کفایت کرے گا اور تیرے بعد اور کسی کو کافی نہ ہو گا۔	<b>کل انت و عیالك تجزئك ولا تجزئي احدا بعدهك ۵۔</b>
--	---

سنن ابی داؤد میں امام شہاب زہری تابعی سے ہے:

یہ خاص اسی شخص کے لئے رحمت تھی آج کوئی ایسا کرے تو کفارہ سے چارہ نہیں۔	<b>انما كان هذة رخصة له خاصة ولو ان رجل فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير<sup>۶</sup>۔</b>
--	--

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۲۳/۳

<sup>۲</sup> صحیح مسلم کتاب الصیام باب تغليظ تحريم الجماع فی نهار رمضان قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۵۵

<sup>۳</sup> مجمع الزوائد بحوالہ ابو یعلیٰ کتاب الصیام باب فی من افطر الخ دارالکتاب بیروت ۱۹۸۱/۳

<sup>۴</sup> سنن الدارقطنیٰ کتاب الصیام باب السواک للصائم حدیث ۲۱/۲۳۶۱ دارالمعرفۃ بیروت ۳۳۸/۲

<sup>۵</sup> الہادیۃ کتاب الصوم باب ما یوجب القضاء والکفارۃ المکتبۃ العربیۃ کراچی ۲۰۰۱/۱

<sup>۶</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصیام باب من اتی اهله فی رمضان آفتاب عالم پر لیں لاہور ۳۲۵/۱

امام جلال الدین سیوطی وغیرہ علماء نے بھی اسے خصائص مذکورہ سے گناہی الحدیث وجوہ اخیر۔

حدیث ۲۴: صحیح مسلم و سنن نسائی و ابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینت بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ابو حذیفہ کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی: یا رسول اللہ! سالم (غلام آزاد کر دہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما) میرے سامنے آتا جاتا ہے اودہ جوان ہے ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ارضعیہ حتیٰ یدخل عليك تم اسے دودھ پلا دو کہ بے پردہ تمہارے پاس آنا جائز ہو جائے۔ ام المومنین ام سلمہ وغیرہ باقی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے فرمایا:

مائری ہذہ الا رخصة ارخصها رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لسالم خاصة۔ <sup>1</sup>
بھار ایکی اعتقاد ہے کہ یہ رخصت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص سالم کے لیے فرمادی تھی۔

حدیث ۲۵: ابن سعد و حاکم میں بطريق عمرہ بنت عبد الرحمن خود سلمہ زوجہ ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مضمون مذکور، مردی کہ انہوں نے جب حال سالم عرض کیا فاما رہا ان ترضعیہ<sup>2</sup> حضور نے دودھ پلا دینے کا حکم فرمایا، انہوں نے دودھ پلا دیا اور سالم اس وقت مرد جوان تھے جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ جوان آدمی کو اول تو عورت کا دودھ پینا ہی کب حلال ہے پئے تو اس سے پس رضاع نہیں ہو سکتا مگر حضور نے ان حکموں سے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنی فرمادیا۔

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الرضاع فصل رضاعة الكبير قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۲۶۹، سنن النسائی کتاب النکاح باب رضاع الكبير نور محمد کارخانہ کراچی ۲/۸۳، سنن ابن ماجہ ابوبالنکاح باب رضاع الكبير ایم سعید کمپنی کراچی ص ۱۳۱، مسند احمد بن حنبل عن عائشہ رضی اللہ عنہما المكتب الاسلامی بیروت ۲/۳۹۷ و ۳/۲۹۷، مسند احمد بن حنبل حدیث سهلۃ امرأۃ حذیفہ رضی اللہ عنہما المكتب الاسلامی بیروت

<sup>2</sup> الطبقات الكبيری لابن سعد ذکر سالم موی ابی حذیفہ دار صادر بیروت ۳/۸۶ و ۷/۸۶، المستدرک للحاکم کتاب معرفة الصحابة الرضاع فی الكبير الخ دار الفکر بیروت ۳/۶۱

## حدیث ۲۶: صحابہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے:

یعنی عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدن میں خشک خارش تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔	ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رخس لعبد الرحمن بن عوفِ والزبیر فی لبس الحریر لحکمة کانت بهما <sup>۱</sup>
---	---

حدیث ۲۷: ترمذی والبویعلی و یہقی میں ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے فرمایا:

ای علی! میرے اور تمہارے سوا کسی کو حلال نہیں کہ اس مسجد میں بحال جنابت داخل ہو۔	یا علی لا يحل ل أحد ان يجنب في هذَا المسجد غیري وغيرك <sup>۲</sup>
---	--

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے<sup>۳</sup>

حدیث ۲۸: متدرک حاکم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: علی کو تین باتیں وہ دی گئیں کہ ان میں سے میرے لئے ایک ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی۔ (سرخ اونٹ عزیزترین اموال عرب ہیں) کسی نے کہا: امیر المومنین! وہ کیا ہیں؟ فرمایا: دفتر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتابلباس باب ما یحر خص للرجال الخ تدی کتب خانہ کراچی ۸۲۸/۲، صحیح مسلم کتابلباس باب اباحة لبس الحریر للرجال الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۳/۲، سنن ابن داؤد کتابلباس باب لبس الحریر لعدذر آفتاب عالم پر یہ لامہ لامہ ۲۰۵/۲ سنن ابن ماجہ کتابلباس باب من رخس له فی لبس الحریر ایجع ایم سعید کمپنی کراچی ص ۲۲۵، سنن النساءی کتاب الزینۃ باب الرخصة فی لبس الحریر نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۲۹۷/۲، مسند احمد بن حنبل عن انس المکتب الاسلامی بیروت ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۹۲، ۲۱۵، ۲۵۵

<sup>۲</sup> سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب دار الفکر بیروت ۳۰۸/۵، مسند ابن یعلی عن ابی سعید الخدری حدیث ۱۰۳۸ مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۳/۲، السنن الکبیری للبیهقی کتاب النکاح باب دخوله المسجد جنباً دار صادر بیروت ۷/۲۶

<sup>۳</sup> سنن الترمذی کتاب المناقب حدیث ۳۷ دار الفکر بیروت ۵/۰۹۰

شادی و سکناہ المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یحل لہ ما یحل لہ اور ان کا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کہ انہیں مسجد میں روا تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روا تھا (یعنی بحالت جنابت رہنا) اور روز خیر کا نشان<sup>۱</sup>۔

حدیث ۲۹: مجمع بکر طبرانی و سنن یہیقی و تاریخ ابن عساکر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>سن لو یہ مسجد کسی جنب کو حلال نہیں ہے نہ کسی حاضر کو، مگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی ازواج مطہرات و حضرت بقول زہر اور مولا علی کو، صلی اللہ تعالیٰ علی الحبیب و علیہم وسلم۔ سن لو میں نے تم سے صاف بیان فرمادیا کہ کہیں بہک نہ جاؤ (یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ت)</p>	<p>الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحاضر الا للنبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ازواجه و فاطمة بنت محمد وعلى الا بینت لكم ان تضلوا - هذا رواية الطبراني<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

حدیث ۳۰: صحیحین میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے:

<p>ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔</p>	<p>نهانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن خاتم الذهب<sup>۳</sup>۔</p>
---	---

باہی ہمہ خود براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی طلبائی پہنتے۔ ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح ابو سحق اسفرائی سے روایت کی:

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم کتاب معرفة الصحابة سدواهذا الابواب الابواب على دار الفکر بیروت ۱۲۵/۳

<sup>۲</sup> المعجم الكبير عن ام سلمة رضي الله عنها حدیث ۸۸۳ المكتبة الفیصلیة بیروت ۳/۲۷۳، السنن الكبير کتاب النکاح باب دخوله المسجد جنباً دار صادر بیروت ۷/۲۵، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۵۰۴ علی ابن ابی طالب دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۰۸/۳۵

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الملباب باب تحریر استعمال اماء الذهب الخ قدری کتب خانہ کراچی ۱/۸۸، صحیح البخاری کتاب الملباب باب خواتیم الذهب الخ قدری کتب خانہ کراچی ۲/۸۷

<p>فرمایا: میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔ ایسے ہی بغوی نے جعدیات میں شعبہ سے انہوں نے ابی اسحق سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>قال رأيت على البراء خاتما من ذهب<sup>۱</sup> - وروى نحوة البغوی في الجعدیات عن شعبة عن ابی اسحق۔</p>
---	---

امام احمد مند میں فرماتے ہیں:

<p>یعنی محمد بن مالک نے کہا میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا لوگ ان سے کہتے تھے آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے حضور کے سامنے اموال غنیمت غلام و متاع حاضر تھے حضور تقسیم فرمادی ہے تھے سب اونٹ بانٹ چکے یہ انگوٹھی باقی رہ گئی حضور نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے اصحاب کرام کو دیکھا پھر نگاہ پیچی کر لی پھر انظر اٹھا کر ملاحظہ فرمایا پھر نگاہ پیچی کر لی پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بلا یا اے براء! میں حاضر ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا سید اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی لے کر میری کلائی تھامی، پھر فرمایا پہن لے جو کچھ تھے اللہ رسول پہناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا أبو رجاء ثمأحمد بن مالك قال رأيت على البراء خاتما من ذهب وكان الناس يقولون له لم تختتم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبين يديه غنية يقسمها سبی وخرثی قال فقسیها حتى بقى هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه ثم خفض ثم طرفه فنظر اليهم قال ای براء فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال خذالبس ماكساك الله ورسوله<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے: تم لوگ کیوں نکر مجھے کہتے ہو کہ میں وہ چیز اپنارہاں جسے مصطفیٰ صلی اللہ

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شيبة کتاباللباسالخ نمبر ۲۲ حدیث ۲۵۱۲۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۵/۱۹۵

<sup>۲</sup> مستند احمد بن حنبل حدیث البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳/۲۹۳

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے پہن لے جو کچھ اللہ و رسول نے پہنایا، حمل جلالہ، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔  
حدیث ۳۱: دلائل النبوة تبیہی میں بطريق الحسن مروی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراقة بن ماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

وہ وقت تیرا کیسا وقت ہو گا جب تجھے کسری بادشاہ ایران کے لئگن پہنانے جائیں گے۔	کیف بلکہ اذا بلست سواری کسری۔
---	-------------------------------

جب ایران زمانہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتح ہوا اور کسری کے لئگن، کمر بند، تاج خدمت و فاروقی میں حاضر کئے گئے امیر المومنین نے انہیں پہنانے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا:

<p>الله بہت بڑا ہے سب خوبیاں اللہ کو جس نے یہ لئگن کسری بن ہرمز سے چھینیں اور سراقة دہقانی کو پہنانے۔</p> <p>علامہ زرقانی نے فرمایا اس سے سونے کو استعمال کرنا لازم نہیں آیا حالانکہ وہ حرام ہے، کیونکہ امیر المومنین کا یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجذہ کی تحقیق کے لئے تھا، اس فعل کو برقرار نہیں رکھا۔ مروی ہے کہ آپ نے سراقة کو حکم دیا انہوں نے وہ لئگن اتار دیئے اور آپ نے انہیں مال غیبت میں شامل فرمادیا اور اس کو استعمال شمار نہیں کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں اے فاضل کبیر الشان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجذہ تو رسول اللہ صلی اللہ</p>	<p>الله اکبر الحمد لله الذی سلبہمَا کسری بن هرمزا البسہمَا سراقة الاعرابی<sup>۱</sup>۔</p> <p>قال العلامة الزرقانی ليس في هذا استعمال الذهب وهو حرام لانه، إنما فعله تحقيق المعجزة الرسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم من غير ان يقرها فانه روى انه امره فنزعهما وجعلهما في الغنية ومثل هذا لا يعد استعمالاً<sup>۲</sup>۔</p> <p>اقول: رحمة الله من فاضل كبار الشان إنما المعجزة</p>
---	---

<sup>۱</sup> دلائل النبوة للبیهقی باب قول الله عزوجل وعد الله الذين أمنوا الخ دار الكتب العلمية بيروت ۳۲۵/۶

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی على المواهب المقصد الثالث من الفصل الثالث دار المعرفة بيروت ۷/۸۰۲

تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بات کی خبر دینا ہے کہ سرaque کسری کے لگن پہنے گا۔ چنانچہ اس کا تحقیق تو ان کے لگن پہنے سے ہو گیا، اور بے شک حرام پہننا ہے اور حرمت کی شرط لبٹ ہے۔ پس واضح ہے کہ یہ سرaque کے لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رخصت و تخصیص ہے۔ اور حدیث میں تمیلک پر دلالت نہیں چنانچہ امیر المؤمنین نے وہ کام کا یہ جس کی طرف حدیث نے راہنمائی فرمائی، پھر ان سنگنوں کو ان کی جگہ کی طرف لوٹادیا۔ (ت)

اخبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانہ سواری کسری فانیا تحقیقاً بلبسہ وانیا حرام للبس و من شرط الحرمة للبیث فالو اضع ما جنحت الیه من ان هذا تر خیص و تخصیص من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لسرقة ولم يكن في الحديث مایدل على التمیلک فعل امیر المؤمنین ما ارشد الیه الحديث ثم ردہما مردہما۔

حدیث ۳۲: طبقات ابن سعد میں منذر ثوری سے ہے امیر المؤمنین علی و حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کچھ گفتگو ہوئی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے (اپنے بیٹے محمد بن حفیہ ابوالقاسم) کا نام بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پر رکھا اور کہت عہ بھی حضور کی، حالانکہ سید عالم صلی اللہ

عہ: شیخ محقق اشیعۃ المیعات میں فرماتے ہیں:

علماء راوریں مسئلہ اقوال ست و قول صواب ازیں مقالات آنسٹ کہ تسمیہ بنام شریف وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز بلکہ مستحب ست و یعنی بکنیت وے اگرچہ بعد از زمان توی تروخت تربود و ہمچیں جمع کردن میان نام و کہت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منوع بطریق اولی و آنکہ علی مرتفع کرد مخصوص بود بوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیر او را جائز نبود<sup>۱</sup> لکن فی غیر کو ایسا کرنا جائز نہیں اھ۔ (باقی بر صحیح آئیدہ)

<sup>۱</sup> اشیعۃ المیعات کتاب الادب باب الاسماعی الفصل الاول مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۳۵/۳، ۳۲

تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ایک جماعت قریش کو بلا کر گوای  
دولائی کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین سے ارشاد فرمایا تھا:

<p>عنقریب میرے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکا ہو گا میں نے اسے اپنے نام و کنیت دونوں عطا فرمادئے اور اس کے بعد میرے کسی اور امتی کو حلال نہیں۔</p>	<p>سیول للک بعدی غلام فقد نحلته اسی و کنیتی ولا نحل لاحدٰ من امتی بعده۔</p>
---	---

مولانا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں:

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! حضور کے	قلت یا رسول اللہ ان ولدی
<p>لیکن تنویر میں ہے کہ جس کا نام محمد ہواں کے لیے ابو القاسم کہیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں اہ اور در میں نسخہ نبی کے ساتھ اسکی علت بیان کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے استدال کرتے ہوئے۔</p> <p>میں کہتا ہوں کہ کیسے مفید ہے نسخہ خود نفس حدیث کے ہوتے ہوئے کہ پیشک یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رخصت ہے جیسا کہ عنقریب آیا گا۔ اگرچہ مقصود زیادہ تفصیل کا مقتضی ہے مگر غربات اس مقام کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)</p>	<p>(ابقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)</p> <p>التنویر من کان اسمہ محمد لاباس بان یکنی ابا القاسم اہ<sup>۱</sup> - وعلله في الدر<sup>۲</sup> - بنسخ النہی محتاجاً بفعل علی رضی اللہ تعالیٰ عنه۔</p> <p>اقول: وكيف يغيد النسخ مع نص الحديث نفسه ان ذلك كان رخصة من النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعل کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کیا سیأقی والمرام يحتاج الى زيادة تحری لا ییر خص فیه غرابة المقام واللہ تعالیٰ اعلم ۲ امنہ۔</p>

<sup>۱</sup> الدر المختار شرح تنویر الابصار کتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع مجتبی دہلی ۲۵۲/۲

<sup>۲</sup> الدر المختار شرح تنویر الابصار کتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع مجتبی دہلی ۲۵۲/۲

بعد اگر میرے کوئی لڑکا پیدا ہوا تو میں حضور کا نام پاک اس کا نام رکھوں اور حضور کی کنیت اس کی کنیت۔ فرمایا: ہاں۔ یہ مولیٰ علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخصت تھی۔ (امام احمد وابوداؤد وترمذی نے اسے روایت کیا اور اس کی تصحیح کی۔ اور ابو یعلیٰ وحاکم نے کتنی میں اور طحاوی اور حاکم نے متدرک میں اور نبیق نے سنن میں اور ضیاء نے مختارہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

ولد بعد اُسیٰ بیهیہ بِاسْمِ وَاكْنِيَهِ بِكَنْتِكَ فَقَلَ نَعَمْ۔  
فَكَانَتْ رَخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ<sup>1</sup> - أَحْمَدُ وَابْوَداؤدُ<sup>2</sup> وَالْتَّرمذِيُّ وَصَحْحُ وَابْوَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْكُلْنَى وَالْطَّحاوِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ وَالْبَيْهِقِيُّ فِي السُّنْنِ وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ عَنْ رَضِيِّ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ۔

حدیث ۳۳: صحیح بخاری وترمذی ومسند احمد بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے غزوہ بدرا میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زوجہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں شاہزادی کی تیارداری کے لیے ٹھہر نے کا حکم دیا اور فرمایا:

بیشک تمہارے لئے حاضر ان بدر کے برابر ثواب

ان لک اجر رجل من شهد

<sup>1</sup> الطبقات الکبریٰ لابن سعد و من هذه الطبقة من روى عن عثمان وعلى الخ دار صادر بيروت ۵/۹۶

<sup>2</sup> مسند احمد بن حنبل عن على رضي الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ۹۵/۶، سنن ابن داؤد كتاب الادب بباب في الرخصة في الجمع بينهما آفاتب عالم پر لیں ۲۸۵۲، سنن الترمذی كتاب الادب بباب ماجاء في كراهية الجمع بين الاسم النبي وكنیه حدیث ۳۲۳/۲، المسند لحاکم كتاب الادب قول النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسوسا بآسی ولا تکنوا بکنیتی دار الفکر بيروت ۲۷۸/۳، السنن الکبریٰ كتاب الضحايا بباب ماجاء من الرخصة الخ دار صادر بيروت ۳۰۹/۹، شرح معانی الاشارات الكتاب الكراهية بباب التکنی باب القاسم الخ اخیتی ایم سعید کپنی کراجی ۳۳۲/۲، مسند ابو یعلیٰ عن علی رضی الله عنه حدیث ۲۹۸ مؤسسه علوم القرآن بيروت ۱۸۳/۱، الضیاء المختارۃ ۳۲۳/۲

اور حاضری کے مثل غنیمت کا حصہ ہے۔	بدرؑ اوسہمہ <sup>۱</sup> ،
یہ خصوصیت حضرت عثمان کو عطا فرمادی حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں۔ سنن ابو داؤد میں انہیں سے ہے:	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسهم فضرب له، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسهم فرمایا اور ان کے سوا کسی غیر حاضر کو حصہ نہ دیا۔ ولم يضرب لاحدٍ غائبًا غيره <sup>۲</sup> ۔

حدیث آئندہ کتاب الفتوح میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر صوبہ دار کر کے بھیجاں سے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارے لئے رعایا کے ہدایا طیب کر دئے اگر کوئی چیز تمہیں ہدیہ دی جائے قبول کر لو۔ عبید بن حمزہ کہتے ہیں جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تیس غلام لائے کہ انہیں ہدیہ دیتے گئے، حالانکہ عاملوں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے<sup>۳</sup>۔

مسند ابو یعلیٰ میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

عاملوں کے سب ہدئے حرام ہیں۔	هدا یا العمال حرام کلہا <sup>۴</sup> ۔
-----------------------------	--

مسند احمد و سنن تیہقی میں اب و حمری ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

---

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناقب عثمان کتب خانہ کراچی ۵۲۳/۱، سنن الترمذی کتاب المناقب باب عثمان بن عفان حدیث ۳۷۲، دار الفکر بیروت ۱۹۹۵/۳، مسند احمد بن حنبل عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۰۱/۲

<sup>۲</sup> سنن ابی داؤد کتاب الجهاد باب فی من جاء بعد الغنیمة الخ آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۸/۲

<sup>۳</sup> الاصابة في تمييز الصحابة بحواله سيف في الفتوح ترجمہ ۸۰۳/۷ معاذ بن جبل دار الفکر بیروت ۱۹۹۵/۵

<sup>۴</sup> کنز العمال بحوالہ عن عن حذیفہ حدیث ۵۰۲۸ ام مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۱۲/۶

عاملوں کے ہدیے خیانت ہیں۔	هدایا العمال غول <sup>۱</sup>
---------------------------	-------------------------------

حدیث ۳۲: صحیح میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ایک شخص (یعنی جبان بن منقد بن عمر و انصاری یا ان کے والد منقد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں فریب کھا جاتا ہوں (یعنی لوگ مجھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں) فرمایا:

من بایعث فقل لاخلابة <sup>۲</sup> -زاد الحبیدی فی مسنده ثم انت بالخیار ثلثا <sup>۳</sup> -	جس سے خریداری کرو کہہ دیا کرو فریب کی نہیں سہی۔ حیدی نے اپنی مسند میں اتنا اضافہ کیا: پھر تمہیں تین دن تک اختیار ہے (اگر ناموافق پاؤ بچ رو کرو)
---	--

یہی مضمون حدیث<sup>۴</sup> سنن اربعہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے و ذکر قصہً و لم يذکر الزيادة (قصے کا ذکر کیا گیا اور زیادتی کا ذکر نہ کیا گیا۔ ت)

امام نووی شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ و امام شافعی اور روایت اصحاب میں امام مالک وغیرہم انہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک غبن باعث خیار نہیں کرتا ہی غبن کھائے بچ کورہ نہیں کر سکتا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص نہیں کو نوازا تھا اور وہ کے لیے نہیں، یہی قول صحیح ہے<sup>۵</sup>۔

<sup>۱</sup> مسنند احمد بن حنبل حدیث ابی حمید الساعدی المکتب الاسلامی بیروت ۵/۲۲، السنن الکبیری للبیهقی کتاب آداب القاضی باب لایقبل منه هدیۃ دارصادر بیروت ۱۰/۸، کنز العمال حدیث ۲۷/۶۰۵، مؤسسة الرسالہ بیروت ۶/۲۷۰

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب البیوع باب مایکرہ الخداع فی البیع قدیکی کتب خانہ کراچی ۱/۲۸۳، صحیح البخاری کتاب فی الاستقراض باب ماینهنی عن اضاعة المال قدیکی کتب خانہ کراچی ۱/۲۲۳، صحیح البخاری فی الخصومات باب من رد امر السفیہ والضعیف العقل قدیکی کتب خانہ کراچی ۱/۲۵۲، صحیح مسلم کتاب البیوع باب من یخدع فی البیع قدیکی کتب خانہ کراچی ۱/۲۷، کنز العمال عن عبد اللہ بن عمر حدیث

۹۹۶۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳/۱۵۵

<sup>۳</sup> المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ حدیث ۱/۳۱۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۷/۵۰۳، مسنندی حبیدی ۲/۲۷

<sup>۴</sup> شرح صحیح مسلم مع صحیح مسلم کتاب البیوع باب من یخدع فی البیع قدیکی کتب خانہ کراچی ۱/۲۷

حدیث ۳۶: مشہور میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز سے ممانعت فرمائی۔

اس بارے میں حضرت عمر، حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے چھین میں مروی ہے اور حضرت معاویہ سے صحیح بخاری میں اور حضرت عمرو بن عنبر سے صحیح مسلم میں مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم (ت)۔	فیہ عن عمر و عن ابی هریرۃ و عن ابی سعید بن الددری کلھا فی الصحیحین <sup>۱</sup> و عن معاویۃ فی صحيح البخاری <sup>۲</sup> و عن عمرو بن عنبر سے فی صحيح مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ <sup>۳</sup>
---	---

خود امام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس ممانعت کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں رواہ ابو داؤد فی سننہ<sup>۴</sup> (ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا۔ ت) باینہم امام المومنین عصر کے بعد دور کعین پڑھا کر تیں:

اس کو بخاری و مسلم نے بحوالہ کریب حضرت ابن عباس بن عبد الرحمن بن ازھر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا، ان تینوں نے کریب کو امام المومنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمارا سلام کہیں اور ان سے نماز عصر کے بعد والی دور کعتوں کے بارے میں پوچھو اور ان سے عرض کرو کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ وہ پڑھتی ہیں حالانکہ رسول اللہ	رواہ الشیخان عن کریب عن ابن عباس و عبد الرحمن بن ازھر و المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہم ارسلوہ الی عائشہ زوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقالوا اقرء علیہما السلام مناجیعاً وسلہما عن الرکعتین بعد العصر وقل لها بلغنا انك تصلينہما وان رسول اللہ صلی اللہ
---	--

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب مواقيت الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ بعد الفجر قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۲/۱، صحیح البخاری کتاب مواقيت الصلوٰۃ باب لا تتحرى الصلوٰۃ قبل غروب الشمس قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۲/۱، صحیح البخاری کتاب مواقيت الصلوٰۃ باب من يكره الصلوٰۃ الا بعد العصر والفجر قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۳/۱، صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الاوقات التي نهى عن الصلوٰۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۳/۱

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب مواقيت الصلوٰۃ باب لا تتحرى الصلوٰۃ بعد غروب الشمس قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۳/۱

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب المسافرین باب الاوقات التي نهى عن الصلوٰۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۷۶/۱

<sup>۴</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ بعد العصر آنقب عالم پر لیں لاہور ۱۸۱/۱

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ (ت)	تعالیٰ علیہ وسلم نہی عنہما <sup>۱</sup>
---	---

علماء فرماتے ہیں یہ ام المومنین کی خصوصیت تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز کر دیا تھا۔

امام جلیل خاتم الحفاظ سیوطی علیہ الرحمۃ نے انہوں جن اللبیب میں پھر زرقانی نے شرح المواہب میں بیان کیا۔ (ت)	قالہ الامام الجلیل خاتم الحفاظ السیوطی فی انہوں جن اللبیب ثم الزرقانی فی شرح المواہب <sup>۲</sup>
--	---

حدیث ۷۳: صحیح و مسنند احمد و سنن نسائی و صحیح ابن حبان میں ام المومنین صدیقہ<sup>۳</sup> اور حدیث<sup>۴</sup> احمد و مسلم وابو داؤد و ترمذی ونسائی وابن ماجہ وابن حبان میں حضرت عبد اللہ بن عباس<sup>۵</sup> اور حدیث<sup>۶</sup>



<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب التهجد باب اذا اكلم وهو يصلی اللہ قدری کتب خانہ کراچی ۱۶۳/۱۶۵، صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین باب الاوقات ان نہی عن الصلوٰۃ قدری کتب خانہ کراچی ۱۷/۲۷، مشکوٰۃ المسابیع بحوالہ متفرق علیہ کتاب الصلوٰۃ باب اوقات النہی قدری کتب خانہ کراچی ص ۹۲

<sup>2</sup> شرح الزرقانی علی المواہب المدنیة

<sup>3</sup> صحیح البخاری کتاب النکاح باب الاعفاء فی الدین قدری کتب خانہ کراچی ۲۲/۲۷، صحیح مسلم کتاب الحج باب اشتراط المحرم التحلل قدری کتب خانہ کراچی ۸۵/۳، مسنند احمد بن حنبل عن عائشہ رضی اللہ عنہا المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۲۶، سنن النسائی کتاب مناسک الحج نور محمد کارخانہ کراچی ۲/۱۹، موارد الظیان کتاب الحج باب اشتراط فی الاحرام حدیث ۷۳ المطبعة السلفیہ ص ۲۲۲

<sup>4</sup> مسنند احمد بن حنبل عن ابن عباس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۳۳، صحیح سیلم کتاب الحج باب اشتراط المحرم التحلل قدری کتب خانہ کراچی ۱/۸۵، سنن الترمذی کتاب الحج حدیث ۹۲۹ دار الفکر بیروت ۲۸/۲، سنن ابی داؤد کتاب المناسک باب اشتراط فی الحج آنفہ عالم پر لیں لاہور ۱/۲۲، سنن النسائی کتاب مناسک الحج اشتراط فی الحج نور محمد کارخانہ کراچی ۲/۱۹، سنن ابن ماجہ ابواب المناسک باب الشرط فی الحج ایضاً مسیعہ کپنی کراچی ص ۲۷

احمد و ابن ماجہ و ابن خزیم و یہنی میں ضباعہ<sup>۱</sup> بنت زیر اور حدیث<sup>۲</sup> یہنی و ابن مندہ میں بطریق ہشام عن ابو الزیر حضرت جابر بن عبد اللہ<sup>۳</sup> اور حدیث<sup>۴</sup> احمد و ابن ماجہ و طبرانی میں جده<sup>۵</sup> ابی بکر بن عبد اللہ بن زیر یعنی اسماء بنت صدیق یا سعدی بنت عوف اور حدیث طبرانی میں حضرت عبد اللہ<sup>۶</sup> بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن ضباعہ بنت زیر بن عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: حج کا ارادہ ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ! والله میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں (یعنی گمان ہے کہ مرض کے باعث ارکان ادائے کر سکوں پھر احرام سے کیوں نکر بہر آؤں گی)۔ فرمایا:

احرام باندھ اور نیت میں یہ شرط لگائے کہ جہاں تو مجھے روکے کا ویں میں احرام سے باہر ہوں۔	اہلی واشتہ طی ان محلی حیث جستنی۔
---	----------------------------------

نسائی نے زائد کیا:

تمہارا یہ استثناء تمہارے رب کے یہاں مقبول رہے گا۔	فَإِن لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا سْتَشْنُتَ <sup>۵</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> مسند احمد بن حنبل حدیث ضباعۃ بنت الزبیر المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۳۰، سنن ابن ماجہ ابواب المنساک باب الشرط فی الحج ایج ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۱۷، صحیح ابن خزیم کتاب المنساک باب اشتراط من به علة الخ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۲۳، السنن الکبیری کتاب الحج باب استثناء فی الحج دار صادر بیروت ۵/۲۲، کنز العمال بحوالہ مرد ت ن ۱۲۳۲۸ هب حدیث مؤسسة الرسالہ بیروت ۵/۲۲

<sup>۲</sup> السنن الکبیری کتاب الحج باب الاستثناء فی الحج دار صادر بیروت ۵/۲۲

<sup>۳</sup> مسند احمد بن حنبل عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۶/۳۲۹، سنن ابن ماجہ ابواب المنساک باب الشرط فی الحج ایج ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۱۷، المعجم الکبیر عن اسماء بنت ابی بکر حدیث ۲۳۳ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲۳/۸۷

<sup>۴</sup> المعجم الکبیر عن ضباعۃ بنت الزبیر المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲/۲۲، ۲/۳۳۷، ۳/۳۷۶، ۴/۲۲ مجمع الزوائد بحوالہ ابن عمر کتاب الحج باب الاشتراط فی الحج دار المکتب بیروت ۳/۱۸

<sup>۵</sup> سنن النسائی کتاب مناسک الحج باب الاشتراط فی الحج نور محمد کارخانہ کراچی ۲/۱۹

ضباعہ نے زائد کیا کہ فرمایا:

اب اگر تم حج سے روکی گئیں یا بیمار پڑیں تو اس شرط کے سبب جو تم نے اپنے رب عزوجل پر لگائی ہے احرام سے باہر ہو جاؤ گی۔	فَإِنْ حَبَسَتْ أَوْ مَرْضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ مِنْ ذُلْكَ بِشَرْطِكَ عَلَى رَبِّكَ عَزوجل <sup>۱</sup> .
--	---

ہمارے آئندہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں: یہ ایک اجازت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمادی ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول و معتر نہیں۔

بلکہ اس حکم کے اس صحابہ کے ساتھ مختص ہونے پر بعض شوافع بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، مثلاً خطابی پھر رویانی جیسا کہ عمدۃ القاری نے باب الاحصار میں امام عینی نے ذکر فرمایا۔ (ت)	بَلْ وَافَقَنَا عَلَى اختِصَاصِهِ بِهَا بِعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالخطابي ثُمَّ الرَّوِيَانِيُّ كَمَا فِي عِدَّةِ القَارِيِّ <sup>۲</sup> لِلَّا مَأْمُورُ العِيْنِ مِنْ بَابِ الْاَحْصَارِ.
--	---

حتیٰ کہ حدیث <sup>۳</sup> مند امام احمد میں بسند ثقات رجال صحیح مسلم ہے:

یعنی ایک صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دو ہی نمازیں پڑھا کروں گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔	حدیث نا محدث بن جعفر ثنا شعبۃ عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل من هم رضی اللہ تعالیٰ عنه انه اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاسلم على انه لا يصل الاصلوتين فقبل ذلك منه <sup>۴</sup> ۔
---	---

ان کے سوا امام جلیل جلال سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مستطاب انوذج اللبیب فی خصائص الحبیب<sup>۵</sup> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک مجمل فہرست میں نو واقعوں کے اور پتے دئے ہیں کہ فقیر نے ان تین کی طرح یہ بھی ترک کر دئے لوگوں یہ طول ایرادہا و اللہ الحمد علی تواتر الائمه۔ (بعض ایسی وجہ کی بنا پر کہ انکا ذکر طوالت کا باعث ہے اور اللہ ہی کیلئے تمام تعریفیں اسکی متواتر نعمتوں پر) ۲۳ حدیثیں یہ اور ۸ حدیثیں دربارہ تحریک مدنیۃ طیبہ جملہ اکاون<sup>۶</sup> احادیث ہیں جن میں بہت از روئے

<sup>۱</sup> مسنود احمد بن حنبل حدیث ضباعۃ بنت الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۰/۲

<sup>۲</sup> عددة القاری شرح صحيح البخاری بباب الاحصار في الحج تحت الحديث ۱۸۰/۳۸۲ دار الكتب العلمية بیروت ۱۰/۲۰۸

<sup>۳</sup> مسنود احمد بن حنبل حدیث رجال من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم المکتب الاسلامی بیروت ۵/۲۵ و ۲۵/۳۲۳

<sup>۴</sup> انوذج اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اسناد بھی خاص مقصود رسالہ کے مناسب تھیں اور بحیثیت تندیل وہابیہ و تضليل و تجھیل امام الوہابیہ تو سب ہی مقصود عالم رسالہ کے ملائم ہیں انہیں بھی گئے تو شمار احادیث یہاں تک ایک سو چھینوائے ہو۔ مگر ہمارے نبی کریم رَوْفَ وَ رَحِیْمُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ الصلوٰۃُ وَ التَّسْلیمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

<p>بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا مقرر فرمادیا ہے تو جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل میں بھی احسان برتو اور ذنک کرو تو ذنک میں بھی احسان برتو۔ (احمد اور صحاح ستہ نے (علاءہ بن خاری کے) شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیعی فاذا قتلتם فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة۔ احمد<sup>1</sup> والستة الا البخاری عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	--

والہذا میر اخامہ تیغبار نجدی شکار اپنے مقتولین مخذولین مذبوحین مقبو حین حضرات وہابیہ پر احسان کے لیے یہ پچاس شمار سے الگ رکھتا اور بتقیق اللہ تعالیٰ آگے صرف وہ بعض احادیث کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جلالِ احکام تشریعیہ کی صرتح سنادوں پر مشتمل اور وہ کہ ان دلائل تقویض احکام بحضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی موئید و مکمل ہیں لکھتا ہے ان میں موئیدات تقویض کی تقویم کیجئے کہ اس مبحث کا سلسلہ مسلسل رہے و پاک اللہ التوفیق۔

حدیث ۱۲۶: حدیث صحیح جلیل سنن ابن داؤد و سنن ابن ماجہ و مسنند امام طحاوی و مجمم طبرانی و معرفت بیہقی کاہم بطريق منصور بن المعمربن ابراهیم التیمی عن عمرو بن میمون عن ابن عبد اللہ الجدلی عن خزیمة بن ثابت الابن ماجہ فعن سفیان عن ابیه عن ابراهیم التیمی عن عمرو بن میموف عن خزیمة کہ حضرت ذوالشادقین خزیمه بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الصید بباب الامر بحسان الذبیح تدبیی کتب خانہ کراچی ۱۵۲/۲، سنن النسائی کتاب الضحاکیا بباب حسن الذبیح نور محمد کارخانہ تجدت کتب کراچی ۲۰۹/۲، سنن الترمذی کتاب الدیيات حدیث ۱۲۱/۳ دار الفکر بیروت ۱۰۵/۳، سنن ابن ماجہ ابواب الذبایح بباب اذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۳۶، سنن ابن داؤد کتاب الضحاکیا بباب فی الدفق بالذبیحة آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۲۵/۲، مسنند احمد بن حنبل حدیث شداد بن اوس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۲۳/۳

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسح موزہ کی مدت تین رات مقرر فرمائی، اور اگر مانگنے والا مانگتا رہتا تو ضرور حضور پانج راتیں کر دیتے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔</p>	<p>جعل رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم للمسافر ثلثاً ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً<sup>۱</sup></p>
---	---

اور روایت ابی داؤد اور ایک روایت معانی الائچارابی جعفر اور ایک روایت بیہقی میں ہے: فرمایا:

<p>اور اگر تم حضور سے زیادہ مانگتے تو حضور مدت اور بڑھادیتے۔</p>	<p>ولو استزدناه لزادنا<sup>۲</sup></p>
--	--

دوسری روایت طحاوی میں ہے:

<p>بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسح موزہ کی مدت مسافر کے لیے تین رات دن اور مقیم کے لیے ایک رات دن کر دی، اور اگر مانگنے والا مانگ جاتا تو حضور افسر زیادہ مدت عطا فرماتے۔</p>	<p>عن النبي صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم انه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام ولیاً ليهن وللبيقيم يوماً ولیلةً ولو اطنب له السائل في مسألته لزاده<sup>۳</sup></p>
---	---

بیہقی کی روایت اختری یوں ہے:

<p>اگر سائل عرض کئے جاتا تو حضور مدت کے پانچ دن کر دیتے۔</p>	<p>وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً<sup>۴</sup></p>
--	---

یہ حدیث بلاشبہ صحیح السند ہے اس کے سب رواۃ اجلہ ثقات ہیں۔ لاجرم امام ترمذی نے اسے روایت کر کے فرمایا:

<sup>۱</sup> سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ باب ماجاء فی التوفیق فی المسح للبیقی و المسافر ایچ ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۲

<sup>۲</sup> سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب التوفیق فی المسح آفتاب عالم پریس لاہور ص ۲۱، شرح معانی الائچار کتاب الطہار باب المسح علی الخفين الخ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۲۱/۱، السنن الکبیری للبیقی کتاب الطہارہ باب ماورد فی ترك التوفیق دار صادر بیروت ۲۷/۷

<sup>۳</sup> شرح معانی الائچار کتاب الطہار باب المسح علی الخفين الخ ایچ ایم سعید کپنی کراچی ۲۱/۱

<sup>۴</sup> السنن الکبیری للبیقی کتاب الطہارہ باب ماورد فی ترك التوفیق دار صادر بیروت ۲۷/۷

هذا حديث حسن صحيح<sup>۱</sup>۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  
نیز امام الشان یحییٰ بن معین سے نقل کیا کہ حدیث صحیح ہے۔

<p>امام ترمذی نے اگرچہ زیادت کو ذکر نہیں کیا مگر مخرج بھی وہی ہے اور طریق بھی وہی ہے، اس لئے کہ فرمایا ہمیں حدیث بیان کی تقبیہ نے انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ سے انہوں نے سعید بن مسروق سے انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے عمرو بن میمون سے انہوں نے ابو عبد اللہ جدلی سے انہوں نے خزیرہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ امام ابن دقيق العید نے اس حدیث کی تقویت میں اپنی کتاب الامام میں خوب</p>	<p>وهو ان لم يذكر الزيدادة فأنما المخرج المخرج الطريق الطريق حيث قال حدثنا قتيبة نابوعوانة عن سعيد بن مسروق عن ابراهيم التبي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبدالله الجدل عن خزيره بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم<sup>۲</sup>۔ وقد اطال الإمام ابن دقيق العيد الكالم في تقوية هذا الحديث والذات <sup>عنه في كتابه الإمام</sup></p>
--	---

اس میں سب سے بڑا شبه اس روایتی سے کیا جاتا ہے جو یہیتی نے امام ترمذی سے اور انہوں نے امام بخاری سے کی ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث نہیں کیوں کہ ابو عبد اللہ جدلی کا خزیرہ سے سماں ثابت نہیں۔ یہ وہ شکوی ہے جس کا عار تھا سے دور ہے، کیونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے مؤلف کے مطابق اس بات پر ہے کہ (بات بر صحیح آپنہ)

عَنْ أَعْظَمِ مَا يُرْتَابُ بِهِ فِيهِ رِوَايَةُ البَيْهَقِيِّ عَنِ التَّرْمِذِيِّ عَنِ الْبَخَارِيِّ لَا يَصْحُحُ عَنِي لَأَنَّهُ لَا يَعْرَفُ لَأَبِي عبد اللہ الجدلی سیاع من خزیرہ<sup>۳</sup> وَتَلَكَ شَكَّةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارِهَا فَإِنْ مِنْ نَاهٍ عَلَى مَأْذُهَبِ الْبَهَرِ هُوَ حَمَةُ اللَّهِ مِنْ اشْتِرَاطِ ثَبُوتِ

<sup>۱</sup> سنن الترمذی ابوبالطہارۃ باب ماجاء فی المسح علی الخفین حدیث ۹۵ دار الفکر بیروت ۱۵۲/۱

<sup>۲</sup> سنن الترمذی ابوبالطہارۃ باب ماجاء فی المسح علی الخفین حدیث ۹۵ دار الفکر بیروت ۱۵۲/۱

<sup>۳</sup> الجوہر النقح حوشی علی السنن الکبڑی للبیهقی کتاب الطہار باب ماؤردی ترك التوقیت دار صادر بیروت ۱/۸۷۶۲

لمبی گفتگو فرمائی ہے، اور امام زیلیعی نے نصب الرایہ میں

واشرہ الامام الزیلیعی فی نصب الرایہ<sup>۱</sup>

راوی کا مردی عنز سے سماں شرط ہے اگرچہ ایک مرتبہ وہ اتصال کے لیے صحیح یہ ہے کہ معاصرت ہی کافی ہے۔ جہور کا موقف یہی ہے جیسا کہ محقن علی الاطلاق نے فتح القدير میں اس کا افادہ فرمایا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس مذہب کے رد پر طویل بحث کی ہے۔ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے بھی امام بخاری کی تائید نہیں کی اور اس حدیث کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ یوں ہی امام بخاری کے استاذ امام الناقدين یحییٰ بن معین نے اس کی صحت کا حکم لگایا ہے۔

میں کہتا ہوں اگر امام بخاری کی بات تسلیم بھی کر لی جائے تو اس سے زیادہ سے زیادہ اقطاع لازم آتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک اور مسائل کو قبول کرنیوالے دیگر حضرات جو کہ جہور ہیں کے نزدیک قادر نہیں ہے پھر تم پر ابن حزم کی گنگناہٹ کا سمنا لازم ہے کہ جدلی کی روایت پر اعتقاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ آدمی جرح و تصاصم میں دو اندھوں کی مثل ہوتا ہے یعنی بڑھتا ہوا سیلا ب اور حملہ کرنیوالا مست اونٹ۔ بیہاں تک کہ ترمذی کے ہاں مجاہیل میں سے ہے، اور جدلی کی توثیق ان دو<sup>۲</sup> اماموں نے کی ہے

(باتی بر صحیح آئندہ)

(باتیہ حاشیہ صحیح گزشتہ)

السماع ولو مرة للاتصال والصحيح الاجتزاء بالمعاصرة هو السنصور عليه الجمهور كما افاده المحقق على الاطلاق في فتح القدير وقد اطال مسلم في مقدمة صحيحةه في الرد على هذا المذهب لاجرم ان لم يكثربه تلميذه الترمذى وحكم بأنه حسن صحيح وكذا حكم بصحته شيخ البخارى بآمانته النقديين يحيى بن معين۔

اقول: علانه لو سلم فقصواه الا نقطاع وليس بقادرع عندنا وعند سائر قابل المراسيل وهو الجمهور ثم على من دندنة ابن حزم ان الجدل لا يعتمد على روایته فان الرجل في الجرح والواقعية كلام عبييين السهل الهوجم والبیعر الصوئل حتى عند الترمذى من المجاهيل والجدل فقد وثقه الامام المرجوع الهمام احمد بن

<sup>۱</sup> نصب الرأية كتاب الطهارة بباب المسح على الخفين المكتبة النورية رضويہ پبلشنگ لاہور ۲۳۵۶۲۳۲ / ۱

ان کی پیر وی کی ہے۔ (ت)	فراجعہ ان شئت۔
<p>اقول: یہ حدیث صحیح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفویض و اختیار میں نص صریح ہے ورنہ یہ کہنا اور کہنا بھی کیسا مؤکد۔ قسم کہ واللہ سائل مانگے جاتا تو حضور پاچ دن کر دیتے اصلًا گنجائش نہ رکھتا تھا کیا لا یخفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ ت) اور یہاں جزم خصوص بے جزم عموم نہ ہو گا کہ اس خاص کی نسبت کوئی خبر خاص تغییر ارشاد نہ ہوئی تھی تو جزم کا منشاء، وہی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ احکام سپرد اختیار حضور سید الانام ہیں علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام۔</p> <p>حدیث ۷۲: مالک و احمد و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:</p>	<p>لولا ان اشقا علی امتي لامر لهم بالسوق عند كل اگر مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہر نماز کے وقت</p>

جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہیں۔ ان دو اماموں کے مقابلہ میں ابن حزن وابن هزم کیا شے ہے دراج تھا کیہ وہ اس میں تھا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے یہ قول نہیں کیا۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ امام بخاری نے اس کو اس وجہ سے معلل قرار دیا کہ جدلی کامیاب معروف نہیں، نہ اس وجہ سے کہ یہ جدلی کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا اور تقریب میں کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

(باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ)  
 حنبل وابن معین فیما هو ابن حزم وائش ابن هزم بعد  
 هذین وهو متفرد فيه لم يسبق له أحد بهذا القول الاترى  
 ان البخارى انبأ اعله اذا علله بأنه لم يعرف سباع الجدل  
 لابأنها روايه الجدل وقد صحيحة له الترمذى وقال في  
 التقريب<sup>۱</sup> ثقة۔ والله تعالى اعلم<sup>۲</sup> امنه۔

<sup>۱</sup> تقریب التهذیب ترجمہ ابی عبد اللہ الجدلی ۸۲۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲۰۰۸

صلوٰۃ<sup>۱</sup>

مواک کریں۔

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے قاله فی التیسیر وغیرہ (تیسیر<sup>۲</sup> وغیرہ میں اے س بیان کیا گیا۔ ت) احمد ونسائی نے انہیں سے بسند صحیح یوں روایت کی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہو تو میں ان پر فرض کر دوں کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسوک کریں۔	لولان اشق علی امتي لامر لهم عند كل صلوٰۃ بوضوء او مع كل وضوء بسوک <sup>۳</sup> ۔
--	--

اقول: امر دوم و قسم ہے حتیٰ جس کا حاصل ایجاد اور اس کی مخالفت معصیت،

اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ (ت)	وذلك قوله تعاليٰ "فَلَيَحْذَرُ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ" <sup>۴</sup>
---	---

دوسراندی جس کا حاصل ترغیب اور اس کے ترک میں وسعت،

اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے مسوک کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کو امام احمد	وذلك قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرت بالسوک حتى خشيت ان يكتب على احمد بن اوثلة بن
--	---

<sup>۱</sup> صحیح البخاری۔ کتاب الجمعة باب السوک یوم الجمعة قریب کتب خانہ کراچی ۲۵۹/۲، صحیح مسلم۔ کتاب الطہارۃ باب السوک قریب کتب خانہ کراچی ۲۸/۱، سنن النسائی کتاب الطہارۃ الرخصۃ فی السوک نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۲/۱، سنن ابن ماجہ ابوبالطہارۃ باب السوک ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۵، مسنون احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ المکتب الاسلامی بیروت ۳۹۹/۳، ۲۸۷، ۲۵۰، ۲۵۹، ۲۲۵، ۲۰۰، مؤٹا امام مالک کتاب الطہارۃ ماجاء فی السوک میر محمد کتب خانہ کراچی ص ۵۰

<sup>۲</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث لولان اشق علی امتي الخ مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۳۱۲/۲

<sup>۳</sup> سنن النسائی کتاب الطہارۃ الرخصۃ فی السوک نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۲/۱، مسنون احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۵۹/۲

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۲۳/۲۳

<sup>۵</sup> مسنون احمد بن حنبل حدیث واثله بن الاصقع المکتب الاسلامی بیروت ۳۹۰/۳

الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند حسین۔	نے واثقہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (ت)
---------------------------------------	--

امر ندبی تو یہاں قطعاً حاصل ہے تو ضروری نفی حتمی کی ہے، امر حتمی بھی دو قسم ہے ظنی جس کا مفاد وجوب اور قطعی جس کا مقتضی فرضیت، ظنیت خواہ من جمۃ الرؤیۃ یا من جمۃ الدلائل ہمارے حق میں ہوتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم سب قطعی یقینی ہیں جن کے سراپرده عزت کے گرد ظنوں کو اصلاً بار نہیں تو قسم واجب اصطلاحی حضور کے حق میں متفق نہیں وہاں یا فرض ہے یا مندوب، نص علیہ الامام المحقق حيث اطلق في الفتح (اس پر محقق امام علیہ الرحمہ نے فتح میں نص فرمائی ہے۔ ت)

اب واضح ہو گیا کہ ان ارشادات کریمہ کے قطعاً یہی معنی ہے کہ میں چاہتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے لیے تازہ وضو اور ہر وضو کے وقت مساوک کرنا فرض فرمادیتا مگر ان کی مشقت کے لحاظ سے میں نے فرض نہ کئے اور اختیار احکام کے کیا معنی ہیں۔ وَلِلّهِ الْحَمْدُ حديث ۱۲۸: مالک و شافعی و یہیقی ان سے اور طبرانی اوسط میں امیر المومنین مولیٰ علیٰ کرم اللہ و چہ الکریم سے بسند حسن راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لولا ان اشقم على امتی لامرتهم بالسواك مع كل وضوءٍ -	مشقت امت کا پاس ہے ونه میں ہر وضو کے ساتھ مساوک ان پر فرض کر دوں۔
--	--

حدیث ۱۲۹: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مساوک کرو مساوک منہ کو پاکیزہ اور رب عزوجل کو راضی کرتی ہے، جریل جب میرے پاس حاضر ہوئے مجھے مساوک کی وصیت کی۔

حتیٰ لقدر خشیت ان یفرضه، علیٰ وعلیٰ امتی و لولا انی اخاف ان اشقم على امتی لفرضته عليهم	یہاں تک کہ مجھے اندریشہ ہوا کہ جریل مجھ پر اور میری امت پر فرض کر دیں گے اور اگر مشقت امت کا خوف نہ ہوتا تو ان پر فرض کر دیں گے۔
---	--

<sup>1</sup> مؤطاً لامام مالک کتاب الطهارة ماجاء في السواك میر محمد کتب خانہ کراچی ص ۵۰، السنن الکبڑی کتاب الطهارة بباب الدليل علی ان السواك سنہ دار صادر بیروت ۱/۳۵، کنز العمال بحوالہ الشافعی حدیث ۲۲۱۹۱ مؤسسة الرسالہ بیروت ۹/۳۱۵، المعجم الاوسط حدیث ۱۲۶۰ مکتبۃ المعارف ریاض ۲/۱۳۸

(ابن ماجہ<sup>۱</sup> عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

ابن ماجہ<sup>۱</sup> عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یہاں جریل امین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی طرف بھی فرض کر دینے کی اسناد ہے۔

حدیث<sup>۲</sup>: طبرانی ویزار و دارقطنی و حاکم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مشقت امت کا لحاظہ ہوتو میں ہر نماز کے وقت مساوک ان پر فرض کر دوں جس طرح میں نے وضوان پر فرض کر دیا ہے۔	لولا ان اشق علی امتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلوٰۃ (زاد غیر الدارقطنی) كما فرضت عليهم الوضوء <sup>۳</sup>
--	---

یہاں وضو کو بھی فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت پر فرض کر دیا۔

حدیث<sup>۴</sup>: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے وقت مساوک کرنا اور خوشبو لگانا فرض کر دوں۔ (ابو نعیم نے کتاب السواک میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند حسن اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں مکحول سے مرسل <sup>۵</sup> روایت کیا۔ ت)	لولا ان اشق علی امتي لامرتهم بالسواك واطيوب عند كل صلوٰۃ۔ ابو نعيم في كتاب السواك <sup>۶</sup> عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهمباً بسند حسن وسعيد بن منصور في سننه عن مكحول مرسلاً۔
--	---

یہاں خوشبو کی فرصت بھی زائد فرمادی۔

<sup>۱</sup> سنن ابن ماجہ ابواب الطهارة بباب السواك ایضاً ایم سعید کپنی کراچی ص ۲۵

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ قط عن ابن عباس حدیث ۲۱۷۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۹/۲۳۲

<sup>۳</sup> المستدرک للحاکم کتاب الطهارة لولا ان اشق علی امتي دار الفکر بیروت ۱/۲۳۶، البحر الزخار عن ابن عباس حدیث ۳۰۲ امکتبة العلوم والحكم مدینۃ المنورۃ ۲/۳۰۰، مجمع الزوائد بحوالہ العباس کتاب الطهارة بباب فی السواك دار الكتاب بیروت ۱/۲۲۱، مجمع الزوائد کتاب الصلوٰۃ بباب ماجاء فی السواك دار الكتاب بیروت ۲/۹۷

<sup>۴</sup> کنز العمال بحوالہ صحن مکحول مرسلاً حدیث ۲۱۹۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۹/۲۳۲

حدیث ۱۵۳<sup>۱</sup>: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

مشقت امت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہر سحر پہلے پھر اٹھ کر مسوک کریں (ابو نعیم نے کتاب السوک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	لولا ان اشقا علی امّتی لامر تھم ان یستنا کوا بابا لاسحار۔ ابو نعیم فی السوک <sup>۱</sup> عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
---	--

حدیث ۱۵۴<sup>۲</sup>، ۱۵۳<sup>۳</sup> و ۱۵۵<sup>۴</sup>: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان پر مسوک فرض کر دوں اور نماز عشاء کو تہائی رات تک ہٹاؤں۔	لولا ان اشقا علی امّتی لامر تھم بالسوک عن دکل صلوٰۃ ولا خرٰۃ العشاء الی ثلث اللیل۔
---	--

احمد<sup>۲</sup> والترمذی والضیاء عن زید بن خالد<sup>۳</sup> الجھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسننٰ صحیح والبزار عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجهه، روى عن زید احمد وابو داؤد النسائي كحدیث ابی هریرة الاول بالاقتصار على السطر الاول والحاکم والبیهقی بسننٰ صحیح عن ابی هریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ كحدیث زید<sup>۴</sup> هذا وفيه لفرضت عليهم السوک مع الوضوء ولا خرٰۃ العشاء الآخرة الى نصف اللیل۔<sup>۵</sup> یعنی میں وضو میں مسوک کرنا فرض کر دیتا اور نماز عشاء آدمی رات تک ہٹادیتا۔

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ ابی نعیم فی کتاب السوک حدیث ۲۶۹۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۱۲/۹، الدر المنشور بحوالہ ابی نعیم تحت الایہ ۱۲۳/۳ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۵۲/۱

<sup>۲</sup> مسنون احمد بن حنبل عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۱۳/۳، سنن الترمذی ابوب الطھارۃ باب ماجاء فی السوک حدیث ۲۲۳ دار الفکر بیروت ۱۰۰/۱، کنز العمال بحوالہ حم. ت والضیاء حدیث ۲۶۹۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۱۵/۹، البحر الزخار عن رضی اللہ عنہ حدیث ۷۸ مکتبۃ العلوم والحاکم مدینۃ المنورہ ۱۲۱/۲، مسنون احمد بن حنبل عن زید بن خالد المکتب الاسلامی بیروت ۱۱۲/۳، سنن ابی داؤد کتاب الطھارۃ باب السوک آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱/۱

<sup>۳</sup> المستدرک للحاکم کتاب الطھارۃ فضیلۃ السوک دار الفکر بیروت ۱۳۳/۱، السنن الکبری کتاب الطھارۃ باب الدلیل علی ان السوک السنۃ الخ دار صادر بیروت ۳۶/۳، کنز العمال بحوالہ ک و حق عن ابی هریرة حدیث ۲۶۹۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۱۲/۹

نسائی نے ابوہریرہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا: میں ان پر فرض کر دیتا کہ عشاء دیر کر کے پڑھیں اور نماز کے وقت مسوک کریں۔

وللنسائی عن ابی هریرۃ بلفط الامر تهم تاخیر العشاء بالسواک عند كل صلوٰۃ<sup>۱</sup>۔

حدیث ۱۵۶<sup>۲</sup>: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ عشاء آدمی رات کو پڑھیں۔ (احمد، بخاری، مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)

لولا ان اشقت على امتی لامر تهم ان يصلوها هكذا يعني العشاء نصف الليل۔ احمد<sup>۲</sup> والبخاری ومسلم والننسائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حدیث ۱۵۷<sup>۳</sup>: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

اگر ناقلوں اور بیاروں کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ یہ نماز آدمی رات تک مؤخر کریں (اس کو نسائی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابو حاتم کی روایت گزرچکی ہے جو لفظ امر کے بغیر ہے۔ (ت)

لولا ضعف الضعيف وسقمه السقیم لامر ت بهذه الصلوٰۃ ان توخر الى شطر الليل۔ الننسائی<sup>۳</sup> عن ابی سعد<sup>۴</sup> الخدری رضی اللہ تعالیٰ ومرت روایة احمد وابی داؤد وابن ماجہ وابی حاتم بللفظ الامر۔

حدیث ۱۵۸<sup>۵</sup>: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

مشقت امت کا اندیشہ نہ ہو تو میں ان پر

لولا اشقت على امتی

<sup>۱</sup> سنن الننسائی کتاب المواقیت بباب ما یستحب من تاخیر العشاء نور محمد کتب خانہ کراچی ۹۲/۹۳

<sup>2</sup> مسنڈ احمد بن حنبل عن ابن عباس رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳۶۶/صحيح البخاری کتاب مواقیت الصلوٰۃ بباب التوم قبل العشاء قدیمی کتب خانہ کراچی ۸۱/۸۱، صحیح مسلم کتاب المساجد بباب وقت العشاء وتأخیرها قریبی کتب خانہ کراچی ۲۲۹/۱ سنن

النسائی کتاب المواقیت بباب یستحب من تاخیر العشاء نور محمد کارخانہ کراچی ۹۲/۹۲

<sup>3</sup> سنن الننسائی کتاب المواقیت بباب یستحب من تاخیر العشاء نور محمد کارخانہ کراچی ۹۳/۱

## لامرتهما نیع خرواءؓ العشاء الی

## فرض کردول کہ عشاء میں تھائی

اس کا سبب یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز موخر فرمادی بیہاں تک کہ آدمی رات یا زیدہ گزر گئی۔ عورتیں اور پچ سو گئے تو آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائی، جیسا کہ ابن عباس، ابو سعید، ابن عمر اور انس وغیرہ کی احادیث میں واضح طور پر وارد ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حدیث سوک کا سبب یہ ہے کہ لوگ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا مسوک کیا کرو اور میرے پاس میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آیا کرو، اگر مجھے امت کی مشقت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نازک وقت فرض کر دیتا۔ جیسا کہ اس کو دارقطنی نے بحوالہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی الگ الگ بیان فرمایا ہے اور کبھی دونوں کو جمع کیا ہے، یونہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر نے کیا ہے، اگرچہ اس پر سب کااتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بیان فرمایا ہے اور کبھی اس طرح اور کبھی (باتی بر صحیح آئندہ)

ع۱: سبب هذا انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخراذات ليلة صلوٰۃ العشاء حتی ابها راللیل او ذهب عامۃ اللیل ونام النساء والصبيان فجاء فصلی وذکرہ کما ورد مبينا في احادیث ابن عباس وابی سعید وابن عمر و انس وغیرهم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وسبب حدیث السوک ایتنان ناس عندہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلحاً فقال استاً كواستاكوا لاتأتوني قلحاً لولا ان اشق على امتي لفرضت عليهم السوک عند كل صلوٰۃ کما بينه الدارقطنی<sup>۱</sup> من حدیث العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهیا حدیثاً ربما افرزهیا ابو هریرة وربما جمع وکذلك غیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وان اتفق ان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو الذی قال مرة هكذا او اخری هكذا او

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ قط عن ابن عباس حدیث ۲۶۷۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۹/۳۲

یا آدھی رات تک تاخیر کریں (اس کو امام احمد و ترمذی نے اسکو صحیح قرار دیا۔ اور ابن ماجہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اور دوسری روایت ابن ماجہ کی احمد و ابو داؤد و محمد بن نسر کی طرح گزر چکی ہے جو امر سے خالی ہے۔ (ت)

ثلث اللیل اونصفہ۔ احمد<sup>۱</sup> والترمذی وصححه، و ابن ماجۃ عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومرت اخیر لابن ماجۃ کا حمد وابی داؤد و محمد بن نصر خالیۃ عن الامر۔

حدیث<sup>۲</sup> ۱۵۹: صحیح بخاری میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت سورہ احزاب کی نسبت ہے:

وہ میں نے لکھی ہوئی خزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی جن کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر فرمائی۔

و جدتھا مع خزینۃ الذی جعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شھادتہ بشھادتین<sup>۲</sup>۔

حدیث<sup>۳</sup> ۱۲۰: کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر صوبیدار بنا کر سمجھتے وقت ان سے ارشاد فرمایا:

دونوں کو جمع فرمایا۔ چنانچہ تعدد اظہر واکثر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ امنہ (ت)

(باقیہ حاشیہ صفحہ گزشہ)  
تارة جمع فالتعدد اظہر واکثر و اللہ تعالیٰ اعلم امنہ  
دامت فیوضہ۔

<sup>۱</sup> مستند احمد بن حنبل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۳۳ و ۵۰۹، سنن الترمذی ابوبالصلوۃ باب ماجاء في تأخیر صلوۃ العشاء الخ حدیث ۷/۲۱۳، سنن ابن ماجہ کتاب الصلوۃ بباب وقت صلوۃ العشاء ایضاً ایم سعید کپنی کراچی ص ۵، کنز العمال عن ابی ہریرۃ حدیث ۱۹۶۲۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۷/۳۹۵

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب الجهاد باب قول اللہ تعالیٰ من المؤمنین رجال الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۹۳، صحیح کتاب التفسیر سورۃ احزاب قدیمی کتب خانہ کراچی ۷/۰۵۰

<p>مجھے معلوم ہے جو تمہاری آزمائشیں دین متین میں ہو چکیں اور جو کچھ دیون تم پر ہو گئے ہیں رعیت کے تھے میں نے تمہارے لئے حلال طیب کر دئے جو تمہیں کچھ تحفہ دے لے لو۔ (سیف نے کتاب الفتوح نے عبید بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>قد عرفت بلاءك في الدين والذى قدر كبك من الدين وقد طيبت لك الهدية فان اهدي لك شيئاً فاقبل۔ سیف فی کتاب الفتوح<sup>۱</sup> عن عبید بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
---	---

حدیث ۱۶۱؎: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

سواری کے گھوڑوں، خدمت کے غلاموں میں زکوٰۃ جو واجب نہ ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "ایہ میں نے معاف فرمادی ہے۔" ہاں کیوں نہ ہو کہ حکم ایک روف و رحیم کے ہاتھ میں ہے بعکم رب العالمین جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

**حدیث ۱۶۲:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا:

مَاتَقُولُونَ فِي الزِّنَاءِ، قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

عہ: یہاں تک اٹھاون حد شیں تفویض امر کی مفہومات و مودات مذکور ہوئیں آگے صرف اسنادات جلپیہ ہیں۔۱۲۔

<sup>١</sup> كنز العمال بحواله طب عن عبيد بن صخر المكتب الإسلامي بيروت ١١٥/٢

<sup>2</sup> سنن أبي داؤد كتاب الزكوة بباب زكوة السائمة آتى كتاب عالم يرثي لابور ٢٢١، سنن الترمذى كتاب الزكوة بباب ماجاء في زكوة الذهب الخ

حرام ہے۔ (احمد نے بسند صحیح اور طبرانی نے اوسط اور کبیر میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	احمد <sup>۱</sup> بسند صحیح والطبرانی فی الاوسط والکبیر عن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
---	--

حدیث ۱۶۲: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

میں تم پر حرام کرتا ہوں دو کمزوروں کی حق تلفی، یتیم اور عورت۔ (حاکم شرط مسلم پر اور بیہقی نے بحوالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور لفظ بیہقی کے ہیں۔ ت)	انی احرم علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ الحاکم <sup>۲</sup> علی شرط مسلم والبیهقی فی الشعب و اللفظ لہ عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	--

حدیث ۱۶۳: صحیحین میں جابر بن عبد اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے انہوں نے سال فتح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سن:

بیشک اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا شراب اور مردار اور سوئر اور بتول کا بیچنا۔	ان اللہ ورسولہ، حرم بیع الخیر والبیتنة والخنزیر والاصنام <sup>۳</sup> ۔
---	--

حدیث ۱۶۴: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

نشہ کی کوئی چیز نہ پی کہ بیشک نشہ کی ہر شیئ میں حرام <sup>۴</sup> نسائی نے بسند حسن	لاتشرب مسکراً فانی حرمت کل مسکر۔ النسائی <sup>۴</sup> بسند حسن
--	---

ع۱: فائزہ: ابو الشخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کی حدثنا ابن ابی عاصم ثنا عمر بن حفص ن الوصائی ثنا

سعید بن موسیٰ ثنار بیح بن زید عن معمر (باتی بر صحیح آئندہ)

<sup>۱</sup> مسند احمد بن حنبل بقیہ حدیث مقداد بن اسود المکتب الاسلامی بیروت ۸/۲، المعجم الكبير عن مقداد بن اسود حدیث

۲۵۶/۲۰ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت

<sup>۲</sup> المستدرک للحاکم کتاب الایمان انی احرج علیکم حق الضعیفین دار الفکر بیروت ۲۳/۲، کنز العمال بحوالہ کہ. هب عن ابی هریرۃ

حدیث ۱۷۱/۳ مؤسسة الرسالہ بیروت

<sup>۳</sup> صحیح البخاری کتاب البيوع باب بیع البیتنة والاصنام قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۹۸/۱، صحیح مسلم کتاب البيوع باب تحریم الخمر و

المیہ الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۳/۲

<sup>۴</sup> سنن النسائی کتاب الاشربة تفسیر نور محمد کار خانہ کراچی ۳۲۵/۲

ابی موسیٰ اشعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ (ت)	عن ابی موسیٰ اشعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	--

عن ازھری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قآل قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی فرضت علی امّتی قراءۃ الیس کل لیلۃ فین داوم علی قرأۃها کل لیلۃ ثم مات شهیدا<sup>1</sup>، یعنی اس سند سے آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت پر یہ شریف کی ہر رات تلاوت فرض کی جو ہمیشہ ہر شب اسے پڑھے پھر مرے شہید مرے۔

میں کہتا ہوں سعیداً گرچہ متمم ہے مگر محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ پیش و ضع حديث محض ایک کذاب کے تفرد سے ثابت نہیں ہوتا چہ جائیکہ متمم سے ثابت ہو جب تک اس کے ساتھ قرآن و ضع منضم نہ ہوں، جیسے نص قطعی کی مخالفت اور اجماع قطعی کی مخالفت اور حس کی مخالفت اور خود واضح کا اقرار وغیرہ، جیسا کہ امام سخاوی نے فتح المغیث میں اس پر نص فرمائی ہے، اور ہم نے "منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین" میں اس کی تحقیق کو حد کمال تک پہنچایا ہے۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جو حديث ضعیف موضوع نہ ہو وہ فضائل میں قابل عمل ہے اور ہم اس کو "الہاد الکاف فی حکم الضعاف" میں بیان کیا ہے۔ (ت) (باقی بر صحیح آئندہ)

اقول: وسعید و ان اتهم فالحق عنده المحققین ان الوضع لا يثبت ب مجرد تفرد كذاب فضلاً عن متهم ماله ينضم اليه شيئاً من القرائن الحاكمة به كي خالفة نص اجماع قطعيين او الحسن او اقرار الموضع بوضعه الى غير ذلك كي ينص عليه السخاوي في فتح المغیث واثبنا عليه عرش التحقيق في "منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین فـ" واجماع العلماء ان اضعیف غير الموضع يعمل به في الفضائل وقد بیناه في "الہاد" فـ في حکم الضعاف"

ف۱: رسالہ "منیز العین فی حکم تقبیل الابهامین" فتاویٰ رضویہ جلد پنجم مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کے صفحہ ۳۲۹ پر مرقوم ہے۔

ف۲: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ "منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین" میں افادہ شائزدہم<sup>1</sup> سے افادہ بست و سوم ۳۲۳ تک آٹھ افادات کا نام "الہاد الکاف فی حکم الضعاف" رکھا ہے۔ ملاحظہ ہو فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور جلد پنجم صفحہ ۵۳ تا ۷۷ "الکاف فی حکم الضعاف"۔

<sup>1</sup> تنزیہ الشریعة المرفوعة بحوالہ ابی الشیخ فی الثواب حدیث ۳۲ دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۲۷

حدیث ۱۲۶: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:  
سن لو مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملایعنی حدیث دیکھو کوئی پیٹ بھرا پنے تخت پر بیٹھا یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لئے رہو جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو جو اس میں حرام ہے اسے حرام مانو،

جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی کی مثل ہے جسے الله عزوجل نے حرام کیا، جل جلالہ، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (احمد اور دارمی اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے مقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسنیٰ روایت کیا۔ ت)	وان ماحرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ - احمد <sup>۱</sup> و الدارمی وابو داؤد والترمذی وابن ماجہ عن المقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسنیٰ حسن۔
---	--

یہاں صراحتاً حرام کی دو قسمیں فرمائیں: ایک وہ جسے اللہ عزوجل نے حرام فرمایا اور دوسرا وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ اور فرمادیا کہ وہ دونوں برابر ویکھاں ہیں۔

(بیت حاشیہ صفحہ گزشہ)

اس حدیث اور اس کی فرضیت کے متعلق نقیر کے پاس سوال آیا تھا جس کا جواب فتاویٰ فقیر العطا یا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ کے مجلد پنجم کتاب مسائل ششیٰ میں مذکور و اللہ الہمّ ای معاں الامر<sup>۲</sup> امنہ۔

<sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب السنۃ باب فی لزوم السنۃ آفتاب عالم پر لیں لاہور ۲۷۲

اقول: مراد اللہ اعلم نفس رحمت میں برابری ہے تو اس ارشاد کے منافی نہیں کہ خدا فرض رسول کے فرض سے اشد واقعی ہے۔

حدیث ۱۶۷: جهیش بن اویس نجحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اپنے چند اہل قبیلہ کے باریاب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے قصیدہ عرض کیا ازاں جمہ یہ اشعار ہیں۔

فبورکت مهدیاً و بورکت هادیاً  
الایٰ رسول اللہ انت مصدق

عبدنا کامثال الحنیفة بعد ما  
شرعت لنا دین الحنیفة بعد ما

یا رسول اللہ! حضور تصدیق لئے گئے ہیں حضور اللہ عزوجل سے ہدایت پانے میں بھی مبارک اور خلق کو ہدایت عطا فرمانے میں بھی مبارک حضور ہمارے لئے دین اسلام کے شارع ہوئے بعد اس کے کہ ہم گدھوں کی طرح بتوں کو پونج رہے تھے۔

منہہ نے عمابر بن عبد الجبار کے طریق سے عبد اللہ بن مبارک سے انہوں نے اوزاعی سے انہوں نے یحییٰ بن ابی سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حدیث لمبی ہے۔ (ت)	منہہ <sup>۱</sup> من طریق عمابر بن عبد الجبار عن عبد اللہ بن المبارک عن الازواعی عن یحییٰ بن ابی سلمہ عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طویل۔
--	---

یہاں صراحةً تفریق کی نسبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ شریعت اسلامی حضور کی مقرر کی ہوئی ہے ولہذا قدیم سے عرف علمائے کرام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شارع کہتے ہیں۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں:

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شارع کہنا مشہور و معروف ہے اس لئے کہ حضور نے دین متین و احکام دین کی شریعت نکالی۔	قد اشتهر اطلاقہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لانہ شرع الدین والاحکام <sup>۲</sup> ۔
---	---

اسی قدر پرس کیجئے کہ اس میں سب کچھ آگیا ایک لفظ شارع تمام احکام تشریعیہ کو جامع ہوا، میں نے یہاں وہ احادیث لقل نہ کیں جن میں حضور کی طرف امر و نہی و قضاو

<sup>1</sup> الاصابہ فی تمییز الصحابة بحوالہ ابن منذہ ترجمہ ۱۴۵ جهیش بن اویس دار الفکر بیروت ۳۵۸/۱

<sup>2</sup> شرح الزرقانی علی المواہب المدنیۃ المقصد الثانی الفصل الاول دار المعرفة بیروت ۱۳۲/۳

امثالہا کی اسناد ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ (ت)	امر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
---	---

اتنی حدیثوں میں وارد جن کے جمع کو ایک مجدد بھی کافی ہنو، اور خود قرآن عظیم ہی نے جوار شاد فرمایا:

جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو،	”وَمَا أَنْتُمْ لِرَسُولٍ فَحُلْمُوهُ وَمَا هُنَّكُمْ عَمَّا فَاتَّهُوا“ <sup>۱</sup> ۔
--	---

کہ امر و نہیٰ و قضا اور وہ کی طرف بھی اسناد کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ:

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ (ت)	”أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مُرِisceُكُمْ“ <sup>۲</sup> ۔
---	---

مجھے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور اقدس کو احکام شرعیہ سے فقط آگاہی و واقفیت کی نسبت نہیں جس طرح وہ سرکشی طاغی آخر تقویۃ الایمان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صریح اقتداء کر کے کہتا: ”انہو نے فرمایا کہ سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل“<sup>۳</sup>۔

مسلمانو! اللہ انصاف، یہ اس کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل جلیلہ و خصائص جمیلہ و کمالات رفیعہ و درجات منیعہ جن میں زید و عمر کی کیا گنتی انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی حصہ نہیں سب یک لخت اڑاؤئے سب لوگوں سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتیاز صرف دربارہ احکام رکھا اور وہ بھی اتنا کہ حضور

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷/۵۹

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۵۹/۳

<sup>۳</sup> تقویۃ الایمان الفصل الخامس مطبع علیمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۳۶

واقف ہیں اور لوگ غافل، تو انبیاء سے تو کچھ امتیاز رہا ہی نہیں کہ وہ بھی واقف ہیں غافل نہیں اور امتوں سے بھی امتیاز اتنی ہی دیر تک ہے کہ وہ غافل رہیں واقف ہو جائیں تو کچھ امتیاز نہیں کہ اب وقوف و غفلت کا تفاوت نہ رہا اور امتیاز اس میں منحصر تھا ان اللہ و آنَا الیه راجعون۔

مسلمانو! دیکھا یہ حاصل ہے اس شخص کے دین کا، یہ بچھلا کلمہ ہے محمد رسول اللہ پر اس کے ایمان کا جس پر اس نے خاتمه کیا، حالانکہ واللہ دربارہ احکام بی صرف اتنا ہی امتیاز نہیں بلکہ حضور حاکم ہیں، صاحب فرمان ہیں، مالک افتراض ہیں، والی تحریم ہیں۔ سن اوسر کش! احکام سے اپنے نزدیک واقف تو تو بھی ہے پھر تجھے کوئی مسلمان ہے گا کہ شریعت کے فرائض تیرے فرض کئے ہوئے ہیں شرع کے محروم تونے حرام کر دئے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں انہیں تونے معاف کر دیا ہے شریعت کا راستہ تیرا مقرر کیا ہے شرائع میں تیرے احکام بھی ہیں اور وہ احکام احکام خدا کے مثل ماوی ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں خود محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں لہذا فقیر نے صرف اسی قسم احادیث پر اقصار کیا اور بفضلہ تعالیٰ اپنا نیزہ خارا گزار و آہن گزار ان گستاخان چشم بند وہ ہن باز کے دل و جگر کے پار کر دیا و اللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں علامہ شہاب خنایجی پر کہ نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں قصیدہ برده شریف کے اس

شعرن

**نَبِيْنَا الْأَمْرُ النَّاهِيُّ فِلَّا حَدْ**  
**ابْرَفِيْ قَوْلِ لَامِنْهُ وَلَانِعْمٌ<sup>1</sup>**

ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب امر و نبی، تو ان سے زیادہ ہاں اور نہ کے فرمانے میں کوئی سچا نہیں  
کی شرح میں فرماتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب امر و نبی ہونے کے یہ معنی نبینا الامر الخ انه لا حاکم سواه صلی اللہ تعالیٰ نہیں، نہ وہ کسی کے مکوم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	معنی نبینا الامر الخ انه لا حاکم سواه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فهو حاکم غير محاکوم <sup>2</sup> الخ
--	---

ذکرہ فی فصل جودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (اس کو صاحب نسیم نے فضل فی وجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ذکر فرمایا  
ہے۔ ت)

<sup>1</sup> الكواكب الدرية في مدح خير البرية الفصل الثالث مرکز الہلسنت برکات رضا گجرات ہند ص ۲۱

<sup>2</sup> نسیم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض فضل واما الجود والکرم مرکز الہلسنت برکات رضا گجرات ہند ص ۳۵/۲

الحمد لله يه تنزيل جليل اپنے باب میں فرد کامل ہوئی احادیث تحریم مدینہ طیبہ بھی اسی باب سے تھیں کہ امام الوبایہ کے اس خاص حکم شرک کے سبب جد اشمار میں رہیں اگر کوئی چاہے انہیں اور اس بیان تنزیل کو ملا کر احکام تشریعیہ کے بارے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتدار و اختیار کاظم اہر کرنے والا یک مستقل رسالہ بنائے اور بنام "منیۃاللیبیب ان التشريع بید الحبیب ۱۳۱۴ھ" موسوم ٹھہرائے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلیین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، امین۔

مسک الخاتم: اب فقیر غفرلہ المولی القدير سات حدیثیں اس وصل مبارک میں اور ذکر کرے جن سے امام الوبایہ کا سخت کور و کر ہونا نہیں و اس کی طرح ظاہر ہو کہ جن احادیث سے جن باقی کو شرک بتانا چاہا تھا خود وہی اور ان کے نظائر صاف گواہی ہیں کہ وہ ہر گز شرک نہیں مگر بچاۓ معدور کی دادنہ فریاد، "وَمَنْ يُصْلِلُ اللَّهُ فَيَأْلَهُ مَنْ هَادٍ" <sup>۱</sup>۔ (اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ت)

حدیث ۱۶۸: صحیح بخاری و مندرجہ سنت ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بنت معوذ بن عفرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری شادی میں تشریف لائے چھو کر یاں دف بجا کر میرے باپ پچاجو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے اوصاف کاتی تھیں اس میں کوئی بولی ع

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَيْرِ  
ہم میں وہ نبی ہیں جنہیں آئندہ کا حال معلوم ہے  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسے رہنے دے اور جو کچھ پہلے کہہ رہی تھی وہی کہے جا۔	دعیٰ هُذَا وَقُولِي بِالذِّي كُنْتَ تَقُولِين <sup>۲</sup> ۔
---	--

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۰/۳۳

<sup>۲</sup> صحيح البخاري كتاب النكاح بباب ضرب الدف في النكاح والوليمة قد يكي كتب خانہ کراچی ۷/۳۷، سنن ابی داؤد کتاب الادب بباب في الغناء

آفتاب عالم پر لیں لاہور ۲/۱۸ (باتی بر صحیح آئندہ)

اقول: و بِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ امام الْوَهَابِيَّہ اس حدیث کو شرک فی العلم کی فصل میں لایا جسے کہا: ۱۱۱ اس فصل میں ان آئیوں حدیثوں کا ذکر ہے جس سے اثر اک فی العلم کی برائی ثابت ہوتی ہے۔<sup>۱</sup>

تو وہ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئندہ بات جانے کی اسناد مطلقاً شرک ہے اگرچہ بعطاً اللہی جانے کہ اس نے صاف کہہ دیا: ۱۱۲ پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے ہر طرح شرک ہے۔<sup>۲</sup>

اور خود مصرع مذکور کا مطلب ہی یوں بتایا کہ: ۱۱۳ چھو کریاں گانے لگیں اور اس میں پیغمبر خدا کی تعریف یہ کہی ان کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ آئندہ کی باتیں جانتے ہیں۔<sup>۳</sup>

با ایسے ہمہ حدیث کو شرک فی العلم کی فصل میں لایا مگر جب حدیث میں حکم شرک کی بُواصَلَانَہ پائی تو خود ہی اپنے دعوے سے تنزل پر آیا اور صرف اتنا لکھنے پر بس کی: ۱۱۴ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، پیغمبر خدا نے اس قسم کا شعر اپنی تعریف کا انصار کی چھو کریوں کو گانے بھی نہ دیا چہ جائیکہ عاقل مرد اس کو کہے یا سن کر پسند کرے۔<sup>۴</sup>

اللّٰهُ اللّٰهُ، اللّٰهُ دَعَّ سے بھی ایسا مرتبہ ماننا اس کے نزدیک شرک ہو تو شکایت نہیں کہ اس کے

(باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ)

سنن الترمذی کتاب النکاح حدیث ۱۰۹۲ دار الفکر بیروت ۲۷/۲ و سنن ابن ماجہ باب النکاح باب الغناء والدف ایجام سعید کمپنی کراچی  
ص ۳۸ او مسند احمد بن حنبل حدیث الربيع بنت معاذ المكتب الاسلامی بیروت ۲۵۹/۶

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۸

<sup>۲</sup> تقویۃ الایمان پہلا باب مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۷

<sup>۳</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۸

<sup>۴</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۸

دھرم میں اس کا معبود خود ہی کسی کو آئندہ باتیں جاننے کا مرتبہ دینے پر قادر نہیں کیا اپنا شریک کسی کو بنائے گا، یونہی یہ امر بھی اسے مضر نہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بعطائے الٰہی بھی اطلاع علی الغیب کا مرتبہ ملتا صریح مخالف قرآن ہے۔ قال

اللٰہ تعالیٰ:

اللٰہ اس لئے نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع کا منصب دے ہاں اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہے	وَمَا كَانَ اللٰهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلٰى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللٰهَ يَعْلَمُ مِنْ رَّسُولِهِ مَنْ يَتَّقِيُّ الْغَيْبَ <sup>۱</sup>
--	---

وقال تعالیٰ:

غیب کا جاننے والا تو کسی کو اپنے غیب پر غالب و مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔	عِلْمُ الْغَيْبِ قَلَّا يُظْهِمُ عَلٰى عَيْنِهِ أَحَدًا <sup>۲</sup> إِلَّا مَنِ اتَّقَى مِنْ رَّسُولِيْلَهُ <sup>۲</sup>
--	--

یہاں لایظہر غیبہ علی احادیث نہ فرمایا کہ اللٰہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا کہ اظہار غیب تو اولیائے کرام قدست اسرار حکم پر بھی ہوتا ہے اور بذریعہ انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہم پر بھی، بلکہ فرمایا: لایظہر علی غیبہ احٰدًا اپنے غیب خاص پر کسی کو ظاہر و غالب و مسلط نہیں فرمایا مگر رسولوں کو۔ ان دونوں مرتبوں میں کیسا فرق عظیم ہے اور یہ اعلیٰ مرتبہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والثناء کو عطا ہونا قرآن عظیم سے کیا تاثاہر ہے مگر اسے کیا مضر کہ جب اس کے نزدیک اللٰہ عزوجل کا کذب ممکن جیسا کہ اس کے رسالہ "یکروزی" سے ظاہر، اور فقیر کے رسالہ "سبحان السبوع عن عیب کذب مقبوح" فـ میں اس کا رد خاہر و باہر، تو قرآن کی مخالفت اس پر کیا موثر، واللٰہ المستعان علی کل غوی فاجر (ہر گراہ فاجر کے خلاف اللٰہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے) اس سب سے گزر کر ہوشیار عیمار سے اتنا پوچھئے کہ بالفرض اگر حدیث سے ثابت ہے بھی تو صرف مانعت کہ انبیاء کی جناب میں ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ شرک کا جرودتی حکم جس کے لیے اس فصل اور ساری

ف: رسالہ "سبحان السبوع عن عیب کذب مفتوق" فتاویٰ رضویہ جلد ۱۵ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ اندر ورنہ لوہاری دروازہ لاہور کے صفحہ ۳۳ پر مرقوم ہے۔

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱/۲۹

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲/۲۶۷

کتاب کی وضع ہے کہاں سے نکلا کیا اسی کو اتمام تقریب کہتے ہیں اور یہ اس کا قدیم داب ہے کہ دعویٰ کرتے وقت آسمان سے بھی اونچاڑے گا اور دلیل لاتے وقت تحت اثری میں جا چھپے کا اور پچھا کیجئے تو وہاں سے بھی بھاگ جائے گا، ایسے ہی ناتمام انکل بازیوں سے عوام کو چھلا اور کاغذ کا چہرہ اپنے دل کی طرح سیاہ کیا۔

**ثم اقول:** اور انصاف کی نگاہ سے دیکھئے تو بحمد اللہ تعالیٰ حدیث نے شرک کا تمہہ بھی لگانہ رکھا، اور شرک پسند، او شرک کی حقیقت و شناخت سے غافل! کیا شرک کوئی ایسی ہلکی چیز ہے کہ اللہ کا رسول اور رسولوں کا سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں اپنے حضور اپنی امت کو شرک بنتے کفر بولتے سنے اور یونہی سہل و حرفاں میں گزار دے کہ اسے رہنے دو، ہی پہلی بات کہے جاؤ۔ اب یاد کرو حدیث ابی داؤد ویحک انه لا یستتشفع بالله علی احیٰ<sup>1</sup>۔ (تحفہ پر افسوس ہے مخلوق میں سے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کرائی جاتی) کے متعلق اپنی بد لگائی کی۔

تقریر کہ: ”عرب میں تحفہ پر اتحا ایک گنوار نے آکر پیغمبر کے رو رواں کی سخت بیان کی اور کہا تمہاری سفارش ہم اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی تمہارے پاس، یہ بات سن کر پیغمبر خدا بہت خوف اور دہشت میں آگئے اور اللہ کی بڑائی ان کے منہ سے نکلنے لگی اوساری مجلس کے چہرے اللہ کی عظمت سے متغیر ہو گئے پھر اس کو سمجھایا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے سب انبیاء و اولیاء اس کے رو روزہ ناچیز سے کمتر ہیں وہ کس کے رو رو سفارش کرے۔“<sup>2</sup>

سبحان اللہ! اشرف الخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے اور عرش سے فرش تک جو اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہے بیان کرنے لگے۔

**اقول:** انبیاء و اولیاء کو ذرہ ناچیز سے کمتر کہنے کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا کہ حضور نے اسے یوں سمجھایا تیر افتراء ہے حدیث میں اس کا وجود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حواس کہنا یہ تیری بے دینی کا ادنی کر شمہ اور افتراء پر افتراء ہے حدیث میں اس کا

<sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب السنۃ باب فی الجہمیۃ آفتاً عالم پر یہ میں لاہور ۲۹۳/۲

<sup>2</sup> تقویۃ الایمان الفصل الخامس مطبع علیمی اندر ون لوہاری دروازہ لاہور ص ۳۸

بھی نشان نہیں اور اللہ عزوجل کی عظمت اس کی صفت پاک اس کی ذات اقدس سے قائم ہے مکان و محل سے منزہ ہے، کیا جانئے تو کسی چیز کو خدا سمجھا ہے جس کی عظمت مکانوں میں بھری ہوئی ہے، خیر یہ تو تیرے بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں۔

طعن در حضرت الہی کن  
تیر بر جاہ انبیاء اندازہ

بے ادب باش و اپنچہ دانی گو      بیحیا باش و ہرچہ خواہی کن<sup>۱</sup>

(انبیاء کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقام و مرتبہ پر تیر اندازی کروار بارگاہ الہی میں طعن کر، بے ادب بن جا اور جو کچھ چاہتا ہے کتنا جا، بے حیان بن جا اور جو چاہتا ہے کرتا جات)

مگر آنکھوں کی پٹی اتر واکر ذرا یہ سوچ کہ جو بات عظمت شان الہی کے خلاف ہو اسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ برداشت ہوتا ہے حالانکہ سفارشی ٹھہرائے کو یہ بات کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہے جس کے پاس اس کی سفارش لائی گئی ایسی سرتخ لازم نہیں جسے عام لوگ سمجھ لیں والہذا وہ صحابی اعرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشکناہ اہل زبان تھے اس لکھتے سے غافل رہے تو کیا ممکن ہے کہ صرتخ شرک و کفر کے لئے حضور سینیں اور اصلًا کوئی اثر غصب و جلال چڑھا اقدس پر نمایاں نہ ہو، وہ حضور دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں، نہ اہل مجلس کی حالت بدلتے، نہ ان کے کہنے والیوں پر کوئی مواخذہ ہو، ایک آسان کی بات پر قاعدت فرمائیں کہ اسے رہنے دو، کوئی نہیں فرماتے کہ اری! تم کفر بک رہی ہو، اری! تقویۃ الایمان کے حکم سے تم شرک ہو گئیں تمہارا دین جانتا رہا تم مرتد ہو گئیں از سر انوایمان لاوکلمہ پڑھونکاح ہو گیا ہے تو تجدید نکاح کرو۔ گرض ایک حرف بھی ایسا نہ فرمایا جس سے شرک ہونا ثابت ہو، کہنے والیوں کو اپنا حال اور اہل مجلس کو اس لفظ کا حکم معلوم ہو حالانکہ وقت حاجت بیان حکم فرض ہے اور تاخیر اصلاح را نہیں، تو خود اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اطلاع علی الغیب کی نسبت ہر گز شرک نہیں۔ رہما نعت فرمانا، وہ بھی یہ بتائے کہ انبیاء کرام و خود سید الانام علیہ و علیہم افضل الصلة والسلام کی جانب میں اس کا اعتقاد فی نفسہ باطل ہے، یہ منه دھور کھئے متع لفظ بطلان معنی ہی میں منحصر نہیں بلکہ اس کے لیے وجود ہیں اور عقل و نقل کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال (جب احتمال آجائے تو استدلال باطل

ہو جاتا ہے۔ ت) اولًا: ممکن ہے کہ لہو و لعب کے وقت اپنی نعت اور وہ بھی زنانے گانے اور وہ بھی دف بجانے میں پسند نہ فرمائی، لہذا ارشاد ہوا: اسے رہنے دور اور وہی پہلے گیت گاؤ۔ ارشاد الساری، لمعات و مرقات وغیرہ میں اس احتمال کی تصریح ہے۔

ثانیًاً اقوال: ممکن کہ مجلس عورتوں، کنیروں، کم فہم لوگوں کی تھی ان میں منع فرمایا کہ توہم ذاتیت کا سد باب ہو، شرح حکیم ہے اور امام الوبابیہ کی مت اوندھی جو متحمل ذو وجہ بات جس میں برے پہلو کی طرف لے جانے کا احتمال ہو چھو کریوں کو منع کی جائے انشمد مردوں کے لیے اس کی ممانعت بدرجہ اولیٰ جانتا ہے حالانکہ معلمہ صاف الثابہ ایسی بات سے کم علموں کم فہموں کو روکتے ہیں کہ غلط نہ سمجھ بیٹھیں، عاقلوں انشمدنوں کو منع کیا ضرور کہ ان سے اندیشہ نہیں۔ صحیح مسلم و مسند احمد و سنن ابی داؤد و سنن نسائی میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور اس میں یہ لفظ تھے:

جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی اس نے راہ پائی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔	ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوی۔
---	--

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

کیا براہ خطیب ہے تو، یوں کہہ کہ جس نے اللہ و رسول کی نا فرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔	بئس الخطیب انت. قل ومن يعص الله ورسوله، فقد غوی <sup>1</sup> ۔
--	---

ابو داؤد کی روایت میں ہے:

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اٹھ، یا فرمایا: چلا جا کہ تو را خطیب ہے۔	قال قم او قال اذهب فيئس الخطیب انت <sup>2</sup> ۔
---	---

امام قاضی عیاض وغیرہ ایک جماعت علماء کا ارشاد ہے:

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الجمعة فصل فی ایجاز الخطبة و اطالۃ الصلة قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۸۲/۱، سنن الکبیری للبیہقی کتاب الطہارۃ ۸۶/۱

و کتاب الجمعة ۲۱۲/۳ دار صادر بیروت، مسند احمد بن حنبل حدیث عدی بن حاتم المکتب الاسلامی بیروت ۲۵۲/۳

<sup>2</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلة باب الرجل يخطب على قوس آفتاب عالم پر لیں لاہور ۱۵۶/۱

یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطیب کا اللہ و رسول کو ایک ضمیر تثنیہ میں جمع کرنا	<b>انما انکر علیہ تشرییکہ فی الضمیر المقتضی للتسویۃ وامرہ بالعطف تعظیم اللہ</b>
--	---

اقول: (میں کہتا ہوں) یہی علم درست ہے، اور اسکی منافات حدیث ابو داؤد کے ساتھ جو کہ عنقریب آرہی ہے، عبد ضعیف (الله تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے) کے بیان مذکور کے ساتھ مندرج ہے۔ امام اجل نوری علیہ الرحمہ نے منہاج میں جو خیال ظاہر فرمایا ہے کہ انہی کا سبب یہ ہے کہ خطبات کی شان یہ ہے کہ ان میں تفصیل و توضیح سے کام لیا جائے اور ارشادات و رموز سے اختناب کیا جائے حالانکہ اس قسم کی ضمیر کا استعمال کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں متعدد احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ﴿اللّهُ وَرَسُولُهُ كَيْفَ يَخْطُبُونَ﴾ کی محبت اس کے دل میں ان دونوں کے ماسوا سے زیادہ ہو۔ ”یہاں ضمیر تثنیہ اس لئے آپ نے استعمال فرمائی کہ یہ خطبہ وعظ نہیں بلکہ حکم شرعی کیت علم ہے، چنانچہ لفظوں کی قلت انہیں حفظ کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ خلاف خطبہ کے کہ اس میں حفظ الفاظ مقصد نہیں ہوتا بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اہ

فأقول: (وَمِنْ كَيْفَ يَخْطُبُونَ) امام نووی علیہ الرحمہ کو (باقی بر صحیح آئندہ)

عہ: اقول: هذا هو الصحيح علة ومنافاته حديث أبي داؤد الاتق مندفعة بما ذكر العبد الضعيف غفر الله تعالى له أما ما استتصوب الإمام الأجل التوسي رحمة الله تعالى في المنهاج أن سبب النهي إن الخطب شانها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ومثل هذا الضمير قد تكون في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان لم ثنى الضمير ه هنا الانه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعلیم حکم فکلما قل لفظ كان اقرب الى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس المراد حفظهما وإنما يراد الاعظام بها<sup>۱</sup> اہ

فأقول: انما حداه رحمة الله

<sup>۱</sup> شرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم كتاب الجمعة فصل في ايجاز الخطبة الخ قد يكي كتب خانہ کراچی ۲۸۶/۱

<p>کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی کو پسند نہ فرمایا اس میں برابری کا دہم نہ ہو جائے اور حکم دیا کہ یوں کہے کہ جس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی جس میں اللہ عزوجل کا نام اقدس نام پاک رسول سے تعظیماً مقدم رہے۔</p>	تعالیٰ بتقدیمه اسمیہ <sup>۱</sup>
--	-----------------------------------

(باقیہ حاشیہ صحیح گرشنہ)

اس تکلف سعید پر اس بات نے بر ایجتہاد کیا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطیب کو ضمیر یتینیہ کے استعمال سے منع کرنے اور خود اس کو استعمال فرمانے میں منافات سمجھی، حالانکہ تو جان چکا ہے کہ کوئی منافات نہیں۔ اور ضمائر کو ترک کرنا خطبہ کے واجبات میں سے نہیں اور نہ ہی ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھنا شرط تو پڑھ ہے۔ ضمیر کو استعمال کرنا وہاں محل اظہار ہوتا ہے جہاں التباس کا ذرہ ہو جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ بات اس امر کی مقتضی یہ ہوئی کہ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خطیب کو مذمت فرمائیں اور حکم دیں کہ یہاں سے چلا جایا اٹھ جاء، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام میں ایسے انحصار کو پسند فرماتے تھے جو محل فہم نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مرد کا نماز کو لمبا کرنا (باقی بر صحیح آئندہ)

تعالیٰ علی هذا التکلف السعید مارأى من التنافى بين نهيه الخطيب و ثبوته عن نفسه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقد علمت ان لاتنافى وليس من واجبات الخطبة ترك الا ضمائر لامن شريطة لا يوضح وضع المظہر موضع المضمر وإنما كان الا ضمائر يدخل بالاظهار حيث يخشى الا لتباس وه هنا لا ليس فكيف يكون هذا مقتضياً لان يواجهه النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانذم و يقول له اذهب او قم وقد كان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يحب الایجاز في الكلام بحيث لا يدخل بالفهم وكان يقول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ان طول

<sup>۱</sup> شرح صحيح مسلم للقاضی عیاض کتاب الجمعة حدیث ۷۰ دارالوفاء ۲۷/۵/۳، شرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم للنووی کتاب الجمعة فصل فی ایجاد الخطبة الخ قد کی کتب خانہ کراچی ۲۸۶۱/۱

حالانکہ حدیث شریف میں ہے خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے میں یوں فرمایا کرتے:

<p>جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہوا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ (ابو داؤد نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ ت)</p>	<p>من یطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن یعصیها فانه لا یضر الانفسه۔ ابو داؤد<sup>۱</sup> عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند صحيح۔</p>
--	--

نیز ابن شہاب زہری نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ روایت کیا اس میں بعض وہی الفاظ ہیں کہ:

<p>جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی گمراہ ہوا۔ (نیز اس کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلًّا روایت کیا گیا۔ ت)</p>	<p>ومن یعصیها فقد غُوی۔ رواه ایضاً<sup>۲</sup> عنه مرسلاً۔</p>
---	--

اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کی فقہت کی دلیل ہے لہذا نماز لمبی اور خطبہ مختصر کرو۔ اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس جیسے کلام کا خطبہ میں ثبوت جیسا کہ ابو داؤد کی دو حدیثوں سے تو نہے گا اس وجہ کو قابل قبول نہیں رہنے دیتا ہذا مختص اسی وجہ میں ہے جس کو عبد ضعیف (مصنف علیہ الرحمہ) نے ذکر کیا ہے۔ اس سوچ بوجھ کی عطا پر تمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ (ت)

(ابی حاشیہ صحیح گزشتہ)  
**صلوٰۃ الرجٰل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطیلوا الصلوٰۃ واقصر الخطبة وان من البيان لسحرا ثم ثبوت مثله عنه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم في الخطبة كما استسیع من حديثی ابی داؤد لایذر لهذا الوجه وجه قبول اصلاً فانها المحیص الى ما ذكر العبد الضعیف والحمد لله على التوقیف<sup>۲</sup> منه۔**

<sup>۱</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ (ابواب الجمعة) بباب الرجل یخطب على قوس آفتاب عالم پر یہیں لاہور ۱/۷۵

<sup>۲</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ (ابواب الجمعة) بباب الرجل یخطب على قوس آفتاب عالم پر یہیں لاہور ۱/۷۵

حدیث آئندہ سے توفیق اللہ تعالیٰ اس فقیر کی عمرہ تائید و تقریر ہوتی ہے فاستظر۔  
حالاً: وجہ مانعت علم غیب کی اسناد مطلق بے ذکر تعلیم الہی عزوجل ہے۔ شیخ حفظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے معاشر میں اس طرف ایما فرمایا۔

اقول: اور وہ بے شک وجیہ ہے جس طرح بغیر اللہ عزوجل کی مشیت کو ملائے یوں کہنا کہ میں یوں کروں گا، مکروہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

ہر گز نہ کہاں کسی چیز کو کہ میں کل بایسا کرنے والا ہوں مگر یہ کہ خدا چاہے۔	وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائِعَةٍ إِذْنًا قَاعِلٌ ذِلْكَ غَدَّاً <sup>۱</sup> ۔
--	--

علم غیب بالذات اللہ عزوجل کے لئے خاص ہے کفار اپنے معبود ان باطل وغیرہم کے لئے مانتے تھے لہذا مخلوق کو "عام الغیب" کہنا مکروہ، اور یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے، یہ دوسرا احتمال ہے کہ علماء نے اس حدیث میں ذکر فرمایا اس تقریر پر بھی مانعت ادب کالم کی طرف ناظر ہے نہ یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو تعلیم الہی غیب پر اطلاع کا عقیدہ من نوع ہی ہو شرک تو در کتاب جو اس طاغی کا مقصد ہے ہکذا یعنی التحقیق والله تعالیٰ ولی التوفیق (تحقیق یونہی مناسب ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ ت)

حدیث ۱۲۹: محمد بن اسحاق تابعی ثقة امام المسير والمغازی نے ابو جزہ زید بن عبید سعدی سے روایت کی، جب (غزوہ حنین میں) مشرکین بھاگ گئے مالک بن عوف (کہ اس لڑائی میں سردار کفار ہوازن تھے) بھاگ کر طائف میں پناہ گزیں ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ ایمان لا کر حاضر ہو تو ہم اس کے اہل و مال اسے واپس دیں۔ یہ خبر مالک بن عوف کو پہنچی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جبکہ کہ حضور مقام جرانہ سے نہضت فرمائچے گئے، سید اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اہل و مال واپس دئے اور سوانح اپنے خزانہ کرم سے عطا کئے، فقال مالک بن عوف رضي الله تعالى عنه يخاطب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم من قصیدۃ (تو مالک بن عوف رضي الله تعالیٰ عنہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے قصیدہ سے مخاطب ہوئے ت) :

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۳/۱۸

مَآنِ رَأْيُتُ وَلَا سَبْعَتْ بُوْاحِدٍ  
فِي النَّاسِ كَلَّهُمْ كَمِثْلُ مُحَمَّدٍ  
وَمِنْ تِشَاءِ يُخْبِرُكَ عِمَانِي غَدِيرٍ  
أَوْ فِي وَاعْطِي لِلْجَزِيلِ لِمِجْتَدِي

میں نے تمام جہاں کے لوگوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہ کوئی دیکھا نہ سن، سب سے زیادہ فاقہر مانے والے اور سب سے فزوں تر سائل نفع کو کثیر عطا بخشے والے اور جب تو چاہے تجھے کل کی خبر بتا دیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم ہوازن اور قبائل نماہ و سلمہ و فہم پر سرد ارجمند فرمایا<sup>1</sup>۔

حدیث ۲۷۰: معانی نے کتاب الجلیس والانیس میں بطريق حرمائی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس ہوازن اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا وہ قصیدہ نعتیہ سنایا (جس میں اسی مضمون کے شعر ذکر کئے) فقل له خیرًا وكساہ حلتة حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور انہیں خلاحت پہنایا۔ ذکر ہمایا الحافظ فی الاصابۃ<sup>2</sup> (ان دونوں روایتوں کو حافظ نے اصحابہ میں بیان کیا۔ ت)

اقول: رضوانہ کے بے شمار اباران یاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بر سیں یوں نہ کہا کہ مقیٰ یشاء جب وہ چاہیں تجھے غیب کی خبر دے دیں۔ اس میں اس صورت پر بھی صادق آسکنے کا احتمال رہتا، جب بتانے والے کو کوئی اختیار نہ دیا جائے بلکہ سال میں ایک آدھ بات پر اطلاع عطا ہوا یا جانے والا بھی تو یہ واپسی کے طور پر کہہ سکتا ہے کہ جب چاہوں گا تمہیں غیب کی خبر دے دوں کہ وہ اس وقت چاہے گا جب اسے اتفاق سے کوئی خبر ملے گی تو شرطیہ سچا ہے بلکہ یوں فرمایا کہ جب تو چاہے وہ تجھے غیب کی کبر دے دیں گے، یہاں سائل مطلق مخاطب ہے کسے باشد نہ وہ معین نہ اسکے پوچھنے کا وقت محدود نہ گدید معرفہ بلکہ نکرہ غیر مخصوص، تو حاصل یہ ٹھہرے گا کہ جو شخص چاہے جس وقت چاہے جس آئندہ بات کو چاہے

<sup>1</sup> الاصابۃ فی تبییز الصحابة بحوالہ ابن اسحق ترجمہ ۲۷۲ مالک بن عوف دار الفکر بیروت ۵/۳۲ و ۵/۳۵

<sup>2</sup> الاصابۃ فی تبییز الصحابة الجلیس والانیس للمعانی ترجمہ ۲۷۲ مالک بن عوف دار الفکر بیروت ۵/۵

حضور بتادیں گے، یہ اسی کی شان ہو سکتی ہے جو بالفعل تمام آئندہ باتوں کو جانتا ہو یا اطلاع غیرہ اس کے ارادہ و خواہش پر کر دی گئی ہو کہ جب چاہے معلوم کر لے ورنہ یہ اطلاق ہر گز صادق نہیں آسکتا، اسے ایک نظری محسوس میں دیکھئے۔ زید فقیر ہے نہ پاس کچھ رکھتا ہے نہ بادشاہی خوانوں پر اس کا ہاتھ پہنچتا ہے مگر بادشاہ کبھی کبھی اسے دوچار توڑے بخش دیتا ہے وہ شخص پہلو رکھ کر یہ کہے تو کہہ لے کہ میں جب چاہوں ایک توڑا خیرات کر دوں کہ وہ آپ ہی اسی وقت چاہے گا جب پائے گا مگر عام فقیروں کو اشتہار دے کر تم جس وقت چاہو میں توڑا عطا کر دوں، تو ضرور غلط کہا، اور دم بھر میں اس کا دروغ کھل سکتا ہے، فقیر ما نگیں اور نہ مال ہے نہ خزانے پر اختیار، تو کہاں سے دے گا، ہاں اگر بادشاہ نے بالفعل ایسے خزانے دے دئے کہ جب کوئی کچھ مانگے یہ دے اور کمی نہ ہو، یا بالفعل نہ سہی تو خزانوں پر اختیار ہی دیا ہو کہ جس وقت جو چاہے لے تو وہ بیشک ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ اب یہ حدیثیں فرمادی ہیں کہ صحابی یہ سفت کریم حضور کی نعمتِ اقدس میں عرض کرتے ہیں اور حضور انکار نہیں فرماتے بلکہ خلعت و انعام بجھتے ہیں، تو صراحتاً یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع غیرہ حضور کے ارادہ و اختیار پر رکھ دی ہے، اور واقعی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان ایسی ہی ہے، امام ججۃ الاسلام محمد محمد غزالی قدس سرہ العالی فرماتے ہیں:

یعنی نبوت وہ چیز ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے اور نبی اس کے سبب اور وہ سے ممتاز ہے اور وہ کئی قسم کے خاصے ہیں جنے نبی مختص ہوتا ہے، ایک یہ کہ جو امورِ اللہ عزوجل کے ذات و صفات اور ملائکہ و آخرت سے متعلق ہیں نبی اُنکے حقائق کا ایسا علم رکھتا ہے کہ اور وہ کے علم زیادت معلومات و فزونی تحقیق و اکشاف میں ان سے نسبت نہیں رکھتے۔ دو م یہ کہ نبی کے لیے اس کی ذات میں ایک وصف ہوتا ہے جس سے افعال خلاف عادت (جنہیں مجذہ کہتے ہیں) انصرام پاتے ہیں جس طرح ہمارے لئے ایک صفت ہے کہ اس سے ہماری حرکات ارادیہ

النبوة عبارة عن مخصوص به النبي ويفارق به غيره وهو يختص بـ نوع من الخواص. احدها انه يعرف حقيقة الامور المتعلقة بالله تعالى وصفاته وملائكته والدار الآخرة على مخالف العلم غيره بـ كثرة المعلومات وزيادة الكشف والتحقيق. ثانية ان له في نفسه صفة بها تتم الافعال الكارقة للعادة كما ان لنها صفة تتم بها الحركات المفرونة بـ ارادتنا

پوری ہوتی ہیں جسے قدرت کہتے ہیں۔ سوم یہ کہ نبی کے لیے ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے جس طرح انکھیارے کے پاس ایک صفت ہوتی ہے جس کے باعث وہ اندھے سے متاز ہے۔ چہارم یہ کہ نبی کے لیے ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان لیتا ہے۔ (علامہ زرقانی علیہ الرحمۃ نے شرح المواہب کے آغاز میں اسے امام غزالی علیہ الرحمۃ نے نقل کیا۔ ت)

وہی القدرة: ثالثہ ان لہ صفة بہا یبصر الملائکة ویشاهدہم کیما ان للبصیر صفة بہا یفارق الاعمی، رابعہما ان لہ صفة بہا یدرك ماسیکون فی الغیب۔  
نقلہ عنہ العلامہ الزرقانی فی صدر شرح المواہب ۱۔

اقول: مسلمانو! اس حدیث شریف اور ان امام باعظمت ان حکیم امت قدس سرہ المنیف کے ارشاد لطیف کو امام الوبایہ کے قول کثیف سے ملا کر دیکھو کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اہل حق و اہل باطل کے عقائد کا فرق ظاہر ہو یہ فرماتے ہیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رَّزْت میں رب عزوجل نے ایک صفت ایسی رکھی ہے جس سے وہ خرقِ عادت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے ارادے سے چلتے پھرتے، حرکت کرتے ہیں، ایک صفت رکھی ہے جس سے وہ ملائکہ کو دیکھتے ہیں، ایک صفت دی ہے جس سے وہ غیب کی آئندہ باتیں جانتے ہیں۔ یہ کہتا ہے: ۱۱۱ ان کو کسی نوع کی قدرت نہیں، کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایضاً کچھ اس بات میں بھی ان کو بڑائی نہیں کہ اللہ صاحب نے غیب دانی ان کے اختیار میں دی ہو کہ جس آئندہ بات کو جب ارادہ کریں تو دریافت کر لیں کہ فلانے کی اولاد ہو گی یا نہ ہو گی، یا اس سوداگری میں اس کو فائدہ ہو گا یا نہ ہو گا، یا اس لڑائی میں فتح پاوے گا یا نکست کہ ان بالوقت میں بھی سب بندے، بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔ ایضاً جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا دنیا خواہ قبر خواہ آخرت میں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا، اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی مقبول بندے کو وحی یا الہام سے بتائی کہ فلانے کام کا انجام بخیر ہے یا برا، سو وہ مجمل ہے اور اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے۔<sup>2</sup>

<sup>1</sup> شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بحوالۃ الغزالی مقدمة الكتاب دار المعرفة بيروت ۱۹۲۰/۱

<sup>2</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی فی رد الاشکاف فی العلم مطبع علیمی اندر رون لوہاری دروازہ لاہور ص ۷۱

اقول: اتنا لفظ سچ ہے کہ اللہ عزوجل کے بتانے سے زیادہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ ہمارے اختیاری افضل کب عطاۓ الہی واردہ رہیہ سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں مگر کلمۃ حق ارید بھا باطل (کلمہ حق ہے جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ت) خوارج کی طرح یہ سچا لفظ اس نے باطل ارادے سے کہا ہے وہ اس سے ان کے اختیار عطاۓ الہی کا بھی سلب چاہتا ہے یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خدا کا دیا ہوا اختیار بھی نہیں بلکہ عاجز و مجبور مغض ہیں۔ اس نے صاف تصریح کی ہے کہ: "ظاہر کی چیزوں کو دریافت کرنالوگوں کے اختیار میں ہے جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں، سواس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے دریافت کر لیجئے یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے، کسی نبی و ولی کو بھوت و پری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی، اللہ صاحب اپنے ارادے سے کبھی کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خبر دیتا ہے، سو یہ اپنے ارادے کے موافق نہ ان کی خواہش پر<sup>۱</sup>۔"

اسی کے اعتقداد باطل کا حدیث مذکور و قول مسطور امام مشہور میں رذصریح ہے۔

بالجملہ فرق یہ ہے کہ حدیث کے ارشاد اور ان کے مطابق اہل حق کے اعتقداد میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اظہار خوارق وادرائے غیب میں انسان مختار بعطائے قادر جلیل الاقتدار ہیں کہ جس طرح عام آدمیوں کو ظاہری حرکات و ظاہری اور اکات کے اختیارات حضرت وابہ العطیات نے بخشے ہیں کہ جب چاہیں دست و پاک و جنبش دیں چاہیں نہ دیں، جب چاہیں آنکھ کھول کر چیز دیکھ لیں چاہیں نہ دیکھیں، اگرچہ بے خدا کے چاہے وہ کچھ نہیں چاہ سکتے، اور وہ چاہیں خدا نہ چاہے تو ان کا چاہا کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ عطاۓ الہی اختیارات اس کے حقیقی ذاتی اختیار کے حضور کچھ نہیں چل سکتے یعنی یہی حالت حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی درباہ مجرمات وادرائے معیبات ہے کہ رب عزوجل نے انہیں ظاہری خوارج و مسح و بصر کی طرح باطنی سفات وہ عطا فرمائی ہیں کہ جب چاہیں خرق عادات فرمادیں مغیبات کو معلوم فرمائیں چاہیں نہ فرمائیں اگرچہ بے خدا کے چاہے نہ وہ چاہ سکتے ہیں نہ بے ارادہ رہیہ ان کا ارادہ کام دے سکتا ہے، اور امام الوبہیہ کے نزدیک ایسا نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پتھر کی طرح عاجز مغض و مجبور مطلق ہیں کہ ہلانے والا مغض اپنے قسری ارادے سے بے ان کے توسط اختیار عطاۓ الہی کے اپنے ارادے کے موافق نہ ان کی خواہش پر، ہلا دے تو ہل

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علیمی اندر وون لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۳

جائیں ورنہ مجبور پڑے رہیں یہ کس ناکس اپنے اس خیال پر دلیل لایا کہ: ۱۰) چنانچہ پیغمبر کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ بعض بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور وہ بات نہ معلوم ہوئی پھر جب اللہ صاحب کا ارادہ ہوا تو ایک آن میں بتادی چنانچہ منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت کی اور حضرت کو بڑا رنج ہوا اور کئی دن تک بہت تحقیق کیا کچھ حقیقت معلوم نہ ہوئی، جب اللہ صاحب کا ارادہ ہوا تو بتادیا کہ منافق جھوٹے ہیں اور عائشہ پاک<sup>۱</sup>۔ ۱۱)

اقول: اگر اختیار ذاتی و عطاً میں فرق کی تمیز ہوتی تو جان لیتا کہ ایسے اتفاقات اختیار عطاً کے اصلًا منافی نہیں، مراد کا اکتیار سے مختلف نہ ہو سکتا قدرت ذاتیہ الہیہ کا خاصہ ہے، قدرت عطاً میں انسانیہ میں لاکھ بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کیا چاہتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا نہیں بن پڑتا، اس سے نہ انسان پتھر ہو گیا نہ اس کا اختیار عطاً مسلوب، عطاً کی شان ہی یہ ہے کہ جب تک ارادہ ذاتیہ حقیقیہ الہیہ مساعدت نہ فرمائے کام نہیں دیتا۔ طرفہ قہر بر قہر یہ ہے کہ ادھر تو تو نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عیاداً باللہ پتھر بنایا تھا ادھر اپنے معبد کو ایک آدمی کے برابر کر چھوڑا کہ: ۱۲) غیب کی بات دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے یہ اللہ صاحب کی شان ہے<sup>۲</sup>۔ ۱۳)

او اللہ عزوجل کو سخت عیب لگانے والے بے ادب گستاخ! یہ ہر گزہر گزاللہ تعالیٰ کی شان نہیں، وہ اس بیبودہ مہمل شان سے پاک و منزہ ہے اس کا علم اس کی صفت ذاتیہ ہے اس کے اختیار سے نہیں اس کا علم مخلوق نہیں ازلى ابدی ہے حادث نہیں۔ اوبد عقل بدزبان! غیب کا دریافت کرنا اختیار میں ہونے کے بھی معنی یا کچھ اور کہ با فعل تو معلوم نہیں مگر چاہے تو معلوم کر سکتا ہے، تُف برُوئے بے دینی، یہ تیرا موہوم خدا جاہل بالفعل محل حادث ہوا سچا خدا تیری یہ صریح کالی ہے بے نہایت تعالیٰ ہے تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً (اللہ تعالیٰ بہت بلند و مرتب ہے۔ ان بالقوں سے جو خالم کہتے ہیں۔ ت) مسلمانو! دیکھا تم نے، یہ ایمان ہے اس مگر اہ کا انبیاء اور خود حضرت عزت کی جناب میں،

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثاني مطبع علیمی اندر ورن اوباری دروازہ لاہور ص ۱۳

<sup>۲</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثاني مطبع علیمی اندر ورن اوباری دروازہ لاہور ص ۱۳

انَّ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ خیر اس کی ضلالتیں کہاں تک لکھئے ماعلیٰ مثلہ یعد الخطا (اس جیسے کی خطاؤں کا شمار نہیں کیا جاتا۔ ت) حدیث دھما کر اتنا پوچھئے کہ کیوں صاحب اواہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصب فرمایا نہ حکم شرک لگایا مگر انصار کی چھو کریوں کو اتنا رشاد ہوا کہ اسے رہنے دو۔ یہاں جو یہ مرد عاقل یہ صحابی فاضل نعت حضور میں اس سے بھی زیادہ عظیم بات کر رہے ہیں اور حدیث فرماتی ہے کہ حضور منع نہیں کرتے بلکہ اور انعام واکرام بخشتے ہیں۔ یہ شرک وہ بیت پر کیسی آفت ہے، اب یاد کروہ اپنی اونڈھی مت الٹی کھوپڑی "چ جا کہ عاقل مرد کہے یا سن کر پسند کرے"<sup>۱</sup>۔ کچھ یہ بھی سو جھا کہ کہنے والے کون تھے اور سن کر پسند کریںوالے کون۔

<p>بَلَكَلْ هُمْ حَقُّ كُوْبَاطِلِيْلِ فَيَدِ مَعْنَى فَلَادَاهُوَزَاهِقٌ وَلَكُمْ دِيَتًا هُنَّ تَوْجِيْحٍ وَهُمْ مَثْكُورُهُ جَاتِا هُنَّ، اُور تَهَارِيْ خَرَابِيْ هُنَّ اَنْ بَاقِوْلُ سَجْوَنَاتِهِ هُنَّ۔ (ت)</p>	<p><b>بَلْ نَقْدِفُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدِ مَعْنَى فَلَادَاهُوَزَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُونَ<sup>۲</sup>۔</b></p>
---	--

حدیث ۱۷۱: اور بڑھ کر سنتے، شرک فی العادۃ کے بیان میں لکھا: "اللَّهُ صَاحِبُنَّ اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کو کچھ تعظیم کرتے رہیں جیسے اولاد کا نام عبد اللہ، خدا بخش رکھنا جس چیز کو فرمایا اس کو بر تاجو منع کیا اس سے دور رہنا اور یوں کہنا کہ اللہ چاہے تو ہم فلا ناکام کریں گے اور اس کے نام کی قسم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بتائی ہیں پھر کوئی کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی اس قسم کی تعظیم کرے جیسے اولاد کا نام عبد النبی امام بخش رکھنے کھانے پینے پہنچنے میں رسول کی سند پکڑے یا یوں کہے کہ اللہ و رسول چاہے کا تو میں آؤں گا یا یغیرہ کی قسم کھاؤے سو ان سب باقیوں سے شرک ثابت ہوتا ہے اس کو اشراک فی العادۃ کہتے ہیں<sup>۳</sup> ۔"

پھر اس شرک کی فصل میں اس مدعای کے ثبوت کو مشکلوتہ کے باب الاسمی سے شرح السنہ کی

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۸

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۸/۲۱

<sup>۳</sup> تقویۃ الایمان مقدمۃ الكتاب مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۹، ۸

حدیث برداشت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تقولوا مَا شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں کہو کہ نہ کہو جو چاہے اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ما شاء اللہ جو چاہے ایک اللہ۔	وحدۃ <sup>۱</sup> ۔
--	---------------------

اور اس پر یہ فائدہ چڑھایا: "یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملا دے گو کیسا ہی بڑا ہو مثلاً یوں نہ بولو کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا کہ سارا کاروبار جہاں کا اللہ ہی کے چاہے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا"<sup>۲</sup>۔

اقول: **وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ اَوْلًا**: وہی قدیمیت وہی پرانی علت کو دعوے کے وقت آسمان نشین اور دلیل لانے میں اسفل السالین۔ حدیث میں تو اتنا ہے کہ "یوں نہ کہو" وہ شرک کا حکم کدھر گیا۔

ٹھیکا: سخت عیاری و مکاری کی چال چلا، مشکوٰۃ شریف کے باب مذکور میں حدیث حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مذکور تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تقولوا مَا شاء اللہ و شاء فلاں ولكن قولوا مَا شاء اللہ نہ کہو جو چاہے اللہ اور چاہے فلاں بلکہ یوں کہو جو چاہے اللہ پھر چاہے فلاں۔	ثُمَّ شاء فلاں <sup>۳</sup> ۔
---	-------------------------------

مشکوٰۃ میں اسے منند امام احمد و سنن ابی داؤد کی طرف نسبت کر کے فرمایا: **وَفِي رَوَايَةٍ مُنْقَطِعًا** اور ایک روایت منقطع یعنی جس کی سند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل نہیں یوں آئی ہے یہاں وہ روایت شرح السنہ ذکر کی ہو شیار عیار نے دیکھا کہ اصل حدیث تو اس کے دلنوی شرک کو داخل جہنم کئے دیتی ہے اسے صاف الگ اڑا گیا اور فقط یہ منقطع روایت

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الخامس مطبع علیمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۳۰

<sup>2</sup> تقویۃ الایمان الفصل الخامس مطبع علیمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۳۰

<sup>3</sup> مشکوٰۃ المصاہبیح کتاب الادب باب الاسلامی قدیمی کتب خانہ کراچی ص ۳۰۸

<sup>4</sup> مشکوٰۃ المصاہبیح کتاب الادب بباب الاسلامی قدیمی کتب خانہ کراچی ص ۳۰۸، ۳۰۹

نقل کر لیا۔ کیا یہ سمجھتا تھا کہ مشکلہ اہل علم کی نظر سے نہیں ہے، نہیں نہیں، خوب جانتا تھا کہ مبتدی طالب علم حدیث میں پہلے اسی کو پڑھتا ہے مگر اسے تو ان بیچارے عوام کو چھلانا مقصود تھا جنہیں علم کی ہوانہ لگی سمجھ لیا کہ ان پر اندر حیری ڈال ہی لوں گا، اہل علم نے اور کون سی مانی ہے کہ اسی پر معرض ہو گے۔

ع اس آنکھ سے ڈریے جو خدا سے نہ ڈرے آنکھ

**ثانیًا:** امام الوبایہ کا تو مبلغ علم یہی مشکلہ ہے، ہم اس مطلب کی احادیث اول ذکر کریں پھر بتوفیقہ تعالیٰ ثابت کرد کھائیں کہ یہی حدیثیں اس کے شرک کا کیسا سر توڑتی ہیں۔ اول تو یہی حدیث حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی (حدیث ۱۷) احمد وابی داؤد نے یوں مختصرًا اور ابن ماجہ نے بسند حسن اس طرح مطوقاً روایت کی:

لیئنی اہل اسلام سے کسی صاحب کو خواب میں ایک کتابی ملا وہ بولا: تم بہت خوب لوگ ہو اگر شرک نہ کرتے تم کہتے ہو جو چا ہے اللہ اور چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان مسلم نے یہ خواب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، فرمایا: سنتے ہو خدا کی قسم تمہاری اس بات پر مجھے بھی خیال گزرتا تھا یوں کہا کرو جو چا ہے اللہ پھر جو چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حدثنا هشام بن عمار ثنا سفین بن عيينہ عن عبد الملک بن عمیر عن ربیع بن حراش عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلاً من المسلمين رأى في النوم انه لقي رجلاً من اهل الكتاب فقال نعم القوم انت ثم لولا انكم تشركون تقولون ماشاء الله وشاء محمد صلی الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فقال اما والله ان كنت لا اعرفها لكم قول اما شاء الله ثم ماشاء محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم<sup>۱</sup>۔

<sup>۱</sup> مسند احمد بن حنبل حدیث حذیفة بن الیمان المکتب الاسلامی بیروت ۵/۳۹۳، سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب منه آنقباب عالم پر لیں لاہور ۲/۳۲۲، سنن ابن ماجہ ابواب الكفارات بباب النهي ان یقال ماشاء الله الخ ایم سعید کپنی کراچی ص ۱۵۲

یہ حدیث ابن ابی شیبہ<sup>۱</sup> و طبرانی و بیہقی وغیرہم نے بھی روایت کی۔

حدیث ۱۷۲: ابن ماجہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھائے تو یوں نہ کہے کہ جو چاہے اللہ اور میں چاہوں، ہاں یوں کہے کہ جو چاہے اللہ پھر میں چاہوں۔	اذا حلف احد کم فلا یقل ماشاء اللہ وشئت ولكن لیقل ماشاء اللہ ثم شئت <sup>۲</sup>
---	---

حدیث ۱۷۳: نیز ابن ماجہ و احمد و بغوی و ابن قانع وغیرہم نے یہی مضمون طفیل بن سنبۃ برادر مادری ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا:

سوائے اس کے کہ ابن ماجہ نے اسکو حدیث حذیفہ کی طرف پھیرتے ہوئے نحو، کہا ہے اس کے الفاظ ذکر نہیں کئے۔ (ت)	بیدانہ اعنى ابن ماجه <sup>۳</sup> احالہ علی حدیث حذیفة فقال نحوه ولم يسوق لفظه۔
---	---

اور مسنڈ امام احمد بسند حسن صحیح کہ حد ثنا بهز و عفان شا حماد بن سلمہ عن عبد الملک بن عمر عن ربعی بن هراش عن طفیل بن سنبۃ اخی عائشہ لامحار رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں ہے کہ انہیں خواب میں کچھ یہودی ملے انہوں نے ابنتیت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام ماننے کا ان پر اعتراض کیا انہوں نے کہا تم خاص کامل لوگ ہوا گرویں نہ کہو کہ جو چاہے اللہ اور چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کچھ نصاری ملے ان سے بھی ابنتیت مسیح کے جواب میں یہی سن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواب عرض کیا، حضور نے خطبے میں بعد حمد و ثناء اللہ فرمایا:

تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے مجھے تمہارا	انکم کنتم تقولون کلمة کان یعنی
---	--------------------------------

<sup>۱</sup> اتحاف السادة بحوالہ ابن ابی شیبۃ الافۃ التاسعة عشر دار الفکر بیروت ۱/۵۷۳، اتحاف السادة بحوالہ المعجم الكبير الافۃ التاسعة

عشر دار الفکر بیروت ۱/۵۷۳، الاسماء والصفات باب قول اللہ عزوجل و ماتشاؤن الخ المکتبۃ الاثریہ سانگلے ۱/۲۳۸ و ۲۳۸

<sup>۲</sup> سنن ابن ماجہ ابواب الكفارات باب النہی ان یقال ماشاء اللہ الخ ایم سعید کپنی کر اپنی ص ۱۵۲

<sup>۳</sup> سنن ابن ماجہ ابواب الكفارات باب النہی ان یقال ماشاء اللہ الخ ایم سعید کپنی کر اپنی ص ۱۵۲

لحاظ روکتا تھا کہ تمہیں اس سے منع کر دوں یوں نہ کہو جو چاہے اللہ اور جو چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔	الحیاء منکن ان انہکم عنہا لا تقولوا مأشاء اللہ وما شاء محمد ۱۔
--	---

حدیث ۱۷۲۱: سنن نسائی میں بسنده صحیح بطریق مسخر عن معبد بن خالد عن عبد اللہ بن سیار قتیلہ بنت صیفی جسنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے:

یعنی ایک یہودی نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہو کر عرض کی: پیش کر لوگ اللہ کا برادر والا ٹھہراتے ہو پیش کر شرک کرتے ہو یوں کہتے ہو جو چاہے اللہ چاہو تو م، اور کبھے کی قسم کہاتے ہو۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ قسم کھانا چاہیں تو یوں کہیں "رب کعبہ کی قسم" اور کہنے والا یوں کہے "جو چاہے اللہ اور پھر جو چاہو تم" ۱۔	ان یہودیاً اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال انکم تنددون وانکم تشرکون تقولون ماشاء الله وشتئت وتقولون والکعبة فامرهم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا اراد وان يحلفو ان يقولوا ورب الکعبة ويقول احد ماشاء الله ثم شئت ۲۔
---	--

یہ حدیث سنن بیهقی<sup>۳</sup> میں بھی ہے، نیز ابن سعد نے طبقات اور طبرانی مجمٰع کیر میں میں بطریق مسخر اور ابن منده نے بطريق المسعودی عن معبد<sup>۴</sup> الجدلی عن ابن یسار بن الجھنی عن قتیلۃ الجھنیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کی اور امام احمد نے مند میں اس طریق مسعودی سے بسنده صحیح یوں روایت فرمائی: حدثنا یحییٰ بن سعید ثنا یحییٰ المسعودی ثنا عبد بن خالد عن عبد اللہ بن یسار

<sup>۱</sup> مسند احمد بن حنبل حدیث طفیل بن سخبرۃ المکتب الاسلامی بیروت ۷۲/۵

<sup>۲</sup> سنن النسائی کتاب الایمان والنذور الحلف بالکعبۃ نور محمد کارخانہ کرجی ۱۳۳/۲

<sup>۳</sup> السنن الکبیری کتاب الجمعة باب مأیکرة من الكلام في الخطبة دار صادر بیروت ۲۱۲/۳

نساء العرب دار صادر بیروت ۳۰۹/۸، المعجم الكبير عن قتیلۃ بنت صیفی الجھنیۃ حدیث ۵ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۱۵۰/۲۵

## عن قتیلہ بنت صیفین الجهنمیہ

<p>یعنی یہود کے ایک عالم نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد! آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر شرک نہ کیجئے۔ فرمایا: سبحان اللہ! یہ کیا۔ کہا: آپ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ مہلت دی یعنی ایک مدت تک کچھ مانع نہ فرمائی، پھر فرمایا: یہودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ یہودی نے عرض کی: اے محمد! آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر اللہ کا برادر نہ ٹھہرائیے۔ فرمایا: سبحان اللہ! یہ کیا۔ کہا: آپ کہتے ہیں جو چاہے اللہ اور چاہو تم۔ اس پر بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہلت تک کچھ نہ فرمایا، بعدہ، فرمادیا: اس یہودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ تو دوسرا کے چاہنے کو جدا کر کے کہے کپ پھر چاہو تم۔</p>	<p>قالت اُنْ خَبْرٍ مِّنَ الْأَخْبَارِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ نَعَمْ قَوْمٌ أَنْتُمْ لَوْلَا إِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ قَالَ سَبَّحَانَ اللَّهِ وَمَاذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَّفْتُمْ وَلِكُعبَةِ قَالَتْ فَأَمْهَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ فَنِ حَلْفٍ لِي حِلْفٍ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ نَعَمْ قَوْمٌ أَنْتُمْ لَوْلَا إِنَّكُمْ تَجْعَلُونَ اللَّهَ نَدًا قَالَ سَبَّحَانَ اللَّهِ وَمَاذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَيْئًا قَالَ فَأَمْهَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلِيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا شَيْئًتُ<sup>1</sup>۔</p>
--	---

بحمد اللہ یہ احادیث کثیرہ صحیحہ جلیلہ متصلہ کتب صحاح سے ہیں، امام الوبائیہ نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کر شرح السنہ کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بحمد اللہ اس میں بھی کہیں اپنے حکم شرک کی بونہ پائی۔

اقول: وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ابْنُ فَضْلَلِهِ تَعَالَى مَلَاحِظَةً كَيْجَئے کہ یہی حدیثیں اسکے دعوی شرک کو کس طرح جہنم رسید فرماتی ہیں:

اوگا: ان احادیث سے ثابت کہ صحابہ کرام میں قول کہ اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائیگا

<sup>1</sup> مسنند احمد بن حنبل عن قتیلہ بنت صیفی حدیث قتیلہ بنت صیفی حدیث قتیلہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۶۳۷

یا اللہ اور تم چاہو تو یوں ہو گا شائع وذائق تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر مطلع تھے اور انکار نہ فرماتے تھے بلکہ اس عالم یہود کے ظاہر الفاظ تو یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی ایسا فرمایا کرتے تھے، امام الوبابیہ اسے شرک کہتا ہے، تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شرک کرتے تھے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع نہ فرماتے تھے۔

**مثال:** حدیث طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ دیکھو کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:<sup>۱۰۰</sup> اس لفظ کا خیال مجھے بھی گزرتا تھا مگر تمہارے لحاظ سے منع نہ کرتا تھا۔ جب یہ لفظ امام الوبابیہ کے نزدیک شرک ٹھہر اتو معاذ اللہ نبی نے دانستہ شرک کو گوار کیا اور اس سے ممانعت پر اپنے یاروں کے لحاظ پاس کو غلبہ دیا اور امام الوبابیہ کے بیہاں یہ نبوت کی شان ہے، والعياذ بالله بالله رب العالمین۔

**مثال:** ایک یہودی نے آکر اعتراض کیا اس کے بعد حکم ممانعت ہوا، تو امام الوبابیہ کے نزدیک صحابہ کرام بلکہ سید امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سچی توحید اور اس پر استقامت کی تاکید ایک یہودی نے سکھائی ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔

**رائی:** قتید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حدیث صحیح دیکھو، اس یہودی کی عرض پر بھی فوراً حضور نے ممانعت نہ فرمائی بلکہ ایک زمانہ کے بعد خیال آیا او فرمایا: وہ یہودی اعتراض کر گیا ہے اچھا یوں نہ کہا کرو۔ تو امام الوبابیہ کے نزدیک اللہ کے رسول نے آپ تو شرک سے نہ روکا یا شرک کو شرک نہ جانا جب ایک کافر نے بتایا اس پر بھی ایک مدت تک شرک کو روکا پھر ممانعت بھی کی تو یوں نہیں کی شرک کی برائی سے، بلکہ یوں کہ ایک مخالف اعتراض کرتا ہے لہذا چھوڑ دو۔ انالله وانا الیه راجعون۔

**خامس:** ان سب دقوں کے بعد جو تعلیم فرمائی وہ بھی ہماں آس درکاسہ لائی ارشاد ہوا کہ یوں کہا کرو<sup>۱۱</sup> جو چاہے اللہ پھر چاہیں محمد<sup>۱۲</sup> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ کام ہو گا، امام الوبابیہ کے لفظ یاد کیجئے:

"یہ خاص اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دغل نہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔"

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان الفصل الخامس مطبع علیمی اندر ورن لوباری دروازہ لاہور ص ۳۰

مسلمانو! اللہ انصاف، جو بات خاص شانِ الہی عز و جل ہے جس میں کسی مخلوق کو کچھ دخل نہیں اس میں دوسرا کو خدا کے ساتھ ۱۱ اور ۱۲ کہہ کر ملایا ت تو کیا، شرک سے کیوں نکر نجات ہو جائے گی۔ مثلاً آسمان و زمین کا خالق ہونا، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین و آخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں۔ کیا اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ و رسول خالق السموات والارض ہیں، اللہ و رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں جبھی شرک ہوگا۔ اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السموات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں تو شرک نہ ہوگا۔

مسلمانو! مگر ہوں کے امتحان کے لیے ان کے سامنے یہ نبی کہہ دیکھو کہ اللہ پھر رسول عالم الغیب ہیں، اللہ پھر رسول ہماری مشکلین کھوں دیں، دیکھو تو یہ حکم شرک جڑتے ہیں یا نہیں۔ اسی لئے تو یہ عیار مشکلہ کی اس حدیث متصل صحیح ابو داؤد کی میر بحری بجا گیا تھا جس میں لفظ "پھر" کے ساتھ اجازت ارشاد ہوئی تو ثابت ہوا کہ اس مرد کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کا اعتراض پا کر بھی جو تبدیلی کی وہ خود شرک کی شرک ہی رہی۔

مسلمانو! یہ حاصل ہے رسولوں کی جناب میں اس گستاخ کے اعتقاد کا۔ "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَتَقَبَّلُونَ" <sup>۱</sup>۔ (اب جانا چاہتے ہیں خالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ت) یہ تو انکے طور پر نتیجہ احادیث تھا، ہم اہل حق کے طور پر پوچھو تو اقول: وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں۔ ت) بحمد اللہ تعالیٰ نے صحابہ نہ شرک کیا نہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک سن کر گوار فرمایا، کسی کے لحاظ و پاس کو کام میں لانا ممکن نہ تھا، نہ یہودی مرد ک تعییم تو حیدر کر سکتا تھا، بلکہ حقیقت امری یہ ہے کہ مشیت حقیقیہ ذاتیہ مستقلہ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے اور مشیت عطا یتیہ تابعہ لمشیت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد کو عطا کی ہے، مشیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں جیسا کچھ دخل عظیم بعطاۓ رب کریم جل جلالہ، ہے وہ ان تقریرات جلیلہ سے کہ ہم نے زیر حدیث ذکر کیں واضح و آشکار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک نائب و خادم سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنی کی نسبت امت مرحومہ کا جو اعتقاد ہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت مذکورہ مقدمہ سے اظہار ہے کہ:

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۲۷/۲۲

<p>حضرت امیر یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور ان کی اولاد کو تمام امت اپنے مرشد جیسا سمجھتی ہے اور تکونی امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ جانتی ہے۔ (ت)</p>	<p>حضرت امیر وزیر طاہرہ اور تمام امت بر مثال پیران می پر مستند و امور تکونیہ را بیش اور بستہ میداند<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

اور خود امام الوبایہ اس تقویۃ الایمان کے کفری ایمان سے پہلے جو ایمان صراط مستقیم میں رکھتا تھا وہ بھی یہی تھا جہاں کہتا تھا:

<p>مقامات ولایت بل سائر خدمات مثل قطبیت، غوثیت و ابدالیت وغیرہ سب رہتی دنیا تک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے واسطے سے ملتے ہیں اور باادشا ہوں کی سلطنت اور امیروں کی امارت میں بھی آجنبات کی ہمت کا داخل ہے، یہ سیاحان عالم ملکوت پر پوشیدہ نہیں۔ (ت)</p>	<p>مقامات ولایت بل سائر خدمات مثل قطبیت وغوثیت و ابدالیت وغیرہ از عهد کرامت مهد حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہمہ بواسطہ ایشان ست و در سلطنت سلاطین و امارات امرا ہمت ایشان را خلے ست کہ بر سیاحین عالم ملکوت مخفی نیست<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

اب کہ تقویۃ الایمان نے بھک:

<p>تم فرمادو کیا، بر احکم دیتا ہے تم کو تھہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔</p>	<p>"قُلْ يَعْسَى يَا مُرْسَلُكُمْ بِهِ أَيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ" <sup>۳</sup>۔</p>
--	--

اسے تمام امت مرحومہ کے خلاف ایک نیا ایمان سخت بر ایمان نام کا ایمان اور حقیقت میں پر لے سرے کا کفر ان سکھایا یا اسفل السلفین پہنچا، اب وہ بات کہ سیاحان عالم پر ظاہر تھی اسے کیونکر سمجھائی دے،

<p>اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں۔ (ت)</p>	<p>"وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَنْ نُورٌ" <sup>۴</sup>۔</p>
--	--

<sup>1</sup> تحقیق اثنا عشریہ باب ہفتم در امامت سہیل اکیڈمی لاہور ص ۲۱۳

<sup>2</sup> صراط مستقیم باب دوم فصل اول المکتبۃ السلفیہ لاہور ص ۵۸

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۹۳/۲

<sup>4</sup> القرآن الکریم ۳۰/۲۳

اس مشیت مبارکہ عطائیہ کے باعث صحابہ کرام نام الٰہی عزوجل کے ساتھ حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک ملا کر ہمکرتے تھے کہ اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا مگر از انجا کہ طریق ادب سے اقرب و انسب یہ ہے کہ مشیت ذاتیہ و مشیت عطائیہ میں فرق مراتب نفس کلام سے واضح ہو کہ کسی احمد کو توہم مساوات نہ گزرے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کلے پر خیال گزرتا تھا پھر ملاحظہ فرماتے کہ یہ اہل توحید ہیں معنی حق و صدق انہیں ملحوظ ہیں محبت خدا اور رسول اور نام پاک خلیفۃ اللہ الاعظم جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تبرک و توسل انہیں اس قول پر باعث ہے اور بات فی نفسہ شرعاً منوع نہیں کہ واؤ مطلق جمع کے لیے ہے نہ مساوات عَلَى نہ معیت کے واسطے، لہذا

اقول: (میں کہتا ہوں) اس کہتے کی طرف بعض بزرگوں کی توجہ نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے یوں کہنے کو توجہ تقریباً کیا کہ "جو چاہے اللہ پھر چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" مگر گمان کیا کہ اگر تم کی جگہ واو ہو تو شرک جلی ہوگا۔ لیکن یہ استدلال توبت تام ہوتا اگر واو مقتضی مساوات ہوتی، حالانکہ یہ قطعاً باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر ایسا ہی ہے مگر باوجود اس عدم توجہ کے ان بزرگوں کا مطمئن نظر بحمد اللہ وہ نہیں جوان کہنے وہابیوں کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ (باقی اگلے صفحہ پر)

عَلَى: اقول: وهذا نكتة غفل عنها بعض الجلة فجوز ماشاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و زعم ان لواقي باللواو لكن شرکا جليا فانيا يتم ان كانت الواو المستوية وهو باطل قطعاً قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكُوهُنَّا عَلَى النَّبِيِّ" <sup>1</sup> قال تعالى "أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" <sup>2</sup> الى غير ذلك مما لا يحصى ومع ذلك بحمد الله ليس ملحوظه ملحوظ هؤلاء الا بخاس الجاعلة اثبات المشیت للنبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۵۶/۳۳

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۷۲/۹

منع نہ فرماتے تھے۔

**حکمت:** جب اس یہودی خبیث نے جس کے خیالات امام الوبابیہ کے مثل تھے، اعتراض کیا اور معاذ اللہ شرک کا الزام دیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے کریم کا زیادہ رجحان اسی طرف ہوا کہ ایسے لفظ کو جس میں احمد بد عقل مخالف جائے طعن جانے دوسرے سہل لفظ سے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تمک و توسل برقرار رہے اور مخالف کچھ فہم کو گنجائش نہ ملے مگر یہ بات طرز عبارت کے ایک گونہ آداب سے تھی معتنّا تو قطعاً صحیح تھی لہذا اس کافر کے بکنے کے بعد بھی چند اس لحاظ نہ فرمایا گیا یہاں تک کہ طفیل بن سخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب دیکھا اور رویا یہ صادقہ القاء ملک ہوتا ہے اب اس خیال کی زیادہ تقویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگاہ عزت میں یہی ٹھہر ہے کہ یہ لفظ محالفوں کا جائے پناہ ٹھہر ہے بدل دیا جائے جس

طرح رب العزة

(ابقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مشیت کے محض اثبات کو ہی شرک قرار دیتے ہیں جیسا تو ان کے ذیل امام کی بات سن چکا ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہئے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان بزر گوں کا نظر یہ ہے کہ ہوتا جو ان وہا بیوں کا ہے تو العیاذ بالله نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشیت کے ذکر کو مطلقاً شرک قرار دیتے چاہے اس میں وائمہ کور ہو یا تم، جیسیں اک تو جان چکا ہے، حالانکہ انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ یوں کہتا جائز ہے ۱۱ جو چاہے اللہ پھر چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۱ ثابت قدم رہ مت ڈگمگا۔

۱۲۱مہ (ت)

شرکا بنفسه کما سمعت من امامهم السحقین ان ذاشان يختص بالله عزوجل وان لامدخل في لمخلوق ومشيته النبي صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم لا يأتی بشيء فلو كان يذهب مذهب هؤلاء والعياذ بالله لجعل ذكر مشيته صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم شرکا مطلقاً سواء فيه الواو وثم کما علمت وهو قد سرح بجواز ماشاء الله ثم شاء محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فثبت ولا تزل امنه۔

جل جلالہ، نے راعنا کہنے سے منع فرمایا تھا کہ یہود و عنود اسے اپنے مقصد مردوں کا ذریعہ کرتے ہیں اور اس کی جگہ انظرنا کہنے کا ارشاد ہوا تھا وہ لہذا خواب میں کسی بندہ صالح کو اعتراض کرتے نہ دیکھا کہ یوں توبات فی نفسہ محل اعتراض نہ تھا ہر قبیلے بلکہ خواب بھی دیکھا تو انہیں یہود و نصاریٰ اس امام الوبایہ کے خیالوں کو مفترض دیکھاتا کہ ظاہر و کہ صرف ہن دوزی مخالفان کی مصلحت داعی تبدیل لفظ ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اللہ و رسول چاہیں تو کام ہو گا بلکہ یوں کہو کہ اللہ پھر اللہ کا رسول چاہے تو کام ہو گا۔<sup>۱۱</sup> پھر<sup>۱۲</sup> اکا لفظ کہنے سے وہ توہم مساوات کہ ان وہابی خیال کے یہود و نصاریٰ یا یوں کہنے کہ ان یہودی خیال کے وہابیوں کو گزرتا ہے باقی نہ رہے گا الحمد للہ علی تواتر الائمۃ والصلوۃ والسلام علی انبیاءٰہ (تمام تعریفِ اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اسکی مسلسل نعمتوں پر، اور درود وسلام ہوا کے نبیوں پر)۔

اہل انصاف و دین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ تقریر منیر کہ فیض قادر سے قلب فقیر پر القاء ہوئی کیسی واضح و مستینر ہے ان احادیث کو ایک مسلسل سلک گوہریں میں منظوم کیا اور تمام مدارج مراتب مرتبہ حمد للہ تعالیٰ نورانی نقشہ کھینچ دیا۔ الحمد للہ کہ یہ حدیث فہمی ہم اہلسنت ہی کا حصہ ہے، وہابیہ وغیرہم بدمنذہ ہبتوں کو اس کیا علاقہ ہے، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہ ذوالفضل العظیم، والحمد للہ رب العالمین (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور سب تعریفِ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ت) غرض احادیث صحیحہ ثابتہ تو اس دروغ گو کوتا بخانہ پہنچا رہی ہیں۔ رہی وہ روایت مقطوعہ کہ اس نے ذکر کی اور یونہی روایت<sup>۱۳</sup> اعتبارِ ام المومنین صدیقہ سے کہ یہود کے اعتراض پر فرمایا یوں کہ کہو بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ۔ اقول اگر صحیح بھی ہو تو نہ ہم مضر نہ اسے مفید کہ واوے احتراز کی دو صورتیں ہیں: تبدیل حرف جس کی طرف وہ احادیث صحیحہ ارشاد فرمادیں، اور اساتذہ عطف جس کا اس روایت میں ذکر آیا۔ ایک صورت دوسرا کی نافی و منافی نہیں، نہ ذاتی میں حصر عطائی کی نفی کرے، قال اللہ تعالیٰ:

لو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب! وہ خاتم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ (ت)	”فَإِنْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَأَيْتَ إِذْ رَأَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَأَىٰ“ <sup>۱۴</sup>
--	--

ع۴: ای کتاب الاعتبار للحاوی ۱۲

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱/۸

اور جب محمد تعالیٰ ہم خود حدیث سے ماشاء اللہ ثم شاء فلان کی طرح ماشاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اجازت دکھا چکے تو اب اصلًا ہمیں ان نکات و توجیہات کی حاجت نہ رہی جو شراح نے اس روایت منقطعہ اور اس حدیث مستقل میں ظاہر ایک نوع تغایر کے لحاظ سے ذکر کئے ہیں۔ شیخ محقق قدس سرہ، نے یہاں یہ نکتہ ذکر فرمایا:

<p>یہاں انتہائی بندگی، اکساری اور توحید ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غیر کی طرف اسناد مشیت کو جائز قرار دیا اگرچہ بطور تاخر و تبعیت، لیکن اپنے لئے اس کی بھی اجازت دینے پر راضی نہ ہوئے بلکہ فقط پروردگار عالم کی طرف بے توہم شرکت مشیت کا اسناد کرنے کا حکم دیا۔ (ت)</p>	<p>دریں جا غایت بندگی و تواضع و توحید ست زیرا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسناد مشیت اگرچہ بطريق تاخذ تبعیت باشد تجویز کر دامادر حق خود باں نیز راضی نہ شد بلکہ امر کر دبا سناد مشیت بہ پروردگار تعالیٰ تنہا بے توہم شرکت<sup>۱</sup>۔</p>
---	--

اقول: یہ توجیہہ بھی شرک امام الوبایہ کی کیفر چنانی کو بس ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تواضعاً اپنی مشیت کا ذکر کرنے کو نہ فرمایا اور وہ کے ذکر مشیت کی اجازت دی، اگر شرک ہو تو معاذ اللہ یہ ٹھہرے گی کہ حضور انے اپنی ذات کریم کو شریک خدا کرنے سے منع فرمایا اور زید عمر کو شریک کر دینا جائز رکھا۔ علامہ طیبی نے ایک اور توجیہہ طیف و دقیق کی طرف اشارہ کیا کہ:

<p>بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار موحدین ہیں اور حضور کی مشیت اللہ عز و جل کی مشیت میں مستغرق و گم ہے۔</p>	<p>انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأس الموحدین ومشیئته، معبورۃ فی مشیئۃ اللہ تعالیٰ ومضیحۃ فیہا<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

اقول: تقریر اس اشارہ طیفہ کی یہ ہے کہ عطف و اوّسے ہو خواہ ثم خواہ کسی حرف سے، معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت چاہتا ہے بلکہ ثم بوجہ افادہ فصل و تراخي زیادہ مفید مغایرت ہے اور سید الموحدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لئے کوئی مشیت جداگانہ اپنے رب عز و جل کی مشیت سے رکھی ہی نہیں انکی مشیت بعینہ خدا کی مشیت ہے اور مشیت خدا بعینہ ان کی مشیت،

<sup>۱</sup> اشعة اللمعات كتاب الادب بباب الاسامي الفصل الثاني مكتبة نور يه رضويه شهر ۵۳/۳

<sup>۲</sup> الكافش عن حفائق السنن شرح الطبيعي على المشكوة كتاب الادب حدیث ۷۹ ادارة القرآن کراچی ۷۹/۹

اور عطف کر کے کہئے تو ورنی سمجھی جائے گی کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور رسول کی مشیت اور، لہذا یہاں عطف کے لیے ارشاد نہ فرمایا فقط مشیت اللہ وحدہ کا ذکر بتایا کہ اس میں خود ہی مشیت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر آجائے گا جل جلالہ، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

<p>اس مقام پر اسی طرح سمجھنا چاہیے اور اس سے ملا علی قاری علیہ الرحمہ کا وارد کردہ اعتراض بھی مندفع ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیر کی مشیت بھی تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کی مشیت میں گم ہے اھ۔</p> <p>اقول: (میں کہتا ہوں) کہ اضمحلال (مستغرق اور گم ہونا) دو قسم ہے (۱) اضطراری، یہ تمام مخلوق کے لئے ثابت ہے۔ (۲) اختیاری، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص بندوں کے ساتھ ہے جو صفت مشیت اواللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں امتیاز رکھتے ہیں، ان کے سردار ان کے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ملا علی قاری نے علامہ طیبی کی تقریر پر یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ ان کے جواب سے ۱۱ واؤ ۱۱ کے استعمال کا جواب ثابت نہیں ہوتا اھ۔</p> <p>اقول: علامہ طیبہ نے اپنے کلام ۱۱ واؤ ۱۱ کے استعمال کو جائز ثابت کرنے کے لیے نہیں چلایا تھا، یہاں تک کہ اگر ان کا کلام اس مقصد کا فائدہ نہ دے سکے تو انکے مقصد میں نقص لازم آئے، بلکہ ان کا</p>	<p>هکذا ینبغی ان یفهم هذا المقام وبه يندفع ما اورد عليه القارى من النقض بان مشيئۃ غيرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ايضاً مضحلاة في مشيئۃ اللہ تعالیٰ سبحانہ<sup>۱</sup> اھ</p> <p>اقول: فلم يفرق بين الاضحلال الاضطرارى الحالى لكل الخلق والاختيارى المختص بخاص عباد الله الممتاز فيه وفي كل صفة الهيء من بينهم سيد هم نبيهم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واعتراض عليه ايضاً بيانه لا يفيد جواز الاتيان بالواؤ<sup>۲</sup> اھ</p> <p>اقول: ما كان مساق كلام الطيبه لاثبات جواز الاتيان بالواو حتى يكون عدم افادته نقصاً في مرامه إنما اراد بدائع نكتة الفرق</p>
--	--

<sup>1</sup> مرقاة المفاتیح کتاب الادب باب الاسامي الفصل الثانی تحت الحديث ۷۹ المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ ۵۳۳/۸

<sup>2</sup> مرقاة المفاتیح کتاب الادب باب الاسامي الفصل الثانی تحت الحديث ۷۹ المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ ۵۳۳/۸

مقصد تو یہ تھا کہ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسروں کی مشیت میں فرق ظاہر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں کی مشیت کا ذکر لفظ "ثُمَّ" کے ساتھ کر دیا لیکن اپنی مشیت کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ فرق ان کے ایک وجہ کے بیان سے مستفاد ہے جیسا کہ آپ ہم سے اس کی تقریر سن چکے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اس اعتراض سے انکا مقصد کیا ہے۔ پھر فرق کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج فرمان گزر چکا ہے۔ لیکن کہو جو چاہے اللہ تعالیٰ پھر چاہے فلاں "یہ محض رخصت کیلئے ہے اور اگر اس جگہ یوں فرماتے ہوں کہو جو چاہے اللہ پھر چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" تو یہ امر وحجب یا استحباب کے لئے ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہ-

اقول: دوسرے ارشاد میں لفظ "لکن" مذکور نہیں ہے۔ گویا کہ ملا علی قاری اس سے اس بات کا استنباط کرتے ہیں کہ اس صورت میں امر مقصودی ہو گا جو کم از کم استحباب کے لیے ہوتا ہے برخلاف پہلے ارشاد کے کہ وہاں نبی کے بعد لفظ "لکن" استدرآک کیلئے ہے اس لئے محض رخصت کا فائدہ دے گا۔ یہ وہ بات ہے جو انکے مقصد کی وضاحت کیلئے مجھے ظاہر ہوئی ہے۔ قارئین کرام! آپ جانتے ہیں کہ اس تقریر کے مطابق فرق عبارت

بین مشیئتہ ومشیئتہ غیرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حيث ذکر الاولی بشم وطوى ذکر هذه رأساً وهذا مستفاد من كلامه مأبین وجهه كما سمعت منها تقريره، فلا ادرى ما المراد بذالايراد ثم افاده وجهه اكرا لفرق فقال ماسبق م قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان لمجرد الرخصة ولو قال هنا قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لكان امر وحجب اوندب وليس الامر كذلك<sup>1</sup> اهـ

اقول: كانه يستنبط من ترك لفظة لكن ههنا فانه، يكون حينئذ امراً مقصوداً واقله الندب بخلاف الاول فأنه استدرك على النهي فيفيد مجرد الرخصة هذا ما ظهر في تقرير مرامه وانت تعلم انه يرجع الفرق على هذا الى جهة العبارة فلو ذكر ههنا لكن لساغ ان يذكر العطف بشم

<sup>1</sup> مرقة المفاتيح كتاب الادب بباب الاسامي الفصل الثاني تحت الحديث ۲۷ المكتبة الحسينية كتبة ۵۳۳/۸

<p>ذکر کیا جاتا تو "ثم" کے ساتھ عطف جائز ہوتا اور اگر اس جگہ لفظ "لکن" ترک کر دیا جاتا تو فرماتے کہ کہو "ماشاء اللہ وحدہ" پھر علامہ قاری نے فرمایا کہ فلاں کی طرف جس میشیت کی نسبت کی گئی ہے وہ میشیت جزئیہ ہے اسے میشیت کلیہ پر محول کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم کلام سابق اسکی طرف اشارہ کرچکے ہیں۔ اہ</p> <p>اقول: (میں کہتا ہوں) یہ بحث سے علیحدہ چیز ہے، بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میشیت بھی اللہ تعالیٰ کی تمام مرادوں کا احاطہ نہیں کرتی۔ اسکو یاد کرلو۔ علامہ طیبی نے ایک چوتھی وجہ بھی بیان کی تھی اور وہ یہ کہ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کہوماشاء اللہ وحدہ، اس لئے کہ اگر صحابہ کرام یوں کہتے" ماشاء اللہ وشاء محمد "تو اس میں آپ کی عظمت کے بطور ریاء و سمع اظہار کے وہم کا گمان ہوتا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ کہو "ماشاء اللہ وحدہ"۔</p> <p>اقول: بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لفظ "ثم" کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے تب بھی وہ وہم برقرار رہتا، اس لئے وہاں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہم لفظ "واو" کی وجہ سے</p>	<p> ولو ترکه ائمہ ل قال قولوا ماشاء اللہ وحدہ ثم قال مع الم Shi'ah المسندۃ الى فلان ائمہ مشیعۃ جزئیۃ لا یجوز حملها علی الم Shi'ah الكلیۃ کیا مرزا الیہ فیما سبق من الكلام <sup>۱</sup> اہ</p> <p>اقول: هذا شیعی متھاز عن البحث ومشیعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایضاً لاتحیط بجمیع مرادات اللہ تعالیٰ سبحانہ هذا قد کان افادۃ العلامۃ الطیبی وجہاً باغاً وہو انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال هدا ای قولوا ماشاء اللہ وحدہ دفعاً لظنة التهمة قولهم ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعظیماً له وربیاء لسمعته <sup>۲</sup> اہ</p> <p>اقول: ای والمظنة بحالها فی ذکر اسیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولو بثم فعدل الی ذکر اللہ تعالیٰ وحدہ وليس يريد ان المظنة نشأت</p>
---	--

<sup>1</sup> مرقاة المفاتیح کتاب الادب بباب الاسامی الفصل الثانی تحت الحديث ۷/۹ المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ ۵۳۳/۸

<sup>2</sup> الكافش عن حقائق السنن (شرح الطیبی علی المشکوٰۃ) الفصل الثانی تحت الحديث ۷/۹ ادارۃ القرآن کراچی ۹/۹

پیدا ہوا ہے، اگر یہ ان کا مقصد ہوتا تو جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ وجہ فرق نہیں بن سکتا یعنی "ثُمَّ" کے بعد غیر مشیت کا ذکر کیا جاسکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشیت کا ذکر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس تقریر کے مطابق اگر خرابی لازم آتی ہے تو "وَأَوْ" میں ہے نہ کہ "ثُمَّ" میں، حالانکہ گفتگو "ثُمَّ" ہی میں ہے۔ لہذا یہ مطلب مراد لینے سے اصل مقصد سے خارج ہونا لازم آئے گا، یہ اتنے کلام کی تقریر ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے۔

اقول: (میں کہتا ہوں) میرے تردید یہ سب سے کمزور وجہ ہے۔ اس گمان کا کیا جواز ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ذکر فرمادیں تو آپ کو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ گمان ہو کہ انہیں ریاء اور سمعہ کا وہم ہو گا۔ یہ گمان نہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائق ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے۔ سب سے بہتر وجہ وہ ہے جو ہم علامہ طیبہ اور شیخ محقق کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، اگرچہ ان توجیہات کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، اور ملا علی قاری نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصل سوال

من <sup>عَلَيْهِ السَّلَامُ</sup> الْوَالِوَارِ ادَهُ لِهِ يَصْلُحُ مَا ذُكِرَهُ وَجَهًا لِلْفَرَقِ  
بذکر مشیئت غیرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشم  
لامشیئتہ هو فَإِنَّ الْمَذْكُورَ عَلَى هَذَا أَنْ كَانَ فِي الْوَأْلَا  
فِي ثُمَّ وَفِيهَا الْكَلَامُ فَأَرَادَهُ هَذَا خُروجُ عَنِ الْأَصْلِ  
الْمَرْأَمُ هَذَا تَقْرِيرٌ كَلَامٌ عَلَى مَظَاهِرِي۔

اقول: وهو ارءوا الوجوه عندی وكيف يظن ان يظن  
النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصحابتہ فی ذکر  
نفسه السیعة والریاء وحاشاہ وحاشاہم عن ذلک  
واحسن الوجوه ما ذکرنا سابقاً عن الطبیبی وما قد  
منا عن الشیخ المحقق مع ان کل ذلک مستغنى عنه  
کیا علمت وقد اشارالیہ القاری ایضاً اذ قال اصل  
السؤال مدفووع لانه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

جیسا کہ رد کرنیوالے فالصل (ملا علی قاری) نے وہم کیا ہے کہ واوہ میں محض تہمت کا گمان نہیں ہے بلکہ وہ برا بری میں نص ہے۔ اور آپ ان کے وہم کا ناقابل تردید وجود سے باطل ہونا جان چکے ہیں، اور عصمت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ت)

عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا تَوْهَمُ الْفَاضِلُ الرَّادُ فَفَادَ بِمَا قَدْ عَلِمَتْ بِطَلَانَهُ  
بِدَلَائِلِ قَاهِرَةٍ لَا قَبْلَ لَا حِدْبَهَا زَعْماً مِنْهُ أَنَّ الْوَأْنَصَ فِي  
الْتَّسْوِيَةِ لَا مَجْرِدَ مَظْنَةٍ تَهْمَهُ وَبِاللَّهِ الْعَصْمَةُ ۝ اَمْنَهُ۔

<p>مندفع ہے، کیونکہ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلان کے عموم میں داخل ہیں، اس لئے ماشاء اللہ ثم ماشاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا جائز ہے اور ماشاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا جائز نہیں ہے۔</p> <p>اقول: (میں کہتا ہوں) اگر ملا علی قاری کو ابن ماجہ کی حدیث متاخر ہوتی تو انہیں فلان کے عموم کی حاجت نہ ہوتی اور یہ حدیث سائل کے پیش نظر ہوتی تو وہ سوال ہی نہ کرتا اور جواب دینے والے حضرات کو یاد ہوتی تو انہیں طرح طرح کی توجیہوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ پاک ہے وہ ذات جس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ (ت)</p>	<p>داخل فی عموم فلان فیجوز ان یقال ماشاء اللہ ثم ماشاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا یجوز ان یقال ماشاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم <sup>۱</sup></p> <p>اقول: ولو استحضر حديث ابن ماجة لم يحتاج الى عموم فلان كما ان السائل لو استظهر لما سأله كما ان المحببيين لو تذكرة لما ذهبوا الى هنا هنا فسبحان من لا يعزب عنه شيء.</p>
---	---

الحمد لله! یہ وصل مبارک کہ اعظم مقصد کتاب تھا بروجہ احسن واملح اختتام کو پہنچا اور ہنوز اس کی امتحاث میں رذہ بیت کا بہت کلام باقی جس کا بعض ان شاء اللہ العزیز خاتمه کتاب میں مذکور ہو گا، یہاں تک اس باب میں وجہ دوم پر بعد اسیم پاک جامع ایک سو چودہ حدیثیں متعلق بذات اقدس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مذکور ہوئیں اور بعض آئندہ آتی ہیں اور پچاس حدیثیں کہ ہم نے شمار کر کے شمارنہ کیں علاوہ ہم اپنائے زمان میں کسل و تقاعد ہے، لہذا بخوب ملالت زیادہ اطالعت نہ کیجئے اور بتوفیقہ تعالیٰ بقیہ وصلوں کے وصل سے راحت و برکت بیجئے وباللہ التوفیق۔

### وصل دوم

#### احادیث متعلقة بحضرات انبیاء و اولیاء علیهم الصلوٰۃ والثناٰء

حدیث ۱۷۵: طبرانی مجتمم او سط او خراطی مکارم الاخلاق میں امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا اگر حضور کو منظور ہوتا نعم فرماتے یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی چیز کو لا یعنی نہ فرماتے۔

<sup>۱</sup> مرقة المفاتیح کتاب الادب بباب الاسامی الفصل الثانی تحت الحدیث ۲۹ المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ ۵۳۳/۸

ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا سکوت فرمایا، پھر سوال کیا اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھٹکنے کے انداز سے فرمایا: سل ماشت یا اعرابی! اے اعرابی! جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، فرماتے ہیں: فغبطناد فقلنا الان یسأل الجنۃ یہ حال دیکھ کر (کہ حضور خلیفۃ اللہ الاعظ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے جو دل میں آئے مانگ لے) ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا ہم نے اپنے بھائی میں کھا بیہ حضور سے جنت مانگے گا، اعرابی نے کہا تو کیا کہا کہ میں حضور سے سواری کا ونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا: عطا ہوا۔ عرض کی: حضور سے زادراہ مانگتا ہوں۔ فرمایا: عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک پیرزن کے سوال میں۔ پھر حضور نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا کنار دریا تک پہنچ سواری کے جانوروں کے منہ اللہ عزوجل نے پھیر دیے کہ خود واپس پہنچ آئے، مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: الی! یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا: تم قبر یوسف (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے پاس ہوان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا فرمایا: اگر تم میں کوئی جانتا ہو تو شاید بنی اسرائیل کی پیرزن کو معلوم ہو، اس کے پاس آدمی بھیجا کر تجھے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: تو مجھے بتا دے۔ عرض کی: لا والله حق تعطیین ما اسئلک خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی یہاں تک کہ میں جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا فرمادیں۔ فرمایا: ذلك لك تیری عرض قبول ہے۔ قال فانی اسئلک ان اكون معک في الدرجة التي تكون فيها في الجنۃ پیرزن نے عرض کی: تو میں حضور سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ قال سلی الجنة مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے اتنا بڑا سوال نہ کر۔ قال لَا والله الا ان اكون معک پیرزن نے کہا: خدا کی قسم میں نہ ماںوں کی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ فجعل موسیٰ یرددھا فوحی اللہ ان اعطها ذلك فانه لن ینقصنك شيئاً فاعطاها مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے یہی رو و بدلت رہے۔ اللہ عزوجل نے وحی بھیجی مولیٰ! وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمھارا کچھ نقصان نہیں، مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا فرمادی، اس نے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر بتادی،

مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نعش مبارک کو ساتھ لے کر دریا سے عبور فرمائے۔<sup>۱</sup>

اقول: وباللہ التوفیق، بحمدہ تعالیٰ اس حدیث نہیں کا ایک ایک حرف جان وہیت پر کو کب شہابی ہے۔ اولًا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعرابی سے ارشاد کہ ۱۱ جو جی میں آئے مانگ لے۔ ۱۱ حدیث ربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو اطلاق ہی تھا جس سے علمائے کرام نے عموم مستفاد کیا یہاں صراحةً خود ارشاد اقدس میں عموم موجود کہ جو دل میں آئے مانگ لے ہم سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک علیہ و علی الہ قدر جودہ و نوالہ و نعمد و افضلہ (اللہ تعالیٰ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر آپ کے جو دوستا اور انعام واکرام کے مطابق۔ ت)

ثانیاً: یہ ارشاد سن کر مولیٰ علی وغیرہ صحابہ حاضرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا غبطہ کہ کاش یہ عام انعام کا ارشاد اکرم ہمیں نصیب ہوتا حضور تو اسے اختیار عطا فرمائی چکے اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔ معلوم ہوا کہ بحمد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا یہی اعتقاد تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ عزوجل کے تمام خزان رحمت دنیا و آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت جسے چاہیں بخش دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ہلّق: خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت اس اعرابی کے قصور ہست پر تعجب کہ ہم نے اختیار عام دیا اور ہم سے طعام دنیا مانگنے بیٹھا پیر زن اسرائیلیہ کی طرح جنت نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو ہم زبان دے ہی چکے تھے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہی اسے عطا فرمادیتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

رابعًا: ان بڑی بی پر اللہ عزوجل کے بے شمار رحمتیں بھلا انہوں نے مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدائی کا رخانہ کا مختار جان کر جنت اور جنت میں بھی ایسے اعلیٰ درجے عطا کر دینے پر قادر مان کر شرک کیا تو مولیٰ کلیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو کیا ہوا کہ یہ با آں شان غضب و جلا اس شرک پر انکار نہیں فرماتے اس کے سوال پر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے جو اقرار کیا تھا تو ان چیزوں کا جو

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ طس والخرائطی الخ حدیث ۳۸۹۵ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۱۷، المعجم الاوسط عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۷۲۳ مکتبۃ المعارف ریاض ۲/۸۳۷

اپنے اختیار کی ہوں بھلا جنت اور جنت کا بھی ایسا درجہ یہ خدا کے گھر کے معاملے میں ان میں میر اکیا اختیار تو نے نہیں سنا کہ وہابیہ کے امام شہید اپنے قرآن جدید نام کے تقویۃ الایمان اور حقیقت کے کلمات کفر و کفران میں فرمائیں گے کہ:

”ابنیاء میں اس بات کی کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے انہیں عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو۔<sup>۱</sup>

میں تو میں مجھ سے اور تمام جہان سے افضل محمد رسول اللہ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ان کی وحی باطنی میں اترے گا کہ: ”جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔<sup>۲</sup>

خود انہیں کے نام سے بیان کیا جائے گا کہ: ”میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا یا کر سکوں۔<sup>۳</sup>

نیز کہا جائے گا: ”پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنادیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو سو یہ میر امال موجد ہے اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کر لے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے۔<sup>۴</sup>

بڑی بی! کیا تم سُنْه گئی ہو، دیکھو تقویۃ الایمان کیا کہہ رہی ہے کہ رسول بھی کون، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور معاملہ بی کس کا بخود ان کے جگہ پارے کا اور وہ بھی کتنا کر دوزخ سے چالیساں کا تو انہیں خود اپنی صاحبزادی کے لئے کچھ اختیار نہیں وہ اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آسکتے تو کہاں وہ

<sup>1</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علمی انڈرون لوہاری دروازہ لاہور ص ۷۱

<sup>2</sup> تقویۃ الایمان الفصل الرابع مطبع علمی انڈرون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۸

<sup>3</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثانی مطبع علمی انڈرون لوہاری دروازہ لاہور ص ۷۱

<sup>4</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثالث مطبع علمی انڈرون لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۵

اور کہاں میں، کہاں ان کی صاحبزادی اور کہاں تم، کہاں صرف دوزخ سے نجات اور کہاں جنت، اور جنت کا بھی ایسا اعلیٰ درجہ بخش دینا۔ بھلا بڑی بی! تم مجھے خدا بنا رہی ہو، پہلے تمہارے لئے کچھ امید ہو بھی سکتی تواب تو شرک کر کے تم نے جنت اپنے اوپر حرام کر لی۔ افسوس کہ مولیٰ کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کچھ نہ فرمایا، اس بھاری شرک پر اصلاً انکار نہ کیا۔

خامساً: درکنار اور جستری کہ سلی الجنتہ اپنی لیاقت سے بڑھ کر تمنانہ کرو ہم سے جنت مانگ لو ہم وعدہ فرمائچے ہیں عطا کر دیں گے تمہیں بھی بہت ہے۔ افسوس مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا شکایت کہ امام الوبابیہ اگرچہ یہودی خیالات کا آدمی ہے جیسا کہ ابھی آخر و صل اول میں ثابت ہو چکا ہے مگر اپنے آپ کو کہتا تو محمدی ہے، خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جدید قرآن تقویۃ الایمان کو جنم پہنچایا۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ مانگا، اس عظیم سوال کے صریح شرک پر انکار نہ فرمایا بلکہ صراحتاً عطا فرمادیں کو متوقع کر دیا اب اگر وہ جل جل کران کی تو ہیں نہ کرے ان کا نام سو سو گستاخیوں سے نہ لے تو اور کیا کرے یہاں پر کلیم کا مردو دد حبیب کامار اپنے جلے دل کے پچھوٹے بھی نہ پھوڑے، مثل مشہور ہے کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان۔

اور عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مونین کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ (ت)	"وَلِلّٰهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلّٰهِ مُنِينُ وَلَكُنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ" <sup>۱</sup>
--	--

سادساً: سب فیصلوں کی انہا خدا پر ہوتی ہے، کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امام الوبابیہ سے یہ رکھا۔ برتری تو اسے جائے عزز تھی کہ مولیٰ بدین خود مابدین خود حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقویۃ الایمان کی یہ صریح نذیل و تفصیل فرمائی تو اسے آنسو پوچھنے کو جگہ تھی کہ وہ نبی ایسی ہیں پڑھ لکھے نہیں کہ تقویۃ الایمان پڑھ لیتے ان احکام جدیدہ سے آکا ہوتے مگر پورا قہر تو خدا نے توڑا کہ بڑی بی کے شرک اور مولیٰ کے اقرار کو خوب مسجّل و مکمل فرمادیا۔ وہی آئی تو کیا آئی کہ اعطھا ذلک مولیٰ! یہ جو مانگ رہی ہے تم اسے عطا کر بھی دو اس بخشش فرمانے میں تمہارا کیا نقصان ہے۔ وہاری قسمت یہ اوپر کا حکم تو سب سے تیز رہا، یہ نہیں فرمایا جاتا کہ مولیٰ! تم ہو کون بڑھ بڑھ کر باتیں مارنے والے، ہمارے یہاں کے معاملے کا ہمارے حبیب کو تو ذرہ بھرا اختیار ہے ہی نہیں یہاں تک کہ خود اپنی صاحبزادی کو دوزخ

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۸/۲۳

سے نہیں پچاہتے تم ایک بڑھیا کو جنت پھنسنائے دیتے ہو، اپنی گرجوشی اٹھار کھو، تقویۃ الایمان میں آچکا ہے کہ "ہمارے یہاں کا معالمه ہر شخص اپنا درست کر لے"<sup>۱</sup> بلکہ علی الرغمِ الٹایہ حکم آتا ہے کہ موٹی! تم اسے جنت کا یہ عالی درجہ عطا کر دو۔ اب کہتے یہ بیچارہ کس کا ہو کر رہے جس کے لئے توحید بڑھانے کو تمام انبیاء سے بگاڑی، دین و ایمان پر دوستی جگاڑی، صاف کہہ دیا کہ: "خدا کے سوا کسی کو نہ مان اور وہ کو مانا مغض خبط ہے"<sup>۲</sup> ॥

اسی خدائے یہ سلوک کیا ب وہ بیچارہ ازیں سوماندہ وز آں سوراندہ (نہ ادھر کا رہانہ ادھر کا۔ دھوپی کا تنانہ گھر کانہ گھٹ کا۔ ت) سوا اس کے کیا کرے کہ اپنی اکلوتی چھر توحید کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کو نکل جائے اور سر پر ہاتھ رکھ کر چلا جائے۔  
 مازیاراں چشم یاری داشتیم خود غلط بود اچھے مانپنا شتیم  
 (ہم نے دوستوں سے مدد کی امید رکھی، جو ہمارا گمان تھا وہ خود غلط تھا۔ ت)

مجھے امام الوبابیہ کے حال پر ایک حکایت یاد آئی اگرچہ میں ذکر احادیث میں ہوں مگر بمناسبت محل ایک آدھ لیطف بات کا ذکر خالی از لطف نہیں ہوتا جسے مجھیں کہتے ہیں اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کما فی حدیث خرافۃ و امر زرع (جیسا کہ خرافہ اور ارم زرع کی حدیث میں ہے۔ ت) میں نے ایک عالم سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ راضیوں کے کسی محلے میں چند غریب سُنی رہتے تھے، روافض کا زور تھا ان کا مجتہد پچھلے پھر سے اذان دیتا اور اس میں کلمات ملعونہ بکتا، ان غریبوں کے قلب پر آرے چلتے، آخر مرتب کیا نہ کرتا، چار شخص مستعد ہو کر پہلے سے مسجد میں جا چھپے، وہ اپنے وقت پر آیا جبکہ تبراشروع کیا، ان میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے اور اس بُڑھے کو گرا کر دست ولکدوں نکل سے خوب خدمت کی کہ ہیں میں ابو بکر ہوں تو مجھے برا کہتا ہے۔ آخر اس نے گھبرا کر کہا حضرت! میں آپ کو نہیں کہتا تھا میں نے تو عمر کو کہا تھا۔ دوسرے صاحب تشریف لائے اور مارتے مارتے بیدم کر دیا کہ ہیں مجھے کہتا تھا، یا حضرت! توبہ ہے میں تو عثمان کو کہتا تھا۔ تیرسے صاحب آئے اور ایسی ہی توضیح فرمائی کہ ہیں مجھے ہے گا۔ اب سخت گھبرا یا میتاب ہو کر چلا یا کہ مولیٰ دوڑیے دشمن مجھے مارے ڈالتے ہیں۔ اس پر چوتھے حضرت ہاتھ

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان الفصل الاول مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۱۲

<sup>۲</sup> تقویۃ الایمان پہلا باب مطبع علمی اندر ورن لوہاری دروازہ لاہور ص ۵

میں استرالنے نمودار ہوئے اوناک جڑ سے اڑالی کہ مرد ک تو خدا کے محبوبوں اور ہمارے دین کے پیشواؤں کو برائی ہے گا اور ہم سے مدد چاہے گا، اب موزان صاحب درد کے مارے شرم و ذلت سے گورکنارے کسی کونے میں سرک رہے۔ مومنین آئے نمازیہ پڑھتے اور کہتے جاتے ہیں آج قبلہ و کعبہ تشریف نہ لائے۔ جناب قبلہ بولیں تو کیا بولیں، جب اجالا ہوا رے حضرت قبلہ تو یہ پڑے ہیں، قبلہ! خیر ہے؟ (روکر) خیر کیا ہے آج وہ تینوں دشمن آپ پر تھے مارتے کچومر نکال گئے تمہارا دیکھنا مقدر میں تھا کہ سانس باقی ہے۔ قبلہ! پھر آپ نے حضرت مولیٰ کو کیوں نہ یاد فرمایا؟ جب کئی بار بھی ہے گے تو آخر جھنچھلا کر ناک پر سے رومال پھینک دیا کہ یہ کوتک تو انہیں کے ہیں دشمن تو مارہی کر چھوڑ گئے تھے انہوں نے تو جڑ سے پونچھ لی۔

مازیاراں چشم یاری داشتیم<sup>۱</sup> خود غلط بود انجہ ما پنداشتیم<sup>۱</sup>

(ہم نے دوستوں سے مدد کی امید رکھی، جو ہم نے گمان کیا وہ خود غلط تھا۔ ت)

واستغفرو اللہ العظیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔

سابقاً: پچھلا فقرہ تو قیامت کا پہلا صور ہے فاعطا ہما مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیروز ن کو وہ جنت عالیہ عطا فرمادی۔ والحمد لله رب العالمین۔

مسلمانو! دیکھا تم نے کہ اللہ اور اس کے مرسلین کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام وہیت کے شرک کا کیا کی۔ برادن لگاتے ہیں کہ بیچارے کو اسفل السافلین میں بھی پناہ نہیں ملتی "كَذَلِكَ الْعَذَابُ طَوَّعَ الدُّنْيَا أَكْبَرُهُمْ تَوْكِيدُهُمْ أَعْلَمُهُمْ"۔<sup>۲</sup> (مار ایسی ہوتی ہے اور بیشک آخترت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ ت)

حدیث ۷۶: کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمتیں حنین میں تقسیم فرمائے تھے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! حضور نے مجھ سے کچھ وعدہ فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا: صدقت فاختکم ما شیعت تو نے سچ کہا اچھا جو جی میں آئے گا حکم لگادے۔ عرض کی: اسی دنبے اور ان کا چرانے والا غلام عطا ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تجھے عطا ہو اور تو نے بہت تھوڑی چیز مانگی و لصاحبہ موسیٰ القی دلته علی

<sup>1</sup><sup>2</sup> القرآن الکریم ۳۳/۲۸

عظماء یوسف کانت افهم منک حين حکیماً موسیٰ فقالت حکمی ان تردنی شابة وادخل معک الجنۃ او ریشک مولیٰ جس نے انہیں یوسف علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تابوت بتایا تھا تجھ سے زیادہ داشمند تھی جبکہ اسے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہے مانگ لے، اس نے کہا: میں قطعی طور پر یہی مانگتی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس کر دیں اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ یونہی ہوا کہ وہ ضعیفہ فوگاً نوجوان ہو گئی اس کا حسن و جمال واپس آیا اور جنت میں بھی معیت کا وعدہ کلیم کریم نے عطا فرمایا۔ ابن حبان<sup>۱</sup> والحاکم فی المستدرک مع اختلاف عن ابن موسیٰ الشعراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاکم نے کہا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ یہاں جوانی بھی مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھیر دی۔

حدیث ۷۷۱: کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رب عزوجل نے وحی بھیجی:

اے مولیٰ! فقیروں کے لئے خزانہ ہو جا اور کمزور کے لیے  
قلعہ اور پناہ مانگنے والے کے لیے فریدار س۔ (ابن النجارت)  
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام  
کو وحی فرمائی پھر طویل حدیث میں اس کا ذکر کیا۔ ت)

یا موسیٰ کن للفقراء کنزاً وللضعيف حسنةً و  
للمستجير غيضاً۔ ابن النجارت عن انس رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال او حی اللہ  
تعالیٰ الى موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فذکرہ فی حدیث  
طویل<sup>۲</sup>۔

دہبیہ کے طور پر اس حدیث کا حاصل یہ ہو گا کہ اے موسیٰ! تو خدا ہو جا کہ جب یہ خاص شان الوہیت ہیں اور ان باقتوں میں بڑے  
چھوٹے سب برابر ہیں اور یکساں عاجز تو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان باقتوں کا حکم ضرور خدا بن جانے کا حکم ہے۔ ولا حول ولا  
قوة الا بالله العلی العظیم۔

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم کتاب التفسیر سورۃ الشعراً دار الفکر بیروت ۲۰۰۲ء، اتحاف السادة المتلقین بحوالہ ابن حبان والحاکم کتاب آفات المساند الخ دار الفکر بیروت ۷/۵۰۹

<sup>۲</sup> کنزاً العمال بحوالہ ابن النجارت عن انس حدیث ۱۶۶۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۷۸

حدیث ۷۸۶۹: ترمذی و حاکم حضرت ابوہریرہ اور امام احمد و ابوادود طیابی کی وابن سعد و طبرانی و بیہقی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب حضرت عزت جل و علانے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا کیا ان کی پیٹھ کو مسح فرمایا جس قدر لوگ ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب ظاہر ہو گئے۔ رب عزوجل نے ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے پیچ میں ایک نور چکایا پھر انہیں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پیش فرمایا۔ عرض کی: الہی! یہ کون ہیں؟ فرمایا: تیری اولاد ہیں۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان میں ایک مرد کو دیکھا ان کی پیشانی کا نور انہیں بہت بھایا، عرض کی: الہی! یہ کون ہے؟ فرمایا: یہ تیری اولاد سے کچھی امتوں میں ایک شخص داؤ دنام ہے۔ عرض کی: الہی! اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا: ساٹھ برس۔ عرض کی: الہی! اس کی عمر زیادہ فرماد۔ رب جل و علانے فرمایا: لا الا ان تزید انت من عمرک میں زیادہ نہ فرماؤں گا مگر یہ کہ تو اپنی عمر سے اس کی عمر میں زیادت کر دے۔ (آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر کے ہزار برس تھے)۔ عرض کی: تو میری عمر سے چالیس سال اس کی عمر میں بڑھا دے۔ فرمایا: ایسا ہے تو لکھ لیا جائے گا اور مہر کر لیجا گی اور پرہ بد لے گا نہیں (نوشته لکھ کر ملائکہ کی گواہیاں کرائی گئیں) فلماً انقضی عمر آدم الااربعین جاءَه ملک الموت فقلَّ ادْم او لم يبقَ من عمری اربعون سنة قالَ او لم تعطُهَا ابنيكِ داؤ دجَب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر سے صرف چالیس برس باقی رہے یعنی نو سو ساٹھ برس گزر گئے ملک الموت علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے پاس آئے۔ فرمایا: کیا میری عمر سے ابھی چالیس سال باقی نہیں؟ کہا: کیا آپ اپنے بیٹے داؤ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہ دے چکے (پھر اللہ عزوجل نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہزار اور داؤ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے سو برس پورے کر دیے) هذا حديث ابی هریرة<sup>1</sup> الاما بین الخطین

<sup>1</sup> سنن الترمذی کتاب التفسیر سورۃ الاعراف حدیث ۷۸۶۹ دار الفکر بیروت ۵/۵۳، المستدرک للحاکم کتاب الایمان قصہ خلق آدم عليه السلام دار الفکر بیروت ۱/۲۳، السنن الکبیری للبیہقی کتاب الشہادات باب الاختیار فی الاشہاد دار صادر بیروت ۱۰/۱۶۲، مسنند احمد بن حنبل عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۱/۲۵۴ و ۲۵۵ (باقی رسمی آئندہ)

فین حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم (یہ حدیث ابوہریرہ ہے مگر تو سین کے درمیان حدیث ابن عباس ہے رضي الله تعالى عنہم - ت)

ان حدیثوں کا ارشاد ہے کہ داود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عمر عطا فرمائی۔

حدیث ۱۸۰: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>جب تم میں کسی کی کوئی چیز گم جائے اور مدد مانگنی چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہدم نہیں تو اسے چاہئے یوں پکارے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ وہ اس کی مدد کرے گے۔</p> <p>والحمد لله رب العالمين۔</p> <p>(طبرانی نے عتبہ بن غزو ان رضي الله تعالى عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>اذا ضل احکم شیئاً واراد دعوئناً و هو بارِض لیس بھا انیس فلیقل یا عبد الله اعینو نی یا عبد الله اعینو نی یا عبد الله اعینو نی، فان الله عباداً لا يراهم۔</p> <p>الطبرانی<sup>۱</sup> عن عتبہ بن غزو ان رضي الله تعالى عنہ</p>
---	---

حدیث ۱۸۱: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے فلیندا دیا عبد الله احبوسا تو یوں ندا کرے: اے اللہ کے بندو! روک دو۔ عباد اللہ اسے روک دیں گے۔ ابن السنی<sup>۲</sup> عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنہ (ابن السنی نے

(ایقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

المعجم الكبير عن ابن عباس حدیث ۱۲۹۲۸ المکتبة الفیصلیة بیروت ۱۲/ ۲۱۳، مستند ابن داود الطیالی سی حدیث ۲۲۹۲ دار المعرفة بیروت الجزء الحادی عشر ص ۳۵۰، کنز العمال عن ابن عباس حدیث ۱۵۱۵ ا مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/ ۲۱۳ و ۱۳۳، الدر المنشور بحوالہ الطیالی سی الخ تحت الایہ ۲۲۸/۲ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲/ ۲۱۶، الطبقات الکبڑی لابن سعد ذکر من ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ دار صادر بیروت ۱۲۹۲۸/۲

<sup>۱</sup> المعجم الاکبیر عن عتبہ بن غزو ان حدیث ۱۲۹۰ المکتبة الفیصلیة بیروت ۷/ ۱۷ او ۱۸/ ۷

<sup>۲</sup> عمل الیوم واللیلة حدیث ۲۰۸ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیر آباد کن ص ۱۳۶

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

حدیث ۱۸۲: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: یون نداکرے:

میری مدد کرو اے اللہ کے بندو! (ابن ابی شیبہ <sup>۱</sup> والبزار عن ابن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	اعینوں یا عباد اللہ۔ ابن ابی شیبہ <sup>۱</sup> والبزار عن ابن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
---	---

یہ تین حدیثیں وہیت کش کہ تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے آئیں، قدیم سے اکابر علماء دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقبول و مجرب رہیں، اس مطلب جلیل کی قدرے تفصیل فقیر کا رسالہ انہار الانوار من یہ مصولة الاسرار فـ کہ نماز غوشہ شریف کے فضل رفیع اور بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلنے وغیرہ ایک ایک فعل کے سریں بدیع میں تصنیف کیا، لاحظہ ہو۔ ان حدیثوں اور حدیث اجل و اعظم یا محمد اُنی توہت بک الی ربی کی شوکت قاہرہ کے حضور وہابیہ کی حرکت مذبوحی کا حال تھا تھے رسالہ میں عقریب آتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حدیث ۱۸۳: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

جس کا میں مددگار و کار ساز ہوں علی اس کا مددگار و کار ساز ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ (احمد و نسائی و حاکم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسنہ صحیح روایت کیا۔ ت)	من کنت ولیه فعلى وليه۔ احمد <sup>۲</sup> والننسائی والحَاكَمُ عن بريدة رضي الله تعالى عنه بسنده صحيح۔
--	---

<sup>۱</sup> المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الدعاء حدیث ۲۹۷۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۹۲/۶، البحر الزخار (مسند البزار) حدیث ۱۸۱/۱ ۳۹۲۲

والمعجم الكبير حدیث ۲۹۰/۱، کشف الاستمار عن زوائد البزار کتاب الاذکار حدیث ۳۱۲۸ مؤسسة الرسالہ بیروت ۳۲/۳

<sup>۲</sup> مسند احمد بن حنبل عن بریدۃ رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت ۳۵۸/۵، المسند رک للحاکم کتاب قسم الفتنی من کنت

ولیہ فان علیماً ولیہ دار الفکر بیروت ۱۳۰/۲، الجامع الصغیر عن بریدۃ حدیث ۹۰۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۵۳۲/۲

فـ رسالہ "انہار الانوار من یہ مصولة الاسرار (۵۰۰ھ)" فتاویٰ رضویہ جلد ۴۷م مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامع نظامیہ رضویہ، اندر ورن لوہاری

رووازہ، لاہور کے صفحہ ۵۲۹ پر مرقوم ہے۔

علامہ منادی نے شرح میں فرمایا: یہ دفع عنہ مایکرہ<sup>۱</sup> علی۔ اس کے مددگار ہیں اس سے مکروہات و بیلیات دفع فرماتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مسلمان کے ولی و ولی ہیں، اللہ عزوجل فرماتا ہے:

نبی مسلمانوں کا زیادہ ولی ہے ان کی جانوں سے۔	”الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“ <sup>۲</sup> ۔
--	--

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ ولی ہوں۔ (احمد و بخاری و مسلم ونسائی وابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ت۔)	”الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“ - احمد <sup>۳</sup> و البخاری و مسلم ونسائی وابن ماجہ عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
--	---

علامہ منادی شرح میں فرماتے ہیں:

اس لئے کہ میں اللہ عزوجل کا نائب اعظم اور تمام خلوق الہی کام درس اس ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔	لأن الخليفة لا يكفي الميد لكل موجود <sup>۴</sup> ۔
--	--

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>۱</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث من کنت ولیه الخ مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۲۲۲/۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۷/۳۳

<sup>۳</sup> صحیح البخاری کتاب الکفالة باب جوار ابی بکر الصدیق فی عهد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدیکی کتب خانہ کراچی ۳۰۸/۱؛ صحیح البخاری کتاب النفقات ۸۰۹/۲ و کتاب الفرائض ۹۹۷/۲ و باب ابین عم احدھما الخ ۹۹۸/۲، صحیح مسلم کتاب الفرائض فصل فی اداء الدین قبل الوصیة الخ قدیکی کتب خانہ کراچی ۳۵۵/۲، سنن النسائی کتاب لاجنائز الصلوة علی من علیہ دین نور محمد کارخانہ کراچی ۲۷۹/۱، سنن ابن ماجہ ابوب الصدقات التشدید فی الدین ایم سعید کمپنی کراچی ص ۲۶۱، مسنون احمد بن حنبل عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

المکتبۃ الاسلامیہ بیروت ۲۹۰/۲ و ۲۵۳

<sup>۴</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت الحدیث انا اولی بالیوم منین الخ مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۱/۲۷

کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اس کا والی نہ ہوں، تمہارے جی میں آئے تو یہ آئیہ کریمہ پڑھو کہ ۱۱ نبی زیادہ والی ہے مسلمانوں کا ان کی جانوں سے ۱۱ تجویز مسلمان مرے اور ترک کہ چھوڑے اس کے وارث اس کے عصبه ہوں اور جو اپنے اوپر کوئی دین بیکش بے زربچے چھوڑے وہ میری پناہ میں آئے کہ اس کا مولیٰ میں ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیک و علی آللہ وبارک وسلم۔ (بخاری و مسلم و ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داود و ترمذی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔ ت)

مَأْمُونٌ مُؤْمِنٌ لَا وَآنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرَعُ وَا  
ان شئتم النبی اولی بالیو منین من انفسهم فایما  
مُؤْمِنٌ مات و ترک مالا فلیرثه عصبتہ من کانو ومن  
ترک دیناً اوضیاعاً فلیاً نتی فانا مولاۃ البخاری<sup>۱</sup> و  
مسلم والترمذی عن ابی هریرۃ وابو داود والترمذی  
عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

امام عینی عمدة القاری میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں: الْمَوْلَى النَّاصِر<sup>۲</sup>۔ یہاں مولیٰ بمعنی مددگار ہے۔

تو لاجرم بعکس حدیث مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بھی ہر مسلمان کے ولی و مددگار و دافع بلا و مکروہات ہیں، والحمد للہ رب العالمین، اسی لئے شاہ ساحب نے فرمایا: حضرت

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب فی الاستقراض واداء الدین باب الصلوٰہ علی من ترك دیننا تدیکی کتب خانہ کراچی ۳۲۳/۱، صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ الاحزان قدری کتب خانہ کراچی ۷۰۵/۲، صحیح مسلم کتاب الفرائض فصل فی اداء الدین قبل الوصیة الخ قدری کتب خانہ کراچی ۳۶/۲، سنن الترمذی، سنن ابی داود کتاب الامارة بباب فی ارزاق الذریۃ آفتک علم پریس لاہور ۵۳/۳، مسنند احمد بن حنبل عن ابی هریرۃ المکتب الاسلامی بیروت ۳۳۵/۲، شرح السنۃ کتاب الفرائض حدیث ۲۲۲/۸، سنن الکبیری للبیهقی باب العصبة ۲۳۸/۲، کتاب النکاح ۷/۵۸ دار صادر بیروت

<sup>۲</sup> عمدة القاری شرح صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ الاحزان تحت حدیث ۳۰۲/۸۱، بیروت ۱۹/۱۹۷۴

امیر و ذر سیہ طاہرہ اور <sup>۱</sup> انخ۔

اقول: عموم حدیث میں حضرات خلفائے شیشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی داخل اور تخصیص کی اصلًا حاجت نہیں کہ ناصر کا منصور سے افضل ہونا کچھ ضرور نہیں، قال اللہ تعالیٰ:

مہاجرین اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں۔	”بِصَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ طَ“ <sup>۲</sup>
--------------------------------------	---

وقال اللہ تعالیٰ:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے اور جبریل وابو بکر و عمر و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔	”فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجَنَّبِيْلُ“ <sup>۳</sup> ۔ (الآلیة)
--	---

حدیث ۱۸۳: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

میری صاحبزادی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے کہ نجاستوں کے عارضے جو عورت کو ہوتے ہیں ان سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ عزوجل اس نے کافاطمہ اس لئے نام رکھا کہ اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو آتش دوزخ سے آزاد فرمادیا۔ (خطیب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	ابنیقی فاطمۃ حوراء ادمیۃ لم تحضر ولم تطیث و انما مسیاها فاطمۃ لان اللہ تعالیٰ فطہمہا و محببیہا من النار۔ الخطیب <sup>۴</sup> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
---	---

غلامان زہرا کو نار سے چھڑایا تو اللہ عزوجل نے مگر نام حضرت زہرا کا ہے فاطمہ چھڑانے والی آتش جہنم سے، نجات دینے والی صلی اللہ تعالیٰ علی ابیہا و علیہا و بعلہا و بینیہا و بارک و سلم۔

<sup>۱</sup> تحقیق اثناء عشر بیبی باب ہفت دریافت سہیل اکٹڈی می لاہور ص ۲۱۲

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۸/۵۹

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۳/۲۲

<sup>۴</sup> تاریخ بغداد ترجمہ غانم بن حمید ۷۷۶ دارالکتب العربي بیروت ۱۹۹۲، کنز العمال عن ابن عباس حدیث ۵۳۲۲۲ مؤسسة

الرسالة بیروت ۱۹۹۲

حدیث ۱۸۵:

<p>یعنی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ مقدسہ حضرت ام کلثومہ دختر امیر المؤمنین مولیٰ علی و بتوں زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا یا انہیں روتے پایا سبب پوچھا، کہا یا امیر المؤمنین یہ یہودی کعب احبار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو حاجہ ائمہ تابعین و علمائے کتابتین والعلم علمائے تورات سے ہیں پہلے یہودی تھے خلافت فاروقی میں مشرف باسلام ہوئے، شاہزادی کا اس وقت حالت غصب میں انہیں اس لفظ سے تعبیر فرمانا۔ بر بنائے نازک مزاجی تھا کہ لازمہ شاہزادگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین) یہ کہتا ہے کہ آپ جہنم کے دروازوں سے ایک دروازے پر ہیں، امیر المؤمنین نے فرمایا جو خدا چاہے خدا کی قسم بیشک مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھے سعید پیدا کی ہو، پھر حضرت کعب کو بلا بھیجا، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی: امیر المؤمنین! مجھ پر جلدی نہ فرمائیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ذی الحجۃ کا مہینہ ختم نہ ہونے پائے گا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ فرمایا: یہ کیا بات ہے بھی جنت میں کبھی نار میں؟ عرض کی: یا امیر المؤمنین! قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ کو کتاب اللہ میں جہنم کے دروازوں سے ایک دروازے پر پاتے ہیں</p>	<p>ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاً ام کلثومہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وکانت تحتہ، فوجد ها تبکی فقال ما يبكيك، فقال يا امير المؤمنين هذا اليهودی يعني كعب الاحبار يقول انك على باب من ابواب جهنم فقال عمر ماشاء الله والله اني لا رجوان يكون رب خلقى سعيدا ثم ارسل الى كعب فدعاه فلما جاءه كعب قال يا امير المؤمنين لاتتعجل على والذى نفسى بيده لainshlخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة فقال عمر اي شيعى هذا مرة في الجنة مرة في النار فقال يا امير المؤمنين والذى نفسى بيده انا لنجدك في كتاب الله عزوجل على باب من ابواب جهنم تمنع الناس ان يقعوا فيها فاذامت</p>
---	---

<p>کہ آپ لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روکے ہوئے ہیں جب آپ انتقال فرمائیں گے قیامت تک لوگ نار میں گرا کریں گے (وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ رب عمر الجلیل) (ابن سعد نے اپنی طبقات میں اور ابوالقاسم بن بشران نے اپنی امامی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کیا ہے۔ ت)</p>	<p>لَمْ يَزِلُّ الْوَالِيْقَتْحَمُونَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ ابْنُ اسْعَدٍ<sup>۱</sup> فِي طَبَقَاتِهِ وَابْوَالْقَاسِمِ بْنِ بَشْرٍ اَنْ فِي مَالِيَّهِ عَنِ الْبَخَارِيِّ مَوْلَى عَمِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔</p>
--	---

بھلا دوزخ میں گرنے سے بچانا دفع بلاکا ہے کو ہوا۔

حدیث ۱۸۶: معانی الآثار امام طحاوی میں ہے: حدثنا ابن مرزوق ثنا ازہر السیان عن ابن عون محمد قال قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لذارقاب الارض<sup>۲</sup> یعنی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: زمین کے مالک ہم ہیں۔

حدیث ۱۸۷:

بعث النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی عثمان یستعينہ فی جیش العسرة فبعث الیہ عثمان بعشرة ألاف دینارٍ یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لئے لشکر اسلام کو تیاری کا حکم دیا مسلمانوں پر بہت حالت ٹنگی و عُسرت تھی اس باب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعانت فرمائی ان سے مدد چاہی، ذوالورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزار اشتر فیاں حاضر کیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عثمان! اللہ تیری چھپی اور ظاہر خطائیں اور آج سے قیامت تک جو کچھ تھھ سے واقع ہو سب کی مغفرت فرمائے، اس کے بعد عثمان کو کچھ پرواہ نہیں کوئی عمل کرے۔ ابن عدی<sup>۳</sup> والدارقطنی و

<sup>۱</sup> الطبقات الکبیری لابن سعد زکر استخلاف عمر رضی اللہ عنہ دارصادر بیروت ۳۳۲/۳، کنز العمال بحوالہ ابن سعد وابی القاسم بن بشران حدیث ۱۸۷ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۴۰۵/۱۲ و ۱۴۰۵/۱۲

<sup>۲</sup> شرح معانی الآثار کتاب السیر باب احیاء الارض المیتة ایم سعید کپنی کراچی ۱۹۷۲

<sup>۳</sup> کنز العمال بحوالہ عد. قط حدیث ۳۲۱۸۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۴۰۱/۱۲

ابونعیم فی فضائل الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما (ابن عدی و دارقطنی و ابو نعیم نے فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت) کیوں وہابی صاحبو! غیر خدا سے استحانت شرک تو نہیں، ایک نستین کے کیا معنی کہتے ہو۔

حدیث ۱۸۸: ایک مصری نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی:

امیر المؤمنین ! میں حضور کی پناہ لیتا ہوں ظلم سے۔	یا امیر المؤمنین عاذ بک من الظلم۔
---	-----------------------------------

امیر المؤمنین نے فرمایا: عذت معاذ، تو نے سچی جائے پناہ کی پناہ لی۔ ہمارا مطلب توحیدیت کے اتنے ہی لفظوں سے ہو گیا، پناہ لینے والوں نے امیر المؤمنین کی دہائی دی اور امیر المؤمنین نے اپنی بارگاہ کو سچی جائے پناہ فرمایا، مگر تمہے حدیث بھی ذکر کریں کہ اس میں امیر المؤمنین کے کمال عدل کا ذکر ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف امیر المؤمنین کے صوبیدار تھے، یہ فریدادی مصری عرض کرتا ہے کہ میں نے ان کے صاحبزادے کے ساتھ دوڑگانی میں آگے نکل گیا صاحبزادے نے مجھے کوڑے مارے اور کہا: میں دو معزز و کریم والدین کا بیٹا ہوں۔ اس کی فریداد پر امیر المؤمنین نے فرمان نافذ فرمایا کہ عمرو بن عاص مع اپنے بیٹے کے حاضر ہوں، حاضر ہوئے۔ امیر المؤمنین نے مصری کو حکم دیا: کوڑا لے اور مار۔ اس نے بدله لینا شروع کیا۔ اور امیر المؤمنین فرماتے جاتے ہیں: مار د ولیمیوں کے بیٹے کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! جب اس فریداد نے مارنا شروع کیا ہمارا جی یہ چاہتا تھا کہ یہ مارے اور اپنا عوض لے۔ اس نے یہاں تک مارا کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش! اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ جب مصری فارغ ہوا امیر المؤمنین نے فرمایا: اب یہ کوڑا عمرو بن عاص کی چند یا پر رکھ (یعنی وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کیوں نہ دادرسی کی، بیٹے کا کیوں لحاظ پاس کیا) مصری نے عرض کی: یا امیر المؤمنین ! ان کے بیٹے ہی نے مجھے مارا تھا اس سے میں عوض لے چکا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

تم لوگوں نے بندگان خدا کو کب سے اپنا غلام بنالیا حالانکہ وہ مال کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔

مذکور تعبدم النّاس و ولدتهم أمّاتهم أحرا را۔

عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا امیر المؤمنین! نہ مجھے کوئی خبر ہوئی نہ یہ شخص میرے پاس فریادی آیا۔ ابن عبد الحکم<sup>۱</sup> عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ابن عبد الحکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت) حدیث ۱۸۹: خلافت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک سال مدینہ میں قحط عظیم پڑا اس سال کا "عالم الرّمادہ" نام رکھا گیا یعنی ہلاک و تباہی جان و مال کا سا۔ امیر المؤمنین نے عمرو بن العاص کو مصر میں فرمان بھیجا: یہ شقہ ہے بندہ خدا عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اہن عاص کے نام

سلام کے بعد واضح ہو مجھے اپنی جان کی قسم! اے عمرو! جب تم اور تمہارے ملک والے سیر ہوں تو تمہیں کچھ پرواہ نہیں کہ میں اور میرے ملک والے ہلاک ہو جائیں ارے فریاد کو پہنچ ارے فریاد کو پہنچ۔ اور اس کلے کو بار بار تحریر فرمایا۔

سلم اماً بعد فل عمری یا عمر و ماتبائی اذا شبت انت  
و من معك ان اهلك انا و من معن فياغوثا ثم يا  
غوثا هير دقوله۔

بعد سلام معروض حضور میں بار بار خدمت کو حاضر ہوں پھر بار بار خدمت کو حاضر ہوں میں نے حضور میں وہ کارروائ روانہ کیا ہے جس کا اول حضور کے پاس ہو گا اور آخر میرے پاس اور حضور پر سلام اور اللہ عزوجل کی رحمت اور برکتیں۔

اماً بعد فيالبيك ثم يالبيك وقد بعثت اليك بعيرا  
أولها عندك وأخرها عندي والسلام عليك ورحمة  
الله وبركاته۔

عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کارروائ حاضر کیا کہ مدینہ طیبہ سے مصر تک یہ

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ ابن عبد الحکم حدیث ۳۲۰۱۰ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۲/۲۲۰ و ۲۲۱

تمام منزلہاے دوار دراز اونٹوں سے بھری ہوئی تھیں یہاں سے وہاں تک ایک قطار تھی جس کا پہلا اونٹ مدینہ طیبہ میں تھا اور پچھلا مصر میں، سب پر انماج تھا، امیر المومنین نے وہ تمام اونٹ تقسیم فرمادیے ہر گھر کو ایک اونٹ مع اپنے بار کے عطا ہوا کہ انماج کھاؤ اور اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھاؤ، چربی کھاؤ، کھال کے جوتے بناؤ، جس کپڑے میں انماج بھرا تھا اس کا لحاف وغیرہ بناؤ۔ یوں اللہ عزوجل نے لوگوں کی مشکل دفع کی، امیر المومنین حمد بجالائے۔

<p>ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں اور یہقی نے سنن میں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذاد کردہ غلام اسلام سے، اور ابن عبدالحکم نے لیث بن سعد سے روایت کیا ہے، لفظ ابن عبدالحکم کے ہیں۔ (ت)</p>	<p>ابن خزیمہ فی صحیحه<sup>۱</sup> والحاکم فی المستدرک و البیهقی فی السنن عن اسلم مولی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن عبد الحکم واللظاظه، عن الیث بن سعد۔</p>
---	---

حدیث ۱۹۰: حضور سید عالم تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے نائب کریم علی مرتفعی امیر المومنین کرم اللہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

<p>بے شک اللہ عزوجل سے شرم آتی ہے کہ کسی کا گناہ میری صفت مغفرت سے بڑھ جائے وہ گناہ کرے اور میری مغفرت اس کی بخشش میں تنگی کرے کہ میں نہ بخش سکوں یا کسی کی چہالت میرے علم سے زائد ہو جائے کہ وہ جبل سے پیش آئے اور میں حلم سے کام نہ لے سکوں یا کسی عیب کسی شرم کی بات کو میرا پر دہنہ چھپائے یا</p>	<p>انی لاستبی من اللہ ان یکون ذنب اعظم من غفری او جهل اعظم من حلی او عورۃ لا یواریہ استری او خلة لا یسدھا جودی۔ ابن عساکر عن جبیر عن الشعبي عن علی کرم اللہ تعالیٰ</p>
---	--

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم کتاب الزکوٰۃ دار الفکر بیروت ۲۰۵، السنن الکبڑی للبیهقی کتاب قسم الفیع و الغنیمة باب یکون للولی الخ دار صادر بیروت ۲۰۵/۲، صحیح ابن خزیمہ باب ذکر الدلیل علی ان العامل الخ حدیث ۲۲۶۸ المکتب الاسلامی بیروت ۲۸/۳، کنز العمال بحوالہ ابن خزیمہ حدیث ۳۵۸۸۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۰۹/۱۲ و ۲۱۰، کنز العمال بحوالہ ابن عبد الحکم حدیث ۳۵۹۰۷ مؤسسة

کسی حاجتمندی کو میرا کرم بندہ نہ فرمائے۔ (ابن عساکر <sup>1</sup> نے جیسے انہوں نے شعبی سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے روایت کیا۔ ت)	وجہہ۔
--	-------

وہا بیو! دیکھا تم نے محبوبان خدا کا احسان، ان کی غفران، ان کی حاجت برآری، ان کی شان ستاری۔

یا اللہ! ہمیں ان کے فضل، ان کے عفو، ان کے حلم، ان کے جود اور ان کے کرم سے دنیا و آخرت میں نفع عطا فرمائیں۔ (ت)	<b>اللهم انفعنا بفضلكم وعفوكم وحلهم وجودهم و كرمهم في الدنيا والآخرة أمين۔</b>
--	--

حدیث ۱۹۱: فرماتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ:

بے شک میں نہیں جانتا کہ ان دونعمتوں میں کون سے مجھ پر زیادہ احسان ہے کہ ایک شخص میری سرکار کو اپنی حاجت روائی کا محل جان کر اپنا معزز زمانہ میرے سامنے لائے اور اللہ تعالیٰ ا سکی حاجت کاروا ہونا اسکی آسانی میرے ہاتھ پر وال فرمائے، یہ تمام روئے زمین بھر کر سونا چاندی ملنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت روافرماوں۔ (ابو الغنائم ائزی نے کتاب قضاء الحوائج میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)	لا دری ای النعمتین اعظم على منة من رجل بذل مصالح وجهہ الى فرأني موضعًا لحاجته واجرى الله قضاءها او يسره. على يدي ولا انقضى لامرئ مسلم حاجة احب الى من ملا الارض ذهباً وفضةـ ابو الغنمی النرسی فی کتاب قضاء الحوائج عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ <sup>2</sup> ۔
--	--

حدیث ۱۹۲: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: هجأهم حسان فشفي و اشتفي۔ حسان نے کافروں کی ہجو کہی تو

<sup>1</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ علی بن ابی طالب ۵۰۲۹ مدارجیاء التراث العربي بیروت ۱۳۹۹/۳۵، کنز العمال بحوالہ کر عن علی رضی اللہ عنہ

حدیث ۱۹۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۳/۱۳۶۲

شفادی شفافی۔ مسلم<sup>۱</sup> عن امر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ (مسلم نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ ت)

حدیث ۱۹۳: جب کفار قریش نے شان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اشعار گستاخی بکے، عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم جواب ہوا، انہوں نے جواب دیا، حضور نے ناکافی پایا، پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد ہوا، ان کا جواب بھی پسند خاطر اقدس نہ آیا۔ پھر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد ہوا۔ انہوں نے کفار کی بجو کہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

حسان! تم نے شفادی اور شفافی۔ (ابن عساکر نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	لقد شفیقت یا حسان و اشتتفیت۔ ابن عساکر <sup>۲</sup> عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
--	--

حدیث ۱۹۴: حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے ام المؤمنین نے ان کے لئے مند پچھوائی، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گزارش کی: آپ انہیں مند پر بٹھاتی ہیں۔ وقد قال ماقول امر المؤمنین نے فرمایا:

یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کرتے اور رخ اعداء سے سینہ اقدس کو شفاء دیتے (ابن عساکر نے عطاء ابن ابی رباح سے روایت کیا۔ ت)	انہ کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و یشفعی صدرہ، من اعداؤہ۔ ابن عساکر <sup>۳</sup> عن عطاء ابن ابی رباح۔ *
--	---

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل حسان بن ثابت قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۰۱/۲، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵۳۶ احسان بن

ثابت دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۸۵/۱۳

<sup>۲</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵۳۶ احسان بن ثابت دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۷۸/۱۳، کنز العمال بحوالہ کر حدیث ۳۶۹۵۸

مؤسسه الرسالہ بیروت ۳۳۲ و ۳۳۱/۱۳

<sup>۳</sup> کنز العمال بحوالہ کر حدیث ۳۶۸۵۵ مؤسسه الرسالہ بیروت ۳۳۹/۱۳، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵۳۶ حسان بن ثابت دار احیاء

التراث العربي بیروت ۲۷۸/۱۳

حدیث ۱۹۵: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>انصار کی عزت کرو کہ انہوں نے اسلام کو پالا ہے جس طرح پرند کا پھٹھا آشیانے میں پالا جاتا ہے۔ (دارقطنی نے افراد میں اور دلیلی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>اَكْرَمُوا الْأَنْصَارَ فَإِنَّهُمْ رَبُوا إِلَاسْلَامَ كَمَا يَرِبُّ الْفَرَخَ فِي وَكَرِهٖ الدَّارِقَطْنَى<sup>۱</sup> فِي الْأَفْرَادِ وَالدَّلِيلِيٌّ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔</p>
---	--

### وصل سوم

احادیث متعلقہ بملائکہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

حدیث ۱۹۶: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>پیش بندہ مومنن اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے تو رب جل و علا جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے: اس کی دعا قبول نہ کر کے میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں۔ اور جب فاجر دعا کرتا ہے رب جل جلالہ، فرماتا ہے: اے جبریل! اس کی حاجت روا کر دے کہ میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا (ابن النجّار نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>اَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لِيَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِجَبَرِيلَ لَا تَجْبَهْ فَإِنَّ أَحَبَّ إِنْ سَمِعَ صَوْتَهُ، وَإِذَا دَعَاهُ الْفَاجِرُ قَالَ يَا جَبَرِيلَ اقْضِ حَجَّتَهُ فَإِنَّ لَا حَبَّ إِنْ سَمِعَ صَوْتَهُ۔ اَبْنُ النَّجَّار<sup>۲</sup> عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔</p>
--	--

اس حدیث سے واضح کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام دعائیں قبول کرتے حاجتیں روا فرماتے ہیں۔ دین وہیت میں اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا۔

حدیث ۱۹۷: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ قط فی الافراد والدلیلی حدیث ۷۲۳ موسیٰ رسالہ بیروت ۹/۱۲، الفردوس بیان ثور الخطاب حدیث ۷۲۲ دار الكتب العلمیہ بیروت ۷/۵

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ ابن النجّار حدیث ۳۲۶۱ و ۳۹۰۵ موسیٰ رسالہ بیروت ۸۵/۲ و ۲۴۰

الله تعالیٰ کے کچھ فرشتے بنی آدم کے رزقوں پر مؤکل ہیں انہیں اللہ عزوجل کا حکم ہے کہ جس بندے کو ایسا پاؤ کہ سب فکریں چھوڑ کر آخرت کا ہورہا ہے آسمان وزمین و انسان سب کو اس کے رزق کا ضامن کر دو یعنی بے طلب ہر طرف سے اسے رزق پہنچاؤ اور جسے روزی کی تلاش میں دیکھو وہ اگر راستی کا قصد کرے تو اس کے لیے اس کا رزق پاک و آسان کر دو اور جو حد سے بڑھے اسے اس کی خواہش پر چھوڑ دو پھر ملے گا تو اتنا ہی جو میں نے اس کے لئے لکھ دیا ہے (اس کو حکیم ترمذی نے نوادر میں روایت کیا۔ ت)

ان اللہ ملکتہ مؤکلین بارزاق بنی ادم قال لهم ايمان عبدٍ وجد تبوة جعل الله همّا واحد فضينا رزقه السموات والارض وبني ادم ايسما عبدٍ وجد تبوة طلب فأن تحري الصدق فطيبوا له، ويسرعوا ومن تعدى ذلك فخلوا بيته، وبيان ما يريده ثم لاينال فوق الدرجة التي كتبتها له۔ الترمذی<sup>۱</sup> الاكبر الامام في النوادر۔

حدیث ۱۹۸: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

ایک فرشتہ تیری پیشانی کے بال تھاے ہوئے ہے جب تو اللہ عزوجل جل شانہ، کے لئے تواضع کرے تجھے بلندی پختا ہے اور جب تو اس پر معاذ اللہ تکبر کرے تجھے توڑالتا ہلاک کر دیتا ہے، اور ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ سانپ کو تیری منہ میں نہیں جانے دیتا۔ (ابن جریر نے کہناہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ مختصر ہے۔ ت)

ملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعتم لله رفعك وإذا لجبرت على الله قصبك وملك قائم على فيك لا يدع الحياة آن تدخل في فيك۔ ابن جریر عن كنانة العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ هذا مختصر<sup>۲</sup>

دیکھو متواضعوں کو فرشتہ بلند قدری دیتا ہے، متکبروں کو فرشتہ ہلاک کرتا ہے، اور

<sup>1</sup> نوادر الاصول للترمذی الاصل الحادی والسبعون والمائتان في جمع الہموم دارصادربیروت ص ۳۹۵

<sup>2</sup>

کیوں صاحبو! یہ فرشتہ جو منہ کی حفاظت کر رہا ہے دافع البلاتونہ ہوا شاید دفع بلاں اس کا نام ہوگا کہ وہ چھوڑ دے کہ سانپ تمہارے منہ میں گھس جائے۔

حدیث ۱۹۹: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

آدم زاد اس کام سے غافل ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجا ہے کہ وقت پہنچنے تک اس کا نگہبان رہتا ہے۔ (اسکو ابو حاتم والدنیا کے میٹھوں اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ مختصر ہے۔ ت)	ان ابن ادم لفی غفلة عما خلق له ویبعث اللہ ملکا فیحفظه حتى یدرک۔ ابناً ابوی <sup>۱</sup> حاتم والدنیا وابو نعیم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم هذا مختصر۔
---	--

حدیث ۲۰۰: صحیح مسلم شریف میں حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب نطفے پر بیالیں راتیں گزرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجا ہے وہ آکر اس کی صورت بناتا ہے، کان، آنکھ، کھال، گوشت، بڈیاں خلق کرتا ہے۔	اذا مر بالنطفة اثنین واربعون ليلة بعث الله اليها ملکاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها و عظامها <sup>۲</sup> ۔ الحدیث
--	--

انہیں کی دوسری روایت میں ہے:

فرشتہ آکر اس پر گرتا ہے، زہیر نے کہا میرے خیال میں حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وہ فرشتہ جو اسے خلق کرتا ہے۔	یتسور علیها الملک۔ قال زہیر حسبته قال الذى یخلقها <sup>۳</sup> ۔
---	---

<sup>۱</sup> حلیۃ الاولیاء ترجمہ ۵۲۳۵ محمد بن علی الباقر دارالكتاب العربي بيروت ۱۹۰/۳، الدر المنشور بحوالہ ابن ابی الدنیا وابن ابی هاتم الخ تحت الایہ ۲۱/۵۰ دار احیاء لتراث بيروت ۷/۵۲۲

<sup>۲</sup> صحیح مسلم، کتاب القدر باب کیفیت خلق الادمی فی بطن امہ قدری کتب خانہ کراچی ۳۳۳/۲

<sup>۳</sup> صحیح مسلم، کتاب القدر باب کیفیت خلق الادمی فی بطن امہ قدری کتب خانہ کراچی ۳۳۳/۲

انہیں کی تیسری روایت میں ہے:

بیشک عورتوں کے رحم پر ایک فرشتہ معین ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ فرشتہ باذن الہی کچھ خلق کرے۔	ان ملگاً مؤکلاً بالرحم اذا اراد اللہ ان يخلق شيئاً باذن اللہ الحدیث <sup>۱</sup>
--	--

طبرانی کی روایت میں ہے:

نطفے کو جب رحم میں ٹھہرے چلے گزر جاتا ہے فرشتہ کہ رحم پر مؤکل ہے آکر اس کی ہڈیوں، گوشت، خون اور بال کھال کی تصویر کرتا ہے۔	ان النطفة اذا استقرت في الرحم فمُضي لها أربعون يوماً جاء ملك الرحيم فصور عظيمه ولحمه ودمه وبشره <sup>۲</sup>
--	--

حدیث ۲۰۱: صحیح بنخاری و مسلم وغیرہما میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بَعْدَ كَامَادِهِ آفَرْ نِيشَّاً چَالِيسَ دَنْ تِكَّ مَاكَ كَبِيْتَ مِيلَنْ بَعْجَ هُوتَنَهِ بَهِ پَهْرَاتِنَهِ بَهِ دَنْ جَمَّا هُوا خُونَ رَهْتَنَهِ بَهِ، پَهْرَاتِنَهِ بَهِ دَنْ خُونَ كَبِيْتَ، ثُمَّ يَرْسُلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلِكَ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ جَبَ تِينَ چَلَّهُ گَزْرَ لِيَتَهِ بَهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْتَ أَنْتَ كَيْفَ فَرَشْتَهُ بَهِجَتَهِ بَهِ كَهَّا مَيْسَنَهِ جَانَ ڈَالَتَهِ بَهِ، هَذَا الْفَظُّ مُسْلِمٌ<sup>۳</sup> (یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ ت) اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ فَرِمَاتَهِ بَهِ:

الله ہے کہ تمہاری تصویر فرماتا ہے ماوں کے پیپوں میں جیسے چا ہے۔	هُوَ الَّذِي يُصْوِرُ كُمْنِي الْأَنْهَارَ حَمِيرٍ كَيْفَ يَشَاءُ <sup>۴</sup>
---	--

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب القدر باب کیفیۃ خلق الادمی فی بطنه امه قدمی کتب خانہ کراچی ۳۳۳/۲

<sup>۲</sup> المعجم الكبير عن حذيفه بن اسید رضی اللہ عنہ حدیث ۳۰۲۱ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۷/۳، کنز العمال حدیث ۷۵۵ مؤسسة

الرسالہ بیروت ۱/۱۲۱

<sup>۳</sup> صحیح البخاری کتاب بدء الخلق ۲/۵۶ و کتاب الانبیاء ۲/۶۹ قدمی کتب خانہ کراچی، صحیح مسلم کتاب القدر باب کیفیۃ خلق

الادمی فی بطنه امه قدمی کتب خانہ کراچی ۲/۳۳۲

<sup>۴</sup> القرآن الکریم ۲/۳

اور فرماتا ہے جل و علا:

کیا کوئی اور بھی خلق کرنے والا ہے اللہ کے سوا۔	”ہُلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ“ <sup>۱</sup>
--	---

یہاں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا نام پاک ماحی ہے یعنی کفرو شرک کے مٹانے والے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خود صحیح حدیثوں میں فرماتا ہے ہیں کہ فرشتہ تصویر کرتا ہے، فرشتہ صورت بتاتا ہے۔ فرشتہ آنکھ، کان، گوشت، استخوان، بال، کھال، خون خلق کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ سب کچھ فرشتے کے ہاتھ سے ہو کر جان بھی فرشتہ ڈالتا ہے۔ شرک پسند گمراہوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا و العیاذ باللہ رب العالمین۔ جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم تو اتنا ہی فرما کر چپ ہو رہے تھے:

میں تجھے ستر ایٹا دوں۔	”لَا هَبَّ لَكِثْ غَلِمَّاً كَيَّا“ <sup>۲</sup>
------------------------	--

یہاں تو ان سے کم درجہ شخص کے ہاتھوں پر دنیا بھر کے بیٹی بیٹوں کی خلق و تصویر ہو رہی ہے۔ احمد جاہلو! اپنے سکتے ایمان کی جان پر رحم کرو، یہ فرق نسبت اٹھانا اقسام اسناد مٹانا دعا جانے تمہیں کن برسے حالوں پر پہنچائے گا۔ مسلمانوں کو مشرک بنانا بنسی کھیل سمجھا ہے۔

حدیث ۲۰۲: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

<p>اگر نبی میں تم میں مبعوث نہ ہوتا تو پیش عمر نبی کر کے بھیجا جاتا۔ اللہ عزوجل نے دو فرشتوں سے عمر کی تائید فرمائی ہے کہ وہ دونوں عمر کو توفیق دیتے اور مر امر میں اسے ٹھیک راہ پر رکھتے ہیں اگر عمر کی رائے لغزش کرتی ہے تو فرشتے عمر کو ادھر سے پھیر دیتے ہیں تاکہ عمر سے حق ہی صادر ہو (دیلمی نے ابو بکر صدیق اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>لَوْلَمْ أَبْعَثْ فِيكُمْ لِبَعْثَ عَمْرَ أَيْدِ اللَّهِ عَمْرَ بِمِلْكِيْنِ يُوفْقَانَهُ وَيُسَدِّدَ إِنَهُ فَلَذَا أَخْطَأَ صِرْفَاهُ حَتَّى يَكُونَ صَوَابًا۔ الدِّيلِيَّ<sup>۳</sup> عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ وَابْنِ هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔</p>
--	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳/۳۵

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۹/۱۹

<sup>۳</sup> الفردوس بتأثیر الخطاب حدیث ۷۵۱۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۳، کنز العمال حدیث ۲۱۳۲ مؤسسة بیروت ۱۱/۵۸۱

حدیث ۲۰۳: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بیشک عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا اسلام عزت تھا اور ان کی بھرتو فتح و نصرت اور ان کی خلافت میں رحمت۔ خدا کی قسم گرد کعبہ علائیہ نماز نہ پڑھنے پائے جب تک عمر اسلام نہ لائے۔ جب وہ مسلمان ہوئے کافروں سے قتل کیا یہاں تکہ کہ ہم نے علائیہ گرد کعبہ نماز ادا کی۔ وانی لاحسب بین عینی عمر ملگا یسددہ اور بیشک میں سمجھتا ہوں کہ عمر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے کہ انہیں راستی و درستی دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر سے شیطان ڈرتا ہے اور جب نیک بندوں کا ذکر ہو تو عمر کا ذکر لاو۔

(اس کو ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس کا بعض حصہ دوسری تخریج کے ساتھ باب اول کے آخر میں گزر گیا ہے۔ ت)	ابن عساکر <sup>۱</sup> رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد مر بعضہ، اواخر البیک الاول بتخریج اخر غیر محدود۔
--	---

حدیث ۲۰۴: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

جب قاضی مجلس حکم میں بیٹھتا ہے اس پر دو فرشتے اترتے ہیں کہ وہ اسے راستی دیتے تو فیں بخشش سیدھی را چلاتے ہیں جب تک حق سے میل نہ کر لے جہاں اس نے میل کیا فرشتوں نے اسے چھوڑا اور اڑ گئے۔ (یہیں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)	اذا جلس القاضی فی مجلسه هبط علیہ ملکان یسدد انه ویوفقاً نه ویرشد انه مالم یجرف اذا جار عرجاؤ تر کاہ البیهقی <sup>۲</sup> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
--	---

حدیث ۲۰۵: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: جو مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۵۳۰۲ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار احیاء التراث العربي بیروت ۷/۲۷، کنز العمال حدیث ۳۵۸۶۹

مؤسسه الرسالہ بیروت ۵۹۹/۲

<sup>۲</sup> کنز العمال عن ابن عباس حدیث ۱۵۰۱۵ مؤسسه الرسالہ بیروت ۲/۹۶، السنن الکبیر للبیهقی آداب القاضی باب فضل من ابتلى بشئی

الخ دار صادر بیروت ۸۸/۱۰

کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمجید و توحید کرتا ہے جب وہ مسلمان اپنی قبر میں جاتا ہے اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا مجھے نہیں پیچانتا؟ وہ مسلمان پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے میں وہ خوش ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کی تھی انا الیوم اونس و حشتك والقناك حجتك وأثبتك بالقول الثالث و اشهدك مشاهدك يوم القيمة واربك منزلتك من الجنۃ۔ آج میں تیرا جی بہلا کر تیری وحشت دور کروں گا، میں تجھے تیری جنت سکھاؤں گا، میں تجھے نکریں کے جواب میں حق بات پر ثابت دوں گا، میں تجھے محشر کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں تیرے رب کے حضور تیری شفاعت کروں گا، میں تجھے جنت میں تیرا مکان دکھاؤں گا۔

<p>اس کوابن ابی الدنیا نے قضاۓ الحوانج میں اور ابوالشخ نے ثواب میں امام جعفر سادق سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کے چہروں کو مکرم بنایا۔ (ت)</p>	<p>ابن ابی الدنيا<sup>۱</sup> فی قضاء الحوائج وابو الشیخ فی الثواب عن الامام جعفر بن الصادق عن ابیه عن جده رضی اللہ تعالیٰ عنہم وکرم وجوہہم۔</p>
---	--

حدیث ۲۰۶: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: پیشک میں کتاب اللہ میں ایک سورت تیس آیتوں کی پاتا ہوں جو اسے سوتے وقت پڑھے اللہ عزوجل اس کے لئے تیس نیکیاں لکھے اور اس کے تیس گناہ محو فرمائے اور اس کے تیس درجے بلند کرے،

<p>الله عزوجل اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے کہ اپنا بازو اس پر کشہ رکھے جب تک سو کراٹھے وہ فرشتہ اسے ہر برائی سے محفوظ رکھے وہ سورت مجادلہ ہے اپنے قاری کی طرف سے اس کی قبر میں جھگٹرے گی وہ تبارک الذہ سورہ ملک ہے۔</p>	<p>وبعث اللہ الیہ ملکا من الملائکة لیبسط علیہ جناحہ و يحفظه من كل سوء حتى يستيقظ و هي المجادلة تجادل عن أصحابها في القبر و هي تبارك الذي سورة الملك</p>
--	---

<sup>۱</sup> موسوعۃ رسائل ابن ابی الدنيا قضاء الحوائج حدیث ۱۵ مؤسسة الكتب الثقافية بیروت ۸۲/۲، کنز العمال بحوالہ ابن ابی الدنيا حدیث

۱۶۲۰۹ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲/۲۳۱

(دیلمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ ت)

الدیلمی<sup>۱</sup> عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حدیث ۲۰۷: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

جب کوئی منافق کسی مسلمان کو پیٹھ پیچھے برا کہہ رہا ہو تو جو شخص اس منافق سے اس مسلمان کی حمایت کرے اللہ عزوجل اس کے لئے ایک فرشتہ بھیجے کہ آتش دوزخ سے اس کے گوشت کو بچائے (احمد و ابو داود نے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

من حُنْيَ مؤمناً مُنافقاً يغتابه بعث اللہ له ملگاً يحيى  
لحمه. من نار جهنم۔ احمد<sup>۲</sup> و ابو داود عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حدیث ۲۰۸: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

میں نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ فرشتہ بن کر جنت میں اڑ رہے ہیں اور ان کے بازوں کے الگے دونوں شہپروں سے خون رواؤ ہے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ان سے کم مرتبہ پایا۔ میں نے فرمایا مجھے گمان نہ تھا کہ زید کا مرتبہ جعفر سے کم ہو گا۔ جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلیم نے عرض کی: زید جعفر سے کم نہیں مگر ہم نے جعفر کا مرتبہ زید سے بڑھا دیا ہے اس لئے کہ وہ حضور سے قرابت رکھتے ہیں۔

رأيت جعفراً يطير ملگاً في الجنة تدمي تآدمتاها ورأيت  
زيداً دون ذلك فقلت ما كنت أظن ان زيداً دون  
جعفر فقال جبريل (عليه الصلوة والتسلیم) ان زيداً  
بدون جعفرو لـكنا فضلنا جعفر بقرباته منه

<sup>۱</sup> الفردوس بتأثیر الخطاب حدیث ۲۰۸ ادار الكتب العلمية بيروت ۲۲ و ۲۳، کنز العمال حدیث ۲۰۸ مؤسسة الرسالہ بيروت ۵۹۳/۱

<sup>۲</sup> مسند احمد بن حنبل حدیث معاذ بن انس الجھنی المکتب الاسلامی بيروت ۳۳/۳ سنن ابی داود کتاب الادب بباب الرجل یذب عن

عرض اخیہ آنقبا عالم پر لیں لاہور ۳۱۳/۲

ابن سعد<sup>۱</sup> عن محمد بن عمرو بن علی سے مرسلًا۔

حدیث ۲۰۹: طلحہ بن عبید اللہ احمد العشرۃ المبشرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں: روز احمد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھیاں لے کر ایک چٹان پر بھادیا کہ مشرکین سے آڑ ہو گئی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پس پشت دس مبارک سے ارشاد فرمایا:

<p>یہ جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اے طلحہ! وہ روز قیامت تمہیں جس کسی دہشت میں دیکھیں گے اس سے تمہیں چھڑا دیں گے۔ (ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔)</p>	<p>هذا جبريل يخبرني انه لا يراكم يوم القيمة في هول الا انقذك منه۔ ابن عساکر<sup>۲</sup> رضي الله تعالى عنه۔</p>
---	---

حدیث ۲۱۰: جب امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو جوسی خبیث نے خنجر مارا اور امیر المؤمنین نے مشورے کا حکم دیا کہ میرے بعد عثمان غنی و علی مر تقیٰ و طلحہ وزیر و عبدالرحمٰن بن عوف و سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم چھ صاحبوں سے مسلمان جسے مناسب تر جانیں خلیفہ بنائیں) حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت امیر المؤمنین میں آئیں اور کہا: اے باپ میرے! بعض لوگ کہتے ہیں یہ چھ شخص پسندیدہ نہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا: مجھے تکیہ لگا کر بھادو۔ بھائے گئے، ارشاد فرمایا: علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لا تو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہو گا۔ بھلا عثمان کی شان میں کیا ہے سکتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے شا جس دن عثمان انتقال کرے گا آسمان کے فرشتے اس پر نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ فضیلت خاص عثمان کے لئے ہے یا ہر مسلمان

<sup>۱</sup> الطبقات الکبیریٰ لابن سعد ذکر جعفر بن ابی طالب دار صادر بیروت ۳۸/۳، کنز العمال حدیث ۳۳۲۱۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۱/۲۶۵

<sup>۲</sup> کنز العمال حدیث ۳۳۲۰۲ مؤسسة الرسالہ بیروت ۲۰۲/۱۳، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۳۰۶ طلحہ بن عبید اللہ دار احیاء التراث

کے لئے۔ فرمایا: خاص عثمان کے لئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو کیا کہیں گے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بجاوا پشت مرکب سے گزگیا تھا میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کون ہے کہ میرا بجاوا ٹھیک کر دے اور جنت لے لے۔ یہ سنتے ہی طلحہ دوڑے اور بجاوا درست کر دیا، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ان سے ارشاد فرمایا: یا طلحہ هذا جبریل یقرئك السلام ويقول انامعلک فی اهواں یوم القيمة حتى انجییک منها۔ اے طلحہ! یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہو لوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ ان سے تمہیں نجات دوں گا۔ زیر بن عوام کو کیا کہیں گے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور آرام فرماتے تھے زیر بیٹھے پنچھا جملتے رہے یہاں تک کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا: اے ابو عبد اللہ! (زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے) کیا جب سے تو جھل رہا ہے؟ عرض کی: میرے ماں باپ حضور پر نثار جب سے برابر جھل رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: هذا جبریل یقرئك السلام ويقول انامعلک یوم القيمة حتى ادب عن وجهک شرر جہنم۔ یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی ہوئی پنگکاریاں دور کروں گا۔ سعد بن ابی و قاس کو کیا کہیں گے، میں نے روز بدر دیکھا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چودہ بار ان کی مکان چلہ باندھ کر انہیں عطا کی اور فرمایا تیر مار، تیرے قربان میرے ماں باپ۔ عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہیں گے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور حضرت خالقون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف فرماتھے دونوں صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوکے روتے یلتے تھے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے کہ کچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے، اس پر عبد الرحمن بن عوف صیح (کہ خرمائے خستہ برآورده، اور پنیر کو باریک کوٹ کر گھنی میں گوند ہتھے ہیں) اور دوروٹیاں کہ ان کے نقچ میں روغن رکھا تھا لے کر حاضر ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کفاک اللہ امر دنیا ک واما امر آخرت ک فانا لہا ضامن۔ اللہ تعالیٰ تیرے دنیا کے کام درست کر دے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تو میں ذمہ دار ہوں۔ "معاذ<sup>۱</sup> بن المثنی فی زیادات مسنند مسند الطبرانی فی

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ معاذ بن المثنی حدیث ۳۶۷ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۳۷۲ھ - ۲۳۶

الاوسط وابونعیم فی فضائل الصحابة وابوبکران الشافعی فی الغیلانيات وابوالحسن بن بشران فی فوائدہ والخطیب فی التلخیص المنشابہ وابن عساکر فی تاریخ دمشق والدیلیسی فی مسنند الفردوس عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام جلیل جلال الدین سیوطی جمع الجواع میں فرماتے ہیں: مسنده صحیح<sup>۱</sup>۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

تمملہ کالمہ: وصل اول کی طرف پھر عود کرنا و العود احمد۔

اعذ ذکر والینا لانا ذکرہ۔ **حوالیہ** مَا كررتہ یتتصوّع

(ہمارے والی کا ذکر ہمارے لئے پھر لوٹا وہ کہ بیشک ان کا ذکر ایسی کستوری ہے جسے جتنا رگڑو وہ خوشبو دیتی ہے۔ ت)

باز ہوائے چشم آرزوست **جلوہ سرو** سفیم آرزوست

(پھر مجھے چمن کی ہوا کی خواہش ہے جنیلی کے نفع کے جلوے کی خواہش ہے۔ ت)

پھر اخدا ولئے یاد بیباں حرم **پھر کھنچا دامن دل سوائے مغیلان حرم**

اللہ اس حدیث صحیح کے پچھلے جملے نے پھر وصل اول احادیث متعلقہ محبوب اجمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آتش شوق سینے میں بھڑکا دی، کتاب پنچ پیارے آقا مہربان مولیٰ کادر واڑہ چھوڑ کر کہاں جائے، ہر پھر کرو ہیں کا وہیں رہا چاہے بلکہ واللہ یہ کتاب پنچ پیارے کریم کا دراطہ سے ہٹا ہی نہیں، انبیاء کے دروازے پر جائے تو انہیں کا گھر ہے، اولیاء کے بیباں آئے تو انہیں کا در ہے، ملائکہ کی منزلوں پر گزرے تو انہیں کا گنگر ہے ع

کوئی اور ان کے سوا کہاں وہ اگر نہیں تو جہاں نہیں

بے یک چراغ ست دریں خانہ کہ از پر تو آں **ہر کجا در گمرا نجنسے ساختہ انہ**

(اس گھرے میں ایک چراغ ہے جس کی روشنی سے جہاں دیکھو ایک انجمن بنائے ہوئے ہیں۔ ت)

آسمان کو اس زمیں خوان زمانہ مہمان **صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیر اتیرا**

بے بندہ ات غیرت بر دکے بر در غیرت رود **در رود چوں بیگرد ہم شاہ آں ایوان توئی**

(تیر اغیر تمدن غلام در غیر پر کیسے جاسکتا ہے، اور اگر جائے تو دیکھے کا کہ اس ایوان کا بادشاہ بھی تو ہی ہے۔ ت)

حدیث ۲۱۱: نزال بن سبرہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم

<sup>۱</sup> کنز العمال تحت حدیث ۲۳۶/۱۳ و ۲۳۷/۲۳۶ مؤسسة الرسالہ بیروت

کو خوش دل پایا، عرض کی: یا امیر المؤمنین! اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان کیجئے۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں۔ ہم نے عرض کی: اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجئے۔ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یار نہ ہو۔ ہم نے عرض کی: ابو بکر صدیق کا حال بیان کیجئے۔ فرمایا: یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ عزوجل نے جبریل امین و محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر ان کا نام صدیق رکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کی امامت کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہیں کو پسند کیا۔ ہم نے عرض کی: عمر بن خطاب کا حال بیان فرمائیے۔ فرمایا: یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ عزوجل کے فاروق رکھا، انہوں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرتے سن کہ الہی! عمر بن خطاب کے سبب اسلام کی عزت دے۔ ہم نے عرض کی: عثمان کا حال کہئے۔ فرمایا ذکر امراء تغلی فی الملأ الاعلى ذالنورین کان ختن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدیہ ضمن لہ فی الجنتہ یہ وہ صاحب ہیں کہ ملأ اعلیٰ وزم بالامین ذی النورین پکارے جاتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شاہزادیوں کے شوہر ہوئے، سرور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنت میں ایک مکان کی خصانت فرمائی ہے۔

<p>خیشمہ، لاکائی اور عشاری نے فضائل صدیق میں اور ابن عساکر نے انہی سے بحوالہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اسکوراولت کی اکہ ہم نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسے عظیم شخص ہیں، پھر پوری حدیث ذکر کی۔ (ت)</p>	<p><b>خیشمہ<sup>۱</sup> واللالکائی والعشاری فی فضائل الصدیق وابن عساکر عنه عن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ وراہ عنه ابو نعیم قال سألنا علیا عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ذاک امر و فذ کرہ<sup>۲</sup>۔</b></p>
---	--

حدیث ۲۱۲: کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکہ معظمه میں کسی سے فرمایا کہ اپنا گھرے میرے ہاتھ نیچ ڈال کہ مسجد حرام میں زیادت فرماؤں اور تیرے لئے جنت میں مکان کا ضامن ہوں۔ اس نے

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ خیشمہ واللالکائی والعشاری حدیث ۳۲۶۹ م مؤسسه الرسالہ بیروت ۲۳۱/۱۳

<sup>۲</sup> معرفة الصحابة لابن نعیم حدیث ۲۳۹ مکتبۃ الحریمین ریاض ۲۳۶/۱

عذر کیا۔ پھر فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، یہ شخص زمانہ جاہلیت میں ان کا دوست تھا اس سے باصرار تمام دس ہزار اشرفی دے کر خرید لیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور! اب وہ گھر میرا ہے فہل انت اخذہا ببیت تضمن لی فی الجنة کیا حضور مجھ سے ایک مکان بہشت کے عوض لیتے ہیں جس کے حضور میرے لئے ضامن ہو جائیں۔ قال نعم فرمایا: ہاں۔ فأخذہا منہ وضمن له بیتًا فی الجنة و الشهد لله علی ذلک الومّنین حضور نے ان سے وہ مکان لے کر جنت میں ان کے لئے ایک مکان کی ضمانت فرمائی اور مسلمانوں کو اس معاملہ پر گواہ کر لیا۔

احمد الحاکی <sup>۱</sup> فی فضائل عثمان عن سالم بن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔ (ت)	امحمد حاکی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔
---	--

حدیث ۲۱۳: کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے یہاں کا پانی پسند نہ آیا شور تھا، بنی غفار سے ایک شخص کی ملک میں ایک شیریں چشمہ مسمیٰ بہ رومہ تھا وہ اس کی ایک مشک نیم صاع کو بیچتے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: بعنیہا بعين فی الجنة یہ چشمہ میرے ہاتھ ایک چشمہ بہشت کے عوض بیٹھ ڈال۔ عرض کی: یا رسول اللہ! میری اور میرے بچوں کی معاش اسی میں ہے مجھ میں طاقت نہیں۔ یہ خبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی وہ چشمہ مالک سے پہنچیں<sup>۲</sup> ۳۵ ہزار روپے کو خرید لیا، پھر خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! اتعجّل لی مثل الذی جعلت لہ عیناً فی الجنة اشتريتها یا رسول اللہ! کیا جس طرح حضور اس شخص کو چشمہ بہشتی عطا فرماتے تھے اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو حضور مجھے عطا فرمائیں گے؟ قال نعم فرمایا: ہاں۔ عرض کی: میں نے بُر رومہ خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ الطبرانی<sup>۲</sup> فی الكبیر و ابن عساکر عن بشیر رضی اللہ تعالیٰ

<sup>۱</sup> الریاض النصرۃ بحوالہ الحاکی الباب الثالث دار المعرفة بیروت ۲۰۲۰/۳

<sup>۲</sup> المعجم الكبير عن بشير اسلی حدیث حدیث ۲۲۲ المکتبۃ الفیصلیۃ بیروت ۲/۳۲، تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵ عثمان بن عفان

رضی اللہ عنہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱/۳۹، کنز العمال بحوالہ طب کرد حدیث ۱۸۳ مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۳/۳۵

عنه (طبرانی نے کبیر میں اور ابن عساکر نے بیشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

حدیث ۲۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

<p>عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خرید لی بڑ رومہ کے دن اور لشکر کی تنگستنی کے روز۔ (حاکم اور ابن عدی اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>اشتری عثمان بن عفان من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنة مرتین یوم رومہ و یوم جیش العسرة الحاکم<sup>۱</sup> و ابن عدی و عساکر عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

حدیث ۲۱۵: کہ حضور مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

<p>کل تمہارے لئے جنت میرے ذمہ ہے (ابو نعیم<sup>۲</sup> نے فضائل صحابہ میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)</p>	<p>لک الجنة علی یا طلحۃ غدًا۔ ابو نعیم<sup>۲</sup> فی فضائل الصحابة عَنْ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔</p>
--	---

حدیث ۲۱۶: صحیح بخاری شریف میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<p>جو میرے لئے اپنی زبان اور شر مگاہ کا ضامن ہو جائے (کہ ان سے میری نافرمانی نہ کرے) میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔</p>	<p>من یضمِن لِ مَابین لحیبِهِ و مَابین رجليهِ اضمِن لهِ الجنة<sup>۳</sup>۔</p>
---	--

<sup>۱</sup> المستدرک للحاکم کتاب معرفة الصحابة اشتراى عثمان الجنة مرتین دار الفکر بیروت ۳/۱۰/۷ تاریخ دمشق الكبير ترجمہ ۱۵۷

عثمان بن عفان دار احیاء التراث العربي بیروت ۳۹/۳، الكامل لابن عدی ترجمہ بکر بن بکار دار الفکر بیروت ۲/۳۶۳

<sup>۲</sup> کنز العمال بھوالہ ابو نعیم حدیث ۳۳۳۶۵ مؤسسه الرسالہ بیروت ۱/۶۵۹

<sup>۳</sup> صحیح البخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان قدری کتب خانہ کراچی ۲/۸۵۹، ۹۵۸، السنن الکبیری للبیهقی کتاب قتال اهل البغی باب

ماعلی الرجل من حفظ اللسان الخ دار صادر بیروت ۸/۲۲۶

امام الوبابیہ علیہ ماعلیہ اپنے مقرر کو پہنچا، اب یہ حدیث میں کسے دکھائیں کہ اوبے بصر بدزبان! تیرے نزدیک تو وہ کسی چیز کے مختار نہیں، ان کو کسی نوع کی قدرت نہیں، کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اپنی جان تک کے نفع و نقصان کے مالک نہیں دوسرے کا تو سکیا کر سکیں، اللہ کے یہاں کا معاملہ انکے اختیار سے باہر ہے، وہاں کسی کی حمایت نہیں کر سکتے کسی کے وکیل نہیں بن سکتے<sup>۱</sup>۔

ان حدیثوں کو سوجھ کو وہ تمیلک الہی عزو جلت کے مالک، کارکانہ الہی کے مختار ہیں، خ manusقیں فرماتے ہیں، اپنے ذمے لیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، بیع کر دیتے ہیں، ہر عاقل جانتا ہے کہ بیع وہی کرے گا جو خود مالک ہو یا مالک کی طرف سے ماذون و مختار، ورنہ فضولی ہے جس کا قصد فضول اور عقد برکار۔

الحمد لله اہل حق کے نزدیک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفاذ تصرف کی دونوں وجہیں حاصل، حقیقت عطا یہ لیجئے تو وہ ضرور مالک جنان، بلکہ مالک جہان ہیں۔ اور ذاتیہ لیجئے تو مالک حقیقی کے ماذون مطلق و نائب کامل ہاں گمراہ بددین وہ جو دونوں شقیں باطل جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ فضولی محض مانے، "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَّا مُنْقَلِبٌ يَقْلِبُونَ"<sup>۲</sup>۔ (اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کو وہ پر پٹا کھائیں گے۔ ت)

حدیث ۲۱۷: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

من بکر يوم السبت في طلب حاجة فانا ضامن بقضائيها۔ ابو نعيم <sup>۳</sup> عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه۔	جو شنبے کے دن تڑکے کسی حاجت کی تلاش کو جائے میں اسکی حاجت روائی کا ذمہ دار ہوں۔ (ابو نعیم نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ عنہما سے روایت کیا۔ ت)
--	---

حضرت سید نظام الحق والدین محبوب اللہی سلطان الاولیاء قدست اسرارہم کی نسبت لوگ کہتے ہیں:  
"بعد جمعہ جو کچھے کام اس کے ضامن شیخ نظام"۔

<sup>۱</sup> تقویۃ الایمان الفصل الثالث مطبع علمی اندر وان لوہاری دروازہ لاہور ص ۲۵۶۹

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۲۲/۲۲

<sup>۳</sup> کنز العمال بحوالہ ابو نعیم عن جابر حدیث ۱۲۸۱۲ مؤسسة الرسالۃ بیروت ۵۲۰/۶

وہابی اسے شرک کہتے ہیں، وہی حکم اس حدیث پر لازم۔

حدیث ۲۱۸: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل بعثت حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہن کو تاجرانہ جاتے تھے ایک پیر مرد عسکران بن عوا کر کے یہاں قیام فرماتے، وہ ان سے کہ معظمه کا حال پوچھتے تم میں کوئی مشہور بلند چرچے والا پیدا ہوا؟ کسی نے تم پر تمہارے دین میں خلاف کیا؟ یہ انکار کرتے، جب بعد بعثت اقدس گئے پیر مرد نے کہا: میں تمہیں وہ بشارت دیتا ہوں کہ کہ تمارے لئے تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم سے نبی بر گزیدہ مبعوث فرمایا، ان پر اپنی کتاب انتاری، وہ اصنام سے روکتے اور اسلام کی طرف بلاستے ہیں، حق کا حکم دیتے اور اس کے فاعل ہیں، باطل سے منع کرتے اور اس کے مبطل ہیں، وہ ہاشمی ہیں۔ اور تم اے عبدالرحمن ان کے ماموں! جلد پٹاؤ اور ان کی خدمت و تصدیق کرو، اور یہ اشعار میری طرف سے اکنی بارگاہ والا میں پکنچاؤ، چند اشعار دربارہ تصدیق رسالت و اطہار شوق و غذر پیرانہ سالی واستعانت سرکار عالی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہے ازاں جملہ یہ دو شعر۔

فَأَنْتَ حِزْيٌ وَمُسْتَرْاجٍ  
إذَا نَأَيْتَ بِالْدَّيْارِ بَعْدِ

يَدُوكُ شَفِيعِي إِلَى مَلِيكٍ  
يَدُوكُ الْبَرِّيَا إِلَى الْفَلَاحِ

جبہ کہ شہروں کو دوری فاصلہ نے بعید کر دیا، تو حضور میری پناہ اور میری راحت ملنے کی جگہ ہیں۔ تو حضور میری شفیق ہوں اس بادشاہ کے یہاں جو مخلوق کو نجات کی طرف بلاستا ہے۔

عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر کیا حال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کیا، انہوں نے فرمایا: یہ محمد بن عبداللہ ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے اپنی تمام مخلوق کی طرف رسول کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم ان کے حضور حاضر ہو، یہ حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا: میں ایک سزاوار چہرہ دیکھتا ہوں جس کے لئے خیر کی امدی ہے کہو کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کی: کسی؟ فرمایا: پیام بھیجنے والے نے جو پیام ہمارے حضور بھیجا ہے وہ امانت ادا کرو، سنتے ہو اولاد حمیر خواص مومنین سے ہیں۔ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی مسلمان ہوئے، پھر وہ اشعار حضور میں عرض کئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لِيَنِي مَجْهُورٌ بِعِضِ إِيمَانٍ لَا نَلِدُ وَلَدَ (ایسے ہیں)

ربِ موسَمِنِ بَيْ وَلَمْ يَرْنِي وَمَصْدِقَ

جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں اور بعض لوگ میری تصدیق کرنے والے (ایسے ہیں) جن کو میرے پاس حضوری حاصل نہ ہو سکی، یہ لوگ میرے بھائی ہیں۔ (کلمہ اخوت کو ان کے اعزاز کے لئے تو اضافاً فرمایا)

بی و مَا شَهَدْنَیْ اولِئَكُ اخْوَانِیْ<sup>۱</sup>۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَآلُهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ! أَمِين!

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی

كتبہ

عفی عنہ بی حمد المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

رسالہ

الامن والعلیٰ لنا عتی المصطفیٰ بداع البلاع

ختم ہوا

<sup>۱</sup> کنز العمال بحوالہ کرد حدیث ۳۶۹۰ مؤسسة الرسالة بیروت ۲۲۷/۱۳



## رسالہ

### منبه المنبیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیۃ ۱۴۳۲ھ

(محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش تک رسائی اور دیدار الہی کے بارے میں مطلوب سے خبردار کرنیوالا)

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

مسئلہ ۳۶: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ شب معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ بینوا توجروا (بیان فرمائے اور اجردیے جاؤ گے۔ ت)

الجواب:

الاحدیث المرفوعہ (مرفوع حد شیش)

امام احمد اپنی منند میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے	یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت
اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔	ربی عز و جل <sup>1</sup> ۔

<sup>1</sup> مستند احمد بن حنبل عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما المكتب الاسلامی بیروت ۲۸۵/۱

امام جلال الدین سیوطی خصائص کبیری اور علامہ عبد الرؤماوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں: یہ حدیث بسنده صحیح ہے۔<sup>۱</sup>  
ابن عساکر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المارسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بیشک اللہ تعالیٰ نے موٹی کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنادیار عطافر مایا مجھ کو شفاعت کبیری و حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔	لان اللہ اعطی موسیٰ الكلام واعطاًنی الرؤية لوجهه و فضلني بالمقام المحمود والحضور المورود <sup>۲</sup>
---	--

وہی محدث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب عزوجل نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موٹی سے کلام فرمایا اور تمہیں اے محمد! مواجه بخشاکہ بے پردا و حباب تم نے میرا جمال پاک دیکھا۔ مجموع البحار میں ہے کہ کفاح کا معنی بالمشافہ دیدار ہے جبکہ درمیان میں کوئی پردا و قاصد نہ ہو۔ (ت)	قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لى ربى نخلت ابراهيم خلقى وكلمت موسى تكليباً واعطيتك يا محمد كفاحاً۔ في مجمع البحار كفاحاً اي مواجهةً ليس بينهما حجاب ولا رسول <sup>۴</sup>
---	--

ابن مردویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

یعنی میں نے سن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدر المنشی کا وصف بیان فرماتے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ! حضور نے اس کے	سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و هو يصف سدرة المنشي (و ذكر الحديث الى ان قال) قلت يارسول الله
--	---

<sup>۱</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث رأیت ربی مکتبۃ الامام الشافعی ریاض ۲۵/۲، الخصائص الکبیڑی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما مقررہ بہارت رضا گجرات ۱۹۱/۱

<sup>۲</sup> کنز العمال بحوالہ ابن عساکر عن جابر حدیث ۳۹۲۰۶ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۹۷۸/۱۳

<sup>۳</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ذکر عروجه الی السماء واجتماعه بجماعۃ من الانبیاء دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۹۶۳/۳

<sup>۴</sup> مجمع بحار الانوار باب کفع تحت اللفظ کفع مکتبہ دارالایمان مدینہ منورہ ۱۹۷۳/۳

پاس کیا دیکھا؟ فرمایا: مجھے اس کے پاس دیدار ہوا یعنی رب کا۔

ما رأيت عندها؟ قال رأيته عندها يعني ربها<sup>۱</sup>

### آثار الصحابة

ترمذی شریف میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی:

هم بنی هاشم الہبیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ پیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبار دیکھا۔	اما نحن بنوہا شامر فنقول ان محمدا رای ربہ مرتین <sup>۲</sup> ۔
--	--

ابن اسحاق عبد اللہ بن ابی سلمہ سے راوی:

یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کرائیجواہ: کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔	ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس يسأله هل رأى محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربہ، فقال نعم <sup>۳</sup> ۔
---	---

جامع ترمذی و مجمع طبرانی میں عکرمه سے مروی:

یعنی طبرانی کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ عکرمه ان کے شاگرد کہتے ہیں: میں نے عرض کی: کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لئے	واللطف للطبراني عن ابن عباس قال نظر محمد الى ربه قال عكرمة فقلت لا ابن عباس نظر محمد الى ربه قال نعم جعل الكلام لموسى والخلة لابراهيم والنظر ليحيد صلی اللہ
---	---

<sup>۱</sup> الدر المنشور في التفسير بالما ثور بحواله ابن مردویہ تحت آیة ۷/۱ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۹۷۵/۵

<sup>۲</sup> جامع الترمذی ابو باب التفسیر سورۃ نجم این کپنی اردو بازار دہلی ۲۱/۲ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل و امام رؤیۃ ربہ المطبعة

الشركة الصحافية في البلاد العثمانية ۱۵۹/۱

<sup>۳</sup> الدر المنشور بحواله ابن اسحق تحت آیة ۱۸/۵۳ دار احیاء التراث العربي بیروت ۷/۴۰۵

<p>کلام رکھا اور براہیم کے لئے دوستی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے دیدار۔ (اور امام ترمذی نے یہ زیادہ کیا کہ) بیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دوبار دیکھا۔</p>	<p>تعالیٰ علیہ وسلم<sup>۱</sup> (زاد الترمذی) فقد رای رب مرتین<sup>۲</sup> -</p>
--	--

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ امام نسائی اور امام خزینہ و حاکم و بنیہقی کی روایت میں ہے:

<p>کیا براہیم کے لئے دوستی اور مولیٰ کے لئے کلام اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ اچنا ہے۔ یہ الفاظ بنیہقی کے ہیں۔</p>	<p>واللّفظ للبّيْهْقِي أَتَعْجَبُونَ إِنْ تَكُونُ الْخَلَةُ لِابْرَاهِيمَ وَالْكَلَامُ لِيُوسُفِي وَالرَّوْءِيَّةِ لِيَحْمِدَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -</p>
--	--

حاکم<sup>۳</sup> نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے۔ امام قسطلانی و زرقانی نے فرمایا: اس کی سند جید ہے<sup>۴</sup>۔ طبرانی مجمع اوسط میں راوی:

<p>یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے بیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبار اپنے رب کو دیکھا ایک بار اس آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔</p>	<p>عن عبد الله بن عباس انه كان يقول ان محمدا صلي الله تعالى عليه وسلم رأى ربہ مرتین مرّة ببصرة و مرّة بفواحة<sup>۵</sup> -</p>
---	--

<sup>۱</sup> المعجم الاوسط حدیث ۹۳۹۲ مکتبۃ المعارف ریاض ۱۸/۱۰

<sup>۲</sup> جامع الترمذی ابوبالتفسیر سورۃ نجمہ امین کینی اردو بازار دہلی ۱۲۰/۲

<sup>۳</sup> الموهاب اللدنیہ بحوالہ النسائی والحاکم المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۱۰۲/۳، الدر المنشور بحوالہ النسائی والحاکم تحت الایہ ۱۸/۵۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۷/۵۶۹، المستدرک علی الصحیحین کتاب الایمان رأی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریہ دار الفکر بیروت ۱/۲۵، السنن الکبری للنسائی حدیث ۱۱/۵۳۹، ادارۃ کتب العلمیۃ بیروت ۲/۲۷

<sup>۴</sup> شرح الزرقانی علی الموهاب اللدنیہ المقصد الخامس دار المعرفۃ بیروت ۲/۷

<sup>۵</sup> الموهاب اللدنیہ بحوالہ الطبرانی فی الاوسط المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۳/۱۰۵، المعجم الاوسط حدیث ۷/۵۷ مکتبۃ المعارف ریاض ۳۵۶/۶

امام سیوطی و امام قسطلانی و علامہ شامی علامہ زرقانی فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے<sup>۱</sup>۔

امام الائمه ابن خزیمہ و امام بزار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی:

بیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔	ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأى ربہ عزوجل <sup>۲</sup> ۔
--	--

امام احمد قسطلانی و عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں: اس کی سند قوی ہے<sup>۳</sup>۔ محمد بن اسحاق کی حدیث میں ہے:

یعنی مروان نے حضرت ابو میریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا:	ان مروان سئال ابا هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل رأى
کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا: ہاں	محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربہ فقال نعم <sup>۴</sup> ۔

### اخبار التابعین

مصنف عبد الرزاق میں ہے:

یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے	عن معبر عن الحسن البصري انه كان يحلف بالله
بیشک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔	لقد رأى محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم <sup>۵</sup> ۔

اسی طرح امام ابن خزیمہ حضرت عروہ بن زیبر سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد

<sup>۱</sup> المواهب اللدنیۃ المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۳/۵، شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیۃ المقصد الخامس دار المعرفة بیروت ۲/۷

<sup>۲</sup> المواهب اللدنیۃ بحوالہ ابن خزیمہ المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۳/۵، شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیۃ المقصد

<sup>۳</sup> المواهب اللدنیۃ بحوالہ ابن خزیمہ المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۳/۵، شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیۃ المقصد الخامس دار المعرفہ بیروت ۲/۱۸

<sup>۴</sup> شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیۃ بحوالہ ابن اسحاق دار المعرفہ بیروت ۲/۶، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بحوالہ ابن اسحاق فصل و مارؤیۃ لربہ المطبعة الشرکة الصحافیۃ فی البلاد العثمانیۃ ۱/۱۵۹

<sup>۵</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بحوالہ عبد الرزاق عن معبر عن الحسن البصري فصل و مارؤیۃ لربہ المطبعة الشرکة الصحافیۃ فی البلاد العثمانیۃ ۱/۱۵۹

بھائی کے بیٹے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں راوی کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شبِ معراج دیدارِ الہی ہونا مانتے: وانہ یشتبہ علیہ انکارہا<sup>۱</sup> اہم لفظ تھا۔ اور ان پر اس کا انکار سخت گراں گزرتا۔

یوں ہی کعب احبار عالم کتب سابقہ و امام ابن شہاب زہری قرشی و امام مجاهد مخزومی مکی و امام علمرمہ بن عبد اللہ مدنه ہاشمی و امام عطاء بن رباح قرشی مکی۔ استاد امام ابو حنیفہ و امام مسلم بن صحیح ابو الحسنی کوفی وغیرہم جمیع تلامذہ عالم قرآن حجر الاممہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام قسطلانی موابہبِ لدنیہ میں فرماتے ہیں:

<p>ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اثبات روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شاگردوں کا یہی قول ہے۔ کعب احبار اور زہری نے اس پر جزم فرمایا ہے۔ اخـ۔ (ت)</p>	<p>آخر ابن خزیمہ عن عروہ بن الزبیر اثباتها وبه قال سائر اصحاب ابن عباس و جزم به کعب الاحمار والزهری<sup>۲</sup> الخ۔</p>
---	--

### اقوال من بعدهم من ائمۃ الدین

امام خالل کتاب السن میں اسحق بن مرزوqi سے راوی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ روئیت کو ثابت مانتے اور اس کی دلیل فرماتے:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی<sup>۳</sup> اہم مختصراً۔</p>	<p>قول النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی<sup>۳</sup> اہم مختصراً۔</p>
<p>نقاش اپنی تفسیر میں اس امام سند الانعام رحمہ اللہ تعالیٰ سے راوی:</p> <p>یعنی انہوں نے فرمایا میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معتقد ہوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اسی آنکھ سے دیکھا دیکھا دکھا، یہاں تک فرماتے رہے کہ سانس ٹوٹ گئی۔</p>	<p>انہ قال اقول بحدیث ابن عباس بعینہ رأی ربه رأة رأه رأه حتى انقطع نفسه<sup>۴</sup>۔</p>

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی علی المواهب الالهی بحوالہ ابن خزیمہ المقصد الخامس دار المعرفۃ بیروت ۱۹۶۰

<sup>۲</sup> المواهب الالهی المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۱۹۷۳/۱۰۳

<sup>۳</sup> المواهب الالهی بحوالہ الخالل فی کتاب السن المقصد الخامس المکتب الاسلامی بیروت ۱۹۷۳/۱۰۷

<sup>۴</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بحوالہ النقاش عن احمد و امام رؤیۃ لربہ المکتبۃ الشرکۃ الصحافیۃ ۱۵۹/۱

امام ابن الخطیب مصری موہب شریف میں فرماتے ہیں:

یعنی امام معمر بن راشد بصری اور ان کے سوا اور علماء نے اس پر جزم کیا، اور یہی مذہب ہے امام اہلسنت امام ابوالحسن اشعری اور ان کے غالب پیر و ول کا۔	<b>جزم بہ معمر و اخرون و هو قول الاشعری و غالب اتباعہ<sup>۱</sup></b>
---	---

علامہ شہاب خنجری نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں:

مذہب اصح و راجح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب اسرائیل پر رب کو بچشم سردیکھا جیسا کہ جمہور صحابیٰ کرام کا یہی مذہب ہے۔	<b>الاصح الراجح انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رای ربہ بعض راسہ حين اسری به كما ذهب اليه اکثر الصحابة<sup>۲</sup></b>
---	--

امام نووی شرح صحیح مسلم میں پھر علامہ محمد بن عبد الباقی شرح موہب میں فرماتے ہیں:

جمہور علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔	<b>الراجح عند اکثر العلماء انه طرای ربہ بعض راسہ لیلة المراج<sup>۳</sup></b>
--	--

انہم متأخرین کے جدا جدا اقوال کی حاجت نہیں کہ وہ حد شمار سے خارج ہیں اور لفظ اکثر العلماء کہ منہاج میں فرمایا کافی و معنی۔  
والله تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۳: از کانپور محلہ بنگالی محل مرسلہ حدم علی خال و کاظم حسین ۱۱ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ  
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب معراج مبارک عرش عظیم تک تشریف  
لے جانا علمائے کرام و انہم اعلام نے تحریر فرمایا ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے یہ مخفی جھوٹ ہے، اس کا یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ نہ انوجروا  
(بیان فرماؤ اجردے جاؤ گے۔ ت)

**اجواب:**  
بیشک علمائے کرام انہم دین عدول ثقافت معمتمدین نے اپنی تصنیف جلیلہ میں اس کی اور اس سے

<sup>۱</sup> الموهاب اللدنیہ المقصود الخاًمس المکتب الاسلامی بیروت ۱۰۳/۳

<sup>۲</sup> نسیم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض فصل و امارة لربہ مرکز اہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۳۰۳/۲

<sup>۳</sup> شرح الزرقانی علی الموهاب اللدنیہ المقصود الخاًمس دار المعرفۃ بیروت ۱۶/۲

زاند کی تصریحات جلیلہ فرمائی ہیں، اور یہ سب احادیث ہیں، اگرچہ احادیث مرسل یا ایک اصطلاح پر م Haskell ہیں، اور حدیث مرسل و م Haskell باب فضائل میں بالاجماع مقبول ہے خصوصاً جبکہ ناقلین ثقات عدول ہیں اور یہ امر ایسا نہیں جس میں رائے کو دخل ہو تو ضرور ثبوت سندر پر محمول، اور ثبت نافی پر مقدم، اور عدم اطلاع عدم نہیں تو جھوٹ کہنے والا م Haskell جھوٹا مجاز فی الدین ہے۔

امام اجل سیدی محمد بوصیری قدس سرہ، قصیدہ برودہ شریف میں فرماتے ہیں: <sup>ع</sup>

سریت من حرم لیلا الی حرم	کیاسری البدر فی داج من الظلم
وبت ترقی الی ان نلت منزلة	من قاب قوسین لم تدرك ولم تر مر
خفضت کل مقام بالاضافة اذ	نودیت بالرفع مثل المفرد العلم
فخرت کل فخار غير مشترک	وجزت کل مقام غیر مزدحم <sup>۱</sup>

یعنی یار رسول اللہ ! حضور رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں حرم کہ معظمہ سے بیت الاظٹی کی طرف تشریف فرماء ہوئے جیسے انڈھیری رات میں چودھویں کا چاند چلے، اور حضور اس شب میں ترقی فرماتے رہے یہاں تک کہ قاب قوسین کی منزل پہنچ جو نہ کسی نے پائی نہ کسی کو اس کی ہمت ہوئی۔ حضور نے اپنی نسبت سے تمام مقامات کو پست فرمادیا، جب حضور رفع کے لئے مفرد علم کی طرح ندا فرمائے گئے حضور نے ہر ایسا فخر جمع فرمایا جو قابل شرکت نہ تھا اور حضور ہر اس مقام سے گزر گئے جس میں اور وہ کا ہجوم نہ تھا یا یہ کہ حضور نے سب فخر بلا شرکت جمع فرمائے اور حضور تمام مقامات سے بے مراحم گزر گئے۔ یعنی عالم امکان میں جتنے مقام ہیں حضور سب سے تھا گزر گئے کہ دوسرے کو یہ امر نصیب نہ ہو۔

علامہ علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

یعنی حجور دروازہ میں داخل ہوئے اور آپنے یہاں تک حجاب طے فرمائے کہ حضرت عزت کی جانب میں قرب مطلق کامل کے سبب کسی ایسے کے لئے جو سبقت کی طرف دوڑے کوئی نہیات نہ چھوڑی اور تمام عالم وجود میں کسی طالب بندی کے لئے کوئی جگہ عروج و ترقی یا اٹھنے بیٹھنے

ای انت دخلت الباب وقطعت الحجاب الی ان لم تترك غایية للساع الى السبق من کمال القرب المطلق الی جانب الحق ولا تركت موضع رقی وصعود وقیام وقعد لطالب رفعۃ في عالم الوجود

<sup>۱</sup> الكواكب الدرية في مدح خير البرية (قصيدة بردہ) الفصل السادس مزہلہ نسخہ ۳۲۶۳۲

<p>کی باقی نہ رکھی بلکہ حضور عالم مکان سے تجاوز فرما کر مقام قاب و قوسین اودنی تک پہنچ تو حضور کے رب نے حضور کو کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔</p>	<p>بل تجاوزت ذلك الى مقام قاب قوسين اوادنی فاوحی اليلك ربك ما وحی<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

نیز امام ہمام ابو عبد اللہ شرف الدین محمد قدس سرہ، ام القری میں فرماتے ہیں:

وترقی به الی قاب قوسین  
و تلك السیادۃ القعسا

رتب تسقط الاماۃ في حسری  
دونها ماؤرا هن و راء<sup>۲</sup>

حضور کو قاب قوسین تک ترقی ہوئی اور یہ سرداری لازوال ہے یہ وہ مقامات ہیں کہ آرزوئیں ان سے تحک کر گرجاتی ہیں ان کے اس طرف کوئی مقام ہی نہیں۔

امام ابن حجر مکی قدس سرہ المکنی اس کی شرح افضل القری میں فرماتے ہیں:

<p>بعض آئمہ نے فرمایا شب اسراء دس معراجین تھیں، سات سالتوں آسمانوں میں، اور آٹھویں سدرۃ المنشی، نویں مستوی، دسویں عرش تک۔</p>	<p>قال بعض الائمه والماریج لیلۃ الاسراء عشرۃ بسبعة فی السیویت والثامن الی سدرۃ المنتھی والتاسع الی المستوی والعشر الی العرش<sup>۳</sup> الخ۔</p>
---	--

سید علامہ عارف باللہ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ القدسی نے حدیقة ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں اسے نقل فرما کر مقرر رکھا:

<p>فرمایا، امام شہاب مکی نے شرح ہمزیہ امام بو صیرہ میں کہا بعض آئمہ سے منقول ہے کہ معراجین دس ہیں، دسویں عرش دیدار تک۔</p>	<p>قال الشهاب المکی فی شرح ہمزیہ لامام بو صیری عن بعض الائمه ان المغاریج عشرۃ الی قوله والعشر الی العرش والرؤیة<sup>۴</sup>۔</p>
--	--

نیز شرح ہمزیہ امام مکی میں ہے:

<p>جب سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوادی گئی</p>	<p>لیا اعطی سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام</p>
--	---

<sup>۱</sup> الوبدة العيدة في شرح القصيدة البردة الفصل السابع جمعیت علماء سکندریہ خیر پور سندھ ص ۹۶

<sup>۲</sup> ام القری فی مدح خیر الولی الفصل الرابع حزب القادریہ لاہور ص ۱۳

<sup>۳</sup> افضل القری لقراء ام القری تحت شعر ۷۳ المجمع الشقافی ابو ظبی /۱۴۰۳

<sup>۴</sup> الحديقة الندية شرح الطريقة المحبدیہ بحوالہ شرح قصیدہ ہمزیہ المکتبۃ扭وریۃ الرضویہ لائلپور ۲۷۲ /۱

<p>کہ صح شام ایک ایک مینے کی راہ پر لے جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق عطا ہوا کہ حضور کو فرش سے عرش تک ایک لمحہ میں لے گیا اور اس میں ادنیٰ مسافت (یعنی آسمان ہفتھم سے زمین تک) سات ہزار برس کی راہ ہے۔ اور وہ جو فوق العرش سے مستوی اور فرف تک رہی اسے تو خدا ہی جانے۔</p>	<p>الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر اعطى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم البراق فحمله من الفرش الى العرش في لحظة واحدة واقل مسافة في ذلك سبعة آلاف سنة۔ وما فوق العرش الى المستوى والرفوف لا يعلمه الا الله تعالى <sup>۱</sup>۔</p>
--	--

اسی میں ہے:

<p>جب مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دولت کلام عطا ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسی ہی شب اسرائیلی اور زیادت قرب اور چشم سر سے دیدار الہی اس کے علاوہ۔ اور بھلا کہاں کوہ طور جس پر مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناجات ہوئی اور کہاں مافوق العرش جہاں ممارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام ہوا۔</p>	<p>لماً أطعى موسى عليه الصلوة والسلام الكلام عطا ہوئي ہمارے نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم مثله ليلة الاسراء وزيادة الدنو والروية بعين البصر وشتان مابين جبل الطور الذي نوجى به موسى عليه الصلوة والسلام موما فوق العرش الذي نوجى به نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم <sup>۲</sup>۔</p>
--	---

اسی میں ہے:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم پاک کے ساتھ بیداری میں شب اسرائیل میں ترقی فرمائی، پھر سدرۃ المنتھی، پھر مقام مستوی، پھر عرش و رفرف و دیدار تک۔</p>	<p>رقیه صلی الله تعالى علیہ وسلم ببدنه یقظة بمكة ليلة ولاسراء الى السماء ثم الى سدرۃ المنتھی ثم الى المستوى الى العرش والرفوف والروية <sup>۳</sup>۔</p>
--	---

علامہ احمد بن محمد صادیق امکی خلویت رحمۃ اللہ تعالیٰ تعلیقات افضل القراء میں فرماتے ہیں:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج بیداری</p>	<p>الاسراء به صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم</p>
--	---

<sup>۱</sup> افضل القراء ام القراء

<sup>۲</sup> افضل القراء ام القراء

<sup>۳</sup> افضل القراء ام القراء تحت شعر المجمع الشقافي ابوظبي ۱۶/۱۷

میں بدن و روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوئی، پھر آسمانوں، پھر سدرہ، پھر مستوی، پھر عرش و رفرف تک۔	عَلَى يَقْظَةِ بِالْجَسَدِ وَالرُّوْحِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ الْعُلَى ثُمَّ إِلَى سَدْرَةِ الْمَنْتَهَى ثُمَّ إِلَى الْمَسْتَوَى ثُمَّ إِلَى الْعَرْشِ وَالرَّفَرَفِ <sup>۱</sup> ۔
---	--

فتوات احمد یہ شرح المہزیہ لشیخ سلیمان الجبل میں ہے:

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترقی شبِ اسراء بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور وہاں سے اس مقام تک ہے جہاں تک اللہ عن وجل نے چاہا مگر رانج یہ ہے کہ عرش سے آگے تجاوز نہ فرمایا۔	رَقِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلَةَ الْإِسْرَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ إِلَى حِيثِ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْهُ لَمْ يَجُازِ الْعَرْشَ عَلَى الرَّاجِحِ <sup>۲</sup> ۔
---	---

اسی میں ہے:

معراجیں شبِ اسراء دس ہوئیں، سات آسمانوں میں، اور آٹھویں سدرہ، نویں مستوی، دسویں عرش تک۔ مگر راویان معراج کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ عرش سے اوپر تجاوز نہ فرمایا۔	الْمَعَارِيْجُ لِيَلَةِ الْإِسْرَاءِ عَشْرَةُ سَبْعَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الثَّامِنُ إِلَى سَدْرَةِ الْمَنْتَهَى وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمَسْتَوَى وَ الْعَاشرُ إِلَى الْعَرْشِ لَكِنْ لَمْ يَجُازِ الْعَرْشَ كَمَا هُوَ الْتَّحْقِيقُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعَارِيْجِ <sup>۳</sup> ۔
---	---

اسی میں ہے:

جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان ہفتہ سے گزرے سدرہ حضور کے سامنے بُلند کی گئی اس سے گزر کر مقام مستوی پر پہنچے، پھر حضور عالم نور میں ڈالے گئے وہاں ستر ہزار پر دے نور کے	بعد ان جاؤز السمااء السابعة رفعت له سدرة المنتهى ثم جاؤ زها إلى مستوى ثم زج به في النور فخرق سبعين الف حجاب من نور مسيرة
--	--

<sup>۱</sup> تعلیقات علی امر القریٰ للعلامة احمد بن محمد الصاوی علی هامش الفتوحات الاحمدیۃ المکتبۃ التجاریۃ الکبیری مصروف ۳

<sup>۲</sup> الفتوحات الاحمدیۃ بالمنع المحمدیۃ شرح المہزیۃ المکتبۃ التجاریۃ الکبیری قاہرہ مصر ص ۳

<sup>۳</sup> الفتوحات الاحمدیۃ بالمنع المحمدیۃ شرح المہزیۃ المکتبۃ التجاریۃ الکبیری قاہرہ مصر ص ۳۰

<p>طے فرمائے، ہر پردے کی مسافت پانسوبرس کی راہ۔ پھر ایک سبز بچونا حضور کے لئے لٹکایا گیا، حضور اقدس اس پر ترقی فرماد کر عرش تک پہنچے، اور عرش سے ادھر گزرنہ فرمایا وہاں اپنے رب سے قاب قوسین ادا دلی پایا۔</p>	<p>کل حجاب خسائشہ عامہ ثم دلی له ررفہ اخضر فارتقی به حقی وصل الی العرش ولم یجاوزہ فکان من ربه قاب قوسین اوادنی<sup>۱</sup>۔</p>
--	---

اقول: (میں کہتا ہوں۔ت) شیخ سلیمان نے عرش سے اپر تجاوزنہ فرمانے کو ترجیح دی، اور امام ابن حجر مکی وغیرہ کی عبارت ماضیہ و آتیہ وغیرہ میں فوق العرش ولا مکان کی تصریح ہے، لا مکان یقیناً فوق العرش ہے اور حقیقتہ دونوں قولوں میں کچھ اختلاف نہیں، عرش تک منتباً مکان ہے، اس سے آگے لا مکان ہے، اور جسم نہ ہو گا مگر مکان میں، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم مبارک سے منتباً عرش تک تشریف لے گئے اور روح اقدس نے وراء الوراء تک ترقی فرمائی جسے ان کا رب جانے جو لے گیا، پھر وہ جانیں جو تشریف لے گئے، اسی طرف کلام امام شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اشارہ عنقریب آتا ہے کہ ان پاؤں سے سیر کا منتباً عرش ہے، تو سیر قدم عرش پر ختم ہوئی، نہ اس لئے کہ سیر اقدس میں معاذ اللہ کوئی کمی رہی، بلکہ اس لئے کہ تمام اماکن کا احاطہ فرمایا، اور کوئی مکان ہی نہیں جسے کہئے کہ قدم پاک وہاں نہ پہنچا اور سیر قلب انور کی انتہاء قاب قوسین، اگر وسوسہ گزرے کہ عرش سے وراء کیا ہو گا کہ حضور نے اس سے تجاوز فرمایا تو امام اجل سید علی وفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنئے جسے امام عبد الوہاب شعرانی نے کتاب الیوقیت والجواہر فی عقائد الاكابر میں نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں:

<p>مرد وہ نہیں ہے عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے افلک وجنت و نار یہی چیزیں محدود و مقید کر لیں، مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے وہاں اسے موجود عالم جل جلالہ کی عظمت کی قدر کھلے گی۔</p>	<p>لیس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الافلاك والجنة والنار وانما الرجل من نفذ بصره الى خارج هذا الوجود كله و هناك يعرف قدر عظمة موجده سبحانه و تعالى<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

امام علامہ احمد قسطلانی موہب لدنیہ و منح محمدیہ میں اور علامہ محمد زر قانی اس کی شرح میں

<sup>۱</sup> الفتوحات الاحمدية بالمنع المحدية شرح المہمیۃ المکتبۃ التجاریۃ الکبیریۃ قاہرہ مصر ص ۳۱

<sup>۲</sup> الیوقیت والجواہر البحث الرابع والثلاثون دار احياء التراث العربي بيروت ۲۰۰۳

فرماتے ہیں:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ حضور نے اللہ عزوجل کو اپنی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا، یہی منہبہ راجح ہے، اور اللہ عزوجل نے حضور سے اس گلند و بالاتر مقام میں کلام فرمایا جو تمام الکنہ سے اعلیٰ تھا اور پیشک ابن عساکر نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: شبِ اسراء مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں دو کانوں بلکہ اس سے کم کافاصلہ رہ گیا۔</p>	<p>(ومنها انه رأى الله تعالى بعينيه) يقظة على الراجح (وكلمة الله تعالى في الرفيع الاعلى) علىسائر الامكنة و قدروی ابن عساکر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً لیا اسری لی قربنی رب حق کان بینی و بینہ قاب قوسین اوادنی<sup>۱</sup>۔</p>
---	---

اسی میں ہے:

<p>علماء کو اختلاف ہوا کہ معراج ایک ہے یا دو، ایک بار روح و بدن اندس کے ساتھ بیداری میں اور ایک بار خواب میں یا بیداری میں روح و بدن مبارک کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد القصیٰ تک، پھر خواب میں وہاں سے عرش تک۔ اور حق یہ ہے کہ وہ ایک اسراء ہے اور سارے قصے میں یعنی مسجد الحرام سے عرش اعلیٰ تک بیداری میں روح و بدن اطہر ہی کے ساتھ ہے۔ جمیور علماء و محدثین و فتاویٰ و متنکریین سب کا یہی منہبہ ہے۔</p>	<p>قد اختلف العلماء في الأسراء هل هوا أسراء واحداً أو اثنين مرة بروحه وبدنه يقظة ومرة مناماً أو يقظة بروحه وجسده من المسجدالحرام الى المسجد القصى ثم مناماً من المسجدالقصى الى العرش<sup>۲</sup>۔ فالحق انه أسراء واحد بروحه وجسده يقظة في القصة كلهاً والي هذا ذهب الجمhour من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين<sup>۳</sup>۔</p>
--	---

<sup>1</sup> المواهب اللدنية المقصد الرابع الفصل الثاني المكتب الاسلامي بيروت ۲۳۲/۲، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية المقصد الرابع

الفصل الثاني دار المعرفة بيروت ۲۵۲ و ۲۵۱/۵

<sup>2</sup> المواهب اللدنية المقصد الخامس المكتب الاسلامي بيروت ۲/۳

<sup>3</sup> المواهب اللدنية المقصد الخامس المكتب الاسلامي بيروت ۳/۳، المواهب اللدنية المقصد الخامس المكتب الاسلامي بيروت ۳/۲

اسی میں ہے:

المعاریج عشرة (إلى قوله العاشر إلى العرش) <sup>۱</sup>	معراجین دس ہوئیں، دسویں عرش تک۔
--	---------------------------------

اسی میں ہے:

<p>صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے ساتھ جبریل نے سدرۃ المنتہی تک عروج کیا اور جبار رب العزة جل علائے دنو و تبدیلی فرمائی تو فاصلہ دو کمانوں بلکہ ان سے کم کارہا، یہ تدلی بالائے عرش تھی، جیسا کہ حدیث شریک ہے۔</p>	<p>قدر در دریف الصحیح عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما عرج بي جبريل الى سدرة المنتهي ودن الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى <sup>۲</sup> وتدليه على ما في حديث شرييك كان فوق العرش <sup>۳</sup>۔</p>
---	--

علامہ شہاب خواجی نسیم الریاض شرح شفافۃ قاضی عیاض میں فرماتے ہیں:

<p>حدیث معراج میں وارد ہوا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پہنچے جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام رفرف حاضر لائے وہ حضور کے کر عرش تک اڑ گیا۔</p>	<p>ورد في المعراج انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما بلغ سدرۃ المنتہی جاءه بالرفف جبريل عليه الصلوٰۃ والسلام فتناوله فطاربه الى العرش <sup>۴</sup>۔</p>
---	--

اسی میں ہے:

<p>صحیح احادیث شیش دلالت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبِ اسراء جنت میں تشریف لے گئے اور عرش تک پہنچ یا علم کے</p>	<p>عليه يدل صحيح الأحاديث اللاحاد الدالة على دخوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنة ووصوله الى العرش او طرف</p>
---	--

<sup>۱</sup> المواهب اللدنية المقصد الخامس مراحل المعراج المكتب الإسلامي بيروت ۱/۳<sup>۲</sup> المواهب اللدنية المقصد الخامس ثم دُنْيَة فتدلي المكتب الإسلامي بيروت ۸۸/۳<sup>۳</sup> المواهب اللدنية المقصد الخامس ثم دُنْيَة فتدلي المكتب الإسلامي بيروت ۹۰/۳<sup>۴</sup> نسیم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض فصل واماً ورد في حدیث الاسراء مركز إلہست گجرات ہند ۳۱۰/۲

اس کنارے تک کہ آگے لامکان ہے اور یہ سب بیداری میں  
مع جسم مبارک تھا۔

العالم کیا سیئتی کل ذلك بجسده يقطه<sup>۱</sup>

حضرت سید شیخ اکبر امام مجی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات میکہ شریف باب ۳۱۶ میں فرماتے ہیں:

تو جان لے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق  
عظمیم قرآن تھا اور حضور اماء الہیہ کی خود خصلت رکھتے تھے اور  
اللہ سبجنہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی صفات مدرج سے عرش  
پر استواء بیان فرمایا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
کو بھی اس سفت استوا علی العرش کے پر تو سے مدرج و  
منقبت بخشی کہ عرش وہ اعلیٰ مقام ہے جس تک رسولوں کا  
اسراء منتہی ہو، اور اس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم کا اسراء مع جسم مبارک تھا کہ اگر خواب ہوتا تو  
اسرا اور اس مقام استواء علی العرش تک پہنچنا مدرج نہ ہوتا نہ  
گنوار اس پر انکار کرتے۔

اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم اماکان خلقہ  
القرآن و تخلق بالاسماء و كان اللہ سبخته و تعالیٰ ذكر في  
كتاب العزيز انه تعالیٰ استوى على العرش على طريق  
التمدرج والثناء على نفسه اذ كان العرش اعظم الاجسام  
 يجعل لنبيه عليه الصلوة والسلام من هذا الاستواء  
نسبة على طريق التدرج والثناء عليه به حيث كان اعلى  
مقام ينتهي اليه من اسرى به من الرسل عليهم الصلوة و  
السلام و ذلك يدل على انه اسرى به صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
سلم بجسمه ولو كان الاسراء به رؤيا لاماکان الاسراء ولا  
الوصول الى هذا المقام تمدحاً ولا وقع من الاعراف حقه  
انكار على ذلك<sup>۲</sup>۔

امام علامہ عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب المیاقیت والجوہر میں حضرت موصوف سے ناقل:

<sup>۱</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل ثم اختلاف السلف والعلماء مرکزہلسنت گجرات ہند ۲۷۰/۲ ۲۶۹

<sup>۲</sup> الفتوحات المکیۃ الباب السادس دار احیاء التراث العربی بیروت ۳/۶۲

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بطور مدرج ارشاد فرماتا کہ یہاں تک کہ میں مستوی پر بلند ہوا اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ قدم جسم سے سیر کا منطقی عرش ہے۔	انہا قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی سبیل التمذیح حتیٰ ظہرت لمستوی اشارة لما قلنا من ان متهی السیر بالقدم المحسوس للعرش <sup>۱</sup> ۔
--	--

مدارج النبوة شریف میں ہے:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر میرے لئے سبز بچھو نا بچھایا گیا جس کا نور آنتاب کے نور پر غالب تھا نانچہ اس نور کے سبب میرے آنکھوں کا نور چمک اٹھا، پھر مجھے رفرف پر سوار کر کے بلندی کی طرف اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش پر پہنچا۔ (ت)	فرمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پس گستاخیہ شد برائے من رفرف سبز کہ غالب بود نور او پر نور آنتاب پس در خشید آن نور بصر من و نہادہ شدم من برآں رفرف و درداشتہ شدم تابر سید بعرش <sup>۲</sup> ۔
--	--

اسی میں ہے:

معتقد ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو عرش آپ کا دامن اجلال تھام لیا۔ (ت)	آورده اند کہ چوں رسید آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش دست زد بد امان اجلال وے <sup>۳</sup> ۔
--	--

اشعاعۃ اللمعات شرح مکملۃ شریف میں ہے:

ہمارے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ عرش سے اوپر کوئی نہیں گیا، آپ اس جگہ پہنچے جہاں جگہ نہیں۔ طبیعت امکان سے قدم مبارک اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے	جز حضرت پیغمبر ما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالاترازاں پیچ کس نہ رفتہ و آنحضرت بجائے رفت کہ آنجا جائیست برداشت از طبیعت امکاں قدم کرد آں اسری بعدہ است من المسجد الحرام
---	---

<sup>1</sup> الیاقیت والجواهر المبحث الرابع والثلاثون دار احیاء التراث العربي بیروت ۳۷۰/۲

<sup>2</sup> مدارج النبوة باب پنجم وصل درؤیت الہی مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۱۶۹

<sup>3</sup> مدارج النبوة باب پنجم وصل درؤیت الہی مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۱۷۰

<p>صحراۓ وجوب تک جو عالم کا آخری کنارہ ہے کہ وہاں نہ مکان ہے نہ جہت، نہ نشان اور نہ نام۔ (ت)</p> <p>نیز اسی کے باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ فصل سوم زیر حدیث قدر ای ربہ مرتین (تحقیق آپ نے اپنے رب کو دوبارہ یکھا۔ ت) ارشاد فرمایا:</p> <p>تحقیق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار جل و علا کو دوبارہ یکھا، ایک بار جب آپ سدرہ کے قریب تھے، اور دوسری بار جب آپ عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ (ت)</p>	<p>تاعرصہ وجوب کہ اقتضاۓ عالم مست کا بخانہ جاست و نے جہت و نے نشان نہ نام<sup>۱</sup></p> <p>تحقیق دیداً آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار خود را جل و علا دوبار، یکے چوں نزدیک سدرۃ المنشی بود، دوم چوں بالائے عرش برآمد<sup>۲</sup>۔</p> <p>مکتوبات حضرت شیخ مجدد الف ثانی جلد اول، مکتوب ۲۸۳ میں ہے:</p> <p>آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام دراں شب چوں از دائرہ مکان و زمان بریون جست واز تنگی امکان برآمد ازل وابد راں آں واحد یافت و بدایت و نہایت را اور یک نظر متحد دید<sup>۳</sup>۔</p>
<p>محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ رب العالمین کے محبوب ہیں اور تمام موجودات اولین و آخرین سے افضل ہیں، جسمانی معراج سے مشرف ہوئے اور عرش و کرسی سے آگے گزر گئے اور مکان و زمان سے اوپر چلے گئے۔ (ت)</p>	<p>محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ محبوب رب العالمین است و بہترین موجودات اولین و آخرین باوجود آنکہ بدولت معراج بدنی مشرف شد و از عرش و کرسی در گزشت و از امکان و زمان بالارفت<sup>۴</sup>۔</p>

<sup>۱</sup> اشعة اللمعات بباب المراجع مكتبة نوریہ رضویہ سکھر ۵۳۸/۳

<sup>۲</sup> اشعة اللمعات كتاب الفتنه بباب رؤية الله تعالى الفصل الثالث مكتبة نوریہ رضویہ سکھر ۳۲۹۶۳۲۳/۳

<sup>۳</sup> مکتوبات امام ربانی مکتب ۲۸۳ نوکشور لکھنؤ ۳۲۲/۱

<sup>۴</sup> مکتوبات امام ربانی مکتب ۲۷۲ نوکشور لکھنؤ ۳۲۸/۱

امام ابن الصلاح کتاب معرفۃ انواع علم الحدیث میں فرماتے ہیں:

<p>فقہاء وغیرہ و مصنفین کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے یا اس کی مثل کوئی کلمہ یہ سب محض کے قبیل سے ہے۔ خطیب ابو بکر حافظ نے اس کا نام مرسل رکھا ہے اور یہ اس کے مذہب کے مطابق ہے جو ہر غیر متصل کا نام مرسل رکھتا ہے۔ (ت)</p>	<p>قول المصنفین من الفقهاء وغيرهم "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا" ونحو ذلك كله من قبيل البعض وسيارة الخطيب ابو بكر الحافظ في بعض وكلامه مرسلاً وذلك على مذهب من يسمى كل ملاييتصنل مرسلاً<sup>۱</sup>۔</p>
---	---

تلویح وغیرہ میں ہے:

<p>اگر واسطہ بالکل مذکور نہ ہو تو وہ مرسل ہے۔ (ت)</p>	<p>ان لم يذكر الواسطة اصلاً فمرسل<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

مسلم الشیوت میں ہے:

<p>مرسل یہ ہے عادل کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ (ت)</p>	<p>المرسل قول العدل قال عليه الصلوة والسلام كذا<sup>۳</sup>۔</p>
--	--

فواتح الرحومت میں ہے:

<p>اصولیوں کے نزدیک سب مرسل میں داخل ہیں۔ (ت)</p>	<p>الكل داخل في المرسل عند أهل الأصول<sup>۴</sup>۔</p>
---	--

انہیں میں ہے:

<p>مرسل اگر صحابی سے ہو مطلقاً مقبول ہے اور اگر غیر صحابی سے ہو تو اکثر نہ سب شمول امام اعظم، امام مالک اور امام احمد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ مطلقاً مقبول ہے بشرطیکہ راوی ثقہ ہو اخ۔ (ت)</p>	<p>المرسل ان كان من صحابي يقبل مطلقاً اتفاقاً وان كان من غيره فالاكثر و منهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام احمد رضي الله تعالى عنهم قالوا يقبل مطلقاً اذا كان الرواى ثقة<sup>۵</sup> الخ۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> معرفۃ انواع علم الحدیث النوع الحادی عشر دار الكتب العلمیة بیروت ص ۱۳۸

<sup>۲</sup> التوضیح والتلویح الرکن الثانی فی السنۃ فصل فی الانقطاع نورانی کتب خانہ پشاور ص ۲۷۲

<sup>۳</sup> مسلم الشیوت مسئلہ تعریف المرسل مطبع انصاری دہلی ص ۲۰۱

<sup>۴</sup> فواتح الرحومت شرح مسلم الشیوت بذیل المستصحی مسئلہ فی الكلام علی المرسل منشورات الشریف الرضی قم ۱۷۲/۲

<sup>۵</sup> فواتح الرحومت شرح مسلم الشیوت بذیل المستصحی مسئلہ فی الكلام علی المرسل منشورات الشریف الرضی قم ۱۷۲/۲

مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے:

اس سے استدلال کرنا یہاں مضر نہیں کیونکہ فضائل میں منقطع بالاجماع قابل عمل ہے۔ (ت)	لایسپر ذلک فی الاستدلال بہ هہنالان المقطع یعمل بہ فی الفضائل اجماعاً <sup>۱</sup> ۔
---	--

شفاءؑ امام قاضی عیاض میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ بیشک وہ قسم النار ہیں۔ (ت)	اخبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقتل علی وانه قسيم النار <sup>۲</sup> ۔
---	---

نسیم الریاض میں فرمایا:

ظاہر ہذان ہذا میما اخبر به النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا انہم قالوا میرودا احمد من البحدشین الا ان ابن الاشیر قال فی النهاية الا ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا قسيم النار قلت ابن الاشیر ثقة وما ذکرہ علی لایقال من قبل الرائی فهو فی حکم البرفع <sup>۳</sup> اهم ملخصاً۔	ظاہر ہذان کا یہ ہے کہ بیشک یہ ان امور میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی مگر انہوں نے کہا کہ اس کو محمد ثین میں سے کسی نے روایت نہیں کیا مگر ابن اشیر نے نہایہ میں کہا: بیشک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ قیاس سے نہیں کہا جا سکتا لہذا وہ مرفع کے حکم میں ہے اہ تلخیص (ت)
---	---

امام ابن المام فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

<sup>۱</sup> مرقاۃ المفاتیح باب الرکوع الفصل الثانی تحت الحديث ۸۸۰ المکتبۃ الحبیبیۃ کوئٹہ ۲۰۲/۲

<sup>۲</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل و من ذلك ما اطلع عليه من الغیوب المطبعة الشرکة الصحافیة ۲۸۳/۱

<sup>۳</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض و من ذلك ما اطلع عليه من الغیوب مرکزہلسنت گجرات الہند ۱۶۳/۳

عدم نقل وجود کی نفی نہیں کرتا۔ (ت)

عدم النقل لainfi الوجود<sup>۱</sup>۔

والله تعالى اعلم

رسالہ

منبه المبنیۃ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیۃ

ختم ہوا۔



<sup>۱</sup>فتح القدیر کتاب الطہارت مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۲۰۱۴

## رسالہ

### صلات الصفاء فی نور المصطفیٰ

(نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان میں صفائی باطن کے انعامات)

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

مسئلہ ۳۸: از شکر گوالیار حکمہ ڈاک دربار مرسلہ مولوی نور الدین احمد صاحب کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ یہ مضمون کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے اور ان کے نور سے باقی مخلوقات، کس حدیث سے ثابت ہے اور وہ حدیث کس قسم کی ہے؟ بینوا توجروا (بیان کرو اجر پاؤ گے۔ ت)

الجواب:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

<p>اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، اے نور کے نور، اے نور ہر نور سے پہلے اور، اے نور ہر نور کے بعد۔ اے وہ ذات جس کے لئے نور ہے، جس کے سبب سے نور ہے، جس سے نور،</p>	<p>اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نور اقبل كل نور و نور ابعد كل نور يا ممن له النور وبه النور ومنه النور</p>
--	---

<p>جس کی طرف نور ہے اور وہی نور ہے۔ درود وسلام اور برکت نازل فرمائے پئے نور پر بجور و شن کرنے والا ہے۔ جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور تمام مخلوق کو اس کے نور سے پیدا فرمایا۔ اور اس کے انور اکی شعاعوں پر اور اس کے آل واصحاب پر جو اس کے ستارے اور چاند ہیں۔ سب پر۔ اے اللہ! ہماری دعا کو قبول فرماء۔ (ت)</p>	<p>والیه النور وهو النورصل وسلم وبأرك عن نورك المنير الذى خلقته من نورك و خلقت من نورك الخلق جميعاً وعلى اشعة انواره وأله واصحابه نجومه واقماره اجمعين(امین)</p>
---	--

امام اجل سید نا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجل سید نا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث احمد الاعلام عبد الرزاق ابو بکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت سید نا وابن سید نا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی:

<p>یعنی وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عز وجل نے کیا چیز بنائی، فرمایا: اے جابر! پیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، وہ نور قدرت اللہ سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح، قلم، جنت، وزن، فرشتہ، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرا سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے چار حصے کئے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کری، تیسرا سے باقی ملائکہ پیدا کئے۔ پھر</p>	<p>قال قلت يا رسول الله بآبي انت وامي اخبرني عن اول شيئاً خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا شيء ولا رض ولا شمس ولا قبر ولا جنى ولا انسى فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم و من الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي</p>
--	--

<p>چوتھے کے چار حصے فرمائے، پہلے سے آسمان، دوسرا سے زمین، تیسرا سے بہشت وزخ بنائے، پھر چوتھے کے چار حصے کئے، ای آخر الحدیث۔</p>	<p>ومن الثالث باقی الملائکة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، فخلق من الاول السیوات، و من الثاني الارضین و من الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء الحديث<sup>۱</sup> بطوله۔</p>
---	--

یہ حدیث امام یہقی نے بھی دلائل النبوة میں بخوبہ روایت کی، اجلہ ائمہ دین مثل امام قسطلانی موہب لدنیہ اور امام ابن حجر عسکری اور علامہ فاسی مطالع المسرات اور علامہ زرقانی شرح موہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شیخ محقق دہلوی مدارج وغیرہ میں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعلیل و اعتماد فرماتے ہیں، بالجملہ وہ تلقی امت بالقول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی، کما بیناہ فی "منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین" (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ "منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین" میں اس کو بیان کیا ہے۔ ت)

لا جرم علامہ محقق عارف بالله سید عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدیسی حدیقه ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں:

<p>بے شک ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنی، جیسا کہ حدیث صحیح اس معنی میں وارد ہوئی۔</p>	<p>قد خلق کل شیئی من نورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وردہ الحديث الصحيح<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

<sup>۱</sup> الموهاب اللدنیۃ المقصد الاول المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۷ و ۲/۷، شرح الزرقانی علی الموهاب اللدنیۃ المقصد الاول دار المعرفۃ بیروت ۱/۲۰ و ۲/۷، تاریخ الخمیس مطلب اللوح والقلم مؤسسة شعبان ۱/۱۹ و ۲/۲۰، مطالع المسرات الحزب الثنائی مکتبۃ نوریہ رضویہ فیصل آباد

۲/۲۱، مدارج النبوة قسم دوم باب اول مکتبۃ نوریہ رضویہ فیصل آباد

<sup>۲</sup> الحدیقة التدیدیۃ البیحث الثنائی مکتبۃ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۳/۲۵۷

اس کو علامہ نابسی نے نوع نمبر ساٹھ جو کہ زبان کی آفتوں کے بیان میں ہے کہ بعد، کھانے کی برائی بیان کرنے کے مسئلہ کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے۔ (ت)	<b>ذکرہ فی المبحث الثانی بعد النوع المستین من آفات اللسان فی مسئلہ ذم الطعام۔</b>
---	---

مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں ہے:

<p>یعنی امام اجل امام اہلسنت سید نا ابو الحسن اشعری قدس سرہ (جن کی طرف نسبت کر کے اہل سنت کو اشاعرہ کہا جاتا ہے) ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نور ہے نہ اور نوروں کی مانند اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے اور ملائکہ ان نوروں کے ایک پھول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر انور بنیا اور میری ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں جو اسی مضمون میں وارد ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔</p>	<p>قد قال الشعري انه تعالى نور ليس كالأنوار والروح النبوية القدسية لمعة من نوره والملائكة شرر تلك الانوار وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شبيه وغيره مما في معناه <sup>1</sup> -</p>
---	---

مسئلہ ۳۹: ازنائندہ ضلع مراد آباد مرسلہ مولوی الطاف الرحمن صاحب پیپرانوی ایامِ شعبان ۱۴۳۱ھ  
 کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض مولود شریف میں جو نور محمدی کو نور خدا سے پیدا ہوا لکھا ہے اس میں زید کہتا ہے بشرط سخت یہ تباہ کے حکم میں ہے اور عمر و کہتا ہے یہ افکاک ذات سے ہوا ہے۔  
 بزر کہتا ہے کہ یہ مثل شمع سے شمع روشن کر لینے کے ہوا ہے۔  
 اور خالد کہتا ہے تباہات میں مندھب اسلام رکھتا ہوں اور سالم کو برا نہیں جانتا، اس میں چون وچرا بیجا ہے۔ بینوا تو جروا (بیان کرو اور اجر پاؤ گے۔ ت)

<sup>1</sup> مطالع المسرات الحزب الثانی مکتبہ نور یہ رضویہ فیصل آباد ص ۲۶۵

## الجواب:

عبدالرازق نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

اے جابر! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام عالم سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ (امام قسطلانی نے اس کو مواہب لدنیہ میں اور دیگر علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ ت)	یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ <b>ذکرة الامام القسطلانی في المواهب<sup>۱</sup> وغيرها من العلماء الكرام۔</b>
--	--

عمرو کا قول سخت باطل و شنیع و گمراہی قطیع بلکہ سخت ترا مرکی طرف منحصر ہے، اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، اور قول زید میں لفظ<sup>۱۱</sup> بشرط صحبت<sup>۱۱</sup> بوسے انکار دیتا ہے، یہ جہالت ہے، باجماع علماء دربارہ فھائل صحت مصطلحہ محمد شین کی حاجت نہیں، مع ہذا علامہ عارف بالله سید عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔ علاوه بریں یہ معنی قدیماً و حدیثاً تصانیف و کلمات ائمہ و علماء و اولیاء و عرفاء میں مذکور و مشہور و ملقبی بالقبول رہنے پر خود صحت حدیث کی دلیل کافی ہے،

اس لئے کہ حدیث علماء کی طرف سے تلقیٰ با القبول پا کر قوی ہو جاتی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمارے علماء نے اصول میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (ت)	فَإِنَّ الْحَدِيثَ يَتَقْوِيُ بِتَلْقِيِ الْإِلَيْمَةِ بِالْقَبُولِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ التَّرمذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَصَرَحَ بِهِ عَلِمَاءُنَا فِي الْأَصْوَلِ۔
--	--

ہاں اسے باعتبار کہنے کیفیت تثابہات سے کہنا وجہ صحت رکھتا ہے، واقعہ نہ رب العزت جل و علی نہ اسکے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور مطہر سید انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نکر بنایا، نہ بے بتائے اس کی پوری حقیقت ہمیں خود معلوم ہو سکتی ہے، اور یہی معنی تثابہات ہیں۔

بکرنے جو کہا وہ دفع خیال ضلال عمر و کے لئے کافی ہے، شمع سے شمع روشن ہو جاتی ہے بے اس کے کہ اس شمع سے کوئی حصہ جدا ہو کر یہ شمع بنے اس سے بہتر آفتاب اور دھوپ کی مثال ہے کہ نور شمس نے

<sup>۱</sup> المواهب الدینیۃ المقصد الاول المکتب الاسلامی بیروت ۱/۱۷

جس پر تخلی کر وہ روشن ہو گیا اور ذاتِ نعمت سے کچھ جدائہ ہوا مگر ٹھیک مثال کی وہاں مجال نہیں، جو کہا جائے گا ہزاراں ہزار وجہ پر ناقص و ناتمام ہو گا، بلاشبہ طریقِ اسلام قول خالد ہے اور وہی مذہبِ ائمہ سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مسئلہ ۳۰: پیش نظر ہے یہ بات کہ میں کوئی عالم و فاضل نہیں ہوں کہ بحث و مباحثہ کا خیال درمیان میں آئے، فقط دریافت کرنے کی غرض سے فدویانہ لکھتا ہوں تاکہ میری عقیدے میں جو کچھ غلطی ہو وہ صحیح ہو جائے، مجھ کو ایسا معلوم ہے کہ تمام مخلوقات انسان کا یہ حال ہے کہ غلطیت آلوہ پیدا ہوتے ہیں مگر خدا نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سب باتوں سے محفوظ رکھا اور تمام مخلوقات پر ان کو بزرگی عنایت فرمائی ہے۔ اگر یہ بات سمجھی ہے تو حدیث شریف کے معنی مجھ کو یوں معلوم ہیں، ملاحظہ فرمائے گا:

قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جابر! تحقیق فرمایا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے جابر! تحقیق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ذات نبی تیرے کو اپنے نور سے۔	اللہ خلق نور نبیک من نورہ <sup>۱</sup>
--	--

مثال چراغ کی جو جناب نے فرمائی ہے اس میں مجھ کو شک ہے، چاہتا ہوں کہ شک دور ہو جائے، مثلاً ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا اور دوسرے چراغ سے اور بہت سے چراغ روشن کئے گئے، پہلے اور دوسرے میں کچھ کمی نہیں آئی، یہ آپ کافرمانا صحیح اور بجا ہے لیکن یہ سب چراغ نام اور ذات اور روشنی میں ہم جنہیں میں یا نہیں اور یہ سب مرتبہ برابر ہونے کا رکھتے ہیں یا نہیں؟ بینوا توجروا (بیان کرو اجر پاؤ۔ت)

### الجواب:

نجاست سے آلوہ پیدا ہونے میں سب مخلوق شریک نہیں، تمام انبیاء علیہم السلام پاک و منزہ پیدا ہوئے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی صاف سترے پیدا ہوئے۔ نور کے معنی فضل کے مغل کے نہیں۔ مثال سمجھانے کو ہوتی ہے نہ کہ ہر طرح برابری بتانے کو۔ قرآن عظیم میں نور الٰہی کی مثال دی "كُوْشِكُوْةٌ فِيْهَا وَصَبَّأْخٌ"<sup>۲</sup> (جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ت) کہاں چراغ اور قدیل اور کہاں نور رب جلیل، یہ مثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کو تھی کہ نور الٰہی سے نور نبوی پیدا ہو تو نور الٰہی کا ٹکڑا جدا ہو نالازم آیا، اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے

<sup>۱</sup> المواهب اللدنية المقصد الاول اول المخلوقات المكتب الاسلامي بيروت ۱/۷۱ و ۷۲

<sup>۲</sup> القرآن الكريمه ۳۵/۲۲

میں اس کا مکمل اکٹ کر اس میں نہیں آ جاتا۔ جب یہ فانی مجازی نور اپنے نور سے دوسرا نور روشن کر دیتا ہے تو اس نور الہی کا کیا کہنا، نور سے نور پیدا ہونے کا نام و روشنی میں مساوات بھی ضرور نہیں، چنان کا نور آفتاب کی ضیاء سے ہے، پھر کہاں وہ اور کہاں یہ، علم بیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر چودھویں رات کے کامل چاند کے برابر نوے ہزار چاند ہوں تو روشنی آفتاب تک پہنچیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

**مسئلہ ۳۱:** از کلکتہ ۹ گوونڈ چند دھر سن لیں مرسلہ حکیم محمد ابراہیم صاحب بنارسی ۱۹۲۹ء  
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہیں یا نہیں؟ اگر اللہ کے نور سے پیدا ہوئے نور ذاتی سے یادوں سے یا درونوں سے؟ اور نور کیا چیز ہے؟ بیبینو اتو جروا (بیان کرو اجر پاؤ گے۔ ت)

**الجواب:**

جواب مسئلہ سے پہلے ایک اور مسئلہ گزارش کروں،

<p>نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق: تم میں سے کوئی آدمی برائی دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے بدل دے۔ الحدیث (ت)</p>	<p>لقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيرة بيده فأن لم يستطع فبلسانه<sup>۱</sup> - الحديث.</p>
---	--

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کریم کے ساتھ جس طرح زبان سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے اللهم صل وسلام وبارک علیہ وعلی الہ وصحابہ ابدا (اے اللہ! آپ پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر ہمیشہ درود وسلام اور برکت نازل فرمادت) درود شریف کی جگہ فقط صاد یا عتم یا صلح یا صللہم کہنا ہر گز کافی نہ بلکہ وہ الفاظ بے معنی ہیں اور "فَبَدَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تَوْلَاجَيْرَ الَّذِينَ قُتِلُوا هُنَّمُ" <sup>2</sup> میں داخل، کہ ظالموں نے وہ بات جس کا انہیں حکم تھا ایک اور لفظ سے بدل ڈالی "فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرْجُزًا إِنَّمَا كَلُّنَا يَعْلَمُ سُقُونَ" <sup>3</sup> تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتنا بدلہ ان کی بے حکم کا۔ یونہی تحریر میں القلم احمد اللسانین (قلم وزبانوں میں سے ایک ہے۔ ت)

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان الخ تدبی کتب خانہ کراچی ۱/۱۵

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۵۹/۲

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۵۹/۲

بلکہ فتاویٰ تاتار خانیہ سے منقول کہ اس میں اس پر نہایت سخت حکم فرمایا اور اسے معاذ اللہ تخفیف شان نبوت بتایا۔ طحطاوی علی الدر المختار میں ہے:

<p>حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود وسلام لکھنے کی محافظت کی جائے اور اس کی تکرار سے تنگ دل نہ ہو اگرچہ اصل میں نہ ہو اور اپنی زبان سے بھی درود پڑھے۔ درود یا رضی اللہ عنہ کی طرف لکھنے میں اشارہ کرنا مکروہ ہے بلکہ پورا لکھنا چاہیے۔ تاتار خانیہ کے بعض مقامات پر ہے کہ جس نے علیہ السلام ہمزہ اور میم سے لکھا، کافر ہو گیا کیونکہ یہ تخفیف ہے اور انہیاء کی تخفیف بغیر کسی شک کے کفر ہے، اور یہ نقل صحیح ہے تو اس میں قصد کی قید ضرور ہو گی ورنہ ظاہر یہ کفر نہیں ہے، ہاں احتیاط ایهام اور شبہ سے بچنے میں ہے۔ (ت)</p>	<p>یحافظ علی کتب الصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ ولا یسمأ مِنْ تَكْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ وَيُصْلَى بِالسَّانَهِ أَيْضًا. وَيَكْرَهُ الرِّمَزُ بِالصُّلُوٰۃِ وَالترْضِیِّ بِالْكِتَابَةِ بِلِیْکَتَبِ ذَلِكَ كَلِه بِکِیَالِهِ. وَفِی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنِ التَّتَارِخَانِیَّةِ مِنْ كَتَبِ عَلَیْهِ السَّلَامِ بِالْأَهْمِیَّةِ وَالْبَیِّمِ يَکْفُرُ لَانَه تَخْفِیفٌ وَ تَخْفِیفُ الْأَنْبِیَاءِ عَلِیْمِ الصُّلُوٰۃِ وَالسَّلَامِ كَفَرُ بِلَاشَکِ، وَ لَعْلَهُ أَنْ صَحُ النَّقْلُ فَهُوَ مَقْبِدٌ بِقَصْدَهِ وَالْفَالَّظَاهِرُ أَنَّهُ لَیْسَ بِكَفَرٍ. نَعَمْ الاحْتِیاطُ فِی الاحْتِرَازِ عَنِ الْاِیَهَامِ وَ الشَّبَهَةِ<sup>۱</sup> اَهْمَخْتَصِّرًا۔</p>
---	---

اس کے بعد اصل مسئلہ کا جواب بعون الملک الوھاب لجئے۔ نور عالمہ میں ایک کیفیت ہے ہے کہ نگاہ پہلے اسے اور اک کرتی ہے اور اس کے واسطے سے دوسرا اشیائے دیدی کو۔

<p>علامہ سید شریف جرجانی نے فرمایا: نور ایک ایسی کیفیت ہے جس کا ادراک قوت باصرہ پہلے کرتی ہے پھر اس کے واسطے سے تمام مبصرات کا ادراک کرتی ہے۔ (ت)</p>	<p>قالَ السَّيِّدُ فِي تَعْرِيفَاتِهِ النُّورُ كَيْفِيَّةً تَدْرِكُهَا الْبَاصِرَةُ اولاً وَبِوَاسْطَتِهَا سَائِرُ الْمُبَصِّرَاتِ<sup>۲</sup></p>
---	--

اور حق یہ کہ نور اس سے اجل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہ جو بیان ہو تعریف اجلی بالحقی ہے کیمانہ علیہ فی الیوقوف و شرحہا (جیسا کہ موافق اور

<sup>۱</sup> حاشیہ الطحطاوی علی الدر المختار خطبة المکتاب المکتبۃ العربیۃ کوئٹہ ۶/۱

<sup>۲</sup> التعريفات للجرجاني تحت النطق "النور" ۷/۱۵ دار المکتاب العربي بيروت ص ۱۹۵

اس کی شرح میں اس پر تبیہ کی گئی ہے۔ ت) نور بایں معنی ایک عرض و حادث ہے اور رب عزوجل اس سے منزہ۔ محققین کے نزدیک نور وہ کہ خود ظاہر ہو اور دوسروں کا مظہر، کما ذکرہ الامام حجة الاسلام الغزالی الى ثم العلامۃ الزرقانی فی شرح المواہب الشریفۃ (جیسا کہ جمیعۃ الاسلام امام غزالی نے پھر شرح مواہب شریف میں علامہ زرقانی نے ذکر فرمایا ہے۔ ت) بایں معنی اللہ عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقتہ وہی نور ہے اور آیہ کریمہ "أَللّٰهُ نُورٌ السَّمَاوٰتُ وَالْأَرْضُ۝"<sup>۱</sup> (اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ت) بلا تکلف و بلا دلیل اپنے معنی حقیقی پر ہے۔

کیونکہ اللہ عزوجل بلاشبہ خود ظاہر ہے اور اپنے غیر یعنی آسمانوں، زمینوں، ان کے اندر پائی جانے والی تمام اشیاء اور دیگر مخلوقات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ (ت)	فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ الظَّاهِرُ لِغَيْرِهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ فِيهِنَّ وَسَائِرِ الْبَحْلُوقَاتِ۔
---	---

حضر پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاشبہ خود عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے:

اے جابر! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ (اس کو عبد الرزاق نے روایت کیا اور یہیقی کے نزدیک اس کے ہم معنی ہے۔ ت)	انَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورًا نَبِيًّا مِّنْ نُورٍ۔ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقَ <sup>۲</sup> وَنَحوَهُ عَنْدَ الْبَيْهِقِيِّ۔
---	--

حدیث میں "نورہ" فرمایا جس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اسم ذات ہے من نور جمالہ یا نور علمہ یا نور رحمتہ (اپنے جمال کے نور سے یا اپنے علم کے نور سے یا اپنی رحمت کے نور سے۔ ت) وغیرہ نہ فرمایا کہ نور صفات سے تخلیق ہو۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں: (من نورہ) ای من نورہ وذاته<sup>۳</sup> یعنی اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے، یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا، کیا سیئاً تقریرہ (جیسا کہ اس کی

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۳۵/۲۳

<sup>۲</sup> المواہب اللدنیۃ بحوالہ عبد الرزاق المقصد الاول المکتب الاسلامی بیروت ۱/۷

<sup>۳</sup> شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ المقصد الاول دار المعرفہ بیروت ۱/۲۶

تقریر عنقریب آرہی ہے۔ ت) امام احمد قسطلانی مواہب شریف میں فرماتے ہیں:

یعنی جب اللہ عزوجل نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا صمدی نوروں سے مرتبہ ذات صرف میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا، پھر اس سے تمام علوی و سفلی نکالے۔	لما تعلقت ارادۃ الحق تعالیٰ بایجاد خلقه ابرز الحقيقة المحمدية من الانوار الصديقة في الحضرة الاحادية ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها <sup>۱</sup> ۔
--	--

شرح علامہ میں ہے:

یعنی مرتبہ احادیث ذات کا پہلا تعین اور پہلا مرتبہ ہے جس میں غیر ذات کا اصلًا لحاظ نہیں جس کی طرف بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، اسے سیدی کاشی قدس سرہ نے ذکر فرمایا۔	والحضرۃ الاح大切な ہی اول تعینات الذات و اول رتبہما الذی لا اعتبار فیہ لغير الذات کما هو المشار اليه بقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اللہ ولا شیئ معہ ذکرہ الکاشی <sup>۲</sup> ۔
--	---

شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی، مدارج النبوة میں فرماتے ہیں:

انبیاء اللہ کے اسماء ذاتیہ سے پیدا ہوائے اور اولیاء اسماء صفاتیہ سے، بقیہ کائنات صفات فعلیہ سے، اور سید رسول ذات حق سے، اور حق کا ظہور آپ میں بالذات ہے۔ (ت)	انبیاء مخلوق اندراز اسماء ذاتیہ حق واولیاء از اسماء صفاتیہ وبقیہ کائنات از صفات فعلیہ و سید رسول مخلوق است از ذات حق و ظہور حق دروے بالذات است <sup>۳</sup> ۔
--	---

ہاں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کیلئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو، یا عیاداً باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کل، ذات بنی ہو گیا۔ اللہ عزوجل حصے اور کلکڑے اور کسی کے ساتھ متعدد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرماتے سے پاک و منزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہ کسی شے جزء ذات الہی خواہ کسی مخلوق کو عین نفس ذات الہی مانا کفر ہے۔

<sup>۱</sup> المواہب اللدنیۃ المقصد الاول المکتب الاسلامی بیروت ۵۵/۱

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ المقصد الاول دار المعرفۃ بیروت ۲۷/۱

<sup>۳</sup> مدارج النبوة تکملہ در صفات کاملہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۲۰۹/۲

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں، جل علاوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پیچانتا نہیں۔

حدیث میں ہے:

اے ابو بکر! مجھ جیسا میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نہ جانا۔	یا ابا بکر لہم یعرفنی حقیقتہ غیربی <sup>۱</sup> ۔
--	---

ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کے حقیقت کے مفہوم ہو مگر اس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ، نے تمام جہان کو حضور پر نور محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔

اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ (ت)	لولاک لیما خلقت الدنیا <sup>۲</sup> ۔
---	---------------------------------------

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا:

اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔ (ت)	لولا مُحَمَّدٌ مَا خلقتُكُولًا رِضاً وَ لَا سَيَاءً <sup>۳</sup>
--	--

تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوا یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقے حضور کے طفیل میں۔

<p>یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دحاصل کیا پھر باقی مخلوق کو آپ نے وجود دیا جیسے فلاسفہ کافر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے دوسرا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اس قول سے بلند و بالا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے۔ (ت)</p>	<p>لَا إِنْهُ صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفَاضَ الْوُجُودُ مِنْ حَضْرَةِ الْعِزَّةِ ثُمَّ هُوَ أَفَاضَ الْوُجُودَ عَلَى سَائِرِ الْبَرِيَّةِ كَمَا تَزَعَّمُ كُفَّارُ الْفَلَاسِفَةِ مِنْ تَوْسِيْطِ الْعُقُولِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الطَّالِبُونَ عَلَوْا كَبِيرًا، هَلْ مِنْ خَلَقَ غَيْرَ اللَّهِ</p>
--	---

<sup>۱</sup> مطالع المسرات مکتبہ نور یہ رضویہ فیصل آباد ص ۱۲۹

<sup>۲</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ذکر عروجه الی السماء الخ دار احیاء التراث العربي بیروت ۲۹۷/۳

<sup>۳</sup> المواهب الدینیۃ المقصد الاول المکتبہ الاسلامی بیروت ۱/۰۷، مطالع المسرات الحزب الثانی مکتبہ نور یہ رضویہ فیصل آباد ص ۲۶۲

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں، اپنے رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔ زر قانی شریف میں ہے:

<p>یعنی اس نور سے جو اللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الواقع وجود کے متعلق ہوا۔ (ت)</p>	<p>ای من نور هو ذاته لا بمعنى انها مادة خلق نوره منها بل بمعنى تعلق الارادة به بلا واسطة شبيع في وجوده<sup>۱</sup></p>
---	--

یا زیادہ سے زیادہ بغرض توضیح ایک کمال ناقص مثال یوں خیال کیجئے کہ آفتاب نے ایک عظیم و جمیل و جلیل آئینہ پر تجلی کی، آئینہ چمک اٹھا اور اس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوا میں اور سائے روشن ہوئے آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ اور چیز کو روشن کر سکے کچھ دیواروں پر دھوپ پڑی، یہ کیفیتی نور سے متکلیف ہیں اگرچہ اور کو روشن نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی، وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کیں جیسے دن میں مقف دالان کی اندر ورنی دیواریں ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا کہ، کیفیت نور سے ہر نہ پایا، پہلا آئینہ خود ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے اور باقی آئینے چشمے اس کے واسطے سے اور دیواریں وغیرہ با واسطہ در واسطہ پھر جس طرح وہ نور کہ آئینہ اول پر پڑا العینہ آفتاب کا نور ہے بغیر اس کے آفتاب خود یا اس کا کوئی حصہ آئینہ ہو گیا ہو، یونہی باقی آئینے اور چشمے کہ اس آئینے سے روشن ہوئے اور دیوار وغیرہ اشیاء پر ان کی دھوپ پڑی یا صرف ظاہر ہوئیں، ان سب پر بھی یقیناً آفتاب ہی کا نور اور اسی سے ظہور ہے، آئینے اور چشمے فقط واسطہ وصول ہیں، ان کی حد ذات میں دیکھو تو یہ خود نور تو نور، ظہور سے بھی حصہ نہیں رکھتے۔

یک چراغ نہ ستد دیں خانہ کہ از پر توانی      ہر کجا می گنگری انجمنے ساختہ اند  
(اس گھر میں ایک چراغ سے جس کی تابش سے تو جہاں دیکھتا ہے انجمن بنائے ہوئے ہیں)

یہ نظر محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا: "مَثُلُ نُورِهِ كِيشْكُوٰقٌ فِي هَامِصْمَاطٍ"<sup>۲</sup>۔ (اس کے نور کے مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ ت) ورنہ کجا چراغ اور کجا وہ نور حقیقی، "وَلَيْهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى"<sup>۳</sup>۔ (اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ ت)

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیۃ المقصد الاول دار المعرفت بیروت ۳۶/۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۳۵/۲۳

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۲۰/۱۶

تو پڑھ صرف ان دو باتوں کی منظور ہے ایک یہ کہ دیکھو آفتاب سے تمام اشیاء منور ہوئیں بے اسکے آفتاب خود آئینہ ہو گیا یا اس میں سے کچھ جدا ہو کر آئینہ بننا، دوسرے یہ کہ ایک آئینہ نفس ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے باقی وسائل، ورنہ حاشا ہمہاں مثال اور ہمہاں وہ بارگاہ جلال۔ باقی اشیاء سے کہ مثال میں بالواسطہ منور مانیں آفتاب حجاب میں ہے اور اللہ عزوجل خالہ فوق کل ظاہر ہے، آفتاب ان اشیاء تک اپنے وصول نور میں وسائل کا محتاج ہے اور اللہ عزوجل احتیاج سے پاک، غرض کسی بات میں نہ تطبیق مراد نہ ہرگز ممکن، حتیٰ کہ نفس وساطت بھی یکساں نہیں، کیا لا یخُفْ وَ قَدْ أَشْرَنَا إِلَيْهِ (جیسا کہ پوشیدہ نہیں اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ت)

سیدی ابو سالم عبد اللہ عیاشی، ہم استاذ علامہ محمد زرقانی تلمیذ علامہ ابو الحسن شیرالمی اپنی کتاب "الرحلہ" پھر سیدی علامہ عثمانی رحمہم اللہ تعالیٰ جیساً<sup>۱۱</sup> "شرح صلاۃ" حضرت سیدی احمد بدوسی کیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں:

<p>اس کا اور اک حقیقیہ وہی شخص کو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ نور السیوت والارض کا معنی جانتا ہے کیونکہ وہم اور عقل کے ذرائع اس کا حقیقی اور اک نہیں کر سکتے، اس کو تو سصرف بندے کے دل میں اس نور کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شعاؤں سے ہی سمجھا جاسکتا ہے، پس "نور اللہ" کو اس نور ہی کے ذریعے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ حدیث کے معنی کو سمجھنے کے لئے قریب ترین یہ ہے کہ نور محمدی جب قدیم اور ازلی نور کی پہلی تجلی ہے تو کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہی سب سے پہلا مظہر ہے اور وجود میں آنے والے تمام نوروں کی اصل قوت ہے۔ جب یہ نور اول چکا اور منور ہوا تو اس نور محمدی نے تمام موجودات پر درجہ بدرجہ اپنی چک ڈالی تو بلا واسطہ یا واسطوں کی کمی بیشی کے اعتبار سے ہر چیز اپنی استعداد کے</p>	<p>انما یدرکہ علی حقیقتہ من عرف معنی قول تعالیٰ: اللہ نور السیوت والارض وتحقيق ذلك على ما ينبع ليس مما يدرك ببضاعة العقول ولا میا تسلط عليه الاوهام وانما یدرک بکشف الہمی واشراق حقه من اشعة ذلك النور في قلب العبد فيدرك نور الله بنوره و اقرب تقریر يعطي القرب من فهم۔ معنی الحديث انه لما كان النور المحمدي اول الانوار الحادثة التي تجلى بها النور القديم الازلي وهو اول التعينات للوجود المطلق الحقانی وهو مدد كل نور كائن او يكون وكما اشرق النور الاول في حقیقتہ فتنورت بحیث صارت هو نورا اشراق نورہ المحمدی على حقائق الموجودات شيئاً</p>
---	---

مطابق چک اٹھی اور تمام حقائق و اقسام اس نور کی چک سے اس کے مظہر بن گئے، یوں وجود میں آنے والا پہلا نور ایک تھا لیکن اسکی چک سے دوسرے حقائق بھی اپنی حقیقت کے مطابق اس نور سے منور ہوتے چلے گئے اور کائنات میں نور در نور بن گئے جبکہ وجود میں نور کی سرف دو ہی فتمیں، ایک فیض دینے والا اور دوسرا فیض پانے والا، حالانکہ نفس الامری حقیقت میں یہ دونوں نور ایک ہی ہیں، یہ ایک حقیقی نور ہی قبل اشیاء میں چک پیدا کر کے متعدد مظاہر یہیں ہوتا ہے اور تمام اقسام میں ہر قسم کی صورت میں چمکتا ہے اسی طرح فیض یافتہ نور بھی اپنی استعداد کے مطابق دوسری قبل اشیاء میں چمک پیدا کر کے ان کو منور کرتا ہے جس سے مزید مظاہرات کی اقسام حاصل ہوتی ہیں جبکہ یہ تمام انوار بالواسطہ یا بلاواسطہ سب سے پہلے نور سے ہی مستفیض ہیں۔

اس تقریر کے لئے یہ انتہائی محتاط عبارت ہے جو علوم الہیہ کے موافق ہے، اس سے زائد عبارت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس تقریر کی مناسب مثال وہ چراغ ہے جس سے بے شمار چراغ روشن ہوئے، اس کے باوجود وہ اپنی اصل حالت پر باقی ہے اور اس کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، مزید واضح مثال سورج ہے جس سے تمام سیارے روشن ہیں جن کا اپنا کوئی نور نہیں ہے۔ بظہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا نور ان سیاروں میں منقسم ہو گیا ہے

فشيئاً فھي تستمد منه على قدر تنورها بحسب كثرة الوسائل وقلتها وعدمها وكلما اشرق نوره على نوع من انواع الحقائق ظهر النور في مظهر الانقسام فقد كان النور الحادث اولاً شيئاً واحداً ثم اشرق في حقيقة اخرى فاستنارت بنوره تنوراً كاملاً يحسب ما تقتضيه حقيقتها فحصل في الوجود الحادث نوران مفيض ومفاض وفي نفس الامر ليس هناك الا نوراً واحداً اشرق في قابل الاستنارة يت NOR ببعض امثلة المظاہر والظاہر واحداً ثم كذلك كلما اشرق في محل ظهر بصورة الانقسام وقد يشير نور المفاض عليه ايضاً بحسب قوته على قوابيل اخر فتنور بنوره فيحصل انقسام اخر بحسب المظاہر وكالها راجعة الى النور الاول للحادث اما بواسطة او بدونها۔

قال وهذا غایة ما اتصل اليه العبارة في هذا التقرير ومثل في قصر بآعه وعدم تضلعه من العلوم الالہیہ ان زاد في التقریر خشى على واقرب مثال يضرب لذلك نور المصباح تصبح منه مصابيح كثيرة وهو في نفسه باق على ما هو عليه لم ينقص منه شيء واقرب من هذا المثال الى التحقيق وابعد عن الافهام نور الشمس المشرق في الاهلة والکواكب على

جبکہ فی الواقع ان سیاروں میں سورج ہی کا نور ہے جو سورج سے نہ توجہا ہوا اور نہ ہی کم ہوا، سیارے تو صرف اپنی قابلیت کی بنابر چکتے ہیں اور سورج کی روشنی سے منور ہوئے۔

مزید سمجھ کے لئے پانی اور شیشے پر پڑنے والی سورج کی شعاعوں کو دیکھا جائے جن کا عکس پانی یا شیشے کے بالمقابل دیوار پر پڑتا ہے جس سے دیوار روشن ہو جاتی ہے، دیوار پر یہ روشنی سورج ہی کا نور ہے جو بالواسطہ دیوار پر پڑا کیونکہ براہ راست دیوار پر سورج کا نہیں پڑا اور نہ ہی یہ نور سورج سے جدا ہوا، اس کے باوجود یہ نور سورج کا ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے قلب کو حجاب غفلت سے پاک کرتا ہے اور وہ دل انوار محمدیہ سے منور ہوتا ہے تو پھر اس کا ادراک ایسا کامل ہوتا ہے کہ اس میں شک اور وہم کا اختلال نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بصیرت کو اپنے علم کے نور سے منور فرمائے اور ہمارے باطن کو جہالت کے اندرھیروں سے محفوظ فرمائے، اور جن امور میں ہم غور کرنے کے اہل نہیں ان پر ہماری جسارت کو معاف فرمائے اور اس جانب

القول بآن الكل مستنير بنوره وليس لها نور من ذاتها فقد يقال بحسب النظر الاول ان نور الشیس منقسم في هذه الاجرام العولیة وفي الحقيقة ليس هذا الا نور ها وهو قائم بها لم ينقص منه شيئا ولهم يزايلها منه شيئا ولكنه اشرف في اجرام قابلة الاستئنارة فاستنارت۔

واقرب من هذا الالفهم ما يحصل في الاجرام السفلية من اشراق اشعة الشیس على الماء او قوار الزجاج فيستنير ما يقابلها من الجدران بحيث يليح فيها نور كنور الشیس مشرق بآشراه ولهم ينفصل شيئا من نور المشیس عن محله الى ذلك البخل ومن كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه و اشرق الانوار الحمدية على قلبه يصدق اتباعه له ادرك الامر ادر اخرا لا يحتمل شكاولا وهمـ۔

نسأَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُنورِنَا بِالْعِلْمِ الْأَلِهِ بِصَائِرَنَا وَ  
يَحْجُبَ عَنْ ظُلْمَيْتِ الْجَلِ سَرَائِرَنَا وَيَغْفِرَ لَنَا مَا  
اجْتَرَأْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْضِ فِيمَا لَسْنَاهُ بِأَهْلِ وَنَسَّالِهِ  
أَنْ لَا يَؤَاخِذَنَا بِمَا تَقْضِيهِ

میں ہماری کی کوتا ہیوں پر موافق نہ فرمائے آمین ! اہم مختصرًا۔ محضراً(ت)۔	العبارة من تقصیر في حق ذلك الجناب <sup>۱</sup> اهم مختصرًا۔
---	---

اس تقریر منیر سے مقاصد مذکورہ کے سوا چند فائدے اور حاصل ہوئے:  
 اولًا: یہ بھی روشن ہو گیا کہ تمام عالم نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیونکر بنے۔ اس کے کہ نور حضور تقسیم ہوا یا اس کا کوئی حصہ این و آں بنے ہو۔ اور یہ کہ وہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ پھر اس نور کے چار حصے کے، تین سے قلم ولوح و عرش بنائے، چوتھے کے پھر چار حصے کے الی آخر، یہ اس کی شعاعوں کا انقسام جیسے ہزار آئینوں میں آفتاب کا نور چمکے تو وہ ہزار حصوں پر منقسم نظر آئے گا، حالانکہ آفتاب منقسم نہ ہوانہ اس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔

<p>اس (مذکورہ بالا تقریر سے) علامہ شبر المی کا اعتراض ختم ہوا          (اعتراض) حقیقت واحده تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ حقیقت محمدیہ          ان اقسام میں ایک قسم ہے، اور اگر باقی اقسام اسی (حقیقت)          سے ہیں تو یہ حقیقت تقسیم ہو گئی اور اگر باقی چیزیں اس          حقیقت کی غیر ہیں تو انقسام کا کیا مطلب، پھر انہوں نے          (علامہ شبر المی) نے خود ہی جواب دیا اور علامہ زرقانی شاگرد          رشید علامہ شبر المی نے ان کی اتباع کی۔ (جواب) حقیقت یہ          ہے کہ اللہ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ          علیہ وسلم کے نور کو تقسیم کیا کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ          نے ان کو ایک ایسی صورت مثالی عطا کی جس پر حضور صلی          اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق ہونی تھی تو اسے تقسیم نہیں کیا          جائے گا۔</p> <p>ان کے جواب کا خلاصہ جسے ان کے شاگرد</p>	<p>واندفع ما استشكله العلامة الشبرا ملسي ان الحقيقة          الواحدة لانقسام وليس الحقيقة المحمدية الا          واحدة من تلك الاقسام والباقي ان كان منها ايضا          فقد اقسست وان كان غيرها فاما معنى الاقسام وحاول          الجواب وتبعه فيه تلميذه العلامة الزرقاني بان          المعنى انه زاد فيه "لا انه قسم ذلك النور الذي هو          نور المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا ظاهر انه          حيث صورة بصورة مماثلة لصورة التي سيصير عليهمما          لا يقيمه اليه والى غيره<sup>۲</sup> اهـ۔</p> <p>وحاصل جوابه كما قررت تلميذه</p>
--	---

<sup>1</sup> الرحلة لعلی بن علی الشبرا ملسي<sup>2</sup> شرح الزرقاني على المواهب المدنية المقصد الاول دار المعرفة بيروت ۲۶۰

علامہ عیاشی نے بیان کیا ہے کہ انقسام کا معنی نورِ محمدی اپر اضافے کے ہیں، پھر اس زائد کو لے لیا اس پر ایک دوسرے نور کا اضافہ کیا۔ اسی طرح آخری تقسیم تک سلسلہ جاری رہا۔ عیاشی نے کہا کہ ظاہر کے لحاظ سے یہ جواب کافی ہے اور تحقیق اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے اہ۔ پھر اس نے وہی ذکر کیا جو ابھی ہم نے اس سے نقل کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے زرقانی پر حاشیہ لکھا جس کی نص یہ ہے۔

اقول: (میں (احمد رضا خاں) کہتا ہوں) کہ اس (عیاشی) نے اس مسئلہ میں اپنے شیخ شبر المی کی پیروی کی لیکن حق یہ ہے کہ یہ ایک بے معنی بات ہے کیونکہ اس صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق نہ ہو گی، یہ نص اور مراد کے خلاف ہے۔

اقول: (میں کہتا ہوں) اس کا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے آپ کے نور کو پہلی شعاع سے زائد شعاع عطا کی پھر اس سے کچھ جدا کیا، پھر اس کی تقسیم کی جیسے فرشتے ان شعاعوں میں سے جو ستاروں کو محیط ہیں، لے کر چھپ کر سننے والے شیطانوں کو مارتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ نجوم کے لئے رجوم ہے۔ اس روشن تقریر سے مولیٰ تعالیٰ

العیاشی و ان معنی الانقسام زیادۃ نور علی ذلک النور البحمدی فیؤخذ ذلک الزائد ثم یزاد عليه نوراً آخر ثم كذلك الى اخر الانقسام قال العیاشی وهذا جواب مقنع بحسب الظاهر والمتتحقق والله تعالى اعلم وراء ذلك اه<sup>1</sup> ثم ذكر ما نقلنا عنه انفاؤر ايتها تكتب على هامش الزرقاني مانصه۔

اقول: تبع فيه شیخ الشبر ملمسی الحق انه لا معنی له فأنه اذن لا يكون التخلیق من نوره صلی الله تعالیٰ عليه وسلم وهو خلاف المنصوص والمراد<sup>2</sup> اهـ

اقول: ويُكَنِّ الجواب بِأَنَّ الْمَرَادَ أَنَّهُ تَعَالَى كَسَاهَا شَعَاعًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ ثُمَّ فَصَلَّ مِنْ شَعَاعِهِ شَيْئًا فَقَسَبَهُ كَمَا تَأْخُذُهُ الْمَلَائِكَةُ شَيْئًا مِّنْ إِلَّا شَعَاعَ الْبِحِيَّةِ بِالْكَوَاكِبِ فَتَرَمَّى بِهِ مُسْتَرْقِ السَّمِعِ وَيَقَالُ بِذَلِكِ إِنَّ النَّجُومَ لَهَا جُومٌ وَلَكِنَّ مِنْحَ الْمُوْلَى تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ

<sup>1</sup><sup>2</sup> حاشیة امام احمد رضا على شرح الزرقانی

نے ہر تکلیف سے بے نیازی عطا فرمائی۔ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقریر اس عبد ضعیف کو القاء فرمائی پھر میں نے اس کو عثمانی کی شرح میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے انکو بہت زیادہ جزاء خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ (ت)

التقریر البنیر ما اغنى عن كل تكليف والله الحمد و قد كان منح للعبد الضعيف ثم رأيت في شرح العشماوي جزا الله تعالى عنى وعن المسلمين خيراً كثيراً أمين!

**ثانیاً** اقول: یہ شبہ بھی دفعہ ہو گیا کہ خلق میں کفار و مشرکین بھی ہیں، وہ محض ظلمت ہیں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں نکر بنے اور نرے نجس ہیں تو اس نور پاک سے کیونکر مخلوق مانے گئے۔ وجہ اندفاع ہماری تغیر سے روشن، ظلمت ہو یا نور، جس نے خلعت وجود پایا ہے اس کے لئے تجلی آفتاب وجود سے ضرور حصہ ہے اگرچہ نور نہ ہو صرف ظہور ہو کیا تقدم (جیسا کہ آگے آئے گا۔ ت) اور شاعر شمس ہر پاک و ناپاک جگہ پڑتی ہے وہ جگہ فی نفسہ پاک ہے اس سے دھوپ ناپاک نہیں ہو سکتی۔

**ثالثاً** اقول: یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جس طرح مرتبہ وجود میں صرف ایک ذات حق ہے باقی سب اسی کے پر تو وجود سے موجود، یونہی مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے باقی سب پر اسی کے عکس کافیسان وجود، مرتبہ کون میں نور احمدی آفتاب ہے اور تمام عالم اس کے آئینے اور مرتبہ تکوین میں نور احمدی آفتاب ہے اور سارا جہاں اس کے آئینے، وہی ہذا اقول (اور اسی سلسلہ میں میں کہتا ہوں) :-

خالق کل الوری ربک لا غیرہ نور کل الوری غیرک لم ليس لن

ای لم يوجد وليس موجوداً لن يوجد ابداً<sup>1</sup>

(کل مخلوق کا پیدا کرنے والا آپ کارب ہی ہے، آپ ہی کا نور کل مخلوق ہے اور آپ کا غیر کچھ بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو گا۔ ت)

**رابعاً** اقول: نور احمدی تو نور احمدی، نور احمدی پر بھی یہ مثال منیر مثال چراغ سے احسن و اکمل ہے، ایک چراغ سے بھی اگرچہ ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں بے اس کے کہ ان چراغوں میں اس کا کوئی حصہ آئے مگر دوسرے چراغ صرف حصول نور میں اسی چراغ کے محتاج ہوئے، بقاء میں

<sup>1</sup> بستان الغفران مجمع بحوث الامام احمد رضا کراچی ص ۲۲۳

اس سے مستغنى ہیں، اگر انہیں روشن کر کے پہلے چراغ کو ٹھٹھا کر دیجئے ان کی روشنی میں فرق نہ آئے گا ان روشن ہونے کے بعد ان کو اس سے کوئی مدد پہنچ رہی ہے مج ہذا کسب نور کے بعد ان میں اور اس چراغ اول میں کچھ فرق نہیں رہتا سب یکاں معلوم ہوتے ہیں۔ بخلاف نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ عالم جس طرح اپنی ابتدائے وجود میں اس کا محتاج تھا کہ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا یوں نہیں ہر شے اپنی بقا میں اس کی دست نگر ہے، آج اس کا قدم درمیان سے نکال لیں تو عالم دفعۃٰ فنا نے محض ہو جائے۔

وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے<sup>۱</sup>

نیز جس طرح ابتدائے وجود میں تمام جہاں اس سے مستفیض ہوا بعد وجود بھی ہر آن اسی کی مدد سے بہرہ یاب ہے، پھر تمام جہاں میں کوئی اس کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں باتیں مثال آفتاب سے روشن ہیں، آئینے اس سے روشن ہوئے اور جب تک روشن ہیں اسی کی مدد پہنچ رہی ہے اور آفتاب سے علاقہ چھوٹتے ہیں فوجِ الہدیہ رے ہیں پھر کتنے ہی چمکیں سورج کی برادری نہیں پاتے۔ یہی حال ایک ذرہ عالم عرش و فرش اور جو کچھ ان میں ہے اور دنیا و آخرت اور ان کے اہل اور انس و جن و ملک و نمیں و قمر و حملہ انوار ظاہر و باطن حتیٰ کہ شموس رسالت علیہم الصلوٰۃ والتحیٰۃ کا ہمارے آفتاب جہاں تاک بعالم تاب علیہ الصلوٰۃ والسلام من الملک الوہاب کے ساتھ ہے کہ ہر ایک ایجاد امداد و ابتداء و بقاء میں ہر حال، ہر آن ان کا دست نگر، ان کا محتاج ہے و اللہ الحمد (اور سب تعریفِ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ ت)

امام اجل محمد بوصیری قدس سرہ، ام القری میں عرض کرتے ہیں:

یاسماء ماطاً ولتها اسماء	كيف ترقى رقيك الانبياء
لسنان منك دونهم وسناء	لم يساو لك في علاك وقد حا
س كما مثال النجوم الماء <sup>۲</sup>	انما مثلاً اصفاتك للنا

(یعنی انہیاء حضور کی سی ترقی کیوں نکر کریں، اے وہ آسمان رفت جس سے کسی آسمان نے بلندی میں مقابلہ نہ کیا، انہیاء حضور کے کمالات عالیہ میں حضور کے ہمسرنہ ہوئے، حضور کی جھلک اور بلندی نے ان کو حضور تک پہنچنے سے روک دیا، وہ تو حضور کے صفتؤں کی

<sup>۱</sup>حدائق بخشش مکتبہ رضویہ کراچی حصہ دوم ص ۹۶

<sup>۲</sup>ام القری فی مدح خیر الوزی الفصل الاول حزب القادریہ لاہور ص ۶

ایک شبیہ لوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے ستاروں کا عکس پانی دکھاتا ہے۔)

یہ وہی تشبیہ و تقریر ہے جو ہم نے ذکر کی، وہاں ذات کریم و افاضہ انوار کا ذکر تھا لہذا آفتاب سے تمثیل دی، یہاں صفات کریمہ کا بیان ہے لہذا ستاروں سے تشبیہ مناسب ہوئی۔ مطالع المسرات میں ہے:

<p>حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک محی ہے، زندہ فرماتے والے، اس لئے کہ سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے تو حضور تمام عالم کی جان و زندگی اور اس کے وجود و بقاء کے سبب ہیں۔</p>	<p>اسیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجی حیوۃ جمیع الکون بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فھرو روحہ و حیوۃ و سبب و جودہ و بقائہ<sup>۱</sup>۔</p>
--	---

اسی میں ہے:

<p>رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں حضور نہ ہوں تو عالم نیست و نابود ہو جائے کہ حضرت سیدی عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم میں کوئی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو، اس لئے کہ واسطہ نہ رہے تو جو اس کے واسطے سے تھا آپ ہی فنا ہو جائے۔</p>	<p>ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح الا کوان و حیاتہا و سرو جودہا و لولا لذہبت وتلاشت کما قال سید عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نفعنا به ولا شیعی الا ہو بہ منوط اذ لولا الواسطة لذہب کما قیل الموسوٹ<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

ہمزیہ شریف میں ارشاد فرمایا:

کل فضل فی العلیین فین فضل النبی استعارة الفضلاء<sup>۳</sup>

(جہان والوں میں جو خوبی جس کسی میں ہے وہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل سے ماگے کر لی ہے)

<sup>۱</sup> مطالع المسرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۹۹

<sup>۲</sup> مطالع المسرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۲۶۳

<sup>۳</sup> ام القریٰ فی مدح خیر الوزی الفصل السادس حزب القادریہ لاہور ص ۱۹

امام ابن حجر مکی افضل القری میں فرماتے ہیں:

تمام جہان کی امداد کرنے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ حضور ہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت سے لیتا ہے تو جس کامل کو خوبی ملی وہ حضور ہی کی مدد اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔	لأنه المبدلهم اذهو الوارث للحضرۃ الا لهیة و المستبد منها بلا واسطة دون غيره فأنه لا يستبد منها الا بواسطته فلا يصل لكامل منها شيئاً الا وهو من بعض مددہ وعلی یدیه <sup>۱</sup>
---	--

شرح سیدی عشماوی میں ہے:

کوئی موجود، دو نعمتوں سے خالی نہیں، نعمت ایجاد و نعمت امداد۔ اور ان دونوں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی واسطہ ہیں کہ حضور پہلے موجود نہ ہو لیتے تو کوئی چیز وجود نہ پاتی اور عالم کے اندر حضور کا نور موجود نہ ہو تو وجود کے ستون ڈھنے جائیں تو حضور ہی پہلے موجود ہوئے اور تمام جہان حضور کا طفیل اور حضور سے وابستہ ہوا جسے کسی طرح حضور سے بے نیازی نہیں۔	نعمتان مأخلاً موجود عنهما نعمة الا يجاد ونعمة الامداد وهو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الواسطة فيهما اذلو لاسبقة وجودة ما وجد موجود ولو لا وجود نوره في ضمائر الكون لتهدمت دعائم الوجود فهو الذى وجد اولاً وله تبع الوجود وصار مرتبطاً به لاستغناء له عنه <sup>۲</sup>
---	---

ان مضامین جیلہ پر بکثرت ائمہ و علماء کے نصوص جلیلہ فقیر کے رسالہ "سلطنة المصطفى في ملکوت كل الوزی" میں ہیں، وَلَلَّهُ الْحَمْدُ.

خامساً: ہماری تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور خود نور ہیں تو حدیث مذکور میں نور بنیک کی اضافت بھی من نورہ کی طرح بیانیہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار نعمت الہیہ کے لئے عرض کی واجعلنی نوراً<sup>۳</sup> (اور اے اللہ! مجھے نور بنادے۔ ت) اور خود رب المزرة

<sup>۱</sup> افضل القری لقراء ام القری (شرح ام القری)

<sup>۲</sup> شرح مقدمۃ العشماوی

<sup>۳</sup> الخصائص الکبیڑی باب الآیة فی انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یذری له ظل مرکزہ لہست برکات رضا گجرات ہند ۶۷۷

عز جلالہ نے قرآن عظیم میں ان کو نور فرمایا:

"قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّ كِتْبٌ مُّبِينٌ" <sup>۱</sup>

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور  
روشن کتاب۔ (ت)

پھر حضور کے نور ہونے میں کیا شبہ رہا۔

اقول: اگر نور نبیک میں اضافت بیانیہ نہ لو بلکہ نور سے وہی معنی مشہور یعنی روشنی کہ عرض و کیفیت ہے مراد لو تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول مخلوق نہ ہوئے بلکہ ایک عرض و صفت، پھر وجود موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیوں نکر ممکن؟

لا جرم حضور ہی خود وہ نور ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق ہوا۔

تو اب علامہ زرقانی کے اس قول کی حاجت نہ رہی اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نور عرض ہے، قائم بذات نہیں ہے کیونکہ یہ خرق عادت ہے۔ میں نے اس پر لکھا کہ یہ اعتراض کیوں نہ کیا جائے کہ آپ من نور ہیں میں اضافت بیانیہ نہیں مانتے۔

اقول: (میں (احمد رضا خاں) کہتا ہوں) کہ خرق عادت میں تو کوئی کلام نہیں اور خدا کی قدرت بہت وسیع ہے لیکن صفت کا وجود بغیر موصوف کے سمجھ میں نہیں آ سکتا (کیونکہ ایسی صفت کی دو ہی صورتیں ہیں) موصوف کے غیر کے ساتھ قائم ہوت و موصوف کی صفت نہ ہو گی بلکہ غیر کی ہو گی اور اگر قائم بنفسا ہو تو صفت ہی نہ ہوئی

فلا حاجة إلى ماقال العلامة الزرقاني رحمه الله من انه لا يشكل بـنـالـنـور عـرـضـ لاـيـقـومـ بـذـاتـهـ لـانـهـ مـنـ خـرـقـ الـعـوـائـدـ <sup>۲</sup> اـهـوـأـيـتـنـىـ كـتـبـتـ يـلـيـهـ لـمـ لـايـقـالـ فـيـهـ كـمـاسـتـقـولـونـ فـيـ قـرـيـنـهـ مـنـ نـورـهـ اـنـ الـاضـافـةـ بـيـانـيـةـ <sup>۳</sup> اـهـ

اقول: خرق العائد لا کلام فيه والقدرة متسعة و لكن وجود الصفة بدون الموصوف مبدأ لا يعقل لأنها ان قامت بغيره لم تكن صفة له بل لغيره او بنفسها لم تكن صفة اصلا اذا لاصفة الا المعنى القائم بغيره فاذا

<sup>1</sup> القرآن الكريم ۱۵/۵

<sup>2</sup> شرح الزرقاني على المawahب اللدنية المقصد الاول دار المعرفة بيروت ۱/۳۶۷

<sup>3</sup>

کیونکہ صفت کہتے اسے ہیں جو غیر کے ساتھ قائم ہو، جب وہ قائم بنفساً ہو تو وہ نہ صفت ہوئی اور نہ ہی عرض بلکہ جو ہر ہوئی اور یہ (کہنا) کہ عرض اور قائم بنفسہ بھی ہے تو یہ اجتماع ضدین لازم آتا ہے (اور اجتماع ضدین باطل ہے) اور قدرت الہیہ محالات عقلیہ سے متعلق نہیں ہوتی وزن اعمال (جو کہا جاتا ہے) بایس معنی ہے کہ کاغذ اور صحیفے تو لے جائیں گے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے جسے احمد، ترمذی، ابن حبان، حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن مردویہ، امام لاکائی اور یہیقی نے قیامت کی بحث میں عبد اللہ بن عمرو وال العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو چن لے گا، پھر اس کے سامنے ننانوے رجسٹر کھولے جائیں گے اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہو گا، پھر اسے کہا جائے گا تو اس سے انکار کرتا ہے یا میرے فرشتوں (کرکاتا تین) نے تم پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! نہیں۔ اللہ فرمائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا: نہیں۔ اللہ فرمائے گا: ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک کاغذ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہو گا۔ اللہ فرمائے گا: جاس کا وزن کرا۔ بندہ عرض کرے گا کہ ان رجسٹروں کے سامنے اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرمائے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

قام بنفسه لم يكن صفة وعرض أبابل جوهرا وكونه عرضاً مع قيامه بنفسه جميع للضدين والقدرة تعالى عن التعليق بالحالات العقلية وزن الاعمال بمعنى وزن الصحف والبطاقات كما في حديث احمد والترمذى وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردوية واللا لكلائى والبيهقي في البعث عن عبدالله بن عمرو بان عاص رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله سيخلص رجلاً من امته على رأس الخلاق يوم القيلية فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئاً اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يارب، فيقول افالك عذر، قال لا يارب، فيقول بل انك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله فيقول احضر وزنك - فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول انك لاتظلم - قال فتوضع السجلات في

<p>فرماتے ہیں کہ پھر ایک پلٹے میں ننانوے رجسٹر کئے جائیں گے اور دوسرے میں وہ کاغذ (جس پر کلمہ شریف لکھا ہوگا) چنانچہ رجسٹروں کا پلٹا بلکہ ہوگا اور کاغذ کا بھاری، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہ ہوگی۔ (ت)</p>	<p><b>کفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شیعیٰ<sup>۱</sup></b></p>
--	--

باجملہ حاصل حدیث شریف یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی ذات کریم سے پیدا کیا یعنی عین ذات کی تخلی بلا واسطہ ہمارے حضور ہیں باقی سب ہمارے حضور کے نور و ظہور ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ الہ وصحبہ وبارک وکرم۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۲: از کلکتہ، مچھوا بازار، اسٹریٹ نمبر ۲۱، متصل چولیا مسجد، مرسلہ حکیم اظہر علی صاحب ۲۰ ذی قعده ۱۳۱۹ھ بحضور اقدس جناب مولانا محدث العالمی ! یہ اشتہارتہ سیل خدمت ہے، اگر صحیح ہو تو اس پر صادر کر دیا جائے۔ والا جواب مفصل ترقیم فرمائیں والا دب۔ اظہر علی عفی عنہ

### نقل اشہار

رِّزْدَنِ عَلِيًّا (اے میرے رب ! میرے علم میں اضافہ فرمات) نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور جزء ذات یا عین ذات کا کلکڑا نہیں بلکہ پیدا کیا ہوا، نور مخلوق ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

<sup>۱</sup> جامع الترمذی ابواب الایمان باب ماجاء فی من یموت و هو یشهد الخ این کپیٰ و ملیٰ ۸۸/۲، المستدرک للحاکم کتاب الایمان فضیلۃ الشہادۃ لالہ الا اللہ دار الفکر بیروت ۲/۱، موارد الظیمان الی زوائد ابن حبان حدیث ۲۵۲۳ المطبعة السلفیۃ ص ۲۲۵، کنز العمال حدیث ۱۰۷۱ و مؤسسة الرسالۃ بیروت ۳/۲۹۶، سنن ابن ماجہ ابواب الزهد باب ما یبر جی من رحمة الله يوم القيمة ایم سعید کپیٰ کراچی ص ۳۲۸، مسنند احمد بن حنبل عن عبدالله بن عمرو المکتب الاسلامی بیروت ۲/۲۱۳

<p>سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، تاریخِ خمیس اور سرالاسرار میں یوں ہے۔ (ت)</p>	<p>اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل۔ کذا فی تاریخ الخمیس<sup>۱</sup> و سرالاسرار۔</p>
---	---

اور ذاتی نور ہئنے سے نور رسول کریم علیہ التحیۃ والتسالم کو جزء ذات یا عین ذات یا مکمل ذات خداۓ تعالیٰ کا کہنا لازم آتا ہے، یہ کلام کفر ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدیم ہونا لازم آتا ہے کیونکہ ذات کے معنی اگر اصطلاحی لئے جائیں تو جز خدا عین خدا یا مکمل ذات خدا کا ہونا لازم آتا ہے، یہی کلام کفر ہے اور عقائد بعض جتال کے یہی ہیں، اس سبب سے نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور ذاتی یا ذاتی نور یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل انہ کہنا چاہیے، اگر نور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور خدا یا نور مخلوق خدا یا نور ذات خدا یا نور جمال خدا کہے تو کہنا جائز ہے جیسا کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پی کتاب سرالاسرار میں فرمایا ہے:

<p>سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا۔ (ت)</p>	<p>لما خلق الله تعالى روح محمد صلی الله تعالى علیہ وسلم اولاً من نور جماله۔<sup>۲</sup></p>
--	---

اور حدیث قدسی میں آیا ہے:

<p>میں نے روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ (ت)</p>	<p>خلقت روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من نور وجهی<sup>3</sup> كما قال النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاً مخلق اللہ روحي اولاً مخلق اللہ نوري<sup>4</sup>۔</p>
--	---

کیونکہ ایک چیز کو دوسرے کی طرف اضافت کرنے سے جزو اس کا یا عین اس کا لازم نہیں آتا ہے کیونکہ

<sup>1</sup> تاریخ الخمیس مطلب اول المخلوقات مؤسسة شعبان بیروت ۱۹/۱ مرقدۃ البفاتج کتاب الایمان تحت الحدیث ۱۹۷ المکتبۃ الحبیبیۃ

کوئینہ ۲۹۱/۱

2

3

<sup>4</sup> تاریخ الخمیس مطلب اول المخلوقات مؤسسة الرسالہ بیروت ۱۹/۱

مضاف و مضاف الیہ کے درمیان مغائرت شرط ہے۔ چنانچہ بیت اللہ و ناقہ اللہ و نور اللہ و روح اللہ، پس ثابت ہوا کہ نور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور مخلوق خدا یا نور ذات خدا یا نور جمال خدا ہے، نور ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا گلزار اوجزو عین نہیں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

المُشْهُرُ: عبد المُهِيمِنُ قاضي علاقہ تھانہ بہو بازار وغیرہ کلکتہ

### الجواب:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی یعنی عین ذات الہی سے پیدا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے فتوے میں تصریحات علمائے کرام سے محقق کیا اور اس کے معنی بھی وہیں مشرح کر دیے۔ حاش اللہ! یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا مگان بھی نہیں ہو سکتا کہ نور رسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذات الہی کا جز یا اس کا عین نفس ہے، ایسا اعتقاد ضرور کفر و ارتاد و

<p>یعنی جزئیت کا دعویٰ کرنا مطلقاً اور عینیت بمعنی اتحاد کا دعویٰ کرنا یعنی مرتبہ فرق میں نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین ذات خدا ہے (کفر ہے) لیکن یہ اعتقاد کے بے شک وجود ایک فرق میں اسی کے ظل اور عکس ہیں۔ چنانچہ مرتبہ حقیقت ذاتیہ میں اس کے سوا کوئی موجود نہیں کیونکہ حد ذات میں اس کے ماسوا کسی کے لئے بغیر کسی استثنائے کے بالکل وجود سے کوئی حصہ نہیں، (یہ اعتقاد) خالص حق ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ (ت)</p>	<p>ای ادعاءِ الجزئیة مطلقاً والعنيّنة بمعنى الاتّحاد ای هو هو في مرتبة الفرق اما ان الوجود واحد والوجود واحد في مرتبة الجميع والكل ظلاله وكعوشه في مرتبة الفرق فلام موجود الا هو في مرتبة الحقيقة الذاتية اذ لاحظ لغيرة في حد ذاته من الجود اصلاح مجملة واحدة من دونه ثانياً فحق واضح لا شك فيه۔</p>
--	--

مگر نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل کا نور ذاتی کہنے سے نہ عین ذات یا جزء ذات ہو نالازم، نہ مسلمانوں پر بد گمانی جائز، نہ عرف عام علماء و عموم میں اس سے یہ معنی مفہوم، نہ نور ذات کہنے کو نور ذاتی کہنے پر کچھ ترجیح جس سے وہ جائز اور یہ ناجائز ہو۔

اوگا: ذاتی کی یہ اصطلاح کہ عین ذات یا جزء ماهیت ہو، خاص ایسا غوبی کی اصطلاح ہے، علاماء عامہ کے عرف عام میں نہ یہ معنے مراد ہوتے ہیں نہ ہر گز مفہوم، عام محاورہ میں کہتے ہیں یہ میں اپنے

ذاتی علم سے کہتا ہوں یعنی کسی کی سنی سنائی نہیں۔ یہ مسجد میں نے اپنے ذاتی روپیہ سے بنائی ہے یعنی چندہ وغیرہ مال غیر سے نہیں۔ آئمہ اہل سنت جن کا عقیدہ ہے کہ صفات الہیہ عین ذات نہیں، اللہ عزوجل کے علم و قدرت و سمع وبصر وارادہ و کلام و حیات کو اس کی صفت ذاتی کہتے ہیں۔ حدیثہ ندیہ میں ہے:

بیشک وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے نہ عین اور نہ غیر ہیں، صرف وہ ذاتی صفات ہیں۔ (ت)	اعلم بآن الصفات التي هي لاعين الذات ولا غيرها انما هي الصفات الذاتية <sup>۱</sup> الخ۔
---	--

علامہ سید شریف قدس سرہ الشریف رسالہ<sup>۲</sup> تعریفات<sup>۱</sup> میں فرماتے ہیں:

ذاتی صفات وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ موصوف ہے اور ان کی ضد سے موصوف نہیں جیسے قدرت، عزت، عظمت وغیرہ۔ (ت)	الصفات الذاتية هي ما يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة وغيرها <sup>۲</sup> ۔
--	---

وجوب ذاتی وامتناع ذاتی واماکان ذاتی کا نام حکمت وکلام و فلسفہ وغیرہ میں سنا ہو گا یعنی ان الذات تقتبی لذاتها الوجود او العدم (یعنی بلاشبہ ذات اپنی ذات کے اعتبار سے وجود یا عدم کا تقاضا کرتی ہے۔ ت) اولًا ان میں کوئی بھی اپنے موصوف کا نہ عین ذات ہے نہ جزء بلکہ مفہومات اعتباری ہیں جن کے لئے خارج میں وجود نہیں کیا حقق فی محلہ (جیسا کہ اس کے محل میں اس کی تحقیق کر دی گئی ہے۔ ت) یونہی اصلین ان عین علم کلام و علم اصول فقة میں فعل کے حسن ذاتی و فیح ذاتی کا مسئلہ اور اسکیں ہمارے آئمہ ماتریدیہ کا مندرجہ بہ سنا ہو گا حالانکہ بدایہ حسن و فیح نہ عین فعل ہیں نہ جزء فعل۔ محقق علی الاطلاق تحریر الاصول میں فرماتے ہیں:

جس میں اغراض و عادات متفق ہوں اور اس کے سبب سے مدح و ذم کا استحقاق ہو کیونکہ سب کے مصالح اس سے متعلق ہیں یہ قول غیر مفید ہے بلکہ ذاتی سے مراد وہی ہے، اس لئے کہ یہ بات قطعی ہے کہ قتل کے لئے بطور ظلم محض حرکت یہ کی حقیقت بطور عدل اس کی حرکت	میا اتفقفت فيه العراض والعادات واستحق به المدح والذم في نظر العقول جیساً لتعلق مصالح الكل به لا يفيد بل هو المراد بالذاتي للقطع بان مجرد حركة اليدين لظلاً لا تزيد حقيقتها على حقيقتها
--	--

<sup>۱</sup> الحدیقة الندية الباب الثاني مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۲۵۳

<sup>۲</sup> التعریفات للجرجانی ۷۰ (الصفات الذاتیہ) دارالکتاب العربي بیروت ص ۱۱۱

کی حقیقت سے زائد نہیں۔ اگر ذاتی مقتضائے ذات ہوتا تو ان دونوں کا لازم حسن و تحقیق کے اعتبار سے تحد ہو جاتا کیونکہ ذاتی سے مراد وہ ہے کہ عقل اس کے ساتھ جسم کرے کسی فعل کے لئے صفت سے، محض اس کے متعلق ہونے کی وجہ سے اس ذات کی صفت سے جس کے ساتھ وہ قائم ہے اسی کے اعتبار سے اس کو عدل و حسن یا اس کی خدکے ساتھ متصف کیا جاتا ہے اہ (ت)

عدلا، فلو کان الذاتي مقتضى الذات اتحد لازمهما حسناً و قبحاً، فأنما يراد (إي بالذاتي) ما يجزم به العقل لفعل من الصفة ب مجرد تعقله كائناً عن صفة نفس من قام به فباعتبارها يوصف بأنه عدل حسن او ضدّه<sup>۱</sup> اه

**حالیا:** ذاتی میں یائے نسبت ہے، ذاتی منسوب بہ ذات اور متغیرین میں ہر اضافت مصحح نسبت جو چیز دوسرے کی طرف مضار ہو گی وہ ضرور اس کی طرف منسوب ہو گی کہ اضافت بھی ایک نسبت ہی ہے، توجہ نور ذات کہنا صحیح ہے تو نور ذاتی کہنا بھی تطلعًا صحیح ہو گا ورنہ نسبت ممتنع ہو گی تو نور ذات کہنا بھی باطل ہو جائے گا ہذا خلف۔

**حالاً:** نور ذات کہنا جس کا جواز مانع کو بھی تسلیم ہے اس میں اضافت بیانیہ ہو یعنی وہ نور کہ عین ذات الہی ہے تو معاذ اللہ نور رسالت کا عین ذات الوہیت ہونا لازم آتا ہے پھر یہ کیوں نہ منع ہوا، اگر کہنے کہ یہ معنے مراد نہیں بلکہ اضافت لامیہ ہے اور اس کی وجہ تشریف جیسے بیت اللہ و ناقۃ اللہ و روح اللہ، تو اسی معنی پر نور ذاتی میں کیا حرج ہے یعنی وہ نور کہ ذات الہی سے نسبت خاصہ ممتازہ رکھتا ہے۔ شرح المواهب للعلاء الزرقانی میں ہے:

اضافت تشریفیہ ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عجیب مخلوق ہیں اور بارگاہ ربوبیت میں آپ کو خاص نسبت ہے جیسے "وَنَفَخْتُ فِيْكُمْ رُوحًا" <sup>۳</sup> (اور میں اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں۔ (ت)

اضافية تشريف واشعار بانه خلق عجيب وان له شأن  
له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية على حد قوله تعالى  
ونفخ فيه من روحه<sup>۲</sup>۔

<sup>۱</sup> تحریر الاصول المقالة الثانية الباب الاول الفصل الثاني مصطفی الباجي مصر ص ۲۲۵ و ۲۲۶

<sup>۲</sup> شرح الزرقانی على المواهب اللدنیۃ المقصد الاول دار المعرفة بيروت ۱/۲۶

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۱۵/۲۹ و ۳۸/۷۲

**رابعًا:** نور ذاتی میں اگر ایک معنیٰ معاذ اللہ کفر ہیں کہ ذاتی کو اصلاح فن ایسا غوجی پر حمل کریں جو ہر گز قاتکوں کی مراد نہیں بلکہ غالباً ان کو معلوم بھی نہ ہو گی تو نور ذات یا نور اللہ کہنے میں جن کا جواز از خود مانع کو مسلم ہے عیاداً باللہ متعدد وجہ پر معانی کفر ہیں۔ ہم نے فتویٰ دیگر میں بیان کیا کہ نور کے دو معنی ہیں: ایک ظاہر بنفس مظہر لغیرہ، بایس معنیٰ اگر اضافت بیانیہ لو تو نور رسالت عین ذات الہی ٹھہرے اور یہ کفر ہے۔ اور اگر لامیہ لو تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ نور کہ آپ بذاب خود ظاہر اور ذات الہی کا ظاہر کرنے والا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ دوسرے معنیٰ یہ کیفیت و عرض ہے چمک، جھلک، اجالا، روشنی کہتے ہیں اس معنیٰ پر اضافت بیانیہ لو تو کفر عینیت کے علاوہ ایک اور کفر عرضیت عارض ہو گا کہ ذات الہی معاذ اللہ ایک عرض و کیفیت قرار پائی، اور اگر لامیہ لو تو کسی کی روشنی کہنے سے غالباً یہ مفہوم کہ یہ کیفیت اس کو عارض ہے جیسے نور شمس و نور قمر و نور چراغ، یوں معاذ اللہ اللہ عز و جل محل حادث ٹھہرے گا، یہ بھی صریح صلالت و مگرہی و مخبر بکفر لزومنی ہے، ایسے خیالات سے اگر نور ذاتی کہنا ایک درجہ ناجائز ہو گا تو نور ذات و نور اللہ کہنا چار درجے، حالانکہ ان کا جواز مانع کو مسلم ہونے کے علاوہ نور اللہ لازم خود قرآن عظیم میں وارد ہے:

اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تام فرمانے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موننوں سے بجادیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے بر امامیں کافر۔ (ت)	"يُرِيدُونَ لِيُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَغْوِيَهِمْ وَاللَّهُ مُتَّمِّنٌ تُؤْرِكُهُمْ كِرِيمُ الْكُفَّارِ" <sup>۱</sup> -  "يُرِيدُونَ أَن يُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَغْوِيَهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتَّمِّمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِيمُ الْكُفَّارِ" <sup>۲</sup> -
---	---

حدیث میں ہے:

مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے۔ (ت)	اتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنور الله <sup>۳</sup> -
--	---

**خامسًا:** مضاف و مضاف الیہ میں اگر معاشرت شرط ہے تو منسوب و منسوب الیہ میں

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۸/۶۱

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۳۲/۹

<sup>۳</sup> سنن الترمذی کتاب التفسیر حدیث ۳۱۳۸ دار الفکر بیروت ۵/۸۸، کنز العمال حدیث ۳۰۷ م مؤسسة الرسالہ بیروت ۱/۸۸

کیا شرط نہیں۔

سادگا بلکہ اس طور پر جو مانع نے اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے مخلوق الہی نہ رہیں گے، دو چیزیں حضور سے پہلے مخلوق قرار پائیں گی اور یہ خلافت حدیث و خلافت نصوص ائمہ قدیم و حدیث۔ حدیث میں ارشاد ہوا:

یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من	اے جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔
نورہ <sup>۱</sup>	

یہاں دو اضافتیں ہیں: نور نبی و نور خدا۔ اور مشتہر کے نزدیک اضافت میں معاشرت شرط ہے تو نور نبی غیر ہو اور نور خدا ہر خدا، اور غیر خدا ہجو کچھ ہے مخلوق ہے تو نور خدا مخلوق ہو اور اس نور سے نور نبی بنا، تو ضرر نور خدا اور نور نبی سے پہلے مخلوق تھا اور نور نبی باقی سب اشیاء سے پہلے بنا، اور اشیاء میں خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، تو نور نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بن اور اس سے پہلے نور خدا بنا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو مخلوق پہلے ہوئے یہ محسن باطل ہے۔  
 سابقًا: حل یہ ہے کہ ایسا غوہجی میں ذاتی مقابل عرضی ہے بایں معنی اللہ عزوجل نور ذاتی و نور عرضی، دونوں سے پاک و منزہ ہے مگر وہ یہاں نہ مراد نہ مفہوم اور عام محاورہ میں ذاتی مقابل صفاتی و اسمائی ہے اور یہاں یہی مقصود، بایں معنی اللہ عزوجل کے لئے نور ذاتی و نور صفاتی و نور اسمائی سب ہیں کہ اس کی ذات و صفات و اسماء کی تجلیاں ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجلی ذات اور انبیاء و اولیاء و سائر خلق اللہ تجلی اسماء و صفات ہیں جیسا کہ ہم نے فتوائے دیگر میں شیخ محقق سے نقل کیا، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علیہ جل مجدہ اتم و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔

<sup>۱</sup> المواهب الدینیة المقصد الاول المكتب الاسلامي بيروت ۱/۱۷

## تقریظ عَلَى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اللَّٰهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ فَقِيرٌ غَفَرَ لِلْمُولَى الْقَدِيرُ نَفَضَ فَاضِلٌ، عَالِمٌ عَامِلٌ، حَافِي الْأَسْنَةِ، مَائِي الْقُنْتَهُ، مَوْلَانَا مُولَى حَبِيبٌ عَلَى صَاحِبِ  
عَلَوِي اِيَّاهُ اللَّٰهُ تَعَالٰى بِالنُّورِ الْعُلُوِيِّ کی یہ تحریر منیر مطالعہ کی فجزئاً اَللّٰهُ عَنْهُ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفٰی الْجَزَاءُ الْأَوَّلُ۔  
مسئلہ بھم اللہ تعالیٰ واضح و مکثوف اور مسلمانوں میں مشہور و معروف ہے، فقیر کے اس میں تین رسائل ہیں۔  
(۱) قَبْرُ التَّيَامِ فِي نَفْيِ الظُّلْمِ عَنْ سَيِّدِ الْأَنْمَرِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ الْصَّلُوٰةِ وَالسَّلَامِ۔

عَلَى: یہ تقریظ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے مولانا حبیب علی علوی کے رسالہ پر لکھی تھی یہ ریلی کے ذخیرہ مسودات سے  
مولانا محمد ابراء تم شاہدی پونپوری نے ۸ ربیع المرجب ۱۴۲۳ھ کو نقل کی۔ یہ نقل محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ  
کے ذخیرہ کتب سے رقم کو ۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ کو دستیاب ہوئی جو پیش نظر مجموعہ رسائل میں شامل کی جا رہی ہے۔  
اس مجموعہ میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کے موضوع پر ایک اور سایہ نہ ہونے کے موضوع پر تین رسائل شامل  
ہیں۔

محمد عبدالقیوم قادری۔

(۲) نفی الغیب عن اسناد بنورہ کل شیء صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) هدی الحیدران فی نفی الغیب عن سید الاکوان علیہ الصلوٰۃ والسلام الاتیمان الاملاک۔

یہاں جناب مجیب مصیب سلمہ القریب کی تائید میں بعض کلام ائمہ کرام علمائے اعلام کا اضافہ کروں۔ امام جلیل جلال الملة والدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ خصائص الکبریٰ شریف میں فرماتے ہیں:

<p>اس نشانی کا بیان کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ حکیم ترمذی نے حضرت ذکوان سے روایت کی کہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ابن سعی نے کہا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا کیونکہ آپ نور ہیں، آپ جب سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ نے دعا فرماتے ہوئے ہوئے کہا: اے اللہ! مجھے نور بناوے۔ (ت)</p>	<p>باب الآیة فی انه لم يكن يرى له ظل. اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم يكن يری له ظل فی شمس ولا قمر، قال ابن سبع من خصائصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ظله کان لا یقع علی الارض وانه کان نوراً فکان اذ مشی فی الشمس او القمر لا ینظر له ظل قال بعضهم ویشهد له حدیث. قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی دعائے واجعلنى نوراً<sup>۱</sup>۔</p>
---	---

موزج اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں:

<p>حضرت انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ نہ ہی سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ دکھائی دیتا تھا۔ ابن سعی نے کہا آپ کے نور ہونے کی وجہ سے اور رزین نے کہا آپ کے انوار کے غلبہ کی وجہ سے۔ (ت)</p>	<p>لم یقع ظله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا رئی له ظل فی شمس ولا قمر قال ابن سبع لانہ کان نوراً، وقال رزین لغبة انوارہ<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ افضل القراء القراء زیر قول ماتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

<sup>1</sup> الخصائص الکبیریٰ بباب الآیة فی انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم يكن يری له ظل مرکزہ السنن گجرات ہند ۲۸/۱

<sup>2</sup> انوذج اللبیب فی خصائص الحبیب

لمساً منك دونهم سنا<sup>۱</sup>  
لم يساووك في علاك وقد حا

(انبیاء علیہم الصلوات والسلام فضیلت میں آپ کے برابر نہ ہوئے آپ کی چمک اور رنعت آپ تک ان کے پنجھے سے مانع ہوئی۔ ت)

فرماتے ہیں:

<p>یہ ماخوذ ہے ان آیات کریمہ سے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام نور رکھا ہے، جیسے آیت کریمہ قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین (تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حواس، اعضا اور بدن کو نور بنا دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے فرماتے کہ اس کا وقوع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو جسم نور بنا دیا ہے تاکہ آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تعالیٰ کا بکثرت شکریہ ادا کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں واقع دعائیگئے کا حکم دیا ہے باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ آپ کی نورانیت کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہ ہوتا کیونکہ سایہ توکثیف چیز کا ظاہر نہ ہوتا کیونکہ سایہ توکثیف چیز کا ظاہر ہوتا ہے جبکہ آپ کو اللہ نے تمام</p>	<p>هذا مقتبس من تسميته تعاليٰ لنبيه نورا في نحوق له تعاليٰ "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين". وكان صلی الله تعاليٰ عليه وسلم يكثر الدعاء بإن الله يجعل للا من حواسه واعصائه وبدنه نوراً اظهراً الواقع ذلك، وتفضل الله تعاليٰ عليه به ليزيد اشكراً وشكر امته على ذلك، كما امرنا بالدعاء الذي في أكرسورة البقرة مع وقوعه، وتفضل الله تعاليٰ به لذلك ومما يؤيد انه صلی الله تعاليٰ عليه وسلم صار نوراً انه كان اذا مشى في الشمس والقمر لم يظهر له ظل لانه لا يظهر الا لكثيف وهو صلی الله تعاليٰ عليه وسلم قد خلصه</p>
--	--

<sup>۱</sup> ام القریٰ فی مدح خیر الوزی الفصل الاول حزب القادریہ لاہور ص ۶

جسمانی کثافتوں سے پاک فرمادیا ہے اور آپ کو خالص نور بنا دیا ہے، چنانچہ آپ کا سایہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔	الله سائر الكثاف الجسامنية وصیرة نورا صرفًا لا يظهر له ظل اصلاً <sup>۱</sup> ۔
---	--

علامہ سلیمان جمل ہمزیہ میں فرماتے ہیں:

سورج اور چاند کی روشنی میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ (ت)	لم يكن له صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم ظل يظهر في الشمس ولا قبر <sup>۲</sup> ۔
--	---

علامہ حسین بن محمد دیار بکری کتاب الحمیس فی احوال انس نقیس میں لکھتے ہیں:

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی سورج و چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا (ت)	لم يقع ظله صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم على الأرض و لارئي له ظل في شمس ولا قبر <sup>۳</sup> ۔
--	--

بعینہ اسی طرح نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی الاطھار میں ہے۔ علامہ سیدی محمد زرقانی شرح موہب شریف میں فرماتے ہیں:

حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ شمس و قمر کی روشنی میں نمودار نہ ہوتا تھا بقول ابن سبع آپ کی نورانیت کی وجہ سے۔ اور کہا گیا ہے کہ عدم سایہ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی کافر آپ کے سایہ پر پاؤں نہ رکھ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے ذکوان ابو صالح السمان زیارات مدنی سے یام المومنین سیدہ عائشہ صدیقۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو عمر مدنی سے، اور وہ دونوں ثقہ تابعین	لم يكن له صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم ظل في شمس ولا قبر لانه كان نورا كما قال ابن سبع وقال رزين لغلبة انواره وقيل حكمة ذلك صبيانته عن يطاء كافر على ظله رواه الترمذى الحكيم عن ذكوان ابى صالح السمان الزيات المدنى او ابى عمرب والمدنى مولى عائشة رضى الله تعالى عنها وكل منها ثقة من التابعين
---	--

<sup>۱</sup> افضل القراء امر القراء (شرح امر القراء) شرح شعر ۲ المجمع الشفافي ابو ظبی / ۱۲۸ و ۱۲۹

<sup>۲</sup> الفتوحات الاحمدية على متن الهمزة لسلیمان جمل. المکتبه التجاریه الكبرى مصر، ص ۵

<sup>۳</sup> تاریخ الخمیس، القسم الثانی النوع الرابع۔ مؤسسة شعبان۔ بیروت، ص ۲۱۹ / ۱

<p>میں سے ہیں، لہذا یہ حدیث مرسل ہے۔ لیکن ابن مبارک اور ابن جوزی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ آپ کا سایہ نہ تھا آپ جب سورج کی روشنی یا چراغ کی روشنی میں قیام فرماتے تو آپ کی چمک سورج اور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ (ت)</p>	<p>فہو مرسل لکن روی ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لم يكن للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ظل ولم يقم مع الشمس قط الا غلب ضوء ضوء السراج<sup>۱</sup>۔</p>
---	---

فضل محمد بن صبان اسعاف الراغبین میں ذکر خصائص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں:

وانہ لافبیع له<sup>۲</sup>۔ (بے شک آپ کا سایہ نہ تھا۔ ت)

حضرت مولوی معنوی قدس سرہ الشریف فرماتے ہیں:۔

چوں فناش از فقر پیرایہ شود<sup>۳</sup> او محمد دار بے سایہ شود

(جب اس کی فقر سے آراستہ ہو جاتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح بغیر سایہ کے ہو جاتا ہے۔ ت)

ملک العلماء بحر العلوم مولانا عبد العالیٰ قدس سرہ، اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

<p>در مصر عقلي اشاره به مجذہ آن سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے مصرع میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مجذہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر واقع نہیں ہوتا تھا۔</p>	<p>است کہ آن سرور راسایہ نبی افتاد<sup>۴</sup>۔</p>
--	---

یہاں اس مسئلہ مسلمہ کے منکر وہابیہ ہیں اور اسماعیل دہلوی کے غلام اور اسماعیل دہلوی کے غلام اور حضرت مجدد کا ادعاء اور حضرت شیخ مجدد

جلد ثالث مکتوبات، مکتبہ صدم میں فرماتے ہیں:

<p>رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔</p>	<p>اور را صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نبود و در عالم</p>
--	---

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی على المواهب اللدنیہ. المقصد الثالث. الفصل الاول. دار المعرفة بيروت ۲۲۰/۳

<sup>۲</sup> اسعاف الراغبین في سيرة المصطفى واهل بيته الطاهرين الباب الاول مصطفى الباجي مصر ۷

<sup>۳</sup> مشتوی معنوی در صفت آں بیخود کہ در بقائی حق فانی شدہ است اخ نورانی کتب خانہ پشاور ص ۱۹

<sup>۴</sup>

<p>عام شہادت میں ہر شخص کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ چونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی شے لطیف نہیں ہے لہذا آپ کے سایہ کی کوئی صورت نہیں بتی۔ آپ پر اور آپ کی آل پر درود وسلام ہو۔ (ت)</p>	<p>شہادت سایہ ہر شخص لطیف ترست و چوں لطیف ترازوے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نباشد اور سایہ چہ صورت دارد علیہ وعلیٰ آله الصلوات والتسليمات۔<sup>۱</sup></p>
---	---

اسی کے مکتب ۱۲۲ میں فرمایا:

<p>واجب تعالیٰ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سایہ تو مثل کے پیدا ہونے کا وہم عدم کمال لطافت اصل، ہرگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را از لطافت ظل نبود خدا نے محمد را چگونہ ظل باشد<sup>۲</sup>۔ جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>واجب تعالیٰ چرا ظل بود کہ ظل موہم تولید بہ مثل ست و منبی از شابیرہ عدم کمال لطافت اصل، ہرگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ بوجہ آپ کی لطافت کے نہ تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا جل وعلا کا سایہ کیوں نکر ہو سکتا ہے۔ (ت)</p>
---	--

اقول: (میں کہتا ہوں۔ ت) مطاعل المسرات شریف میں امام الہست سید نابالو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ سے:

<p>اللہ تعالیٰ نور ہے مگر انوار کی مثل نہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ ہے اور ملائکہ ان انوار کی جھلک ہیں۔ (ت)</p>	<p>انہ تعالیٰ نور لیس کالانوار والروح النبویۃ القدسیۃ لمعۃ من نورہ و المیلکۃ شررتلک الانوار<sup>۳</sup>۔</p>
---	--

پھر اس کی تائید میں حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر انور بنیا اور میرے نور سے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا (ت)</p>	<p>اول مآخلنَ اللہ نوری و من نوری خلق کل شیعی<sup>۴</sup>۔</p>
--	--

<sup>۱</sup> مکتوبات امام ربانی مکتب صدم نوکشور لکھنؤ جلد سوم ص ۷۸

<sup>۲</sup> مکتوبات امام ربانی مکتب ۱۲۲ نوکشور لکھنؤ جلد سوم ص ۷۲۳

<sup>۳</sup> مطاعل المسرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۲۶۵

<sup>۴</sup> مطاعل المسرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۲۶۵

جب ملائکہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنے، سایہ نہیں رکھتے تو حضور کہ اصل نور ہیں جن کی ایک جھلک سے سب ملک بنے کیونکہ سایہ سے منزہ نہ ہوں گے۔ جب کہ ملائکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنے، بے سایہ ہوں، زور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نور الہی سے بنے، سایہ رکھیں۔

حدیث میں ہے کہ آسمانوں میں چار انگل جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے سجدہ میں نہ ہو، ملائکہ کے سایہ ہوتا تو آفتاب کی روشنی ہم تک کیونکہ پہنچتی یا شاید پہنچتی تو ایسی جیسے گھنے پیر میں سے چھن کر خال بند کیاں نور کے سائے کے اندر نظر آتی ہیں، ملائکہ تولیف تر ہیں، نار کے لئے سایہ نہیں بلکہ ہوا کے لئے سایہ نہیں بلکہ عالم نیم کی ہوا کہ ہوا کے بالا سے کثیف تر ہے اس کا بھی سایہ نہیں ورنہ روشنی بھی نہ ہوتی بلکہ ہوا میں ہزاروں لاکھوں ذرے اور قسم قسم کے جانور بھرے پڑے ہیں کہ خورد بین سے نظر آتے ہیں اور بعض بے خورد بین بھی، جبکہ دھوپ کسی بند مکان میں روزن سے داخل ہو ان میں کسی کے سایہ نہیں۔ یہ سب تو قبول کر لیں گے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تن اقدس کی ایسی اطاعت کس دل سے گوارا ہو کہ حضور کے لئے سایہ نہ تھا۔ جانے دو، یہاں ان ذروں کی باریکی جسم کا حیلہ لو گے، آسمان میں کیا کہو گے؟ اتنا بڑا جسم عظیم کہ تمام زمین کو محیط اور اس کا ایک ذرا سائل جس میں آفتاب ہے سارے کرہ زمین سے تین سو چھوٹیں حصے ڈراہے، اسی کا سایہ دکھا دیجئے، اس کا سایہ پڑتا تو قیامت تک تمہیں دن کا منزہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، ہاں ہاں یہی جو نیلگوں چھت ہمیں نظر آتی ہے، یہی پہلا آسمان ہے، قرآن عظیم یہی بتاتا ہے:

قالَ اللَّهُ تَعَالَى "أَقْلَمْ يَنْظُرُ وَإِلَى السَّيَّارَةِ قَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْنَهَا وَرَبِّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ" <sup>1</sup> -
(اللَّهُ تَعَالَى نے فرمایا:) کیا نہیں دیکھتے اپنے اوپر آسمان کو، ہم نے اسے کیسے بنا یا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں شکاف نہیں۔

اور فرماتا ہے: "وَرَبِّهَا لِلَّهُ نَظِيرٌ" <sup>2</sup> - ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لئے آراستہ کیا۔ اور اگر فلاسفہ یونانی کی فصلہ خوری سے بھی مانئے کہ جو نظر آتا ہے فالک نہیں، کرہ بخار ہے۔

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۲/۵۰

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۱۶/۱۵

جب ہمارا مطلب حاصل کہ اتنا بڑا جسم عظیم عنصری سایہ نہیں رکھتا، اسے آسمان کہو یا کرہ بخار، بینات جدیدہ کا کفر اوڑھو کہ آسمان کچھ ہے ہی نہیں، یہ جو نظر آتا ہے محض موبہوم و بے حقیقت حد رنگا ہے، تو ایک بات ہے مگر آسمانی کتاب پر ایمان لا کر آسمان سے انکار کرنا ناممکن۔

غرض جب دلیل قاہر سے ثابت کہ جسم عنصری کے لئے سایہ ضروری نہیں، تو نیچر یوں کی طرح خلاف نیچر ہونے کا جو ہمیانہ استبعاد تھا وہ اوڑھ لیا، پھر کیا وجہ کہ ائمہ کرام طبقۃٗ فطیۃٗ جو فضیلت ہمارے جبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے نقل فرماتے ہیں اور مقبول و مقرر رکھتے آئے اور عقل و نقل سے کوئی اس کا واقع نہیں، تسلیم نہ کیا جائے یا اس میں چون وچرا برتری جائے اسے سوائے مرض قلب کے کیا کہئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو بیمار دل گوارا نہیں کرتا "یَسِّرْ مُصْدَرَةً لِلْإِسْلَامٍ" <sup>۱</sup>۔ (اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے) کی دولت نہ ملی کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ قبول و تسلیم کے لیے کھول دیتا، ناچار "يَجْعَلُ صَدْرَهُ أَصِيقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ" <sup>۲</sup> (اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ ت) کے آڑے آتی۔ دل تنگ ہو کر گور کافر کے مثل ہو جاتا اور فضیلت کا منکر کیجہ چار چھلتا گویا آسمان کو چڑھا جاتا ہے "كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْجَسْعَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ" <sup>۳</sup> (العیاذ باللہ رب العالمین۔ واللہ سب سخنه تعالیٰ اعلم (اللہ یوں ہی عذاب میں ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور اللہ رب العالمین کی پناہ۔ اور اللہ سب سخنه تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ت)

رسالہ

صلات الصفاء في نور المصطفى

ختم ہوا

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۲۵/۶

<sup>۲</sup> القرآن الکریم ۱۲۵/۶

<sup>۳</sup> القرآن الکریم ۱۲۵/۶

## رسالہ

**نفی الفیئ عمن استنار بنورہ کل شیئ** ۱۴۹۶ھ

(اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہر مخلوق منور ہوئی)

مسئلہ ۲۳: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سایہ تھا یا نہیں؟ بینوا توجرو (بیان فرمائیے اجردئے جاؤت)

### الجواب:

<p>ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے رسول کریم پر درود سچھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے تمام اشیاء سے قبل ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، اور تمام نوروں کے آپ کے ظہور کے جلووں سے بنایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نوروں کے نور اور ہر شمس و قمر کے مدد ہیں۔ آپ کے رب نے اپنی کتاب کریم میں آپ کا</p>	<p>نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ط الحمد لله الذی خلق قبل الاشیاء نور نبینا من نورہ و فلق الانوار جیساً من لیحات ظہورہ فهو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور الانوار و مید جمیع الشیووس والا قیار سیاہ ربه فی کتابہ الکریم</p>
--	--

نام نور اور سراج منیر رکھا ہے۔ اگر آپ جلوہ فلّن نہ ہوتے تو سراج روشن نہ ہوتا، نہ آج کل سے ممتاز ہوتا اور نہ ہی خمس کے لئے وقت کا تعین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود نازل فرمائے اور آپ کے نور سے مستین ہونے والوں پر جو مٹ جانے سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بنائے دنیا میں اور اس دن جس میں نبیں سنائی دے گی مگر بہت آہستہ آواز۔

(ت)

نورا و سراجاً منيراً فلولاً إنْ رَتَه لِمَا اسْتَنَارَتْ شَمْسٍ و  
لَا تَبَيَّنَ يَوْمٌ مِنْ امْسٍ وَلَا تُعَيَّنَ وَقْتٌ لِلْخَمِيسِ صَلَّى  
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْتَنَارِيْنَ بِنُورِهِ الْمَحْفُظِيْنَ  
عَنِ الطَّبَسِ جَعَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ لا  
يَسْعِ الْاَهْمَسِ۔

بیشک اس مہر سپہر اصطغاء، ماہ منیر اجتباء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا، اور یہ امر احادیث و اقوال علماء کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جہابذ فضلاء مثل حافظ رزین محدث و علامہ ابن سعیج صاحب شفاء الصدور و امام علامہ قاضی عیاض صاحب کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ و امام عارف باللہ سیدی جلال الملة والدین محمد بلجی روی قدس سره، و علامہ حسین بن دیار بکری و اصحاب سیرت شافعی و سیرت طلبی و امام علامہ جلال الملة والدین سیوطی و امام شمس الدین ابو الفرج ابن جوزی محدث صاحب کتاب الوفاء و علامہ شہاب الحق والدین خفاجی صاحب نسیم الریاض و امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ و منیخ محمدیہ و فناصل اجل محمد زرقانی مالکی شارح مواہب و شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی و جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروقی سرہندی و بحر العلوم مولانا عبد العلی لکھنؤی و شیخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی وغیرہم اجلہ فاضلین و مقتداً یاں کہ آج کل کے مدعاوین خام کارکوان کی شاگردی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں، خلافاً عن سلف دامگا اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تاسیس و تشبیہ کی۔

حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا و ھوپ میں نہ چاند نی میں۔

فقد اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یڑی له ظل فی شمس ولا قبر<sup>۱</sup>۔

سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمہما اللہ تعالیٰ حضرت سید ناوی

<sup>۱</sup> الخصائص الکبیزی بحوالہ الحکیم الترمذی باب الآیة فی انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یڑی له ظل مرکزہلسنت گجرات ہند ۲۸/۱

ابن سید نا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

<p>یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا، اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ ان کا نور عالم افروز خور شید کی روشنی پر غالب آگیا، اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی پچک کو دبایا۔</p>	<p>قال لم يكن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظل، ولم يقم مع شمس قط الالغلب ضوء الشمسم، ولم يقم مع سراج قط الالغلب ضوء على ضوء السراج<sup>۱</sup>۔</p>
--	--

امام علم حافظ جلال الملة والدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب خصائص کبریٰ میں اس معنی کے لئے ایک باب وضع فرمایا اور اس میں حدیث ذکوان ذکر کے نقل کیا:

<p>یعنی ابن سبع نے کہا حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ نور مخفی تھے، توجہ دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعائیں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے۔</p>	<p>قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الأرض وانه كان نورا فكان اذا مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حدیث قول صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائة واجعلني نورا<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

نیز انہوذج اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب ثانی فصل رابع میں فرماتے ہیں:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑا، حضور کا سایہ نظر نہ آیا نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ ابن سبع نے فرمایا اس لئے کہ حضور نور ہیں۔ امام رزین نے فرمایا اس لئے کہ حضور کے انوار سب پر غالب ہیں۔</p>	<p>لم يقع ظله على الأرض ولا رأى له ظل في شمس ولا قبر قال ابن سبع لانه كان نورا قال رزين لغبۃ انوارہ<sup>۳</sup>۔</p>
---	--

<sup>۱</sup> الوفاء بحوال المصطفى الباب التاسع والعشرون مکتبۃ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۷/۲۷۰

<sup>۲</sup> الخصائص الكبیری باب الآیۃ انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم يكن يرى له ظل مركزا ہلست برکات رضا گجرات ہند ۱/۲۸

<sup>۳</sup> انہوذج اللبیب

امام علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ شفاء شریف میں فرماتے ہیں:

یعنی حضور کے دلائل نبوت و آیات رسالت سے ہے وہ بات جو مذکور ہوئی کہ آپ کے جسم انور کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں اس لئے کہ حضور نور ہیں۔	<b>وما ذکر من انه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قبر لانه كان نوراً<sup>۱</sup>۔</b>
--	--

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح شیم الریاض میں فرماتے ہیں: دھوپ اور چاندنی اور جو روشنیاں کہ ان میں بسبب اس کے کہ اجسام، انوار کے حاجب ہوتے ہیں الہذا ان کا سایہ نہیں پڑتا جیسا کہ انوار حقیقت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پھر حدیث کتاب الوفاء ذکر کر کے اپنی ایک رباعی انشاد کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سایہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن بسبب حضور کی کرامت و فضیلت کے زمین پر نہ کھینچا گیا اور تجب ہے کہ باوجود اس کے تمام آدمی ان کے سایہ میں آرام کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: بہ تحقیق قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا، اگر تو صحیح تودہ نور علی نور ہیں۔

وہذا مانصہ الخفاجی (خفاجی کی عبارت یہ ہے):

حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلائل نبوت سے ہے وہ جو کہ مذکور ہوا، اور وہ جواب بن سبع نے ذکر فرمایا کہ آپ کے تشخّص یعنی جسم الاطہر ولطیف کا سایہ نہ ہوتا جب آپ دھوپ اور چاندنی میں تشریف فرماتے ہیں یعنی وہ روشنیاں جن میں سائے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اجسام، شمش و قمر وغیرہ کی روشنی کے لئے حاجب ہوتے ہیں۔ بن سبع نے اس کی علمت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں اور انوار شفاف ولطیف ہوتے ہیں وہ غیر کے لئے حاجت نہیں ہوتے اور ان کا سایہ	(و) ومن دلائل نبوته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (ما ذکر بالبناء للمجهول والذی ذکرہ ابن سبع (من انه) بیان لمآ الموصولة (لا ظل لشخصه) ای لجسده الشريف اللطیف اذا كان (في شمس ولا قبر) میاتری فیه الظلال لحجب الاجسام ضوء النیراين ونحوها وعلل ذلك ابن سبع بقوله (لانه) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (كان نوراً) والانوار شفافة لطيفة لاتحجب غير هامن الانوار فلا ظل لها
---	--

<sup>۱</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل و من ذلك ما ظهر من الآیات دار الكتب العلمية بيروت ۲۲۵/۱

نہیں ہوتا جیسا کہ انوار حقیقت میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کو صاحب وفاء نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ کھڑے ہوئے آپ کبھی سورج کے سامنے مگر آپ کا نور سورج پر غالب آگیا، اور نہ قیام فرمایا آپ نے چراغ کے سامنے مگر آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آگیا۔ یہ اور اس پر کلام پہلے گزر چکا ہے اور اس سلسلہ میں رباعی جو کہ یہ ہے: حضرت امام الانبیاء احمد مجتہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ اُدس نے آپ کی کرامت و فضیلت کی وجہ سے دامن زمین پر نہیں کھینچا جیسا کہ لوگوں نے کہا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ عدم سایہ کے باوجود سب لوگ آپ کے سایہ رحمت میں آرام کرتے ہیں۔<sup>11</sup>

یہاں قَالُوا، قِيلُوله سے مشتق ہے (ند کہ قول سے) تحقیق القرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا۔ اگر تو سمجھے تو آپ نور علی نور ہیں، کیونکہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہوں اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس کی تفصیل مشکوٰۃ الانوار میں ہے۔ (ت)

کیا ہو مشاہد فی الانوار الحقيقة وہذا رواہ صاحب الوفاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن لرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع شمس الا غالب ضوئه ضوئها ولا مع سراج الا غالب ضوئه ضوئه وقد تقدم هذَا والكلام علیه و رباعيتهما فيه وهن

ماجر لظل احمد اذیال فی الارض کرامۃ کما قد قالوا هذا عجب وكم به من عجب والناس بظله جبیعا قالوا "وقالوا هذَا من القليلة وقد نطق القرآن بانه النور البین وكونه بشرا لا ينافيہ کیا توهہ فان فهمت فهو نور على نور فان النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره وتفصیله فمشکوٰۃ الانوار<sup>1</sup> انتهى۔

حضرت مولوی معنوی قدس سرہ القوی دفتر پنجم مشنوی شریف میں فرماتے ہیں:-

<sup>1</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض مرکزہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۸۲/۳

چوں فناش از فقر پیرایہ شود<sup>۱</sup>  
او محمد داربے سایہ شود<sup>۱</sup>

(جب اس کی فاقر سے آراستہ ہو جاتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح بغیر سایہ کے ہو جاتا ہے۔ ت)  
مولانا بحر العلوم نے شرح میں فرمایا:

در مصرع ثانی اشارہ بمعجزہ آن سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے مصرع میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ (ت)	کہ آن سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راسایہ نبی افتاد <sup>۲</sup>
---	--

امام علامہ احمد بن محمد خطیب قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ موہب لدنیہ منبغ محمدیہ میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا دھوپ میں نہ چاندی میں۔ اسے حکیم ترمذی نے ذکوان سے پھر ابن سبع کا حضور کے نور سے استدلال اور حدیث اجعلنی نوراً (مجھے نور بنا دے۔ ت) سے استشاہ دکر کیا۔ حیث قال (امام قسطلانی نے فرمایا۔ ت):

دھوپ اور چاندی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا۔ اس کو ترمذی نے ذکوان سے روایت کیا۔ ابن سبع نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے، جب آپ دھوپ اور چاندی میں چلتے تو سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کے گیرے ہے اس کا شاہد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو آپ دعا میں کہتے کہ اے اللہ! مجھے نور بنا دے۔ (ت)	لَمْ يَكُنْ لِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمِيرٍ رواہ الترمذی عن ذکوان. وقال ابن سبع كان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوراً فكان اذا مشى في الشمسم او القمر لا يظهر له ظل قال غيرة ويشهد له قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم في دعائے واجعلنی نوراً <sup>۳</sup>
--	--

اسی طرح سیرت شامی میں ہے:

یعنی امام ترمذی نے یہ اضافیہ کیا: اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی کافر سایہ اقدس پر پاؤں نہ رکھے	وَزَادَ عَنِ الْإِمَامِ الْحَكِيمِ قَالَ مَعْنَاهُ لَثَلَاثِي طَاعَ عَلَيْهِ كَافِرٌ فِي كُونِ
--	---

<sup>1</sup> مثنوی معنوی در صفت آں بیخود ک دربقای حق فانی شدہ است دفتر چشم نورانی کتب خانہ پشاور ص ۱۹

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> المواہب الدینیۃ المقصد الثالث الفصل الاول المکتب الاسلامی بیروت ۷/۲

کیونکہ اس میں آپ کی توبہ ہے۔	مذلة له <sup>۱</sup>
------------------------------	----------------------

اقول: سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لئے جاتے تھے، ایک یہودی حضرت کے گرد عجب حرکات اپنے پاؤں سے کرتا جاتا تھا اس سے دریافت فرمایا، بولا: بات یہ ہے کہ اور تو کچھ قابو ہم تم پر نہیں پاتے جہاں تمہارا سایہ پڑتا ہے اسے اپنے پاؤں سے روندا چلتا ہوں۔ ایسے خبیثوں کی شرارتوں سے حضرت حق عز جلالہ، نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ نیزاںی طرح سیرت حلیہ میں قدر مافی شفاء الصدور۔

محمد زر قانی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح میں فرماتے ہیں: حضور کے لئے سایہ نہ تھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نور ہیں، جیسا کہ ابن سبع نے کہا اور حافظ رزین محدث فرماتے ہیں: سبب اس کا یہ تھا کہ حضور کا نور ساطع تمام انوار عالم پر غالب تھا، اور بعض علماء نے ہمہ کہ حکمت اس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانا ہے اس سے کہ کسی کافر کا پاؤں ان کے سایہ پر نہ پڑے۔ وہذا کلامہ برمہ (زر قانی کی اصل عبارت):

<p>حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا نہ دھوپ میں اور نہ ہی چاندنی میں، کیونکہ آپ نور ہیں جیسا کہ ابن سبع نے فرمایا۔ رزین نے فرمایا عدم سایہ کا سبب آپ کے انوار کا غلبہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی حکمت آپ کو بچانا ہے اس بات سے کہ کوئی کافر آپ کے سایہ پر اپنا پاؤں رکھے۔ اس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے زکوان ابو صالح السمان زیارات المدنی سے یاسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کرودہ غلام ابو عمر والمدنی سے اور وہ دونوں ثقہ تابعین میں سے ہیں، چنانچہ یہ حدیث مرسل ہوئی، مگر ابن مبارک اور ابن جوزی نے</p>	<p>(ولم يكُن له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل في شبیس ولا قبر لانه كان نورا كما قال ابن سبع وقال رزین لغلبة انواره قيل وحكمة ذلك صيانته عن ان يطأ كافر على ظله) (رواہ الترمذی الحکم عن ذکوان) ابی صالح السیمان الزیارات المدنی اوابی عمرو المدنی مولی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وكل منها ثقة من التابعين فهو مرسل لكن روی ابن المبارک و</p>
--	---

<sup>1</sup> سبل الهدی والرشاد الباب العشرون فی مشییہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دارالکتب العلمیہ بیروت ۹۰/۲

<p>سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، آپ کبھی بھی سورج کے سامنے جلوہ افروز نہ ہوئے مگر آپ کا نور سورج کے نور پر غالب آگیا اور نہ ہی کبھی آپ چراغ کے سامنے کھڑے ہوئے مگر آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آگئی۔ ابن سعیں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے۔ آپ جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نمودار نہ ہوتا کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس کے غیر نے کہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات اس کے شاہد ہیں جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کے تمام اعضا اور جہات کو نور بنا دے، اور آخر میں یوں کہاے اللہ! مجھے نور بنا دے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ استدلال تمام ہوا۔ (ت)</p>	<p>ابن الجوزی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما له یکن للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع الشیس قط الاغلب ضوہہ ضوء الشیس ولم یقم مع سراج قط الاغلب ضوہہ ضوء السراج (وقال ابن سعیں کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور افکان اذا مشی فی الشیس والقیر لا يظهر له ظل) لان النور لا ظل له (قال غیره ویشهد له قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی دعائہ) لما سئل اللہ تعالیٰ ان يجعل فی جميع اعضاہ و جهاته نوراً ختم بقوله (واجعلنی نوراً) و النور لا ظل له وبه يتم الاستشهاد<sup>۱</sup> انتهى۔)</p>
--	---

علام حسین بن محمد دیار بکری کتاب الحمیس فی احوال انفس نفیس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) انوع الرائع ما ختص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم به من الکرامات میں فرماتے ہیں:

<p>حضور کا سایہ زمین پر نہ پڑتا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں نظر آتا۔</p>	<p>لہم یقع ظله علی الارض ولا رئی له ظل فی شمس ولا قیر<sup>۲</sup>۔</p>
---	--

بعینہ اسی طرح کتاب "نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی الاطھار" میں ہے۔  
امام نسفی تفسیر مدارک شریف میں زیر قوله تعالیٰ: "لَوْلَا إِذْ سَعَمُوا هُكَلَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُوْمُتِّبِأَنْفُسِهِمْ حَيْرًا"<sup>۳</sup>۔ (کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر

<sup>1</sup> شرح الزرقانی المواہب اللدنیۃ المقصد الثالث الفصل الاول دار المعرفة بیروت ۲۲۰/۳

<sup>2</sup> تاریخ الحمیس القسم الثانی انوع الرابع مؤسسة الشعبان بیروت ۲۱۹/۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۱۲/۲۳

نیک گمان کیا ہوتا۔ ت) فرماتے ہیں:

<p>امیر المؤمنین عثمان غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔<sup>۱</sup></p>	<p>قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ مَا وَقَعَ ظُلْمٌ عَلَى الارض لَئِلَيْضَعُ انسان قَدْمَهُ عَلَى ذُلْكَ الظُّلْمِ۔</p>
---	--

امام ابن حجر مکی افضل القری میں زیر قول ماتن قدس سرہ نے

ل سنام نک دونہم و سناء<sup>۲</sup>

ل مدیسا و وک فی علاک و قدحا

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فضائل میں حضور کے برادر نہ ہوئے حضور کی چک اور رفت حضور تک ان کے پیچنے سے مانع ہوئی۔

فرماتے ہیں:

<p>یعنی یہ معنی اس سے لئے گئے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نور رکھا مثلاً اس آیت میں کہ پیش تھا رے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے اور روشن کتاب۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے کہ الہی! میرے تمام حواس واعضاء سارے بدن کو نور کر دے۔ اور اس دعا سے یہ مقصود نہ تھا کہ نور ہونا بھی حاصل نہ تھا اس کا حصول مانگتے تھے بلکہ یہ دعا اس امر کے خاتمہ فرمانے کے لئے تھی کہ واقع میں حضور کا تمام جسم پاک نور ہے اور یہ فضل اللہ عزوجل نے حضور پر کر دیا تاکہ آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں۔</p>	<p>هذا مقتبس من تسميتها تعالى لنبيه نورا في نحو "قد جاءكم من الله نور و كتب مبين" وكان صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم يكثر الدعا بـأَن اللہ تعالیٰ يجعل كلام من حواسه و أعضائه و بدنـه نوراً اظهـار الـوقـوع ذـلك وتفـضل اللـه تعالـي عـلـيـه بـه ليـز دـاد شـكـرـه وـشـكـرـاـمـته عـلـى ذـلـكـ كـمـاـ اـمـرـنـاـ بـالـدـعـاءـ الذـىـ فـيـ أـخـرـ سـوـرـةـ الـبـقـرـةـ معـ وـقـوـعـهـ وـتـفـضـلـ اللـهـ تعالـيـ بـهـ لـذـلـكـ وـمـاـ يـؤـيـدـاـنـهـ صـلـيـ اللـهـ تعالـيـ</p>
---	--

<sup>۱</sup> مدارک التنزیل (تفسیر النسفي) تحت الآية ۱۲/۲۳ دار الكتاب العربي بيروت ۱۳۵/۳

<sup>۲</sup> ام القریٰ فی مدح خیر الوزی الفصل الاول حزب القادریہ لاہور ص ۶

<p>جیسے ہمیں حکم ہوا کہ سورہ بقر شریف کے آخر کی دعا عرض کریں وہ بھی اسی اظہار و قوع و حصول فضل الہی کے لئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور محسن ہو جانے کی تائید اس سے ہے کہ دھوپ یا چاندنی میں حضور کا سایہ نہ پیدا ہوتا اس لئے کہ سایہ توکثیف کا ہوتا ہے اور حضور اللہ تعالیٰ نے تمام جسمانی کشافتوں سے خالص کر کے زر انور کر دیا ہے اسی حضور کے لئے سایہ اصلانہ تھا۔</p>	<p>علیہ وسلم صار نورا انه كان اذا مشى في الشميس والقبر لم يظهر له ظل لانه لا يظهر الا كثيف وهو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد خلصه اللہ من سائر الكثائف الجسمانية وصیرة نورا صرفاً لا يظهر له ظل اصلاً<sup>۱</sup></p>
--	--

علامہ سلیمان جمل فتوحات احمدیہ شرح ہمزیہ میں فرماتے ہیں:

<p>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں ظاہر ہوتا نہ چاندنی میں۔</p>	<p>لم يكن له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل يظهر في شميس ولا قبر<sup>۲</sup></p>
---	--

فضل محمد بن فہمیہ کی "اسعاف الراغبین فی سیرۃ المصطفیٰ وآل بیتہ الطاہرین" میں ذکر خصائص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے:

<p>حضور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حضور کے لئے سایہ نہ تھا۔</p>	<p>وانه لا فيع له<sup>۳</sup></p>
---	-----------------------------------

جمع البحار میں برہم شیعی زبدہ شرح شفاء شریف میں ہے:

<p>حضور کا ایک نام مبارک "نور" ہے، حضور کے خصائص سے شمار کیا گیا کہ دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ نہ پیدا ہوتا۔</p>	<p>من اسمائه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قيل من خصائصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه اذا مشى في الشميس والقبر لا يظهر له ظل<sup>۴</sup></p>
--	---

<sup>1</sup> افضل القراء ام القراء (شرح ام القراء) شرح شعر ۲ المجمع الشقانی ابوظبی ۱۲۸ و ۱۲۹

<sup>2</sup> الفتوحات الاحمدية على متن الہمزیہ سلیمان جم المکتبۃ التجاریۃ الکبیری مدرسہ

<sup>3</sup> اسعاف الراغبین فی سیرۃ المصطفیٰ وآل بیتہ الطاہرین علی هامش الابصار دار الفکر بیروت ص ۷۶

<sup>4</sup> مجمع بحار الانوار باب نون تحت لفظ "النور" مکتبہ دارالایمان مدینۃ المنورہ ۲/۸۲۰

شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبوة میں فرماتے ہیں:

<p>سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہ تھا۔ بروایت حکیم ترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول ہے ان بزرگوں نے اس ضمن میں چراغ کا ذکر نہیں کیا اور ۱۱۰۰ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ (ت)</p>	<p>ونبود مرآت خضرت را صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نہ در آفتاب و نہ در قمر رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول و عجب است ایں بزرگان کہ کہ ذکر نکر دند چراغ را نور یکے از اسمائے آنحضرت است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نور را سایہ نہی باشد انتی۔<sup>۱</sup></p>
---	--

جناب شیخ مجدد جلد سوم مکتوپات، مکتوپات صدم میں فرماتے ہیں:

<p>آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، عالم شہادت میں ہر شخص کا سایہ اس سے بہت لطیف ہوتا ہے، اور چونکہ جہان بھر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز لطیف نہیں ہے لہذا آپ کا سایہ کیوں نکر ہو سکتا ہے! (ت)</p>	<p>اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نبود در عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است و چون لطیف ترے ازوے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در عالم نباشد اور اسایہ چہ صورت دارد<sup>۲</sup>۔</p>
--	---

نیز اسی کے آخر مکتب ۱۲۲ میں فرماتے ہیں:

<p>اللہ تعالیٰ کا سایہ کیوں نکر ہو، سایہ تو وہم پیدا کرتا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کمال لطافت نہیں ہے، دیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نکر ممکن ہے۔ (ت)</p>	<p>واجب راتحالی چراطل بود کہ ظل موہم تولید بہ مثل است و منبی از شائیبہ عدم کمال لطافت اصل، ہرگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را از لطافت ظل نبود خداۓ محمد اچگونہ ظل باشد<sup>۳</sup>۔</p>
--	---

<sup>1</sup> مدارج النبوة بباب اول بیان سایہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ۲۱/۱

<sup>2</sup> مکتوپات امام ربانی مکتب صدم نوکشور لکھنؤ ۱۸/۳

<sup>3</sup> مکتوپات امام ربانی مکتب ۱۲۲ نوکشور لکھنؤ ۲۳/۳

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی سورہ والضحیٰ میں لکھتے ہیں: سایہ ایشان بر زمین نہیں افتاد۔ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑا۔ فقیر کہتا ہے غفران اللہ لہ، استدلال ابن سینع کا حضور کے سراپا نور ہونے سے جس پر بعض علماء نے حدیث واجعلنی نورا (مجھے نور بنادے۔ ت) سے استشاہ اور علمائے لا حسین نے اسے اپنے کلمات میں بنظر احتجاج یاد کیا۔

ہمارے مدعا پر دلالت واضح یہ ہے، دلیل شکل اول بدیہی الامتناج و مقدموں سے مرکب، صغیری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں، اور کبڑی یہ کہ نور کے لئے سایہ نہیں، جو ان دونوں مقدموں کو تسلیم کرے گا تب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا، آپ ہی پائے گا: مگر دونوں مقدموں میں کوئی مقدمہ ایسا نہیں جس میں مسلمان ذی عقل کو گنجائش گھنگھو ہو، کبڑی توہر عاقل کے نزدیک بدیہی اور مشابہ بصر و شہادت بصیرت سے ثابت، سایہ اس جس کا پڑے گا جو کثیف ہو اور انوار کو اپنے ماراء سے حاجب، نور کا سایہ پرے تو تسویر کون کرے۔ اس لئے دیکھو آفتاب کے لئے سایہ نہیں، اور صغیری یعنی حضور والا کا نور ہونا مسلمان کا تواہیمان ہے، حاجت پیان جنت نہیں مگر تبکیت معاندین کے لئے اس قدر اشارہ ضرور کہ حضرت حق سبحانہ، و تعالیٰ فرماتا ہے:

اے نبی! ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیئے والا اور ڈر سنانے والا اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ چمکتا۔	”يَكُوْنُ اللَّهُ إِلَّا أَكْرَمُ سَلَّيْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَأَنْذِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا“ <sup>2</sup>
--	--

یہاں سراج سے مراد چراغ ہے یاماہ یا مہر، سب صورتیں ممکن ہیں، اور خود قرآن عظیم میں آفتاب کو سراج فرمایا:

اور بنا یا پروردگار نے چاند کو نور آسمانوں میں اور بنا یا سورج کو چراغ۔ (ت)	”وَجَعَلَ النَّمَاءَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سَرَاجًا“ <sup>3</sup>
---	--

اور فرماتا ہے:

<sup>1</sup> فتح القدير (تفسیر عزیزی) پ ۱۷۰ سورہ الضحیٰ مسلم بک ڈپ، لال کنوائی، دہلی ص ۳۱۲

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲۵/۳۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۱۶/۷۱

<b>بِتَحْقِيقِ آيَاتِهِ مَارِيٍّ</b> پاٹھ کے تاریخی اور علمی اثبات روشن۔	<b>فَقُدْجَاءَ كَمْ مِنَ النَّوْرٍ وَكُلُّ بَمْبَيْنٌ ۝</b> <sup>۱</sup>
--	--

علماء فرماتے ہیں: نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح آیہ کریمہ "وَالنَّجْمٌ إِذَا هُوَى ۝"<sup>۲</sup> (اس پیارے چمکتے تارے میں کی قسم جب یہ میان راج سے اترے۔ ت) میں امام جعفر صادق اور آیہ کریمہ "وَمَا أَدْلَمْكَ مَا لَطَابَ قُلْ ۝  
النَّجْمُ إِذَا هُوَى ۝"<sup>۳</sup> (اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آئے والا کیا ہے، چمکتا تارے ت) میں بعض مفسرین نجم اور النَّجْمُ إِذَا هُوَى ۝ سے ذات پاک سید ولاد مراد لیتے ہیں<sup>۴</sup> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری و مسلم وغیرہماں کی احادیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول جس کا خلاصہ یہ ہے:

الٰہی! میرے دل اور میری جان اور میری آنکھ اور میرے کان اور میرے گوشت و پوست و خون و استخوان اور میرے زیر و بالا و پس و پیش و چپ و راست اور ہر عضو میں نور اور خود مجھے نور کر دے۔	اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصرى نوراً وفي سمعى نوراً وفي عصبى نوراً وفي لحسى نوراً وفي دمى نوراً وفي شعرى نوراً وفي بشرى نوراً وعن يدينى نوراً وعن شمالي نوراً و امان مى نوراً و خلفى نوراً فوق نوراً و تختى نوراً و اجعلنى نوراً <sup>۵</sup>
---	---

جب وہ یہ دعا فرماتے اور ان کے سنتے والے نے انہیں ضیائے تابندہ و مہر در خشنده و نور الٰہی کہا پھر اس جانب کے نور ہونے میں مسلمان کو کیا شبہ رہا، حدیث ابن عباس میں ہے کہ ان کا نور چراغ و خوشنید پر غالب آتا۔ اب خدا جانے غالب آنے سے یہ مراد کہ

<sup>۱</sup> القرآن الكريم ۱۵/۵

<sup>۲</sup> القرآن الكريم ۱/۵۳

<sup>۳</sup> القرآن الكريم ۳۰۲/۸۲

<sup>۴</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الفصل الرابع دار الكتب العلمية بيروت ۱/۴۷

<sup>۵</sup> صحیح البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء قریبی کتب خانہ کراچی ۹۳۵/۲، صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین باب صلوٰۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۲۶۱، جامع الترمذی ابواب الدعوات باب منه امین کپنی دہلی ۱/۲۷۴

ان کی روشنیاں اس کے حضور پھیلی پڑ جائیں جیسے چراغ پیش مہتاب یا یکسر ناپدید و کالعدم ہو جاتیں جیسے ستارے حضور آفتاب۔  
ابن عباس کی حدیث میں ہے:

جب کلام فرماتے دانتوں سے نور چھنتا نظر آتا۔	وَاذَا تَكْلِمُ رَئِيْسَ الْجَنَّةِ مِنْ بَيْنِ ثَنَيَّيْهِ <sup>۱</sup>
---	--

وصاف کی حدیث میں وارد ہے:

<p>یعنی حضور کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا، بلند بنی تھی اور اس پر ایک نور کا باتکا مختلی رہتا کہ آدمی خیال نہ کرے تو ناک ماس روشن نور کے سبب بہت اوپری معلوم ہو، کپڑوں سے باہر جو بدن تھا یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں وغیرہ، نہایت روشن و تابندہ تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی کل عضو من جسمہ الانوار الاعطر و بارک و سلم (اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور معطر کے ہر عضو پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ ت)</p>	<p>يَتَلَأَّعْ وَجْهَهُ تَلَأَّعُ الْقَبْرُ لِيَلَا الْبَدْرُ أَقْتَى الْعَرَنِينَ لَهُ نُورٌ يَعْلَمُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَأْمِلْهُ إِنَّمَا نُورُ الْمُتَجَرِّدِ<sup>۲</sup></p>
--	--

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

گویا آفتاب ان کے چہرے میں میں روشن تھا۔	كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ <sup>۳</sup>
---	---

اور فرماتے ہیں:

جب حضور ہستے دیواریں روشن ہو جاتیں۔	وَإِذَا نَحَّحَ كَيْلَانُ الْجَدَرِ <sup>۴</sup>
-------------------------------------	--

<sup>۱</sup> تاریخ دمشق الكبير باب ماروی فی فصاحة لسانه دار احیاء التراث العربي بیروت ۸/۹، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ الباب الثانی فصل وان قلت اکرمک اللہ دارالکتب العلمیہ بیروت /۱/، شیائل الترمذی باب ماجاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین کمپنی دہلی ص ۲

<sup>۲</sup> شیائل الترمذی باب ماجاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین کمپنی دہلی ص ۲

<sup>۳</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ الباب الثانی فصل ان قلت اکرمک اللہ دارالکتب العلمیہ بیروت /۱/۳۶

<sup>۴</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ الباب الثانی فصل ان قلت اکرمک اللہ دارالکتب العلمیہ بیروت /۱/۳۶

ربيع بنت معوذ فرماتی ہیں:

اگر تو انہیں دیکھتا، کہتا آفتاب طوع کر رہا ہے۔	لورأیت لقلت الشمیس طالعۃ <sup>۱</sup>
--	---------------------------------------

ابو قرقاصانہ کی مال اور خالہ فرماتی ہیں:

ہم نے نور سانکلے دیکھا ان کے دہان پاک سے۔	رأینا كان النور يخرج من فيه <sup>۲</sup>
---	--

احادیث کثیرہ مشہورہ میں وارد، جب حضور پیدا ہوئے ان کی روشنی سے بصرہ اور روم و شام کے محل روشن ہو گئے۔ چند روایتوں میں ہے:

آپ کے لئے شرق سے غرب تک منور ہو گیا۔	اضاء له مابین المشرق والغارب <sup>۳</sup>
--------------------------------------	---

اور بعض میں ہے:

تمام دنیا نور سے بھر گئی۔	امتلاء الدنيا كله انواراً <sup>۴</sup>
---------------------------	--

آمنہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں:

میں نے ان کے سر سے ایک نور بُند ہوتا دیکھا کہ آسمان تک پہنچا۔	رأیت نور اساطعاً من رأسه قد بلغ السماء <sup>۵</sup>
---	---

ابن عساکر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی: "میں سیق تھی، سوئی گڑپڑی، تلاش کی، نہ ملی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے نور رخ کی شعاع سے سوئی ظاہر ہو گئی"<sup>۶</sup>۔

<sup>۱</sup> المواهب البدنية عن ربيع بنت معوذ المقصد الثالث الفصل الاول المكتبة الاسلامية بيروت ۲۲۳/۲

<sup>۲</sup> مجمع الزوائد بحوالہ الطبرانی كتاب علامات النبوة بباب صفة صلی اللہ علیہ وسلم دار الكتاب بيروت ۲۸۰/۸

<sup>۳</sup> المواهب البدنية المقصد الاول احاديث اخرى في المولد المكتبة الاسلامية بيروت ۱۳۰/۱

<sup>۴</sup> الخصائص الكبیری بباب ماظهر في ليلة مولده صلی اللہ علیہ وسلم من المعجزات الخ مركز إلہست گجرات ہند ۱۷/۲

<sup>۵</sup> الخصائص الكبیری بباب ماظهر في ليلة مولده صلی اللہ علیہ وسلم من المعجزات الخ مركز إلہست گجرات ہند ۱۹/۲

<sup>۶</sup> الخصائص الكبیری بحوالہ ابن عساکر بباب الآية في وجهه الشريف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مركز إلہست گجرات ہند ۲۲/۲ و ۲۳/۲

علامہ فاسی مطالع المسرات میں ابن سینع سے نقل کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے خانسی تاریک روشن ہو جاتا۔	کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یضبئی الہیت المظلوم من نورہ <sup>۱</sup> ۔
---	--

اب نہیں معلوم کہ حجور کے لئے سایہ ثابت نہ ہونے میں کلام کرنے والا آپ کے نور ہونے سے انکار کرے گا یا انوار کے لئے بھی سایہ مانے گا یا مختصر طور پر یوں کہئے کہ یہ تو بالیقین معلوم کہ سایہ جسم کثیف کا پڑتا ہے نہ جسم لطیف کا، اب مخالف سے پوچھنا چاہئے تیرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس لطیف نہ تھا عیاداً باللہ، کثیف تھا اور جو اس سے تھا شی کرے تو پھر عدم سایہ کا کیوں انکار کرتا ہے؟

باجملہ جبکہ حدیثیں اور اتنے اکابر ائمہ کی تصریحیں موجود کہ اگر مخالف اپنے کسی دعوے میں ان میں سے ایک کا قول پائے، کس خوشی سے معرض استدعاں میں لائے، جملہ انکار، مکار برہ وغیرہ بھی ہے، زبان ہر ایک کی اس کے اختیار میں ہے چاہے دن کورات کہہ دے یا مشش کو ظلمات، آخر کار مخالف جو سایہ ثابت کرتا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے یا فقط اپنے منہ سے کہہ دیا جیسے ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کے پاس ہوں وہ بھی دکھائے، ہم ارشادات علماء سند میں لاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ائمہ کے اقوال سنائے، یا نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی سند، گھر بیٹھے اسے الہام ہوا کہ حضور کا سایہ تھا۔

مجرد ماؤنٹاپر قیاس تو ایمان کے خلاف ہے ع

چہ نسبت خاک رابہ عالم پاک  
(مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت۔ ت)

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار جگہ الطف۔ وہ خود فرماتے ہیں: لست کمیلکم <sup>۲</sup> میں تم جیسا نہیں۔ ویرودی لست کمیلکم <sup>۳</sup> میں تمہاری بیت پر نہیں۔

<sup>۱</sup> مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ص ۳۹۳

<sup>۲</sup> المصنف لعبد الرزاق کتاب الصیام باب الوصال حدیث ۷۵۲/۲۶/۷۷ المکتب الاسلامی بیروت

الوصال قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۲۶۳، صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن الوصال قدری کتب خانہ کراچی ۱/۳۵۲ و ۳۵۱

<sup>۳</sup> صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن الوصال قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۵۲ و ۳۵۱، صحیح بخاری کتاب الصوم باب الوصال قدری

کتب خانہ کراچی ۱/۲۶۳ و ۲۶۴

ویرادی ایکم مثل<sup>۱</sup> تم میں کون ہے مجھ جسیا۔

آخر علامہ خفاجی کارشادہ سناکہ : <sup>۱۱</sup> حضور کا بشر ہوتا نور خشنده ہونے کے منافی نہیں کہ اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں <sup>۲</sup>۔ پھر صرف اس قیاس فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کے بھی ہوگا، ثبوت سایہ ماننا یا اس کی نفی میں کلام کرنا عقل و ادب سے کس قدر دور پڑتا ہے۔

الا ان محمد ابی شر لَا كَالْبَشِرِ  
بلْ هُو يَا قَوْتَ بَيْنَ الْحَجَرِ<sup>۳</sup>

(خبردار ! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں مگر کسی بشر کی مثل نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پھر وہ کے درمیان یا قوت۔ ت)

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الْهَ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ)

فقیر کو حیرت ہے ان بزرگواروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجذات ثابتہ و خصائص صحیح کے انکار میں اپنا کیا فائدہ دینی و دنیاوی تصور کیا ہے، ایمان بے محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ خود فرماتے ہیں :

تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو گا جب تک میں اسے اس کے مال باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔	لَا يَؤْمِنُ أَحَدٌ كَمْ حَتَّىٰ كَوْنُ أَحَبِّ الْيَهِ مِنْ وَالدَّهُ وَوَلَدٍ وَالنَّاسُ اجْمَعِينَ <sup>۴</sup> ۔
--	---

اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن کہ آدمی ہمہ تن اپنے محبوب کے نشر فضائل و تکثیر مذاع میں مشغول رہتا ہے، کچی فضیلت کا مٹانا اور شام و سحر نفی محسن کی فکر میں ہوتا کام دشمن کا ہے نہ کہ دوست کا۔  
جان برادر ! تو نے کبھی سنا ہے کہ تیرا محب تیرے مٹانے کی فکر میں رہے، اور پھر محبوب بھی کیسا،

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن الوصال قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۳۵، صحیح البخاری کتاب الصوم باب الوصال قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۲۲۳

<sup>۲</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل ومن ذلك ما ظهر من الآیات الخ مرکزہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۸۲/۳

<sup>۳</sup> افضل الصلة علی سید السادات فضائل درود مکتبہ نبویہ لاہور ص ۱۵۰

<sup>۴</sup> صحیح البخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۷، صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب محبة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریبی کتب خانہ کراچی ۱/۲۹

جان ایمان و کان احسان، جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا اور اس نے تمام عالم کا بارتن نازک پر اٹھایا۔ تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سوناترک کر دیا۔ تم رات دن لہو و لعب اور ان کی نافرمانیوں میں مشغول، اور وہ شب و روز تمہاری بخشش کے لئے گریاں و ملول۔

جب وہ جان رحمت و کان را فلت پیدا ہوا بارگاہ الٰہی میں سجدہ کیا اور رب ہب لی امتی<sup>۱</sup>۔ (یا اللہ! میری امت کو بخش دے۔ ت) جب قبر شریف میں اتار الٰب جاں بخش کو جبنش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سناء، آہستہ آہستہ اُمّتی<sup>۲</sup>۔ (میری امت۔ ت) فرماتے تھے، قیامت میں بھی انہیں کے دامن میں پناہ ملے گی، تمام انبیاء علیہم السلام سے نفسی نفسی اذہبوا الی غیری<sup>۳</sup> آج مجھے اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ت) سنو گے اور اس غنوموار امت کے لب پر یا رب امتی<sup>۴</sup> (اے رب! میری امت کو بخش دے۔ ت) کا شور ہو گا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں: جب انتقال کروں گا صور پھونکنے تک قبر میں امتی پکاروں گا۔ کان بخت کا بہی سبب ہے کہ وہ آواز جانگداز اس مخصوص عاسی نواز کی جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی غافل و مدد ہوش کے گوش تک پہنچتی ہے، روح اسے اور اک کرتی ہے، اسی باعث اس وقت درود پڑھنا مستحب ہوا کہ جو محظوظ ہر آن ہماری یاد میں ہے، کچھ دیر ہم بھراں نصیب بھی اس کی یاد میں ضرف کریں۔

وائے بے انصاف! ایسے غنوموار پیارے کے نام پر جاں شار کرنا اور اس کی مدرج ستائش و نشر فضائل سے آنکھوں کی روشنی، دل کو ٹھنڈک دینا واجب یا یہ کہ حتیٰ الوعظ چاند پر خاک ڈالے اور بے سبب ان کی روشن خوبیوں میں انکار نکالے۔

اے عزیز! چشم خرد بین میں سرمه انصاف لگا اور گوش قبول سے پنبہ اعتساف نکال، پھر یہ تمام اہل اسلام بلکہ ہر منہب و ملت کے عقولاء سے پوچھنا، پھر اگر ایک منصف ذی عقل بھی تجھ سے کہہ دے کہ نشر محسن و تکشیر مدارج نہ دوستی کا مقتنقی نہ رد فضائل و نفی کمالات غلامی کے خلاف، تو تجھے اختیار ہے ورنہ

1

2

<sup>3</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۷۷ء<sup>4</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۷۷ء

خدا اور رسول سے شرما اور اس حرکت بے جا سے باز آ، یقین جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں تیرے مٹائے نہ میں گی۔

جان برادر! اپنے ایمان پر رحم کر، سمجھ، دیکھ کر خدا سے کسی کا کیا بس چلے گا، اور جس کی شان وہ بڑھائے اسے کوئی گھٹا سکتا ہے، آئندہ تجھے اختیار ہے، ہدایت کا فضل الہی پر مدار ہے۔

ہم پر بلاغ غمین تھا، اس سے بحمد اللہ فراعنت پائی، اور جواب بھی تیرے دل میں کوئی شک و شبہ یا ہمارے کسی دعوے پر دلیل یا کسی ابھال کی تفصیل درکا ہوتا فقیر کا رسالہ مسٹی بہ "قبر النائم فی نفی الظل عن سید الانام" علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام، جسے فقیر نے بعد وروDas سوال کے تالیف کیا، مطالعہ کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ بیان شافی پائے گا اور مرشد کافی، ہم نے اس رسالہ میں اس مسئلہ کی غایت تحقیق ذکر کی ہے اور نہایت نفسی دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ حضور سراپا نور تابندہ درخششہ ذی شعاع و اضاءت بلکہ معدن انوار و افضل مضینات بلکہ در حققت بعد جناب الہی نام "نور" انہیں کو زیپا، اور ان کے معاویہ کو اگر نور کہہ سکتے ہیں تو انہیں کی جناب سے ایک علاقہ و اتساب کے سبب، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ثبوت مجرّات صرف اسی پر موقوف نہیں کہ حدیث یا قرآن میں بالصریح ان کا ذکر ہو بلکہ ان کے لئے تین طریقے ہیں، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے پیشوایان دین کا داداں ان معاملات میں ہمیشہ قبول و تسليم رہا ہے۔ اگر کہیں قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ملا تو اپنی نظر کا تصور سمجھا، نہ یہ کہ باوجود ایسے ثبوت کافی کے کہ حدیثیں اور ائمہ کی تصریحیں اور کافی دلیلیں، سب کچھ موجود، پھر بھی اپنی ہی کہے جاؤ، انکار کے سوا کچھ زبان پر نہ لاد، اور اس کے سوا اور فوائد شریفہ و امتحاث لطیفہ ہیں، جو دیکھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ لطف جانفرزا پائے گا، ولا حول ولا قوّة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ واصھارہ وانصارہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین امین والحمد للہ رب العالمین۔

---

رسالہ  
نفی الغبع عن استنار بنورہ کل شیعی  
ختم ہوا۔

---



## رسالہ

### قمر التمام فی نفی الظل عن سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۴۹۶ھ (سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سایہ کی نفی میں کامل چاند)

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

مسئلہ ۲۳: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ تھا یا نہیں؟  
بینوا توجروا (بیان کرو اجرا پائے گے۔ ت)

#### الجواب:

<p>الله تعالیٰ کی طرف سے ہی سچائی اور درستگی کی توفیق ہے۔ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت مگر عزت والے بہت عطا فرمانے والے اللہ کی توفیق سے۔ اے اللہ! اور وسلام اور برکت نازل فرمادون چمکدار چراغ اور خوشمندانباک چاند پر اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ پر۔ (ت)</p>	<p>ومن اللہ توفیق الصدق والصواب ولا حول قوۃ الا باللہ العزیز الوہاب اللهم صل وسلام وبارک علی السراج البنیر الشارق والقمر الزاهر البارق وعلی الہ واصحابہ اجمعین۔</p>
--	---

بیشک اس مہر سپہر اصطفا، ماہ منیر اعتباء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا اور یہ امر احادیث و اقوال ائمہ کرام سے ثابت، اکابر ائمہ و علماء فضلاء کہ آج کل کے مدعاں خام کار کوان کی شاگردی بلکہ انکے کلام کے سمجھنے کی لیاقت نہیں، خلقاً، سلفاً، و ائمکاً پتی تصانیف میں اس معنی کی تصریح فرماتے آئے اور اس پر دلائل باہرہ و جھجھ قاہرہ قائم، جن پر مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے ان کی تائیں و تشبید کی۔ آج تک کسی عالم دین اسے اس کا انکار منقول نہ ہوا یہاں تک کہ وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں ابداع اور نیازمند ہب اختراع اور ہوائے نفس کا اتباع کیا اور بہ سبب اس سو، رنجش کے جوانکے دلوں میں اس رواف و رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، انکے محظاں و درد مجرمات کی فکر میں پڑے حتیٰ کہ مجرمہ شق القمر جو بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ بلکہ خود قرآن عظیم و دوحی حکیم کی شہادت حقہ اور اہل سنت و جماعت کے اجماع سے ثابت، ان صاحبوں میں سے بعض جری بہادروں نے اسے بھی غلط ٹھہرایا اور اسلام کی پیشانی پر کلف کا وہبہ لگایا۔ فقیر کو حیرت ہے کہ ان بزرگواروں نے اس میں اپنا کیا فائدہ دیئی یاد نیا وی سمجھا ہے۔

اے عزیز! ایمان، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے اور آتش جاں سوز جہنم سے نجات اُنکی الفت پر منوط (منحصر ہے۔ ت) جو ان سے محبت نہیں رکھتا، والله کہ ایمان کی بواسطے مشام (ناک) تک نہ آئی، وہ خود فرماتے ہیں:

لایؤمن احد کم حتیٰ اکون احب الیه من والدہ و ولدہ والناس اجمعین <sup>۱</sup>	تم میں سے کسی کو ایمان حاصل نہیں ہوتا جب تک میں اس کے مال بآپ اور اولاد، سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔
---	---

اور آفتاب نہم روز کی طرح روشن کہ آدمی ہمہ تن اپنے محبوب کے نشرفضائل و تکثیر مدائی میں مشغول رہتا ہے اور جو بات اس کی خوبی اور تعریفی یہ کیستا ہے کیسی خوشی اور طیب خاطر سے اظہار کرتا ہے، پچھی فضیلتوں کا مظانا اور شام و سحر نفی اوصاف کی فکر میں رہنا کام دشمن کا ہے نہ کہ دوست کا۔

جان برادر! تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو مجھ سے الفت سادقه ہے وہ تیری اچھی بات سن کر چلیں بہ جیں ہو اور اس کی محکی فکر میں رہے اور پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان و کان احسان، جس کے جمال

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدری کتب خانہ کراچی ۱/۷، صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب محبة الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدری کتب خانہ کراچی ۲۹/۱

جہاں آراء کا نظیر کہیں نہ ملے گا اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا، کیسا محبوب، جسے اس کے مالک نے تمام جہاں کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب، جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھالیا۔ کیسا محبوب، جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو اور زدہ تمہاری بخشش کے لئے شب و روز گریاں و ملوں۔

شب، کہ اللہ جل جلالہ، نے آسائش کے لئے بنائی، اپنے تکمین بخش پر دے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صحیح قریب ہے، ٹھنڈی نسیبوں کا پنچھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھلتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے اور جو محتاج ہے نوا ہے اس کے بھی پاؤں دو گز کی کملی میں دراز، ایسے سہانے وقت، ٹھنڈے زمانہ میں، وہ معصوم، بے گناہ، پاک دام، عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منز موت، جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی ! میری امت سیاہ کار ہے، در گزر فرماء، اور انکے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔

جب وہ جان راحت کان رافت پیدا ہوا بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور رب ہب لی امتنی<sup>1</sup> فرمایا، جب قبر شریف میں اتنا راب جان بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا آہستہ آہستہ امتنی امتنی<sup>2</sup> فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین، ننگے پاؤں، زبانیں پیاس سے، باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دندنگہ، ملک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہو گا، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوانفسی نفسی اذھبواالی غیری<sup>3</sup> پچھ جواب نہ پائیں گے، اس وقت یہی محبوب عتمگسار کام آئے گا، قفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، عمامہ سراقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر "یارب امتنی"<sup>4</sup>۔ فرمائیں۔

وائے بے انصافی ! ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا اور مدرج و ستائش و نشر فضائل سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور دل کو ٹھنڈک دینا واجب یا یہ کی حتی الوضع چاند پر خاک ڈالے اور ان روشن خوبیوں میں انکار کی شانیں نکالے۔

1

2

<sup>3</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱۱<sup>4</sup> صحیح مسلم کتاب الایمان بباب اثبات الشفاعة الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۱۱۱

مانا کہ ہمیں احسان شناسی سے حصہ نہ ملا، نہ قلب عشق آشنا ہے کہ حسن پسند یا احسان دوست، مگر یہ تو وہاں چل سکے جس کا احسان اگر نہ مانئے، اس کی مخالفت کیجئے تو کوئی مضرت نہ پہنچ اور یہ محبوب تو ایسا ہے کہ بے اس کی کاشش بوسی کے جہنم سے نجات میسر، نہ دنیا و عقبی میں کہیں ٹھکانا متصور، پھر اگر اس کے حسن و احسان پر والہ و شیدانہ ہو تو اپنے نفع و ضر کے لحاظ سے عقیدت رکھو۔

اے عزیز! چشم خرد میں سرمی انصاف لگا اور گوش قبول سے پنبہ انکار نکال، پھر تمام اہل اسلام بلکہ ہر مذہب و ملت کے عقلا، سے پوچھتا پھر عشاں کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا ہے اور غلاموں کو مولیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، آیا نشر فضائل و تکشیر مدائح اور ان کی خوبی حسن سن کر باغ باغ ہو جانا، جائے میں پھولانہ سماں یا رد محسان، نفی کمالات اور ان کے اوصاف حمیدہ سے بہ انکار و تکذیب پیش آنا، اگر ایک عاقل منصف بھی مجھ سے کہہ دے کہ نہ وہ دوستی کا مقتضی نہ یہ غلامی کے خلاف ہے تو مجھے اختیار ہے ورنہ خداور رسول سے شر ما اور اس حرکت بے جا سے بازاً، یقین جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں تیرے مٹائے سے نہ میں گی۔

جان، برادر! اپنے ایمان پر رحم کر، خدائے قہار و جبار جل جلالہ، سے لڑائی نہ باندھ، وہ تیرے اور تمام جہان کی پیدائش سے پہلے ازل میں لکھ چکا تھا "وَرَأَفْعَلَكَ ذِكْرَكَ" <sup>۱</sup> یعنی ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے! ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہو گئی تمہارا بھی چرچا ہو گا اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہر گز پورانہ ہو گا، آسانوں کے طبق اور زمینوں کے پر دے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے، موزون اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ اخبار و احجار، آہو و سوہار و دیگر جاندار و اطفال شیر خوار و معبدوں کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے ویسا ہی بے زبان فصح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے، چار اکٹاف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا غلغله ہو گا، بزرگشیاً از لہ ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہو گا، مسجدان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا اُدھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی، ہفت اور اق سرده، قصور جنال، جہاں پر اللہ لکھوں گا۔ محمد رسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا، اپنے پیغمبروں اور اولو الحزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسلکیں اور بزم کو تزیین دیں۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۲۹۹۳

تمہاری مدد و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں اور نادیدہ تمہارے عشق کی شیع ان کے کانوں، سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محوفضال میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کافی بس چلے گا۔ آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود صدہ بارس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور چاند پر خاک ڈالتے ہیں تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعمت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے بے ساختہ پکار اٹھے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے محوفضال پر کمر باندھی، مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز متفرق رہی، پھر اپنے مقصد سے تو یاس ونا امیدی کر لینا مناسب ہے ورنہ رب کعبہ ان کا کچھ نقصان نہیں، بالآخر ایک دن تو نہیں، تیرا ایمان نہیں۔

اے عزز! سلف صالح کی روشن اختیار کر اور ان کے قدم پر قدم رکھ، ائمہ دین کا وظیرہ ایسے معاملات میں دامغاً تسلیم و قبول رہا ہے، جب کسی ثقہ معتمد علیہ نے کوئی مجذہ یا خاصہ ذکر کر دیا اسے مر جا بکہ لیا اور حبیب جان میں بہ طیب خاطر جگہ دی، یہاں تک کہ اگر اپنے آپ احادیث میں اس کی اصل نہ پائی، قصور اپنی نظر کا جانا، یہ نہ کہا کہ غلط ہے، باطل ہے، کسی حدیث میں وارد نہیں، نہ یہی ہوا کہ جب حدیث سے ثبوت نہ ملا تھا اس کے ذکر سے باز رہتے بلکہ اسی طرح اپنی تصانیف میں اس کے ذکر سے باز رہتے بلکہ اسی طرح اپنی تصانیف میں اس ثقہ کے اعتقاد پر اسے لکھتے آئے، اور کیوں نہ ہو، مقتضی عقل سلیم کا یہی ہے کہ:

فائدہ جلیلہ: جب ہم اسے ثقہ معتمد عیہ مان لے کے اور وقوع ایسے مجذے کا یا خصوص ایسے خاصہ کا ذات پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعید نہیں کہ اس سے عجیب تر مجذرات بہ تو اتر حضور حضور سے ثابت، اور ان کا رب اس سے زیادہ پر قادر، اور ان کے لئے اس سے بہتر خصائص بالقطع مہیا اور ان کی شان اس سے بھی ارفع و اعلیٰ، پھر انکار کی وجہ کیا ہے، تکنیب میں تو اس راوی سے ثقہ معتمد علیہ ہونا ثابت ہو چکا اور وثوق و اعتقاد اس کا بتاتا ہے کہ اگر من عن دن نفسہ کہہ دیتا خدا اور رسول پر مفتری ہوتا،

اوہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ (ت)	"وَمَنْ أَغْلَمَ مِنْ أُفْتَدِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا طَّا۔"
---	--

ان وجوہ پر نظر کر کے سمجھ لیجئے کہ بالضرور اس نے حدیث پائی، گوہماری نظر میں نہ آئی۔ ہر چند کہ فقیر کا یہ دعویٰ اس شخص کے نزدیک بالکل بدیہی ہے جو خدمت حدیث و سیر میں رہا اور اس راہ میں روشن علماء<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۸/۱۱

کو مشاہدہ کیا مگر ناواقفوں کے افہام اور منکروں پر الزام کے لئے چند مثالیں بیان کرتا ہوں:  
اولاً: جسم اقدس ولباس افسوس پر ملکی نہ بیٹھنا۔ علامہ ابن سبع نے خصائص میں ذکر فرمایا علماء نے تصریح کی اس کاراوی معلوم نہ ہوا، اور باوجود اس کے بلا کنیر اپنی کتابوں میں اسے ذکر فرماتے آئے۔ شفاءٰ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں ہے:

ملکی آپ کے جسم اقدس اور لباس اطہر پر نہ بیٹھی تھی۔	وان الذباب كان لا يقع على جسدِه ولا ثيابه <sup>۱</sup>
--	--

امام جلال الدین سیوطی خصائص کباری میں فرماتے ہیں:

<p>قاضی عیاض نے شفاءٰ میں اور عراقی نے اپنی مولد میں ذکر کیا کہ حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ملکی آپ پر نہ بیٹھتی تھی۔ ابن سبع میں ان لفظوں سے ذکر کیا کہ ملکی آپ کے کپڑوں پر بکھری نہ بیٹھی۔ اور یہ بھی زیادہ کیا کہ جو ہم آپ کو نہیں ستانی تھیں۔</p>	<p>باب ذکر القاضی عیاض فی الشفاء والعرaci فی مولده ان من خصائصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه کان لا ینزل عليه الرباب. وذکرہ ابن سبع فی الخصائص بلغظ ان لم یقع على ثيابه ذباب قط وزاد ان من خصائصه ان القمل لم تكن يؤذيه<sup>۲</sup></p>
---	--

شیخ ملا علی قاری شرح شماں ترمذی میں فرماتے ہیں:

<p>رازی نے نقل کیا کہ کھیاں آپ کے کپڑوں پر نہیں بیٹھتی تھیں اور پھر آپ کاخون نہیں چوتے تھے۔</p>	<p>ونقل الفخر الرازی ان الذباب كان لا يقع على ثيابه وان البعض لا يمتص دمه<sup>۳</sup></p>
---	---

علامہ خنجری نے "نیم الریاض" میں علماء کا وہ قول کہ اس کاراوی نہ معلوم ہوا، نقل کیا، اور اس خاصہ کی نسبت لکھا کہ ایک کرامت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی اور اپنے ننانج افکار سے ایک رباعی لکھی کہ اس اس میں بھی اس خاصہ کی تصریح ہے اور بعض علماء عجم نے اسی بناء پر کلمہ محمد رسول اللہ کے سب حروف بے نقطہ ہوتے ہیں، ایک طفیلہ لکھا کہ آپ کے جسم پر ملکی نہ بیٹھتی تھی، لہذا یہ کلمہ پاک کلی نقطوں سے محفوظ رہا کہ وہ شبیہ مکھیوں کے ہیں۔ پھر اسی مضمون پر دوسری

<sup>۱</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل و من ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده دار الكتب العلمية بيروت ۲۲۵/۱

<sup>۲</sup> الخصائص الكبییہ بباب ذکر القاضی عیاض فی الشفاء والعرaci فی مولده مرکزہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۶۸/۱

<sup>۳</sup> شماں ترمذی

عبارت:

ان کی مکمل عبارت یہ ہے: آپ کے دلائل نبوت سے یہ بھی ہے کہ مکھی آپ کے نہ تو ظاہری جسم پر بیٹھتی تھی اور نہ لباس پر، یہ ابن سینع نے کہا کہ اس کا روای معلوم نہیں۔ ذباب کا واحد ذبابة ہے۔ کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لئے ہے کہ اس کو جب بھی بھگایا جاتا ہے واپس آجائی ہے۔ یہ کرامت آپ کو اس لئے عطا ہوئی کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا تھا۔ شیخ عبدالقدار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی تجھ کی بات نہیں کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز نبی کا مجرم ہوتی ہے وہ بطور کرامت ولی کے ہاتھ سے سرز ہو جاتی ہے اور میں (خفاجی) نے ایک رباعی کہی ہے:

”آپ بزرگ ترین، عظیم، مٹھاں والے رسول ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی مٹھاں کے باوجود مکھی آپ کے قریب نہ جاتی تھی اور کسی بھی صاحب نظر نے موجودات میں آپ کی مٹھاں سے زیادہ مٹھاں نہ چکھی۔“

اور بعض علماء عجم نے کہا کہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے اس لئے کہ نقطہ مکھی کے مشابہ ہوتا ہے، عیب سے پچانے کے لئے اور آپ کی تعریف کے لئے میں نے آپ کی مدرج میں کہا ہے:

” بلاشبہ اللہ نے مکھیوں کو آپ سے دور کر دیا تو ”

عبارتہ بر متنہ: وَمِنْ دَلَائِلُ نَبُوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الذِّبَابَ كَانَ لَا يَقِعُ عَلَى ثِيَابِهِ هَذَا مِنَ الْأَقَالَهِ أَبْنَ سَبْعَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا لَا يَعْلَمُ مَنْ رَوَى هَذِهِ وَالذِّبَابُ وَاحِدَهُ ذِبَابَةٌ قَيْلَ أَنَّهُ سَمِّيَّ بِهِ لَانَّهُ كَلِمًا اذْبَابَ آبَ اى كلاما طرد رجع وهذا میما اکرمہ اللہ به لانه طهرہ اللہ من جمیع الاقذار وهو مع استقداره قدی یجیع من مستقدر قیل وقد نقل مثلها عن ولی اللہ العارف به الشیخ عبد القادر الجیلانی ولا بعد فيه لان معجزات الانبیاء قد تكون کرامۃ لا ولیاء امته و فرباعیۃ لی۔

من اکرم مرسل عظیم حلا  
لم تدن ذبابة اذ ماحلا  
هذا عجب ولم يدق ذونظر  
في الوجودات من حلاه احلا  
وتظرف بعض علماء العجم فقال محمد رسول الله  
ليس فيه حرف منقوط لان الوجود ان النقط تشبه  
الذباب فصين اسمه ونعته كما قلت في مدحه صلى  
الله تعالى عليه وسلم۔

لقد ذب الذباب فليس يعلو  
رسول الله محموداً محمد

<p>آپ پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے، اللہ کے رسول محمود و محمد ہیں اور حروف کے نقطے جو شکل میں مکھی کی طرح ہیں ان سے بھی اللہ نے اس لئے آپ کو محفوظ رکھا۔"</p>	<p>ونقط الحرف یحکیہ بشکل لذاک الخط عنہ قد تجدد<sup>۱</sup>۔</p>
---	---

فایقًا: ابن سعیں نے حضور کے خصائص میں کہا جوں آپ کو ایذانہ دیتی۔ علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس طرح ابن سعیں سے نقل کیا اور برقرار رکھا کیا مأمور<sup>۲</sup> (جیسا کہ گزر چکا ہے۔ ت) اور ملا علی قاری شرح شماکل میں فرماتے ہیں:

آپ کے مبارک کپڑوں میں جوئیں نہیں ہوتی تھیں۔ (ت)	ومن خواصہ ان ثوبہ لم یقبل <sup>۲</sup> ۔
---	--

فایقًا: ابن سعیں نے فرمایا جس جانور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے عمر بھروسیا ہی رہتا اور حضور کی برکت سے بوڑھا نہ ہوتا۔ علامہ سیوطی خصائص میں فرماتے ہیں:

<p>ابن سعیں نے کہا کہ آپ کے خصائص میں سے یہ تھا کہ آپ جس جانور پر سوار ہوتے تو وہ عمر بھروسیا ہی رہتا اور آپ کی برکت کے باعث بوڑھانہ ہوتا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>	<p>باب: قال ابن سعیں من خصائصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا لدابة رکبها بقیت علی القدر الزی كانت علیه ولم تهرم ببرکته<sup>۳</sup> صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔</p>
---	---

رابعًا: ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اکابر اعیان مائتہ ثالثہ سے ہیں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حکایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا روش میں دیکھتے تھے ویسا ہی تاریکی میں۔ اس حدیث کو یہیقی نے موصوغاً مندرجہ روایت کیا اور علامہ خفاجی نے اکابر علماء مثل ابن بیکوال و عقیلی و ابن جوزی و سہیلی سے اس کی تضعیف نقل کی، یہاں تک کہ ذہبی نے تو میرزاں الاعتدال میں موضوع ہی کہہ دیا۔ بہ ایں ہمہ خود علامہ خفاجی فرماتے ہیں جیسا بقی بن محمد وغیرہ ثقات نے اسے ذکر کیا اور حضور والا کی شان سے بعد نہیں تو اس کا انکار کس وجہ سے کیا جائے۔

<p>اس کی عبارت بالاختصار یہ ہے: بقی بن مخلد ابو عبد الرحمن قرطبی جن کی ولادت رمضان المبارک</p>	<p>وهذا نصہ ملتقطاً وحکی بقی ابن مخلد ابو عبد الرحمن مولده في رمضان</p>
--	---

<sup>1</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل و من ذلك ما ظهر من الآیات الخ مرکز الہلسنت گجرات ہند ۲۸۲/۳

2

<sup>2</sup> الخصائص الکبیزی قال ابن سعیں من خصائصه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکز الہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۴۲/۲

۲۰۱) اور وصال ۲۷۶ھ میں ہے، نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مردی ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی میں دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں جس طرح کہ روشنی میں دیکھتے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کامل الحلقۃ، قوی الحواس تھے تو آپ سے اس کیفیت کا وقوع بعید نہیں، پھر اس کوابن مخلد جیسے ثقات نے روایت کیا ہے لہذا اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

سنة احدى ومائتين وتوفي سنة ست وسبعين  
مائتين عن عائشة رضي الله تعالى عنها اناها قالـت  
كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى في الظلمة  
كم ايـرـيـ فـيـ الضـوـعـ وـفـيـ روـاـيـةـ كـمـ ايـرـيـ فـيـ النـورـ وـلـاشـكـ  
انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى  
الحواس فـوقـعـ مـثـلـ هـذـاـ منـهـ غـيرـ بـعـيدـ وـقـدـ روـاهـ  
الـثـقـاتـ كـابـنـ مـخـلـدـ هـذـاـ فـلاـوـجـهـ لـانـكـارـهـ<sup>1</sup>

**خامسًا:** بسم الله الرحمن الرحيم، اس سب سے زیادہ یہ ہے کہ باوجود حدیث کے شدید الضعف وغیر متمکہ ہونے کے احیاء والدین، وسعت تدریت و عظمت شان رسالت پناہی پر نظر کر کے گردن تسلیم جھکائی اور سو اسلامنا و صدقنا پکھ بن نہ آئی۔

ام المؤمنین صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے مروی ہوا، حجۃ الوداع میں ہم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب عقبہ جھون پر گزر ہوا جھوپ اٹکبڑا ورنجیدہ و مغموم ہوئے، پھر تشریف لے گئے، جب لوٹ کر آئے چہرباش تھے اور لب تبسم سز، میں نے سبب پوچھا، فرمایا، میں اپنی ماں کی قبر پر گیا اور خدا سے عرض کیا کہ انہیں زندہ کر دے، وہ قبول ہوئی، اور وہ زندہ ہو کر ایمان لا کیں اور پھر قبر میں آرام کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ہمراہ حج کیا، جب عقبہ جھون پر پہنچ گئے تو رورہ تھے اور عمیکین تھے، پھر آپ کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو مسرور تھے اور قبسم فرمایا کہ میں نے سبب دریافت

آخر الخطيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت  
حج بنار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبربى على  
عقبة الجحون وهو باك حزين مغتمن ثم ذهب وعاد و  
هو فرح متباسم فسألته فقال ذهبت إلى قبر امي

<sup>١</sup> نسیم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض فصل أما وفور عقله الخ مركز إلست برگات رضا ۲۷۳ و ۲۷۴ هـ

<p>کیا تو آپ نے فرمایا: میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا، میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا، اس نے ان کو زندہ کیا، وہ ایمان لا گئی اور پھر انتقال فرمائیں۔</p>	<p>فسائلۃ اللہ ان یحییہا فامنْت بِی ورَّدَهَا اللہ۠<sup>۱</sup></p>
---	---

امام جلال الدین سیوطی خصائص میں فرماتے ہیں: اس کی سند میں مجاهیل ہیں، اور سیمیلی نے ام المؤمنین سے احیاء والدین ذکر کر کے ہے: اس کے اسناد میں مجہولین ہیں اور حدیث سخت منکر اور صحیح کے معارض۔

<p>مجموع بحار الانوار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا وہ آپ پر ایمان لائے۔ اس کے اسناد میں مجاهیل ہیں اور یہ حدیث سخت منکر اور صحیح کے معارض ہے۔</p>	<p>فی مجمع بحار الانوار روح احیاء ابوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی امنابہ۔ قال فی اسنادہ مجاهیل وانه ح منکر جدا یعارضه ماثبت فی الصحیح<sup>۲</sup>۔</p>
---	---

بایہمہ اسی مجموع بحار الانوار میں لکھتے ہیں:

<p>حاصل یہ مقاصد میں ہے اور کیا خوب کہا، خدا نے نبی کو فضل پر فضل زیادہ عطا فرمائے اور ان پر نہایت مہربان تھا، پس ان کے والدین کو ان پر ایمان لانے کے لئے زندہ کیا اور اپنے فضل طیف سے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قدیم تو اس پر قدرت رکھتا ہے اگرچہ جو حدیث اس معنی میں وارد ہوئی، ضعیف ہے۔</p>	<p>فی المقاصد الحسنة واما احسن ما قال حبا اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان به رؤوفا فاخیہ امه وکذا اباہ لایمان به فضلا الطیفا مسلم فالقدیم بذا قدر وان كان الحديث به ضعیفًا<sup>۳</sup></p>
--	---

اے عزیز! سناؤ نے، یہ ہے طریقہ ارکین دین متین و اساطین شرح متین، رسول اللہ

<sup>۱</sup> الخصائص الکبیری بحوالہ الخطیب باب مأوعٍ في حجۃ الوداع الخ مرکزہلسنت برکات رضا گھرات ہند ۲۰/۲

<sup>۲</sup> مجمع بحار الانوار فصل في تعیین بعض الاحادیث المشتهرة الخ دارالایمان مدینۃ المنورۃ ۲۳۶/۵

<sup>۳</sup> مجمع بحار الانوار فصل في تعیین بعض الاحادیث المشتهرة الخ دارالایمان مدینۃ المنورۃ ۲۳۶/۵

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں، نہ یہ کہ جو مجہزہ و خاصہ حضور کا احادیث صحیحہ سے ثابت اور اکابر علماء برابر اپنی تصانیف معتبرہ مستندہ میں، جن کا اعتبار واستناد آفتاب نیمروز سے روشن تر ہے، بلکہ اس کی تصریح کرتے آئے ہوں اور اس کے ساتھ عقل سلیم نے ان پر وہ دلائل ساطعہ قائم کئے ہوں جن پر کوئی حرفاً نہ رکھ سکے، بایس ہمہ اس سے انکار کیجئے اور حق ثابت کے روپ اصرار، حالانکہ نہ ان حدیثوں میں کوئی سبق مقبول و جرح معقول مے دارو، نہ ان ائمہ کے مستند بادلائل معتمد ہونے میں کلام کر سکو، پھر اس مکاوارہ کی بحثی اور تحکم وزردستی کا کیمیاعلاج، زبان ہر ایک کی اس کے اختیار میں ہے چاہے دن کو رات کہہ دے یا شمس کو ظلمات۔

آخر تم جو انکار کرتے ہو تو تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے یا فقط اپنے منزہ سے کہہ دینا، اگر بفرض محال جو حدیثیں اس باب میں وارد ہوئیں نامعتبر ہوں اور جن علماء نے اس کی تصریح فرمائی انہیں بھی قابل اعتماد نہ مانو اور جو دلائل قاطعہ اس پر قائم ہوئے وہ بھی صالح التفات نہ کہے جائیں، تاہم انکار کا کیما ثبوت اور وجود سایہ کا کس بناء پر، اگر کوئی حدیث اس بارے میں آئی ہو تو دھکاؤ یا گھر بیٹھے تمہیں الہام ہوا ہو تو بتاؤ، مجرد دماد من پر قیاس تو یمان کے خلاف ہے ع

چ نسبت خاک را عالم پاک

(مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت۔ ت)

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف، وہ خود فرماتے ہیں: لست کمیلتکم "میں تم جیسا نہیں" رواہ الشیخان<sup>1</sup> (اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ ت) ویرودی لست کمیئنتکم<sup>2</sup> - "میں تمہاری بیت پر نہیں۔" ویرودی ایکم مثلی<sup>3</sup> "تم میں کون مجھ جیسا ہے۔"

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الصوم باب الوصال قدری کتب خانہ کراچی ۲۶۳/۱، صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن الوصال قدری کتب خانہ کراچی ۳۵۲ و ۳۵۱/۱،

<sup>2</sup> صحیح البخاری کتاب الصوم باب الوصال قدیمی کتب خانہ کراچی ۲۶۳ و ۲۶۴/۱، صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن الوصال قدیمی کتب خانہ کراچی ۳۵۲ و ۳۵۱/۱

<sup>3</sup> صحیح البخاری کتاب الصوم باب الوصال قدری کتب خانہ کراچی ۲۶۳/۱، صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن الوصال قدری کتب خانہ کراچی ۳۵۱/۱

آخر علامہ خفاجی کو فرماتے سن: آپ کا بشر ہونا اور نور و در خشنده ہونا منافی نہیں کہ اگر مجھے تودہ نور علی نور ہیں، پھر اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہو گا تو ثبوت سایہ کا قائل ہونا عقل و ایمان سے کس درجہ دور پڑتا ہے۔

بل هو يأقوب بين الحجر<sup>۱</sup>  
محمد بشر لـ الـ بـ شـر

(محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں جن جیسا کوئی بشر نہیں، بلکہ وہ پتھروں کے درمیان یا قوت ہیں۔ ت)  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔

القائے جواب: ایقاظ دفع بعض اوہام و امراض میں، اس مقام پر باوجودیکہ قلب بحمد اللہ غایت اطمینان و تسلیم پر تھا مگر مرتبہ کاوش و تتفقح میں یوسوسہ ایک خدشہ زہن ناقص میں گزرا تھا یہاں تک کہ حق جل و علانے اپنے کرم عمیم سے فقیر کو اس کا جواب القاء فرمائی اجس سے تصور کو نور اور دل منتظر کو سرور حاصل ہوا۔

سب تعریفیں اللہ کے لئے جو تعریفوں کے لائق ہے اور درود و سلام آقائے دو جہاں پر۔	الحمد لله على ما أوى والصلوة والسلام على هذا المولى۔
--	--

فأقول: وبأله التوفيق (چنانچہ یہیں کہتا ہوں اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ت)

مقدمہ اولیٰ: حدیث صحیح سے ثابت کہ صحابہ کرام رجوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور رسالت میں نہایت ادب و وقار سے سر جھکائے، آنکھیں نیچی کئے بیٹھے، رب جلال سلطان ان کے قلوب صافیہ پر ایسا مستتو ہوتا کہ اپر ٹکاہ اٹھانا ممکن نہ تھا۔

مسیح بن مخرمہ اور مروان بن الحکم حدیبیہ کے طویل قصہ میں ذکر کرتے ہیں کہ عروہ اصحاب نبی کو گھور رہا تھا، اس نے کہا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی ناک سُنکی تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑی اور اس نے اپنے چہرے پر ملی اور اپنے جسم پر لگائی، جب آپ نے حکم دیا تو انسوں نے ماننے میں جلدی کی، جب آپ وضو	خ عن مستور بن مخرمة و مروان ابن الحكم في حدیث طویل في قصة الحدیبیة ثم ان عروة جعل يرمي اصحاب النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعينيه قال فوالله ما ت Nxم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ن خامة الا وقعت في كفر جل منهم فدىك بها وجهه وجده و اذا امرهم
---	---

<sup>۱</sup> افضل الصلاة على سيد السادات فضائل درود مکتبہ نبویہ لاہور ۱۵۰

فرماتے تو وہ وضو کا پانی لینے پر لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب گھنٹوں فرماتے تو صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف نگاہ نہ کر پاتے تھے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا اور کاہ میں قیصر و کسری و نجاشی کے درباروں میں آیا مگر ایسا کوئی بادشاہ نہ دیکھا جس کی تعظیم اس کے ساتھی ایسے کرتے ہوں جیسی محمد کی ان کے صحابی کرتے ہیں۔

ابتدروا الامره اذا توضاً کادو ایقتتلون علی وجوئہ و اذا تکلم خفضا اصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه تعظیما له فرجع عمروة الاصحاب فقال ای قوم والله لقد وفت علی الملولک قیصر و کسری و النجاشی والله ان مارأیت ملکا قط يعظیه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم<sup>۱</sup>

اسی وجہ سے حلیہ شریف میں اکثر اکابر صحابہ سے حدیثیں وارد ہیں کہ وہ نگاہ بھر کرنے دیکھ سکتے بلکہ نظر اپر نہ اٹھاتے کما سیاق (جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ ت) بلکہ اس معنی میں کسی حدیث کے ورود کی بھی حاجت کیا تھی، عقل سلیم خود گواہی دیتی ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ نوابوں اور والیوں کے حاضرین دربار ان کے ساتھ کس ادب سے پیش آتے ہیں، اگر کھڑے ہیں تو نگاہ قدموں سے تجاوز نہیں کرتی، بیٹھے ہیں تو زانو سے آگے قدم نہیں رکھتے، خود اس حاکم سے نگاہ چار نہیں کرتے، پس و پیش یا دامیں باسیں دیکھنا تو بڑی بات ہے حالانکہ اس ادب کو صحابہ کرام کے ادب سے کیا نسبت، ایمان ان کے دلوں میں پہلا سے زیادہ گراں تھا اور دربار اقدس کی حاضری ان کے نزدیک ملک السموات والارض کا سامنا اور کیوں نہ ہوتا کہ خود قرآن عزیز نے انہیں صد بائبل کاں کھول کھول کر سنادیا کہ ہمارا اور ہمارے محبوب کا معاملہ واحد ہے، اس کا مطیع ہمارا فرمانبردار اور اس کا عاصی ہمارا گنہگار، ان سے الفت ہمارے ساتھ محبت اور ان سے رنجش ہم سے عداوت، ان کی تکریم ہماری تعظیم اور ان کے ساتھ گستاخی ہماری بے ادبی، للہذا جب ملازمت والا حاصل ہوئی قلب ان کے خوف خدا سے مثلی اور گرد نیں خم اور آنکھیں نیچی اور آوازیں پست اور اعضاء ساکن ہو جاتے۔ ایسی حالت میں نظرain و آس کی طرف کب ہو سکتی ہے جو سیاہ کے عدم یا وجود کی طرف خیال جائے اور بالضرور ایسے سراپا ادب، ہمہ تن تعظیم لوگوں کی نگاہ اپنے عرش پائے گاہ کی طرف بے غرض مہمنہ ہو گی، اس حالت میں نفس کو اس مقصد کی طرف توجہ ہو گی، مثلاً نظارہ جمال

<sup>۱</sup> صحيح البخاري باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع ابی الحرس الخ قدیمی کتب خانہ کراچی ۹۷، الخصائص الکبیری باب مأوی عالم الحدیبیۃ من الآیات مرکز اہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۲۰ و ۲۲۱

با کمال یا حضور کا مطالعہ افعال و اعمال، تاکہ خود ان کا اتباع کریں اور غائبین تک روایت پہنچائیں کہ وہ حاملان شریعت تھے اور راویان ملت اور حاضری دربار اقدس سے ان کی غرض اعظم یہی تھی، جب نگاہ اس رعب و بیت اور اس ضرورت و حاجت کے ساتھ اٹھے تو عقل گواہ ہے کہ ایسی حالت میں ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا کہ قامت اقدس کا سایہ ہمیں نظر نہ آیا، آخر نہ سنا کہ ایک ان کا نماز میں مصروف ہوتا، تکبیر کے ساتھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھاتا، کوئی چیز سامنے گزرے اطلاع نہ ہوتی، اور کیسا ہی شور و غونგا ہو کان تک آواز نہ جاتی یہاں تک کہ مسلم<sup>۱</sup> بن یسار کہ تابعین میں ہیں نماز پڑھتے تھے، مسجد کا ستون گر پڑا، لوگ جمع ہوئے، شور و غونغا ہوا، انہیں مطلق خبر نہ ہوئی، یہی حالت صحابہ کی حضور رسالت میں تھی اور دربار نبوت میں بارگاہ عزت باری۔

اے عزیز! زیادہ خوض بیکار ہے، تو اپنے ہی نفس کی طرف رجوع کر، اگر کسی مقام پر عالم رعب و بیت میں تیرا گزر ہوا ہو، وہاں جو کچھ پیش نظر آتا ہے اسے بھی اچھے طور پر ادراک کامل نہیں کر سکتا، نہ امر معدوم کی طرف خیال کیا جائے کہ مثلاً اگر تجھے کسی ولی ملک سے ایسی ضرورت پیش آئے جس کی فکر تجھے دنیا و ما فیہا پر مقد ہوا اور اس کے دربار تک رسائی کر کے اپنا عرض حال کرے تو تجھے اول تر عرب سلطانی، دوسرے اپنی اس ضرورت کی طرف قلب کو گمراہی ہر چیز کی طرف توجہ سے مانع ہوں گے۔ پھر اگر تو واپس آئے اور تجھے سے سوال ہو وہاں دیواروں میں سنگ موسلی تھا یا سنگ مرمر اور تخت کے پائے سیمیں تھے یا زریں اور مندار گنگ سبز تھا یا سرخ؟ ہر گز ایک بات کا جواب نہ دے سکا بلکہ خود اسی بات کو پوچھا جائے کہ بادشاہ کا سایہ تھا یا نہ تھا، تو اگرچہ اس قیاس پر کہ سب آدمیوں کے لئے ظل ہے، ہاں کہہ دے مگر اپنے معائنے سے جواب نہ دے سکے گا۔

صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو اول روز ملامت سے تا آخر حیات جو کیفیت رعب و بیت کی طاری رہی، ہماری عقول ناقصہ اس کی مقدار کے ادراک سے بھی عاجز ہیں، پھر ان کی نظر اور اٹھ سکتی اور چپ و راست دیکھ سکتی کہ سائے کے عدم یا جود پر اطلاع ہوتی۔

**ثُمَّ أَقُول:** (پھر میں کہتا ہوں۔ ت) اپنے نفس پر قیاس کر کے گمان نہ کرنا چاہیے کہ بعد مرد زمان و تکرر حضور کے، ان کی اس حالت میں کمی ہو جاتی بلکہ بالیقین روز بہ روز زیادہ ہوتی کہ باعث اس پر دو امر ہیں: ایک خوف کہ اس عظمت کے تصور سے پیدا ہوا جو اس سلطان دو عالم کو بارگاہ ملک

السموں والارض جل جلالہ میں حاصل ہے۔ دوسری محبت ایمانی کہ مستلزم خشوع کو اور منافی جرأت و بیباکی، اور یہ ظاہر کہ جس قدر دربار والا میں حضوری زائد ہوتی۔

یہ دونوں امر جو اس پر باعث ہیں بڑھتے جاتے، حضور کے اخلاق و عادات اور رحمت والاطاف معائے میں آتے، حسن و احسان کے جلوے ہر دم اطف تازہ دکھاتے، قرآن آنکھوں کے سامنے نازل ہوتا اور طرح طرح سے اس بارگاہ کے آداب سکھاتا اور ظاہر فرماتا کہ: **آداب بارگاہ**: ہمارا ان کا معاملہ واحد ہے، جوان کا گلام ہے ہمارا قائد ہے، انکے حضور آواز بلند کرنے سے عمل بحث ہو جاتے ہیں، انہیں نام لے کر پکارنے والے سخت سزا میں پاتے ہیں، اپنے جان و دل کا انہیں مالک جانو، ان کے حضور زندہ بدست مردہ ہو جاؤ، ہمارا ذکر انکی یاد کے ساتھ ہے، ان کا ہاتھ بعینہ ہمارا ہاتھ ہے، ان کی رحمت ہماری مہر، ان کا غصب ہمارا اقہر، جس قدر ملازمت زیادہ ہوتی حضور کی عظمت و محبت ترقی پاتی اور وہ حال مذکور یعنی خشوع و خضوع و رعب ہبیت روزافزوں کرتی قال تعالیٰ **فَكَادُهُمْ إِيمَانًا**<sup>۱</sup>۔ (الله تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ ت) اور ایمان حضور کی تعظیم و محبت کا نام ہے، کیا لا یخفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ ت)

مقدّمہ ثانیہ: بسم اللہ الرحمن الرحيم ط پر ظاہر کہ آدمی بلا وجہ کسی بات کے درپے تفتیش نہیں ہوتا اور جوبات عام و شامل ہوتی ہے اور تمام آدمی اس میں یکساں کسی شخص خاص میں بالقصد اس کی طرف غور نہیں کرتا، مثلاً ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہونا ایک امر عام ہے لہذا بلا سبب کسی آدمی کی انگلیوں کو کوئی شخص اس مقصد خاص سے نہیں دیکھتا کہ اس کی انگلیاں پانچ ہیں یا کم، ہاں اگر پہلے سے سن رکھا ہو کہ زید کی انگلیاں چار ہیں یا چھ تو اس صورت میں البتہ بالقصد مذکور نظر کی جائے گی۔ اسی طرح سایہ ایک امر عام شامل ہے، اگر بعض آدمیوں کا سایہ پڑتا اور بعض کا نہیں تو البتہ بے شک خیال جانے کی بات تھی کہ دیکھیں حضور کے بھی سایہ ہے یا نہیں، نہ اس سے کوئی امر دینی مثل اتباع و اقتداء کے متعلق تھا کہ اس کے خیال سے بالقصد اس طرف لحاظ کیا جاتا، ہاں ایسی صورت میں اور اک کا طریقہ یہ ہے کہ بے قصد و توجہ خاص نظر پڑ جائے اور وہ صورت بعد تکرر مشاہدہ ذہن میں منتش اور مثل مریبات قصد یہ کے خزانہ خیال میں مخروون ہو جائے، مثلاً زید کہ ہمارا دوست ہے، ہم اپنے مشاہدے کی رو سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے ہر ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں اگرچہ ہم نے کبھی اس قصد سے اس کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا ہے مگر ہم نے اس کے

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۱۲۳/۹

ہاتھوں کو بارہا دیکھا ہے، وہ صورت خزانہ میں محفوظ ہے، نفس اسے اپنے حضور حاضر کر کے بتاسکتا ہے لیکن ہم مقدمہ اولیٰ میں ثابت کر آئے ہیں کہ یہ طریقہ اداراک وہاں معدوم تھا کہ رعب و بیت اور امور ممکن کی طرف توجہ اور حضور کے استماع اقوال و مطالعہ افعال ہمہ تن صرف ہمت اور زگاہ کا بسبب غایت ادب و خوف الہی کے اپنے زانو و پشت پاسے تجاونہ کرنا اس اداراک بلا قصہ سے مانع قوی تھا علی المخصوص کسی شے کا عدم کہ وہ تو کوئی امر محسوس نہیں جس پر بے ارادہ بھی زگاہ پڑ جائے اور نفس اسے یاد رکھے، یہاں توجہ تک خیال نہ کیا جائے علم عدم حاصل نہ ہوگا، آدمی جب ایسے مقام رعب و بیت اور قلب کی مشغولی و مشغوفی میں ہوتا ہے تو کسی چیز کا عدم روئیت سے اس کے عدم پر استدلال نہیں کرتا اور جب اذہان میں بناء بر عادت اس کا عموم و شمول ممکن ہوتا ہے تو برخلاف عادت اس کے معدوم ہونے کی طرف خیال نہیں جاتا بلکہ اس سے اگر تفیش کی جائے اور اس امر کی طرف خیال دلایا جائے تو خواہ خواہ اس کا گمان اس طرف مساعت کرتا ہے کہ جب یہ امر عام ہے تو ظاہراً یہاں بھی ہو گا۔ میرانہ دیکھاں کچھ نہ ہونے پر دلیل نہیں، میری نظر میں نہ آنا اس وجہ سے تھا کہ اول میری زگاہ ادھر ادھر نہ اٹھتی تھی اور جو اٹھی بھی تو ہزار رعب، بیت اور نفس کے امور دیگر کی طرف صرف ہمت کے ساتھ ایسی حالت میں کیسے کہہ سکوں گا کہ تھایا تھا۔

**ثُمَّ أَقُول:** یہ کیفیت تو اس وقت کی تھی جب صحابہ کرام حضور سے ملاقی ہوتے اور جو ہر ماہ رکاب سعادت انتساب ہوتے تو وہاں باوجود ان وجوہ کے ایک وجہ اور بھی تھی کہ غالب اوقات صحابہ کرام کو آگے چلنے کا حکم ہوتا اور حضور ان کے پیچھے چلتے۔

ترمذی نے شماں کی حدیث طویل میں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا: یسوس اصحابہ<sup>۱</sup> یعنی حضور والا صحابہ کرام کو اپنے آگے چلاتے۔ امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رایت کیا:

حاصل یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطأعقبہ دیکھا کہ دو آدمی بھی حضور کے پیچھے چلے ہوں۔	مارأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطأعقبہ رجلان <sup>۲</sup> -
---	--

<sup>۱</sup> شماں ترمذی باب ماجاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این کمپنی دہلی ص ۲

<sup>۲</sup> مسنند احمد بن حنبل عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص المكتتب الاسلامی بیروت ۲/۲۵، سنن ابن ماجہ باب من کرہ ان یوطف عقباہ ایج

ایم سعید کمپنی کراچی ص ۲۲

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا:

اصحاب، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور پشت اقدس فرشتوں کے لئے چھوڑتے۔	کان اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہشون امامہ و یکون ظہرہ للملائکۃ <sup>۱</sup> ۔
---	--

دارمی نے بہ اسناد صحیح مرفعاً روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: خلوا ظہری للملائکۃ<sup>۲</sup>۔ میری بیٹھ فرشتوں کے لئے چھوڑ دو۔

باجملہ ہای راس تقریر سے جو بالکل وجہانیات پر مشتمل ہے، کوئی شخص اگر مکابرہ نہ کرے، بالیقین اس کا دل ان سب کیفیات کے صدق پر گواہی دے، بخوبی ظاہر ہو گیا کہ ظاہر؎ اکثر صحابہ کرام کا خیال اس طرف نہ گیا اور اس مجرزے کی انہیں اطلاع نہ ہوئی اور اگر یہ بر سبیل تنزل ثابت و مبرہن ہن ہو جانانہ مانئے تو ان تقریروں کی بناء پر یہ توہہ سکتے ہیں کہ عدم اطلاع کا احتمال قوی ہے، قوت بھی جانے دو اتنا ہی سمجھی کہ شک واقع ہو گیا، پھر یہی استدلال سن کر کہ اگر ایسا ہوتا تو مثل حدیث سنتون حنانہ مشہور و مستفیض ہوتا، کب باقی رہا، خصم کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے عدم شہرت بسبب عدم اطلاع کے ہو کماذ کرنا و بآل اللہ التوفیق (جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہا۔ ت)

مقدمہ ٹالش: ہماری تتفق سابق سے یہ لازم نہیں آتا کہ بالکل کسی کو اس مجرزے پر اطلاع نہ ہو اور کوئی اسے روایت نہ کرے، صیرالسن بچوں کو بعض اوقات اس قسم کی جرأتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ اسی طریقہ سے جو ہم نے مقدمہ ثانیہ میں ذکر کیا ادراک کر سکتے ہیں، اسی سبب سے اکثر احادیث حلیہ شریفہ ہند ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہوئیں نہ کہ اکابر صحابہ سے۔ ترجمہ ابن ابی ہالہ میں علامہ خفاجی فرماتے ہیں:

ہند ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر سایہ پر درش پانے والے تھے۔ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا	و كان ربیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخا لفاطمة (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) و خال
--	--

<sup>۱</sup> سنن ابن ماجہ باب من کرہ ان یوطا عقباء ایم سعید کمپنی کراچی ص ۲۲، مسنند احمد بن حنبل عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب

الاسلامی بیروت ۳۰۲/۳، موارد الظلمان کتاب علامۃ نبوۃ نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حریث ۲۰۹۹ المطبعة السلفیة ص ۵۱

<sup>۲</sup> سنن الدارمی تحت الحدیث ۳۶ دار المحسن للطبعاۃ قاہرہ ۲۹/۱۰

کے بھائی (اخیافی) اور حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ماموں تھے۔ آپ صغر سنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر ہو کر دیکھتے اور چہرہ اقدس پر ہمیشہ نگاہ ٹکائے رکھتے کیونکہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہند بن ابی ہالہ سے مشہور ہوا نہ کہ اکابر صحابہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کیونکہ صحابہ کبار شان و عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیت کے با عوٹ آپ پر نظریں نہیں ٹکائتے تھے۔ ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوں احاطہ کرتی تھی جیسا کہ ہالہ چودھویں کے چاند کا اور کلیاں کھجوروں کا احاطہ کرتی ہیں۔ آپ کو یہ سعادت مبارک ہو۔ مگر اس کے با وجود جو کچھ این ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ۔ (ت)

الحسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فکان لصغرہ یتشبیع من النظر لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بیدیم النظر لو جھہ الکریم لكونه عنده داخل بیته فلذا اشتهر وصف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنه دون غیرہ من کبار الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم فانهم لکبیرہم كانوا ایہا بون اطالۃ النظر الیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاختط به نظرہ احاطة الہالة بالبدر والا کمام بالشر هنیئا له مع ان ماقالہ قطرة من بحر<sup>۱</sup>۔

اور ہم ذی علم جانتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمانہ نبوت میں صغر السن تھے اور ان کا شمار بے اعتبار عمر اصغر صحابہ میں ہے اگرچہ بہرکت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم و فقاہت میں اکثر شیوخ پر مقدم تھے  
یعنی الزمان و فیہ مالم یوصف<sup>۲</sup>  
وعلی تغتن عاشقیہ بوصفہ قدم کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کے عاشقوں کو زمانے ختم ہو گئے مگر اس میں وہ خوبیاں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاسکا۔ (ت)  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

<sup>1</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل ثالث مرکز الہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۷/۳۲

<sup>2</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل ثالث مرکز الہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۷/۳۲

**مقدمہ رابعہ:** صحابہ کرام میں ہزاروں ایسے ہیں جنہیں طول صحبت نصیب نہ ہوا اور بہت ایسے ہیں جنہوں نے سوئے مجامع عظیم کے شرف زیارت نہ پایا۔ غیر مدینہ کے گروہ کے گروہ حاضر ہوتے اور عرصہ قلیلہ میں واپس جاتے، ایسی صورت اور جمع کی کثرت میں موقع سایہ پر نظر اور اس کے ساتھ عدم سایہ کی طرف خیال جانا کیا ضرور۔ ظاہر ہے کہ جمع میں سایہ ایک کا دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا اور کسی شخص خاص کی طرف نسبت امتیاز کرنا کہ اس کے لئے ظل ہے یا نہیں، دشوار ہوتا ہے۔ علاوہ بریں یہ کس نے واجب کیا کہ ان اوقات پر حضور والادھوپ یا چاندنی میں جلوہ فرمائیں، کیا مدینہ طیبہ میں سایہ دار مکان نہ تھے یا مسجد شریف کہ اکثر وہیں تشریف رکھتے ہے سقف تھی۔

احادیث سے ثابت کہ سفر میں صحابہ کرام حضور کے لئے سایہ دار پیڑھوڑ دیتے اور جو کہیں سایہ نہ ملا تو کپڑے وغیرہ کا سایہ کر لیا جیسا کہ روز قدوم مدینہ طیبہ سید نبی بکر صدیق اور حجۃ الوداع میں واقع ہوا اور قبل از بعثت تو ابر سایہ کے لئے معین تھا ہی، جب چلتے ساتھ چلتا اور جب ٹھہر تھہر جاتا، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے غلام میسرہ نے فرشتوں کو سر اقدس پر سایہ کرتے دیکھا اور سفر شام میں آپ کسی حاجت کو تشریف لے گئے تھے، لوگوں نے پیڑ کا سایہ گھیر لیا تھا، حضور دھوپ میں بیٹھ گئے سایہ حضور پر جھک گیا۔ بھیر اعمال نصاری نے کہا دیکھو سایہ ان کی طرف جھکتا ہے۔ اور بعض اسفار میں ایک درخت خشک و بے برگ کے نیچے جلوس فرمایا، فوراً زمین حضور کے گرد کی سبزہ زار ہو گئی اور پیڑ ہرا ہو گیا، شاخیں اسی ساعت بڑھ گئیں اور اپنی کمال بندی کو پہنچ کر سائے کرنے حضور پر لٹک آئیں۔ چنانچہ یہ سب حدیثیں کتب سیر میں تفصیل مذکور ہیں۔

اب نہ رہے مگر وہ لوگ جنہیں طول صحبت روزی ہوا اور حضور کو آفتاب یا مہتاب یا چراغ کی روشنی میں ایسی حالت میں دیکھ کے جمع بھی کم تھا اور موقع سایہ پر بالقصد نظر بھی کی اور ادراک کیا کہ جسم انور ہمسائیگی سایہ سے دور ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا احساس و انشاف جن لوگوں کے لئے ہوا ہے وہ بہت کم ہیں، جن کے واسطے نہ ہوا پھر اس طائفہ قلیلہ سے یہ کیا ضرور ہے کہ ہر شخص یا اکثر اس مجرے کو روایت کرے، ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مجرد خرق عادت باعث تو فرد ادعی و نقل جمع اکثر حاضرین ہے۔ خادم حدیث پر کاشم فی نصف النہار روشن کو صدھا مجذرات قاہرہ حضور سے غزوت و اسفار و مجامع عامہ میں واقع ہوئے کہ سیکڑوں ہزاروں آدمیوں نے ان پر اطلاع پائی مگر ان کی ہم تک نقل صرف احادیث سے پہنچی۔

واقع حدیثیہ میں انگشتان اقدس سے پائی کا دریا کی طرف جوش مارنا اور چودہ پندرہ سو آدمی کا

علی انتلاف الروایات اسے پینا اور وضو کرنا اور بقیہ تو شہ کو جمع کر کے دعا فرمانا اور اس سے لشکر کے سب برتن بھر دینا اور اسی قدر باقی بیچ رہنا، ایسے مجنزرات میں ہیں اور بالضرور چودہ پندرہ سو آدمی سب کے سامنے اس کا وقوع ہوا اور سب نے اس پر اطلاع پائی مگر ان میں سے چودہ نے بھی اسے روایت نہ فرمایا۔

فقیر نے کتب حاضرہ احادیث خصوصاً وہ کتابتیں سیر و فضائل کی جن کا موضوع ہی اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ہے مانند شفاعة قضی عیاض و شرح خفاجی و مواہب لدنی و شرح زرقانی و مدارج النبوة و خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ امطالعہ کیں، پانچ سے زیادہ راوی اس واقعۃ کے نہ پائے۔ اسی طرح رد مشریع یعنی غروب ہو کر سورج کا لوث آنا اور مغرب سے عصر کا وقت ہو جانا جو غزوہ خیبر میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے لئے واقع ہوا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ عدم ظل کو اس سے اصلاً نسبت نہیں اور اس کا وقوع بھی ایک غزوہ میں ہوا کیا ذکر کرنا (جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ت) اور تعداد لشکر خیبر کی سولہ سو ۱۲۰۰، بالضرور یہ سب حضرات اس پر گواہ ہونگے کہ ہر نمازی مسلمان خصوصاً صحابہ کرام کو بغرض نماز آفتاب کے طلوع و غروب زوال کی طرف لاجرم نظر ہوتی ہے۔

توریت میں وصف اس امت مر حوم کار عاتۃ الشتمس کے ساتھ وادد ہوا کیا رواہ ابو نعیم عن کعب الاحبیار عن سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام (جیسا کہ اس کو ابو نعیم نے بحوالہ کعب الاحبیار عن سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کیا ہے۔) ت یعنی آفتاب کے نگہبان کہ اس کے تبدل احوال اور شر وق و افول زوال کے جویاں و خبر گیران رہتے تھے، جب آفتاب نے غروب کیا ہوا کا بالضرور تمام لشکر نے نماز کا تہیہ کیا ہو گا، دفعۃ شام سے دن ہو گیا اور خورشید اٹھ پاؤں آیا، کیا ایسے عجیب واقعہ کو دریافت نہ کیا اور نہ معلوم ہوا ہو گا کہ اس کے حکم سے لوٹا ہے جسے قادر مطلق کی تیابت مطلقہ اور عالم علوی میں دست بالا حاصل ہے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) لیکن اس کے سوا اگر کسی صاحب کو معلوم ہو کہ اتنی بڑی جماعت سے دو چار آدمیوں نے اور بھی اس مجنزے کو روایت کیا تو شان دیں۔

بالجملہ یہ حدیث وابہبہ ہے جس کی بناء پر ہم عقل و نقل و اتباع حدیث و علماء کو ترک نہیں کر سکتے، کیا یہ اکابر اس قدر نہ سمجھتے تھے یا انہیں نے دیدہ و دانستہ خدا اور رسول پر افتداء کو اکیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بلکہ جب ایک راوی اس حدیث عدن ظل کے ذکوان ہیں اور وہ خود ابو صالح سمان زیات ہوں یا ابو عمر و مدنی مولائے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تردد فيه الزرقانی (اس میں زرقانی نے تردید کیا۔ت) بہر تقدیر تابعی ثقہ معتمد علیہ ہیں کیا ذکر ایضاً ۰۰۰۰۰۰ اور تابعین و علماء

ثقات

اہل ورع و احتیاط سے مظنوں یہی ہے کہ غالب حدیث کو مرسل اسی وقت ذکر کریں گے جب انہیں شیوخ و صحابہ کثیرین سے اسے سن کر مرتبہ قرب و یقین حاصل کر لیا ہو۔ ابراہیم تخریج فرماتے ہیں اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ در صورت اسناد صدق و کذب سے اپنے آپ کو غرض نہ رہی۔ جب ہم نے کلام کو اس کی طرف نسبت کر دیا جس سے سنا ہے تو ہم بری الذمہ ہو گئے۔ بخلاف اس کے کہ اس کا ذکر ترک کریں اور خود لکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، ایسا فرمایا، اس صورت میں بار اپنے سر پر رہا تو عالم ثقہ، متور، محتاط، بے کثرت سماع و اطمینان کی قلب کے ایسی بات سے دور رہے گا۔ اس طور پر ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سایہ نہ ہونا بہت صحابہ نے دیکھا اور ان سب سے ذکوان کو سماع حاصل ہوا گرچہ ان کی روایات ہم تک نہ پہنچیں۔

<p>اسی طرح طرح چاہے مقام کی تفہیم اور مقصد کی تتفتح اللہ تعالیٰ ہی فضل و توفیق اور انعام کامل ہے۔ تحقیق ابھی کچھ پوشیدگیاں کلام کے گوشوں میں باقی ہیں۔ امید ہے کہ فکر صائب ان تک رسائی حاصل کر لے گی۔ یہ جو کچھ منذور ہو امیرے رب نے اپنے فضل و نعمت سے میرے دل میں ڈالا ہے یہ میرے دل کی تخلیق نہیں ہے۔ بے شک میرا رب بڑے فضل والا ہے اور وہ روف و رحیم ہے۔ عزت و حکمت والے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی قوت۔ میرا مگان ہے کہ میں نے اپنے رب جلیل کی حمد سے مسئلہ منذورہ میں وہ کچھ ثابت کر دیا ہے جو بیمار کو شفادے گا اور پیاسے کو سیراب کرے گا اور قلت و کثرت کے ساتھ مخل نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے بے شک وہ میرے لئے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور</p>	<p>هَكَذَا يَنْبُغِي أَنْ يَفْهَمَ الْمَقَامُ وَيُنْقَحَ الْمَرَامُ، وَاللَّهُ وَلِي الْفَضْلُ وَالْتَّوْفِيقُ وَالْإِنْعَامُ، هَذَا وَقَدْ بَقِيَ بَعْدَ خَبَارِي فِي زُوَايا الْكَلَامِ لِعَلَيْهَا يَفْوزُ بَهَا فَكُرُونَهُذَا كَلَامٌ وَقَدْ وَجَدَ مَا الْهَمْنَى رَبِّي بِفَضْلِ مِنْهُ وَنِعْمَةٌ لَا يَجِدُ مِنْ قَلْبِي أَنْ رَبِّي لِذَوِ فَضْلٍ عَظِيمٍ أَنَّهُ هُوَ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ وَلَا حَوْلُ وَ لَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَظَنِّي أَنِّي بِحِمْدِ رَبِّي الْجَلِيلِ قَدْ أَثَبَتَ فِي الْمِسْأَلَةِ مَا يَشْفَى الْعَلِيلُ بِالْكَثِيرِ وَلَا بِالْقَلِيلِ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَنَّهُ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اسَالَهُ أَنْ يَجْنِبَنِي بِهَا وَ</p>
---	--

ہر لغزش کرنے والے کو اس کی برکت سے لغزش سے بچائے اور اسے ہمارے سروں پر گھر اسایہ بنائے جس روز اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے روشن ترین ماہتاب رسالت پر اور سب سے زیادہ چکدار آفتاب کرامت اور اس کے انوار پر جس کا سایہ نہ تھا دھوپ میں نہ چاندنی میں، اور آپ کے صحابہ وآل پر جو آپ کے دامن رحمت کے سایہ میں ہیں اور آپ کے سایہ رحمت کے سایہ میں ہیں اور ز آپ کے سایہ رحمت کی نعمتوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم سب پر روف و حیم کی رحمت سے۔ (ت)

کل من زلزلة و يجعلها ظلاماً ظليلاماً على روسنا يوم لا ظل الا ظله و ان يصلح على ابھی اقیام الرسالة وابھرها واسنی شیوش الكرامة وانوارها لہم یکن له ظل في شیس ولا قبر و فدیا کات وصله ولی صحبہ والہ متظلین باذیالہ الداعین الی نعم اظلالہ وعلینا معهم اجمعین بر حمۃ انه رؤف رحیم واخر دعونا ان الحمد للہ رب العلمین۔

## رسالہ

قدرتیامر فی نفی الظل عن سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

ختم ہوا

## رسالہ

هدی الحیران فی نفی الفیئ عن سید الاکوان

(سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سایہ کی نفی کے بارے میں حیرت زدہ کے لئے راہنمائی)

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

<p>تمام تعریفین اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جن سے دھوکوں کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ درود وسلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ماہ کا مسل ہیں اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر جواندھیروں میں چراغ ہیں اور پر جو قیامت آل واصحاب کے انوار سے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں گے۔ بعد ازاں ہرگز اور کندڑہن کے سر سے رب قوی کی پناہ کا طلبگار اس کا خططا کار بندہ احمد رضا کہتا ہے جو ملت کے اعتبار سے محمدی، عقیدہ کے اعتبار سے سنی، عمل کے اعتبار سے حنفی، طریقت و انتساب کے اعتبار سے قادری برکاتی احمدی، مولد وطن</p>	<p>الحمد لله حمدًا تنجزي بها ظلمات الظلام والصلوة و السلام على سيدنا محمد قبر التمام وعلى الله و اصحابه مصابيح الظلام وعلى المبتدئين بآنوار هم إلى يوم القيام وبعد فقال العبد البليتجي إلى ربه القوى عن شر كل غوى وغبي عبدة المذنب احمد رضًا المحمدي ملة والسنى عقيدة والحنفى عملا و القادرى البركاتى الاحمدى طريقة وانتساباً و</p>
--	---

کے اعتبار سے بریلوی اور اللہ نے چاہا تو مدد فن و محشر کے اعتبار سے مدنی و بقیعی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منزل و مدد خل کے اعتبار سے عدنی و فردوسی ہے درا نحا لیکہ وہ ہدایت و یقین کے انوار سے مستیز ہونے والا اور خلن و تختین کے خدشات کو مٹانے والا ہے، تیری توفیق سے اے ہمارے رب! ہم ہربات میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اللہ بلندی و عظمت والے کی توفیق کے بغیر نہ تو کسی کے لئے سنہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کو قوت۔ (ت)

البریلوی مولدا و موطناً والمدنی والبقيعی ان شاء اللہ مدفناً و محشر افالعدنی الفردوسی رحمة الله منزلہ و مدخلہ مستنیراً بآنوار الهدایۃ والیقین حاسماً الخدشات الظن و التخییں بک یا ربنا فی کل باب نستعين ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔

### فصل اول

ہم حول و قوت رباني پر انکاء و اتکال کی عروہ و ثقی دست التجاء میں مضبوط تھام کر پیش از جواب مفصل چند مقدمات ایسے تمہید کرتے ہیں جن سے بعون اللہ تعالیٰ ارقاع نزاع بہ آسمانی بن پڑے۔

عنیزان حق طلب! اگر عقل سلیم کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینگے تو ان شاء اللہ انہی شمعوں کی روشنی میں ٹھیک ٹھیک شاہراہ صواب پر ہو لیں گے اور کلفت خار زار اور آفت بیکن ویسا رے بچتے ہوئے تخلائے ہدایت میں نور کے ترکے ٹھنڈے ٹھنڈے منزل تحقیق پر خیمه زن ہوں گے اور جو تعصباً اور سخن پروری کا ساتھ دے تو ہم پر کیا الزام ہے کہ جلت ریت پر چلانا، بلا کے کائنات میں پھنسانا، اندھے کو دن میں گرانا، ان دو آفت جان، دشمن دین و ایمان کا تدیکی کام ہے و باللہ التوفیق و به الوصول الی ذروۃ التحقیق (اللہ ہی سے توفیق ہے اور اسی کی بدولت تحقیق کی بلندی تک پہنچا جاسکتا ہے۔ ت)

مقدمہ اولیٰ: جب دو چیزوں میں عقل یا نقل ملازمت ثابت کرے تو بحکم قضیہ لزوم، بعد ثبوت ملزموم، تحقیق لازم خود محقق و معلوم، اور بحث دلیل کی حاجت معدوم، اسی طرح بعد اتفاقے لازم انعدام ملزموم آپ ہی مغہوم، کما ہو غیر خاف ولا مکنوم، اور اسی ملازمت واقعہ کے باعث مرتبہ اور اک میں بھی بعد علم باللزموم، وجود لازم و اتفاقے ملزموم، تحقیق ملزموم و عدم لازم کاشک و وہم و خلن و یقین و تکذیب میں تابع رہتا ہے، مثلاً جسے وجود ملزموم پر یقین کامل ہو گا اس کے نزدیک ثبوت لازم

بھی قطعی یقینی ہو گا اور ظان و شاک و واعہم کے نزدیک مظنون و مشکوک و موبہوم ہو گا اور یہ معنی بدیہیات باہرہ سے ہیں۔

مقدمہ ثانیہ: دعاویٰ و مقاصد خواہش ثبوت میں متساوية القدر نہیں بعض ایسے درجہ اہتمام و رفعت مقام میں ہیں کہ جب تک نص صحیح، صریح، متواتر قطعی الدلالة ہر طرح کے شکوک و ادھام سے منزہ و مبرئہ پایا جائے ہر گز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکتے، احادیث احادا اگرچہ بخاری و مسلم کی ہوں ان کے لئے کافی نہ ہوں گی۔

اسی قبلی سے ہے اطلاق الفاظ تثابہات کہ حضرت عزت میں اصح الکتب سے ثابت مگر عدم تو اترمانع قبول اور حلال و حرام کی جب بحث آئے تو احادیث ضعیفہ سے کام لیں گے اور فضائل اعمال و مناقب رجال میں دائرة کو خوب تو سیع دیں گے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ثابت الاصل کے مویدات و ملائمات میں چند اہتمام منظور نہیں، مثلاً ہمیں یقینیات سے معلوم ہو چکا کہ ذکر الہی و تکبیر و تہلیل و نماز و درود وغیرہ اعمال صالح محمود ہیں، اب خاص صلوٰۃ التسپیح کی حدیث درجہ صحت تک پہنچنا ضرور نہیں، یا نصوص قرآنیہ و احادیث متواترۃ المعنی ہمیں ارشاد فرمایا چکیں کہ صحابہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم اجمعین سب ارباب فضائل و علوشان و رفعت مکان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان مقبول و بہترین انتیاں ہیں۔

اب خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بخاری و مسلم ہے پر مقصور نہیں، اسی قبلی سے ہے باب مججزات و خوارق عادات کو حضور اقدس خلیفہ اعظم بارگاہ قدرت سے صدور آیات و مججزات اور ملکوت السموۃ والارض میں حضور کے ظاہر و باہر تصرفات، قاطعات یقینیہ سے ثابت، تواب شہادت ظبی یا عدم ظل کا ثبوت صحاح ستہ پر محصور نہیں علماء نے توباب خوارق میں غرابت متنیں پر بھی خیال نہ کیا اور حدیث کو باوجود ایسے خدشہ کے حسن و مقبول رکھا۔

امام اجل ابو عثمان سعیل بن عبد الرحمن صابانی کتاب الماتین میں حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پر نور سے مہد اقدس میں چاند باتیں کرتا اور جدھر اشارہ فرماتے ہیں جبکہ دیتا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

یہ حدیث اسناد و متن کے اعتبار سے غریب ہے اور وہ مججزات میں حسن ہے اس کو امام قسطلانی	هذا حدیث غریب الاسناد والمتن وهو في المعجزات حسن <sup>۱</sup> اهأثره الامام العلامة
---	--

<sup>۱</sup> المواهب الدنیۃ بحوالہ الصابون فی المائتین المقصد الاول المکتب الاسلامی بیروت ۱/۷۵۲

القسطلاني في المواهب۔	نے مواهب میں ترجیح دی۔ (ت)
علامہ رز قانی شرح لکھتے ہیں:	لان عادة المحدثين التساهل في غير الأحكام و العقائد مالم يكن موضوعاً <sup>۱</sup> ۔
کیونکہ محدثین کی عادت ہے کہ وہ احکام و عقائد کے غیر میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں جب تک حدیث موضوع نہ ہو۔ (ت)	مقدمہ ثالثہ: علماء کی تلقی بالقبول کو ایراث قوت میں اثر عجیب ہے کہ وہ ہر طرح ہم سے اعرف و اعلم تھے، ہماری ان کی کوزہ و محیط کی بھی نسبت ٹھیک نہیں، وہ سماۓ علوم کے بدر منیر اور ہم عامی انہیں کی روشنیوں سے مستیز، جب وہی ایک امر کو سلفا و خلفا مقبول رکھیں اور اپنی تصانیف اس کے ذکر سے موضع کریں تو ہمیں کیا جائے انکار ہے،

<sup>۱</sup> شرح الزرقانی على المواهب اللدنیۃ المقصد الاول دار المعرفة بیروت ۱/۷۴

اپنی اپنی کتب میں وہ امور لائے جن کے لکھنے میں مشقت برداشت کرنی پڑی اور جن کو ادله اور قواعد شرعیہ کے ترازو پر قول لیا ہے اور ان کو سونے اور چاندی کی طرف مزین کیا ہے، پس تو اپنے آپ کو اس سے بچا کر ان کے اقوال میں سے کسی ایسے قول پر عمل کئے سے تمہارا دل تنگ ہو جس کا مأخذ تمہاری سمجھ میں نہ آیا ہو کیونکہ تو بہ نسبت ان کے عامی ہے اور عامی کا یہ منذہب نہیں کہ وہ علماء کا انکار کرے کیونکہ وہ عامی جاہل ہوتا ہے۔ (ت)

مؤلفہ عادة الامات عب في تحریره وزنه بیزان الادلة والقواعد الشرعية وحررة تحریر الذهب والجوهر، فایاک ان تتقبض نفسك من العيل بقول من اقوالهم اذا لم تعرف منزعه فأنك عامي بالنسبة اليهم والعامي ليس من مرتبة الانكار على العلماء لانه جاہل<sup>۱</sup> اہ-

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ کافتوی سابق کہ اسی بارے میں لکھ چکا ہوں پیش نگاہ کر ان مقدمات میں امعان نظر کیجئے توبہ حمد اللہ تمام شکوک واہام ہباءً منتشر ہو جاتے ہیں، ہاں میں بھولا، ایک شرط اور بھی درکار ہے، وہ کیا، عقل کا اتباع اور تعصب سے امتناع، مگر یہ دولت کسے ملے؟ جسے خداوے۔

یہاں تو اجمال کی غنچہ بندیاں تھیں اور تفصیل کی بہار گفتاخانی پسند آئے تو لیجئے بگوش ہوش و قلب شہید و انصاف کوش، استماع کیجئے۔ رب ارحم من انصاف و اهد عنیدا خالفاً (اے میرے پروردگار انصاف کرنے والے! رحم فرماؤ اور مخالف کرنے والے ہٹ دھرم کو ہدایت عطا فرمائے۔)

قولہ صرف حکیم ترمذی نے کہ غیر صاحب صحیح اور شخص ہیں، اپنی کتاب نوادر الاصول میں روایۃ کہا ہے:

آپ کا سایہ نہ تھا، نہ دھوپ میں نہ چاندی میں (ت)	ولم يكن له ظل لافي الشمسم ولا في القمر۔
---	---

اقول: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (اللہ تعالیٰ نبی کریم پر درود و سلام تازل فرمائے۔ ت)

مجیب کے اس سارے جواب کا بنے صرف اسی زعم فاسد پر ہے جو قصور نظر سے ناشی۔ حکیم ترمذی نے تو اس حدیث کو ذکر کو ان تابعی سے مرسل اور اسے موصولة مع زیادت مفیدہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرنے کرنے والے امام جلیل، ہر نبیل، حجۃ اللہ فی الارضین، معجزۃ من معجزات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت امام ہمام عبد اللہ بن مبارک قدس سرہ المتبرک جن کی جلالت شان و

<sup>1</sup> میزان الشریعة الكبرى فصل في بیان ذکر بعض من اطبب في الثناء الخ دار الكتب العلمية بیروت ۹۰/۱

غزارت علوم آفتاب نیم روز سے اظہر وازہر، امام اجل احمد بن حنبل و امام سفین ثوری و امام بیکی ابن معین و ابو بکر بن ابی شیبہ و حسن بن عرفہ وغیرہم الکابر محدثین، فن حدیث میں اس جانب رفتہ قاب کے شاگردان مستفیض ہیں اور کتابوں پر اگر نظر نہ ہو تو شاہ صاحب کی بستان ہی دیکھئے، کیا کچھ مدارج اس جانب سے لکھ کر مستوجب رحمت الہی ہوئے ہیں۔

ان کے بعد اس حدیث کے راوی امام علامہ شمس الدین ابو الفرج ابن الجوزی ہیں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ کتاب الوفاء میں اسے روایت فرمایا<sup>1</sup>۔ فن حدیث میں ان کی دستگاہ کامل کے معلوم نہیں خصوصاً بر عکس امام ابو عبد اللہ حامی جرج و ضعیف پر حرص شدید رکھتے ہیں، پھر جس حدیث حدیث پر یہ اعتماد کریں ظاہر ہے کہ کس درجہ قوت میں ہوگی، پس باوجود تعدد طرق و کثرت مخربین، حدیث کو صرف روایت حکیم ہنا محسن باطل، اور باطل پر جو کچھ مبنی، سب حلیہ صواب سے عاطل، اور معلوم نہیں لفظ "روایة" کس غرض سے بڑھایا، ظاہر اعتصال یا تعلیق کی طرف اشارہ فرمایا کقول القائل روی کذا و ذکر عن زید عن عمر و کذا (جیسے قول قائل کہ یوں روایت کیا گیا ہے اور زید سے بحوالہ عمر و یوں ذکر کیا گیا ہے۔ت) کہ مقصود مجیب حدیث کو بے اعتبار ٹھہرا نا ہے تو بہ شہادت سوق وہی الفاظ لائے جائیں گے جو مقصود کے ملائم و موید ہوں نہ کہ ایک قسم کی بے اعتباری کو دفع کریں اور اعتبار سے اصلاح منافات نہ رکھیں، حالانکہ محمد شین کے نزدیک تخریج کو روایت کا ایک ہی مناد اور ذکر اسناد دونوں جگہ مراد کیا تفصیح عن کلمات العلماء الامجاد (جیسا کہ بزرگ علماء کی عبارات نے اس کو خوب واضح کر دیا ہے۔ت) پس اگر اس اصطلاح محمد شین پر اطلاع تھی تو مقصود سے بیگانہ لفظ کی زیادت کیوں ہوئی اور ایسے مواخذے تو ہم ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ روایت حکیم کی نقل میں کمی بیشی واقع، ان کے پاس لفظ حدیث یوں ہیں:

سورج اور چند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری سلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ (ت)	ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری لہ ظل فی شمس ولا قمر <sup>2</sup> ۔
---	--

قولہ مگر محمد ثان اعلام نے اس حدیث کو معتبر نہیں مانا ہے۔

اقول: جب اس کتاب کے سوا اور انہے اعلام نے بھی حدیث کو روایت فرمایا تو اس کتاب کا

<sup>1</sup> الوفاء بحوال المسطفى الباب التاسع والعشرون مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۷/۲۰۷

<sup>2</sup> الخصائص الکبری بحوالہ الحکیم الترمذی باب الایة فی انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری الخ مکرہ لہست بركات رضا گجرات ۱/۶۸

غیر معتبر ہونا کیا مضرت رکھتا ہے، معدناً غیر معتبر ماننے کے یہ معنی کہ اس کی ہر روایت کو باطل سمجھا، جب تو محض غلط، نہ کوئی محدث اس کا قال، خود لاکابر محدثین اسی نوادر الاصول بلکہ فردوس دیلی سے جس کا حال نہایت ہی ردی ہے، تو وہ روایتیں اپنی کتب میں لاتے اور ان سے احتجاج واستناد فرماتے ہیں کیاً لا یخفی علی من طالع کتب القوم (جیسا کہ کتب قوم کا مطالعہ کرنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ت) اور جو یہ مقصود کہ اس میں روایات منکرہ و باطلہ بھی موجود ہیں تو بے شک مسلم، مگر اس قدر سے یہ لازم نہیں آتا کہ ساری کتاب مطروح و مجرور ٹھہرے اور اس کی کسی حدیث سے استناد جائز نہ رہے آخر علمائے سلف احادیث نوادر و روایات فردوس سے کیوں تمکر کرتے ہیں اور جب وہ اس سے بازنہ رہے تو ہم کیوں منوع رہیں گے، خود یہی شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے والد و اسنانہ و مشائخ شریعت و طریقت اپنی تصانیف میں احادیث کتب مذکورہ ذکر اور ان سے استدلال کرتے ہیں۔

قولہ اب یہ کہنے گا کہ جب تکاب مخدوش و مخلوط ہو چکی تو ہر حدیث پر احتمال ضعف قائم، تو اس سے احتجاج اسی کو رواؤ ہو گا جو بصیر و عارف اور نشیب و فراز فن سے واقف ہے۔

اقول: اب ہمارے مطلب پر آگئے، حدیث عدم ظل سے بھی ہم عامیوں نے استدلال نہ کیا بلکہ یہی ائمہ شافعی، اور ارباب تمیز و عرفان اسے بلا نکیر منکر مقبول رکھتے آئے اور ہم نے ان کی تقلید سے قبول کیا۔ اگر ان بصیرت والوں کے نزدیک متنازع فیہ قابل قبول نہ ہوتی تو حسب عادت اس رپرداو انکار کیوں نہ فرماتے اور تلقی بالقبول سے بازاً تے۔

قولہ اور مصنف نے بھی اتزام <sup>التحجیح</sup> مافیہ نہیں کیا ہے صرح بذلک خاتم المحدثین مولانا شاہ عبدالعزیز محدث الدھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی بستان المحدثین (خاتم المحدثین مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے بستان المحدثین میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ت)

اقول: نہ اتزام تصحیح صحت کو مستلزم، نہ عدم اتزام اس کا مراحم۔ اہل اتزام کی تصانیف میں بہت روایات باطلہ ہوتی ہیں اور اتزام نہ کرنے والوں کی تصنیفوں میں اکثر احادیث صحیحہ، آخر متدرک حاکم کا حال نہ سن جنہوں نے صحت کیا معنی، اتزام شرط شیخین کا دعاء کیا ار بقدر چہارم احادیث ضعفیہ و منکرہ و باطلہ و موضوعہ بھر دیں۔

اسی طرح این حبان کا یہ دعویٰ کتاب التقاضیم والانواع میں ٹھیک نہ اتر اور سنن ابی داؤد جس میں اتزام صحاح ہر گز نہیں، صحاح ستہ میں معدود اور ان کا مسکوت عنہ مقبول و محمود، یہ سب امور خادم حدیث پر جعلی و روشن ہیں۔

عزیز! مدارک اسناد پر ہے، اتزام و عدم اتزام کوئی چیز نہیں، یہ دولت تو روز اول

بخاری کے حصہ میں تھی کہ احادیث مندہ میں حق سجانہ، نے ان کا قصد پورا کیا، پھر ایسی فضول بات کے ذکر سے کیا حاصل! کیا جس کتاب میں التزام صحاح نہیں اس سے احتجاج مطلقاً مباح نہیں؟ ایسا ہو تو بخاری و مسلم و چند کتب دیگر کے سوا سنن ابی داود وابن ماجہ و دارمی و تصانیف ابی یکر بن ابی شیبہ و عبد الرزاق و دارقطنی و طبرانی و یہیقی و زرار وابی لیلی وغیرہا معظم کتب حدیث جن پر گویا مدار شرع و سنت ہے محض بیکار ہو جائیں۔ لاحوال ولاقوة الابالله العلی العظیم (نہ گناہ سے نچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی تسلی کرنے کی قوت مگر بلندی و عظمت والے خدا کی طرف سے۔ت)

قولہ اور کسی حدیث کی معتبر کتاب یہ اس مسئلہ سے وجود اور عدم باجث نہیں۔

اقول: کاش ہمیں بھی معلوم ہوتا حدیث کی کتابیں جناب مجیب عفای اللہ تعالیٰ عناد عنہ کے کتب خانہ میں ہیں یا کتنی حضرت کی نظر سے گزری ہیں کہ بے دھڑک ایسا عام دعویٰ کرتے ہوئے آنکھ نہ چھپلی، ہم نے تاکابر ائمہ کو یوں سنا کہ جس حدیث پر اطلاع نہ پائی لمراجد (میں نے یہ پایا۔ت) یا لم ارج (میں نے نہیں دیکھا۔ت) یا لم اقف علیہ (میں اس پر آگاہ نہ ہوا۔ت) پر اتفصار فرمایا، یہ لیس (نہیں ہے۔ت) اور لم یکن (نہیں ہوا۔ت) کی جرأتیں، حق تو یہ ہے کہ بڑے شخص کا کام ہے۔

علامہ سیوطی سماحت ان جیسی نظر واسع جنہوں نے دامن ہمت، کرعزیت پر چست باند کر جمع الجوامع میں تمام احادیث وارده کے جمع و استیعاب کا قصد فرمایا، دیکھو حدیث اختلاف امتوی رحمة (میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ت) کی تحریق پر واقف نہ ہوئے اور جامع صغير میں اسی قدر فرمایا کہ خاموش رہے کہ شاید یہ حدیث کسی ایسی کتاب میں مردی ہوئی کہ ہم تک نہ پہنچی<sup>۱</sup>۔ پھر علامہ مناوی تیسری میں اس کی تحریقیں، مدخل یہیقی و فردوس دیلمی سے تلاش ہی کر لائے<sup>۲</sup>۔ پھر ہم کو بایں بضاعت مزجاجہ، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ دعویٰ کہ زیب دیتا ہے مگر اتصنیف امام عبد اللہ بن مبارک و تالیفات حافظ رزین محدث و سُنّتِ ابوبوفاء علامہ جوزی و شفاء<sup>۳</sup> الصدور علامہ ابن سبع و<sup>۴</sup> کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتصنیف علامہ قاضی عیاض و<sup>۵</sup> شیم الریاض علامہ خفاجی و<sup>۶</sup> خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی و موهابہ لدنیہ<sup>۷</sup> منح محمدیہ امام علامہ قسطلانی و

<sup>۱</sup> الجامع الصغیر تحت حدیث ۲۸۸ دار الكتب العلمیہ بیروت ۲۲/۱

<sup>۲</sup> التیسیر شرح الجامع الصغیر تحت حدیث اختلاف امتوی رحمة مکتبۃ امام الشافعی ریاض ۳۹/۱

<sup>۹</sup>شرح مواہب علامہ زرقانی و مدارج النبوت شیخ محقق وغیرہ اسفرائیمہ دین و علماء محققین، آپ کے نزدیک معتبر نہیں یا جب تک بخاری مسلم میں ذکر مسئلہ نہ ہو قابل اعتبار متصور نہیں۔

فقیر حیران ہے جب حدیث کئی طریق سے مروی ہوئی اور چند ائمہ نے اسے تخریج کیا اور وہ مقتدا یا ملت نے اس سے احتجاج فرمایا اور سلفا خلافاً بے اعتراض مفترض مقبول رکھا، پھر نہ تسليم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر بالفرض حدیث میں ضعف ہی مانا جائے، تاہم مرتبہ مقام چاہے کہ یہاں تضمین مطلوب ہے یا تو سچ محبوب، صحت نہ سہی، کیا حسن سے احتجاج نہیں ہوتا؟ حسن بھی نہ مانو، کیا ضعف متماسک ایسی جگہ کام نہیں دیتا؟ آخر اقسام حدیث میں ایک قسم کا نام صالح بھی سناؤ گا، اگر معاورائے صحاح سب بیکار ہیں تو حسن میں حسن اور صالح میں صلاحیت کس بات کی ہے انا لله و انا علیہ راجعون (بیشک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف ہم کولوٹنا ہے۔ ت)

قولہ مسلمان کو ایک جانب پر اصرار نہ چاہے۔

اقول: اگرچہ حق واضح ہے؟ یہ کلمہ عجیب و ضعیف ہے، مسلمان کی شان وہ ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خبر دیتا ہے:

جو کان لگا کربات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ (ت)	"یَسْتَعِونَ النَّقُولَ فَيَتَّمَعَنَّ أَحَسْنَهُط <sup>۱</sup> "
---	---

دامن ائمہ ہاتھ سے دے کر شاہراہ یقین سے دور پڑیے اور شکوک و تردودات کے کانٹوں میں الجھے۔

اے عنیز! جب مسلمان نقی الایمان ادھر تو یہ نے لگا کہ اس بات میں احادیث وارد اور اراکین دین متین و اساطین شرع نہیں کی تصنیف اس سے مملو مشفون اور ادھر اس کے قلب کی حالت ایمانی جو تکشیر فضائل سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان سے پیاری ہے، بے شوق تمام سر و قد استادہ ہو کر مر جاؤ گیاں اسے مندا آمنا و صدق قفار جگہ دے گی اور ادھر داعیہ عقل سلیم انبیاث تازہ پاک حکم قطعی لگائے گا کہ میرا محبوب سر اپا نور ہے اور نور ک اسایہ خرد سے دور، تو ان انوار پے در پے کی متواتریز شوں کے حضور شکوک واہم کی ظلمت کیونکہ ٹھہر سکے گی اور تینکامل کی روشنی چار چانپ سے سراپا کو محیط ہو کر کس طرح اصرار و اذعان کے رنگ میں نہ رنگ دے گی۔

ہم چھوٹی سی دو باتیں پوچھتے ہیں، شک کرنے والے کو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے

نور بحث ہونے میں امکل ہے یا سایہ کو کثافت لازم ہونے میں تردد۔ اگر امر اول میں شک رکھتا ہے تو میں اپنی زبان سے کیا کہوں، صرف اپنے ایمان صرف غیر مشوب بالادہام اور قضیہ اشہد ان محمداً عبدہ و رسولہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ت) کے لازمی احکام سے حکم اپنادریافت کر لے، اور امر دوم میں تردد ہے تو مفہی عقل کی بارگاہ سے جنون و دیوالی کا فتویٰ مبارک، اسی لئے ہم دعویٰ حقی کرتے ہیں کہ اگر اس بات میں کوئی حدیث نہ آئی ہوتی، نہ کسی عالم نے اس کی تصریح فرمائی ہوتی، تاہم بخلافہ ان آیات و احادیث متکاثرہ متواترہ متظافرہ کے جن سے بالقطع والیقین سراپائے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور صرف کان لطافت و جان اضاءت ہونا ثابت، ہم حکم کر سکتے کہ حضور کے لئے سایہ نہ تھا، نہ کہ باوجود توافق عقل و نقل تسلیم میں لبیت و لعل ہو (والہگاہ)۔

شک کرنے والا ہمیں نہیں بتاتا کہ اسے رد احادیث و طرح اقوال علماء پر کون سی بات حامل ہوئی، کیا ایسے ہی اکابر کے اقوال، ان ارشادات کے صاف پر خلاف، کہیں دیکھ پائے یا عقل نے نور محض کے سایہ ہونے کی بھی کوئی راہ نکالی، جو اس نے دلائل میں تعارض جان کر شک و تردد کی بناء ڈالی اور جب ایسا نہیں تو شاید عظمت قدرت الہی میں تامل یا وہی بد مند ہوں کا قیاس مقلوع الائسا کہ "مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْنَا" <sup>۱</sup> (نہیں ہو تم مگر ہماری طرح بشر۔ ت) اس پر باعث ہوا، جب تو آفت بہت ہی سخت ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

اے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کو تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑادینے والات (ت)	"رَبَّنَا لَا تُنْعِذْنَا بَعْدَ إِذْهَبْنَا وَهُبْ لَنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَلَّوْهَهَابُ" <sup>۲</sup> ۔
--	---

قولہ ادعائے وجود ظل میں ایہام سوء ادب ہے۔

اقول: "إِنَّ حَصَّصَ الْعَقْنُ" <sup>۳</sup> (اب حق واضح ہو گیا۔ ت) اللہ تعالیٰ نے حق بات کو علو و غلبہ میں کچھ ایسی شان عجیب عطا فرمائی ہے کہ تشکیک و حیرت بلکہ تنذیب معاندت کی تاریکیوں

<sup>1</sup> القرآن الکریم ۱۵/۳۶

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۸/۳

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۵۱/۱۲

میں بھی من حیث لا یہ ری اپنا جلوی دھا جاتی ہے، مجیب کو منع اصرار پر اصرار تھا، اب اقرار کرتے ہیں کہ وجود ظل ماننے میں ایہام سوء ادب ہے، اور پر ظاہر کہ ایہام گستاخی تو وہیں ہو گا جہاں عیب و منقصت کا پہلو نکلتا ہو، اب شرع مطہر سے پوچھ دیکھئے کہ ایسی بات کا جزو ماقطعاً رد و انکار و انکار واجب یا سکوت و حیرت کی کشمکش میں مہمل چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ اب تو آپ کے اقرار سے فرض قطعی ٹھہرا کہ سایہ ہونے کا اقرار بلکن کیا جائے اس پر حد درجہ کا اصرار تام رکھا جائے کہ ہر اس خس و خشک سے جو ایہماں و احتمالاً بھی ہوئے تنقیص دیتا ہو، ساحت نبوت کی تبریت اصول ایمان سے ہے اور بات بھی یہی ہے کہ جب سایہ کو اکٹافت لازم اور لاطافت کالم عدم ظل کو مستلزم، تو بھکم مقدمہ اولی جسے عدم سایہ میں شک ہو گا وہ درحقیقت سراپائے اقدس حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والتحیٰ کی لاطافت متعدد ہے اور سایہ ماننے والا کٹافت اور نہ ماننے والا کمال لاطافت کا معتقد ہے پھر مسلمانوں کی نفی سایہ اصرار سے منع کرنا بعینہ یہ کہنا ہے کہ لاطافت جرچ ولا کو یقینی نہ جانو اور عیاذ بالله کٹافت بھی محتمل مانو۔ اب اس شک و ابداء احتمال کا حکم بغايت شدید ہونا چاہے تھا مگر خیر گزرنی کہ لازم مذہب، مذہب نہیں قرار پاتا۔

قولہ اور اصرار بر عدم میں احتمال دعویٰ غیر واقع ہے۔

اقول: احادیث صحابی و مسلم یکسر اڑ گئیں؟ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یا ایسا کیا یاد ہا یہ واقعہ ہوا کہ جب تک تو اتر نہ ہوا احتمال دعویٰ غیر واقعہ سب جگہ قائم کچھ دنوں خدمت شرح نصیب رہے تو خوب واضح ہو جائے کہ احتلالات مجرد جو مناشی صحیح سے ناشی نہ ہوں تک لخت پائے اعتبار سے ساقط ہیں اور ان پر کسی طرح بنائے کار نہیں ہو سکتی ورنہ واجبات سے تو یکھر ہاتھ دھو بیٹھے کہ قطع و یقین منافی و جوب اور بے تیقین اصرار معیوب، تمیم کے طریقے باکل مسدود کہ ہر خاک و سنگ میں احتمال نجاست موجود نص قرآنی یا احادیث متواتر میں تو ان میوں کی پاکی مذکور نہیں، نہ یہ زمینیں ابتدائے خلقت سے ہر وقت ہمارے پیش نظر ہیں کہ عدم تتجھیں پر یقین حاصل ہو، ہر نماز کے وقت ہر بار کپڑے پاک کرنا ضرور ہو کہ ممکن ہے کوئی ناپاکی پہنچی ہو اور ہمیں اطلاع نہ ہوئی ہو، وضو و غسل و غسل شیاب آپ غیر جاری سے روانہ ہو کہ یہاں بھی وہی آتش کا سہ میں ہے، اکثر عورتوں خصوصاً زنان بھساۓ و قرابت دار میں احتمال ہے کہ انہوں نے یا ان کی ماں یا باپ نے نلک کی ماں کا دودھ پیا ہو یا نلک نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس نے انہیں دودھ پلایا ہو یا وہ عورت میں نلک کے باپ یا دادا یا نانا کی موسوٰ سے یا منظورہ بصور معہودہ ہوں، پھر نکاح کیونکہ ہو کے، اور جنہوں نے اس قاعدہ جدیدہ سے نواقفی میں کر لیا ہے ان پر مثار کہ لام زہو، قاضی شہادت شہود پر حکم نہیں کر سکتا، ممکن کہ گواہ جھوٹ

بولتے ہوں یا انہیں ورت واقعہ یاد نہ رہی ہوا لی غیر ذلك من المفاسد التي لاتحصى (اس کے علاوہ بے شمار فساد لازم آئیں گے۔ ت) غرض اس دو حرفی قاعده نے ایک عالم تہ وبالا کر ڈالا، دین و دنیا کا عیش تنفس کر دیا۔

عذیزرا! یہ کہنا تو اس وقت روا تھا جب کوئی حدیث اس بارہ میں وارد نہ ہوتی، نہ کلمات علماء میں اس کا پتا چلتا، نہ وجود سایہ طافت ثابتہ کسی طرف ترجیح نہ دیتی تو کہہ سکتے تھے کہ دلیل سے کچھ ثابت نہیں ہوتا اور ایک بات پر حکم حتمی میں احتمال نسبت غیر واقعی ہے اور مسئلہ اصول دین سے نہیں، نہ ہمارا کوئی عمل یا عقیدہ اس پر موقف، پھر خواہ مخواہ خوض بیکار سے فائدہ؟ من

حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیه<sup>1</sup> (کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد با توں کو چھوڑ دے۔ ت) ایسے ہی مقامات پر علماء محتاط سکوت و توقف کرتے اور تعارض دلائل ذکر کر کے اسی قسم کے کلمات لکھ دیتے ہیں، امثال مسائل تقاضل نساء و ثابتت جنہ و حال اصحاب ضلال سے مجیب نے وہ لفظ سیکھ کر دیئے اور فرق مجشین پر نظر نہ کی، ہم زیادہ نہیں مانگتے ایک ہی جگہ دکھادیں کہ کوئی مسئلہ احادیث سے ثابت اور اقوال علماء سے نقل خلاف اس پر متطابر اور ایک حکم یقینی ایمانی مثل طافت جسم نواری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے مستلزم اور اس کے سبب عقل نورانی و حب ایمانی حقیقت مسئلہ پر حاکم ہو، پھر کسی عالم معتبر نے وہاں توقف اختیار کیا ہوا اور اصول دین سے نہ ہونے یا مخالفت واقع کے احتمال کو مانع تسلیم قرار دیا ہو ورنہ یہ نو تراشیدہ مضمون قابل توبہ واستغفار ہے ربنا اغفر لنا وللهم من نبي جميعاً (اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ ت)

**قولہ** مسئلہ اصولہ عقائد سے نہیں جس کے بات میں ہر شخص کو اہتمام ضرور ہو۔

اقول: مجیب صاحب (سامحنا اللہ و ایاہ بالعفو والمغفرة، اللہ تعالیٰ عفو و مغفرت کے ساتھ ہم سے اور اس سے در گزر مائے۔ ت) نے اس چار سطر کے جواب میں عجب تماشا کیا ہے کہ اکثر دلیلیں جو قائم کیں ان کے صغری کہ ظاہر اسلام تھے لکھتے گئے اور کبری کہ بدیہی البطلان تھے، مطبوی فرمادیئے، مثلاً لکھا:

"محمد بن اعلم نے اس کتاب کو معتبر نہیں مانا ہے۔"

<sup>1</sup> جامع الترمذی ابواب الزهد باب منه امین کپنی دہلی ۵۵/۲

اور کبرے کہ جس کتاب کو محدثان اعلام نے معتبر نہ مانا ہوا س کی کوئی حدیث قابلِ احتجاج نہیں، ترک کر دیا، پھر لکھا: "مصنف نے التزام تصحیح مافیہ نہیں کیا"

اور کبری کہ جس مصنف نے یہ التزام نہ کیا اس کی حدیثیں مستند نہیں، ذکر نہ فرمایا، پھر لکھا: "کسی حدیث کی معتبر کتاب میں اخ."

اور کبرے کہ جو مسئلہ کتب معتبرہ حدیث میں نہ ہو، قابلِ تسلیم نہیں، چھوڑ دیا۔ پھر لکھا: "اصرار، بر عدم میں احتمال اخ"

اور کبری کہ جہاں یہ احتمال ہوا س میں توقف ضرور اور تسلیم بے جا، تحریر نہ کیا۔ اب اخیر درج یہ لکھا کہ: "مسئلہ اصول عقائد سے نہیں۔"

اکبری کی طرف ان لفظوں سے اشارہ کیا: "جس کے باب میں ہر شخص کو اہتمام ضرور ہو۔"

صاف کہا ہوتا کہ جو مسئلہ اصول عقائد سے نہیں، اس میں اہتمام کی کچھ حاجت نہیں۔ سبحان اللہ! ایک ذرا سے فقرہ میں تمام سائلہ فقیریہ کی تنجیٰ نی کر دی کہ وہ بدایہ فرروح ہیں نہ اصول، پھر ان کا ابتداء محل اہتمام سے معزول اور واجبات و سنن کا توپرانہ رہا کہ انہیں عقد قلب سے کب بہرہ ملا، اب شاید بعد و ردا عتراض یہ تخصیص یاد آئے کہہ ہمارے کلام مسائل غیر متعلقہ بجوارح میں ہے اقول: اب بھی غلط، مبتکمین تصریح کرتے ہیں، مسائل خلافت اصول دینیہ سے نہیں، مسائل خلافت اصول دینیہ سے نہیں، موافق و شرح موافق میں ہے:

<p>(شارح فرماتے ہیں) لما توفاه امامت کی بحث کی طرف اشارہ (ولیاتوفاہ) اشارہ الی مباحث الاماۃ فانہا و ان کانت</p> <p>ہے، اگرچہ مسئلہ فروع دین سے ہے مگر اہل ہو اور بد عقیوں کے خرافات کو دفع کرنے کے لئے اور ائمہ دین کو ان کے طعن سے بچانے کے لئے اصول دین سے متعلق کر دیا (کہ تمام صحابہ کرام اپنے سے اتقیٰ و اکرم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر متفق ہو گئے۔) موقف خامس میں سے من المصدر</p>	<p>من فروع الدین الائنا الحقت باصوله دفعاً</p> <p>للخرافات اهل البیع والاهواء وصوناً للائنة المہتدین</p> <p>عن مطاعنہم (وفق اصحابہ لنصب اکرمہم و اتقهم)</p> <p>يعنى ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ<sup>۱</sup> اہ ملخصاً . وفيه</p>
---	--

<sup>1</sup> شرح المواقف خطبة الكتاب منشورات الشرف الرضي قم ایران ۲۱/۲۲

<p>مصدر راجح امامت میں ہے امامت کی بحث اصول عقائد دین میں سے نہیں ہے۔ بخلاف شیعوں کے (کہ ان کے نزدیک اصول دین سے ہے) اہت</p>	<p>الرابع مو الموقف الخامس في الامامة و مباحثتها ليست من اصول الديانات والعقائد خلافاً للشيعة<sup>1</sup> اہ</p>
--	--

کیا یہ قاعدہ مختصر ہے یہاں بھی اہتمام ضروری نہ رکھئے گا اور اقرار و انکار امانت ائمہ کو یکجاں کر دے گا، ایران و مسقط کو مژده تہذیت، اب چین سے اپنالام بکھیے، خلافت راشدہ خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شوق سے کلام بکھیے، تیرہ صدی کی برکت سنیوں کی ہمت، اب انہیں ان مباحث سے کام ہی نہ رہا۔ حقیقت خلافت کا اہتمام ہی نہ رہا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون (بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ت)

فقیر کو حیرت ہے باوجود توافق عقول و نقل و درود احادیث و شہادت ائمہ عدل و قضائے خرد بیانی بعکم اضافت جرم نورانی و تاکید محبت سید اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول سے کیا چارہ اور ترک اصرار و اهتمام کس کا یارا، اور یہ یہ بھی نہیں کھلتا کہ لفظ "ہر شخص" فرمائے کر عموم سلب سے سلب عموم کی طرف کیوں ہوا؟ کیا بعض کو اهتمام ضروری بھی ہے؟ اور ایسا ہو تو وہ بعض معین ہیں یا غیر معین؟ بر تقدیر ثانی کلام، مقصود پر منعکس و منقلب ہو جائے کا اور تحریز اعنی الواقع فی المحدثون ہر شخص کو اهتمام قرار پائے کا اور پہلی شق پر حکم احکم "لَتَبَيِّنَنَا لِلنَّاسِ"<sup>2</sup> (کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا۔ت) کا انقیاد ہو، اس تعین کی تبیین، پھر اس پر دلیل مبین ارشاد ہو۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو چند ہوئے کے چاند ہیں اور آپ کے آل واصحاب پر جو روشن ستارے ہیں۔ حق کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو ہمارا پروردگار ہے اور علوم عطا فرمانے والا ہے۔ اس عمدہ تحریر کی تزیین سے قلم نے حرمت والے مینے ذوالجہ کے دمیان عشرے کے اندر رہ گئے ۱۲۹۷ھ کو ایک ہی سنۃ ۱۴۹۷ھ (سبع و تسعین بعد الالف) و تعالیٰ و اهلہ النجوم والعلم بالحق عند اللہ ربنا تبارک و اصحابہ الرحمۃ الرحمانیۃ

<sup>1</sup> شرح المواقف المرصد الرابع منشورات الشهيد الرضي قم ایران ۳۲۳/۸

القرآن الكريم ١٨٦/٣

نشست میں راحت حاصل کی۔ شہر پاک مارہرہ منورہ میں آرام فرمانے والے ان اولیائے کرام کے مزارات مقدس کے پہلو میں یہ تحریر لکھی گئی جو ہمارے سردار و مشائخ عارفین گرامی قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوض معطرہ کی خوبیوں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین! تیری رحمت کے ساتھ اے بہترین رحم فرمانے والے۔ (ت)

المائتين) في جلسة واحدة في البلاة المطهرة مأهورة  
المنورة بجنب مزار ائمۃ الکرام البررة ساداتنا و  
مشائخنا العرف الخيرة افضل الله علينا من نفحات  
فيوضهم العطرة امين بر حملتك يا ارحم الرحيمين۔

## فصل دوم

بسم الله الرحمن الرحيم ط

نقل تحریر از ریاست محمدآباد جس نے سلسلہ سخن کو تازہ جنبش دی، اللہ تعالیٰ اس ریاست کو ہدایت و درستگی کے ساتھ آباد رکھے اور اس کو شر و فساد سے بچائے۔

نقل تحریر کے الحال از ریاست محمدآباد عمرالله بالرشد والسداد و صاححا عن الشر والفساد سلسلہ سخن راجبیش تازہ داد۔

بسم الله الرحمن الرحيم ط

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہاںوں کا پروار دگار ہے۔ درود و سلام نازل ہواں کے رسول محمد مصطفیٰ پر، آپ کی آں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ بعد ازاں لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح تمام اجسام کثیفہ و لطیفہ کے لئے سایہ ہوتا ہے، ایسا سایہ حضرت عالیٰ مرتبہ، رسالت پناہ، نبوت دوستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لئے نہیں تھا، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ پیدائش سے آخر عمر تک ہمیشہ سایہ نہ تھا۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله  
محمد واله واصحابه اجمعين، أما بعد  
مردم میکوئند کہ برائے شخص مبارک عالیٰ حضرت رسالت  
پناہی، نبوت دستگاہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ ظل چنانچہ  
جملہ اجسام واجرام کثیفہ و لطیفہ رائی باشد نبود و گاہے از  
ابتدائے خلقت حضرت رسالت پناہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
تا آخر لقائے رب العالمین تعالیٰ شانہ، ہمچنان بود بے سایہ و بے  
ظل گزرانیدہ اند۔

فقیر کہتا ہے کہ یہ مجرہ کسی ایسی کتاب میں جو لاائق اعتماد ہو اور اہل سند و اسناد نے اسے بسند صحیح بیان کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، کتب صحاح و سنن میں کسی سے نہیں سنا کہ ثابت کیا ہو۔ اہل سیر و مغازی جو بیان کرتے ہیں اس پر، جیسے کہ محدث کو اعتماد ہے، معلوم ہے، لہذا تمام اہل علم کو چاہیے کہ اس کا ثبوت از روئے سند صحیح کتاب و سنت سے بیان فرمائیں، اس کا اجر فقیر سے خداوند تعالیٰ سے امید رکھیں۔ فقط۔

لکتبہ ابو عبد اللہ محمد عفی عنہ

فقیر میگوید کہ ایں مجرہ درکتا یکہ لاائق اعتماد باشد و اہل سند و اسناد آنرا بسند صحیح بیان کردہ باشند، ندیدہ ام درکتاب صحاح و سنن کہ مردوج انداز کے شنیدہ ام کہ ثبوت کردہ اند و آنچہ اہل سیر و مغازی بیان میکنند اعتماد آں چنانچہ اہل حدیث را ہے، معلوم پس ہر کراز اہل علم ثبوت آں از روئے سند صحیح از کتاب و سنن، بیان فرمائید، اجر آں از فقیر از خداوند تعالیٰ مامول دارند فقط۔

### فصل خزانی فصل خزانی کی پامالی کیلئے نیم ایمان کی پھر روانی

باز اہتزاز نیم ایمانی پامال

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سائے اور دھوپ کا خالق اور خلقت و نور کو پیدا فرمانے والا ہے۔ پھر کافر لوگ اپنے رب کے برادر ٹھہراتے ہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو دلوں کی مجلس کو چمکانے والے آفتاب پر اور اس ماہتاب پر جو چھاؤں، گہن، مٹ جانے اور غروب ہونے سے پاک ہے۔ پھر نافرمان لوگ اس کے نور سے بے بہرہ ہیں، اور ان کی آل پر جو ستارے ہیں اور اصحاب پر جو علوم کے چراغ ہیں۔ آشوب چشم والے کو سورج کی روشنی کے وقت سکون نہیں ہوتا۔ دامن نالائق کے سایہ میں پرورش پانے والا، خورشید دانائی کا چہرہ نہ دیکھنے والا، گناہ افزابازار کی رونق، فکر جزا، میں

بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

الحمد لله خالق الظلل والحرور جاعل الظليلات والنور،  
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلة والسلام  
على السراج المنير في نادي القلوب. القمر المizza عن  
كل كلف و خسوف و محاق و غروب. ثم الذين فجروا  
عن نوره يعمهون وعلى الله النجوم واصحابه مصابيح  
العلوم مالم يكن للارمد عند ضوء العين سكون،  
سايہ پر وردہ دامن ناسزاںی، روئے نادیدہ نیز دانائی، فقیر ناسزاں،  
رونق بازار معاصی فزا، سر بگر بیان فکر جزا،

پریشان، عبد المصطفیٰ معروف بہ احمد رضا (اللہ تعالیٰ اسکی آئندہ و گزشتہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے) اپنے خدا کو یکتا والاشریک ہونے اور اس کے مصطفیٰ کو بمشل ہونے کی توصیف کے بعد بہتی چہرہ والے آفتاب تحقیق اور جہان کو روشن کر دینے والے خورشید کو اس طرح انوار و اضواء کی برسات کے ساتھ لاتا ہے کہ تمہارے سوال کے جواب اور روگردانی بڑھانے والی عرض اور خلاف پر موافقت اور عتاب آلوذ نرمی سے کچھ پہلے فقیر حقیر نے اس زیر نظر مسئلہ کے متعلق سرائے سخن کے کناروں سے دوچکتے ہوئے ستارے لائے ہیں، ایک كالشمس و ضحہا اور دوسرا كالقمر اذا تلها، جو شخص صحت مند آنکھ اور قابل نور علم دل رکھتا ہے اس کی بصارت و بصیرت کو ان ستاروں کی کاشف ظلمات تجلیات سے اچھی طرح کامیابیاں مہیا و مبارک ہوں۔ نئے پیاروں نے جو تازہ طرح ڈالی اور نیاراستہ اختیار کیا، اگر ہم بھی ان کے ساتھ بطور جیسے کو تیسا (ترکی بہ ترکی) مقابلہ کریں تو اے خدا! لکھتے داں عقلمندوں اور باریک بیس بالغ نظروں کے دل پر احساس تلخی، انصاف! آمین! اللہ تعالیٰ سے پھر اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم مدد چاہتے ہیں، بیلندی و عظمت والے خدا کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت۔

**قولہ لوگ کہتے ہیں اج**

**اقول: لوگوں سے مراد ائمہ دین ہیں یا عوام**

عبد المصطفیٰ معروف بہ احمد رضا غفرالله له ما یکبری منہ و ما مضی، خدائے خود را بے یکتا و مصطفیٰ وے را بے ہتمائی ستودہ مہر بہتی چہر تحقیق و آفتاب جہاں تاب تدقیق را، چنانہ بریزش امطار انوار، و بارش اضواء نصف النہار مے آرد کہ پیشترک از ورود ایں جواب سوال نماز و عرض اعراض فرا وفاق شفاقت آمود، و لطف عتاب آسود، فقیر حقیر در ہمیں مسئلہ پیش آینده دوستارہ تابندہ، از آفاق سخن سراء، باشراق جلوہ نمائے، آورده ام یک کا الشمس و ضحہا و دگر کا القمر اذا تلما ہر کہ چشمے دارد از رمد پاک، و ولی پنپرائے نور اور اک، بصر و بصیر ترش را از تجلییاۓ ظلمت رواش نیکو ترین بہرہ و ریبا مہیا و مہنا باد، عنیزان نوکہ طرحی تازہ افگندہ اند و را ہے جدید پیش گرفتہ، اگر بایینا نیز برسم چاشنگیر دے چند آوزی شی کنیم، یارب برخاطر خودہ بینان خرد پرورد و دقت گزینان بالغ نظر، بے گوارش مرداد، امین، وباللہ ثم برسولہ نستعين،  
**ولا وحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔**

**قولہ مردم میگویند اج**

**اقول: ائمہ دین یا عوام مقلدین علی الاول**

مقلدین؟ اگر انہے دین مراد ہیں تو پھر یہ خلاف مقصود کی طرف آنا اور لباس شیر میں انس نقد طلب کرنا ہے، کیا انہے کرام کا ارشاد ناکافی ہے کہ دوسرا دلیل طلب کرتے ہو یا انہے دین کا یہ راستہ مطلوب تک نہیں پہنچتا، اس لئے علیحدہ پکڑنڈیوں پر بھکتے پھرتے ہو؟ میں گمان کرتا ہوں اور درست گمان کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ توجہ کا رخ تحریر ثانی کے مقدمہ ثالثہ کی طرف ہی پھیرنا ہو گا اور تمہارے اس وسوسہ کا وہی جواب شافی و علاج کافی ہو گا۔ آخر خداوند تعالیٰ نے حضرات عالیٰ شان کو امامت کے تختوں اور سرداری کی سندوں پر مقام عطا نہ فرمایا اور الخراج بالضیان (خرج ضمانت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ت) کے نیصلہ کے مطابق "فَاعْتَبِرُوا إِلَيْهِ أَنْبَاصَاهُ"① (تو عبرت لوائے نگاہ والو۔ت) کے چرانگوں کا بوجھ برداشت کرنا اور ان کے ذمہ ہمت پر نہ رکھا؟ اور ہم نادیدہ روکی کمزور کو اور کم علمی کے ہاتھ گروی شدگان کو نہ دیکھا اور بہ مقتضائے "إِنَّمَا مُعَذَّبُ الْعُسُرِيْسَاءِ"② (بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ت) اور "وَمَا جَعَلَ عَيْنَكُمْ فِي الْيَوْمِ مِنْ حَرَجٍ"③ (اور تم پر دین میں کچھ بیٹگی نہ رکھی۔ت)

بخارہ مقصود از در نقیض آمدان سنت، واستینناس نقد، به لباس اسد، خواستن، مگر ارشاد انہے بسند نیست، که دلیلے دیگر جوائی، یا ایں را بمنزل حضرت سلیمان نمیر و دکہ بہ شعبے جداگانہ پوئی۔ من فقیر گمان برم و تاراست نبی بر مکہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ روئے توجہ بسوئے مقدمہ ثالثہ تحریر ثانی یافتہ ہمال باشد، وایں وسوسہ راجواب شافی و علاج کافی یافتہ ہمال، آخر نہ خدا انکہ حضرات عالیہ ایشان را بر سر امامت واراںک زعامت جائے داد و بحکم الخراج بالضیان<sup>۱</sup> ثقل تحمل اعباء گرانبار "فَاعْتَبِرُوا إِلَيْهِ أَنْبَاصَاهُ"② برذمت بہت ایشان نہاد و ضعف و ناقلوں میاں میاں نادیدہ روبدہست کم داشتی گرودید و بفہوائے "إِنَّمَا مُعَذَّبُ الْعُسُرِيْسَاءِ"③ و "وَمَا جَعَلَ عَيْنَكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ"④ خوان نعمت "فَسَأْلُوا أَهْلَ الْدِّيْنِ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"⑤

<sup>1</sup> جامع الترمذی ابواب البیویع بباب ماجاء من یشتري العبد و یغسله الخ ایں کمپنی دہلی ۱/۱۳۵

<sup>2</sup> القرآن الکریم ۲/۵۹

<sup>3</sup> القرآن الکریم ۲/۹۳

<sup>4</sup> القرآن الکریم ۷۸/۲۲

<sup>5</sup> القرآن الکریم ۷/۲۱۳۳

نعمت "فَسَلُّوا أَهْلَ الِّيْمَانَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾" (تو اے لو گو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ت) کا خانچہ نہ چنا؟

دوستو! بہت ہی خوش نصیب ہے وہ جس نے بہ تقاضائے "ان اللہ تصدق علیکم فاقبوا صدقۃ" (بے شک اللہ نے تم پر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو۔ ت) اس رو ح فرا فرمان کو قبول کیا اور جوں وچار کے چکر سے خلاص ہوا؟ اور بہت بد بخت ہے ہو جس نے "اما هذَا فَقَدْ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ" (لیکن اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض فرمایا۔ ت) کی ناکامی کے سبب اپنے اوپر کام مشکل کر لیا اور اندازہ گودڑی سے پاؤں باہر کھینچ لئے ع آفتاب اندر میاں آنگہ کہ مجھو یہ دُسما آفتاب موجود ہو تو شما کو کون تلاش کرتا ہے)

چید۔

اے خوشاسیکہ بھکم ان اللہ تصدق علیکم فاقبوا صدقۃ<sup>۱</sup> فرمان ایں صلائے جانفزا پذیر فت، واکشا کش لم و یکف پاک رست و بد اسیکہ بہ ناکامی، اما هذَا فَقَدْ اعْرَضَ فاعرض اللہ عنہ<sup>۲</sup> کار بر خود دشوار کر دو پائے از اندازہ گلیم یہروں کشیدن جست ع آفتاب اندر میاں آنگہ کہ مجھو یہ دُسما

فائڈہ: بنات النعش میں ایک باریک ستارہ ہے جس کو سما کہتے ہیں۔

اور دوسری شق پر (بصورت عوام مقلدین) پناہ بخدا! کیا سیدنا عبد اللہ بن عباس، حضرت ذکوان تابعی، عبد اللہ بن مبارک، امام ابن الجوزی، ابن سینع

وعلی الشافی یارب مگر سیدنا وابن سیدنا حبر الامم حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و حضرت ذکوان تابعی و امام ہمام جعیہ اللہ فی الانام

<sup>۱</sup> صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین و قصر حاقدی کتب خانہ کراچی ۱/۲۳۱، سنن ابو داود باب صلوٰۃ المسافر آفتاب عالم پریس لاہور ا/۷۰، جامع الترمذی ابوبالتفسیر تحت آیۃ ۲/۱۰۱، سنن ابن ماجہ باب تقصیر الصلوٰۃ فی السفر ایم سعید کپنی کراچی ص ۷۶

<sup>۲</sup> صحیح البخاری کتاب العلم باب من قعد حيث ینتهي به المجلس قدی کتب خانہ کراچی ۱/۱۲، صحیح مسلم کتاب السلام باب من اتق مجلسا فوج فرجۃ البیخ قریبی کتب خانہ کراچی ۲/۲۷۱

حافظ رزین محدث، علامہ جلال الدین سیوطی، قاضی عیاض، امام احمد قسطلانی، علامہ زرقانی، علامہ خفاجی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم کو معاذ اللہ عوام میں شمار کرتے ہیں، یا ان کے گلینہ ہائے نصوص کو زنگ اغلاط سے محفوظ و مبرأ مگان نہیں کرتے ان هذا الشئی عجائب (بے شک یہ عجیب بات ہے)۔

عبدالله بن مبارک وامام حافظ شمس الملة والدین ابوالفرج ابن الجوزی وامام علامہ ابن سبع وحافظ رزین محدث وامام الامہ حافظ الشرق والغرب مولانا جلال الملة والحق والدین ابو بکر سیوطی وامام علامہ عاشق المصطفیٰ سید الحفاظ جبل الشرع والدین جبل اللہ الْمُتَّمِّنْ قاضی عیاض یکھبی وامام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی وفضل اجل محمد بن عبد الباقی زرقانی و علامہ فہامہ شہاب الملة والدین خفاجی وشیخ محقق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم ائمہ دین وجہاً بذ قادہ ناقدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وفعنا بر کا تم فی الدنیا والدین رامعاذ اللہ در سلک عمما مختصر شارمند، یا فصوص نصوص اینا راز زنگ غلط منزہ نہ پیدا رند، ان هذا الشئی عجائب۔

**قولہ** جیسا کہ تمام اجسام کثیفہ و لطیفہ کے لئے ہوتا ہے۔  
کافی رہو، آس محروم رانیز پارہ ازان بخلاف ارزانی نمود۔

**اقول:** اس کلیست مطلقہ اور احاطہ مستغرقہ پر ناز کہ اس اطلاق کو سنگ کثافت پر ہی بند نہ رکھا، حد اطافت تک کھینچ ڈالا، شاید وہ دوست سایہ کی حقیقت سے آکاہ نہیں ہیں۔ اے ناز و نعمت میں پلے ہوئے مخاطب! شاید تمہیں معلوم ہے سایہ کیا شے ہے؟ سورج چمکنے لگا، ہر جگہ نور کی چادر بچھا دی، درمیانی اجسام رکاوٹ بنے اور روشنی کے آگے پر دہ لٹکا دیا، پر دگی نور سے مبجور ہو گئی، ہوئے متوسط نے بسبب مقابلہ و شدت قابلیت روشنی سے کافی حصہ لیا اور اس

**قولہ** چنانچہ جملہ اجسام واجرام کثیفہ و لطیفہ رامے باشد۔  
**اقول:** نازم ایں کلیست مطلقہ و احاطہ مستغرقہ را کہ ہجوم عموم و اغراق اطلاق بر سرگلاغ کثافت بس کنکردہ خیمه تابرحد اطافت کشید، ماناہ عزیز اہل از حقیقت ظل آکاہی ندارند۔ اے مخاطب! سایہ پروردگار مجردانی کہ سایہ چیست؟ نیرے تافت آغاز کر د وہ ہر جا بساط نور گستہ، واجسماے از میان خاستہ و نفوذ اشتعہ رامانع آمده اینہا پر دہ فروہشت، و پر دگی از نور مجبور گشت، ہوائے متوسط کہ حکم مقابلہ و شدت قابلیت، از تنور و استضاءت بہرہ

<p>محروم کو بھی روشنی کا کچھ حصہ عطا کیا۔</p> <p>اس دوسری روشنی کو ظل کہتے ہیں اور خوب ظاہر کہ یہ معنی ہے پر دہ اور پر دہ بلا منع نفوذ اور منع نفوذ کثافت کے سوانا ممکن ہے۔ ہائے زیادتی! اگر یہ اطلاق درست ہو تو زمین کاروشن ہونا مhal ہو جائے، اس لئے کہ سورج اور زمین کے درمیان جسم آسمان حائل ہے بلکہ تمہارے دلخواہ سے ہی تمہارے مدعی کی نقیض لازم آتی ہے کہ جب آسمان جیسا جسم درمیان ہے تو ہوا جو ثانوی درجہ میں روشن ہے، کیسے ممکن کہ روشن ہو، لہذا روئے زمین سے آسمان جیسا جسم درمیان ہے تو ہوا جو ثانوی درجہ میں روشن ہے، کیسے ممکن کہ روشن ہو، لہداروئے زمین سے آسمان تک کسی جسم کا سایہ نہ ہو وال سابقۃ الجزئیۃ تنافق الموجۃ الكلیۃ (اور سابقۃ جزئیۃ موجۃ کلیۃ کی نقیض ہے۔) اور چونکہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہی پر دہ بنتی ہیں اس لئے مریٰ ہونے کی قید لگانا، باوجود یہک بعد از اعتراض ہے صرف ہوا اور آگ جیسی اشیاء میں جاری ہے۔</p> <p>بہر حال آسمان کا غیر مریٰ ہونا ہم نہیں مانتے، ہم کیونکر عینی شہادت اور ظاہر نصوص سے روگردانی کریں، ہم الہ اسلام کو بے راہ فسلفہ کی خرافات اور کرہ ہوا بخار سے کیا کام؟ اور ایسے بے سر پا دعاویٰ کی قرآن و حدیث کے ظاہر مفہومات کے سامنے کیا قیمت اور کیسی وقعت؟</p> <p>اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بیشک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ اور</p>	<p>کافی ربوہ، آس محروم را نیز پارہ از انجلاء ارزانی نمود۔</p> <p>ایں ضوء، ثانی راظل نامند و نیکو روشن کہ ایں معنی بے جحب، وجحب بے منع نفوذ، و منع نفوذ بے کثافت صورت نہ بندد، واوفراہ اگر ایں اطلاق راست باشد اشراق ارض محل گرد کہ میان فاعل و قابل جرم آسمان حائل، بلکہ ہم از مدعا نقیض مدعی آزم آید کہ چوں جسے ہبھو فلک درمیان سنت، استنارہ ہوا کہ مضینی ثانی ست خود چہ امکان ست، پس از روئے زمین تا سطح آسمان پیچ جسے راسایہ نباشد، والسابقة الجزئية تنافق الموجۃ الكلية وتنقید مرئي بودن کہ حاجب نباشد مگر از مبصرات با آنکہ تنھیص بعد الاعتراض ست درامثال ہو اور نارجاري۔</p> <p>اٹا نامریٰ بودن آسمان مسلم نداریم، واز شہادت بصر و ظواہر نصوص چراروئے بر تائیم، ما اسلامیان را بآخرفات فلاسفہ ناہنجار و افسانہ عالم نیم و کرہ بخار چکار، و ہبھو ادعا ہائے نامنظمہ را پیش ظواہر قرآن و حدیث چہ قیمت و کدام وقت؟</p> <p>قال اللہ تبارک و تعالیٰ "وَلَقَدْ رَأَيْتَ السَّمَاءَ إِلَذُّلَيْلَ بَصَابِيْجَ" <sup>۱</sup> و</p>
---	---

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷۶

معلوم ہے کہ اس قسم کی زینت و عیب مبصرات کے سوا کسی چیز پر صادق نہیں، مثلاً کوئی کیسا ہی مہر زرق برق لباس پہن کر سنہری کمر بند باندھے ہوا میں کھڑا ہو جائے تو ہوا کے لئے وہ زینت نہیں کملات اور اگر کوئی ملکتا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ ہوا کیلئے عیب نہیں کملاتا (کیونکہ ہوا مبصر نہیں) بلکہ اگر بغور دیکھیں تو اجسام کلشیف میں بھی عموم نہیں کیونکہ حاجب بننے اور کلشیف ہونے میں عموم و خصوص مطلق ہے، چنانچہ جسم مثلث کا سایہ نہیں ہوتا خواہ کتنا ہی کلشیف ہونے دھوپ میں نہ چاندنی میں، آیہ کریمہ "إِنْظَلُّقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلِثٍ شَعَبٍ لَا ظَلَمِيلٌ وَلَا يُعْنَى مِنَ الْهَمِ" <sup>۱</sup> (چلواس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے) میں مفسرین کرام نے اسی معنی کی طرف لطیف اشارہ بیان فرمایا ہے کما استنبطہ الامام العلامہ السیوطی فی تفسیر الالکلیل فی استنباط التنزیل (جیسا کہ امام علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے تفسیر الالکلیل فی استنباط التنزیل میں اس کو مستبط فرمایا ہے۔

یا اللہ! شاید انہوں نے رات کو دیکھا ہو کہ شعلی شمع سے سایہ پیدا ہوتا ہے باوجودیکہ آگ جسم لطیف ہے اور اس سایہ کو آگ کا سایہ سمجھ کر بحکم عدم فارق (بین الاجسام الطیفہ) دامن اطلاق پر ہاتھ مارا اور حکم کلی لگادیا اور

معلوم است کہ ازیں قسم زین و شین جز در مبصرات راست نیا ہے، بادرانہ از پوشک مہوش زریں کمر زینتے، نہ از خرقہ گدایاں دلق در روضتے، بلکہ اگر نیکو بھگری در اجسام کلشیف نیز عموم بجائے خود نیست، کہ میان جب و کثافت عموم و خصوص مطلق است، جسم مثلث اگرچند کلشیف باشد سایہ ندارد، نہ در آفتاب، نہ در ماہتاب، کہ بہمیں معنے ایمانے لطیف فر مودہ اندر در کریمہ "إِنْظَلُّقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلِثٍ شَعَبٍ لَا ظَلَمِيلٌ وَلَا يُعْنَى مِنَ الْهَمِ" <sup>۲</sup> کما استنبطہ الامام العلامہ السیوطی فی تفسیر الالکلیل فی استنباط التنزیل <sup>۲</sup>

اللهم! مگر شبہا دیدہ باشند کہ از شعلہ شمع با آنکہ نار جسے لطیف است سایہ سر برے زند و عکم عدم فارق دست بدامن اطلاق زدن، و پے باصل کار نبردہ کہ آنچہ مے یعنی

<sup>۱</sup> القرآن الکریم ۷/۳۰۱

<sup>۲</sup> الالکلیل فی استنباط التنزیل تحت الآیة ۷/۳۰۱ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ ص ۲۱۹

اصل حقیقت نہ سمجھ سکے کہ یہ نظر آنے والا سایہ سایہ دخان ہے، آگ کا سایہ نہیں۔

### قولہ کبھی ابتدائے آفرینش سے اخ

اقول: یہی صحیح ہے اور ہمارے لئے اطلاق دلائل دلیل کافی ہے، جو شخص تخصیص کرتا ہے وہ مدعی ہے اور بار بثوت اس کی گردن پر، شاید نفس الامر کے خلاف قوت و بھیہ کی مدد سے ان کے آئینہ تخلیل میں یہ بات آئی ہو گی کہ اس مطالہ تخصیص سے نافیان ظل کے لئے اثبات نفی میں بہت مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ دائرہ کا اثبات مطلقہ عامہ کے اثبات سے بہت زیادہ مشکل ہے مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ سامع کا ذہن ایسے مقامات میں سلب غیر موقع سے سلب دوامی چھوڑ کر کسی بھی اور شے کی طرف متوجہ نیں ہوا اور اس کا خلاف جو خلاف ظاہر ہے وہی محتاج دلیل ہے۔ اور (آپ پر) بادلوں کے سایہ کو علماء نے اس لئے غیر داعی فرمایا کہ صحابہ کرام کا چادر وہ سے اور درختوں کا اپنی شاخیں جھکا کر سایہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور پر، احادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے، اگر اس مسئلہ میں بھی کوئی معتمد حدیث گواہی دے تو اس وقت دوام سلب سے سلب دوام کی طرف عدول منتصو و معقول ہو گا ورنہ معرض قبول سے کو سوں دور، اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور کی نورانیت بحمد اللہ قاطع و ساوی و قائم ہوا جس آئی ہے،

ظل دخان ست، نہ سایہ تیراں۔

### قولہ دکا ہے از ابتدائے خلقت الخ

اقول: ہمچنین ست و اطلاق دلائل مارا بسند، ہر کہ ابتدائے تخصیص کند مدعی اوست و بار بثوت بر گردن او، شاید بر عکس نفس الامر از دستیاری قوت واہمہ در آئندہ تخلیل عزیز ان مر تسم شدہ باشد کہ بایں تخصیص عویص نافیان ظل رادر اثبات نفی گونہ صوبتے روئے خواہد نمود کہ تبیین دائمه از تغیر مطلقہ عامہ مشکل تراست، امامزادانتہ کہ ذہن سامع در ہچھو مقام از سلب ناموقت جز بادامت سلب تباور کند، و خلافش کہ خلاف ظاہر سنت محتاج بہ دلیل باشد، و اخلاق سبب را کہ علماء غیر دامم گفتہ اندازیں ہت سنت کہ احادیث صحیحہ بہ سایہ کردن صحابہ کرام بار دیہ خود شان و میل اشجار بہ غصون آنہا برسر حضور سید الانس والجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناطق شدہ، ابجا نیز اگر حدیثے معتمد بر بثوت سایہ گواہی دہد آنکاہ از دوام سلب بہ سلب دوام نقل وعدول، متصور و معقول، ورنہ از معرض قبول برا حل معزول، معذدا نورانیت جسم انور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحمد اللہ قاطع و ساوی و قائم ہوا جس آمدہ سنت،

<p><b>وبالله التوفيق۔</b></p> <p>قولہ یہ مجھے کسی ایسی کتاب میں جو لائق اعتماد ہوا لخ۔</p> <p>اقول: افسوس! جس کو سورج نظر نہیں آتا وہ انکار سے صبر و خاموشی اختیار کرتا، نہ یہ کہ اٹا دیکھنے والوں پر شورو غل مچاتا یا ان کی بزم میں آکر نکتہ فروشی کرتا کیونکہ خاموشی میں سلامتی ہے اور جھوٹا آخر پریشان و ناکام ہوتا ہے، کیا ائمہ کرام کی تصانیف قابل اعتماد نہیں یا پھر چاند سورج کی جلوہ گاہ میں کوئی اور دیے جانا چاہتے ہو؟</p> <p>قولہ اہل سند و اسناد نے اس کو بسند صحیح لخ۔</p> <p>اقول: کچھ دیر ٹھہریں کہ مطالبی صحت کے بارے اور صحت سند پر جو قلم کی ٹائگ توڑدی، کے متعلق ہم بات کریں۔ شاید شذوذ و علت پر جرح و قدح کا راستہ بند ہو چکا ہے ورنہ، برخلاف مراد قید اسناد کیسے گوارا ہوئی؟</p> <p>قولہ کتب صحاح و سنن میں جو مروجہ ہیں لخ</p> <p>اقول: کاش تمہیں چند روز خدمت علماء کا موقع اور ان کے کلمات کا مطالعہ نصیب ہوتا اور ان کے کلام و مقاصد کے موارد درجات میں تیزی مقام حاصل ہوتی۔ تحریر ثانی کا دوسرا مقدمہ بڑھا دیا، بر باد نہ ہو بلکہ اس اسے بھی بہت زیادہ صریح سنئے۔ حضرت امام خاتم النبیاظ جلال الملییو</p>	<p><b>وبالله التوفيق۔</b></p> <p>قولہ ایں مجھے درکایکہ لا لائق اعتماد باشد لخ۔</p> <p>اقول: اے کاش آنکہ آفتاب نہ بیند بارے از انکار خامشی گزیند، نہ آنکہ برینند گاہ خرد شد، یاد رزم آناں نکتہ فروشد کہ سلامت در سکوت ست، و مجاز فرائجام مبہوت، مگر تصانیف ائمہ مدد حین اعتماد رانشاید، یاد رجواہ گاہ مہر و ماہ شمع وجہ انجوہ گر باید۔</p> <p>قولہ اہل سند و اسناد آنرا بسند صحیح۔</p> <p>اقول: ساعتے باش کہ از حال مطالیبہ صحت سخن گفتگو داریم، وایں کہ ہم بر صحت سند پائے خامہ شکستہ است، مگر بر شذوذ و علت را جرح و قدح بستہ است، ورنہ قید اسناد، علی خلاف المراد، از چہ رو گوارا افتاد۔</p> <p>قولہ در کتب صحاح و سنن کہ مروج است۔</p> <p>اقول: کاش روزے چند خدمت علماء و مطالعہ کلمات طیبات ایشان روزی شدے، کہ در محابری کلام بہ مدارج مرام تیز مقام بدست آمدے، مقدمہ ثانیہ تحریر ثانی از دیاد دادہ و بر باد رفتہ مباد او ازاں ہم صرتیز ترشیح جلالت شان، و رفتہ مکان، حضرت امام خاتم النبیاظ سیدنا</p>
---	--

الدین قد سرہ العزیز کی جلالت شان اور رفعت مقام، خصوصاً فن حدیث میں اسی واضح ہے کہ ہر صبی و غبی کی بھی جانی پہچانی ہے۔

امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفاء شریف میں ایک حدیث نقل کی کہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس طرح روتے اور فضائل و خصائص بیان کرتے۔

امام مددوح المقام (جلال الدین سیوطی) اعلیٰ اللہ درجاتہ فی دار السلام) اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں: کتب حدیث میں اس حدیث کے بارے میں کوئی نشان نہیں ہے، البتہ صاحب اقتباس نے اور مد خل میں امام ابن الحاج نے اس کو مفصل ذکر فرمایا ہے اور اس قسم کے مقامات میں اس قدر سند کے ساتھ حدیث کافی ہے کہ یہاں حلال و حرام کا مسئلہ نہیں۔

خواجی اس کو حضرت امام سیوطی سے نقل کر کے مند قبول و تقریر پر جگہ دیتے ہیں، حیثیت قال: قال السیوطی فی تخریجه (جہاں کہ امام سیوطی نے اپنی تخریج میں فرمایا۔ ت): میں نے اس کو کتب حدیث میں سے کسی میں نہ پایا لیکن صاحب اقتباس انوار اور مد خل میں ابن الحاج

جلال الملة والدین سیوطی قدس سرہ العزیز علی الحصوص در فن شریف حدیث تابہ حدے واضح و جلی سست کہ معلوم ہر صبی، و مفہوم ہر غبی سست۔

امام علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در شفاء شریف حدیث نقل فرمود کہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چنان وچنان مے گریست، و از فضائل پاکش کذا و کذا یاد سے کرد<sup>۱</sup>۔

امام مددوح المقام، اعلیٰ اللہ درجاتہ فی دار السلام، در تخریج احادیث فرماید، در کتب حدیث ازیں اثر یقیح اثرے نیست، اما اور اصحاب اقتباس الانوار و امام ابن الحاج در مد خل مفصل و مطول آورده اند و در یہیو مقام ایں قدر بہ سند سنت کہ اینجا سخن از حلال و حرام نیز رو دد۔

علامہ خواجی ایں معنی را از جناب رفعت قبایش نقل کرده بمسند قبول و تقریر جائے مے دہ، حیثیت قال: قال السیوطی فی تخریجه:

لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِّنْ كَتَبِ الْأَثْرِ لَكِنْ صَاحِبُ الْاقْتِبَاسِ الْأَنْوَارُ وَابْنُ الْحَاجِ

<sup>۱</sup> الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ القسم الاول الباب الاول الفصل الرابع دار الكتب العلمية بيروت ۳۶/۱

نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس کاہنڈ کرہ کیا ہے اور ایسے مسائل کے لئے اتنی ہی سند کافی ہے کیونکہ اس کا تعلق احکام سے ہے۔

عنیزا! مرض تعصب سے تدرست چشم انصاف کھول اور عقیدہ درست کر کے ائمہ دین کا پاکیزہ شیوه دیکھ کر ایسے مسائل میں کس طرح چلتے ہیں اور کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، واضح طور پر کہتے کہ اس حدیث کے متعلق کتب حدیث میں نہ کوئی خبر ہے نہ نشان، پھر صرف بعض کے ذکر کرنے پر اعتماد و استناد جائز رکھتے ہیں اور حدیث کو پایہ تکمیل سے ساقط گمان نہیں کرتے، شاید اپنی کلتہ دانی، ہوشیاری و پر ہیزگاری کا مقام ان سادات کرام، قائدین عظام کی تدقیق و تحقیق اور بہترین احتیاط پر بڑھادیا کہ گفتگو نے اپنا دامن تمام کتب فن سے لپیٹ کر صحاح و سنن مروجہ کے دائرہ نگ میں بند کر دیا فالی اللہ المشتکی (تواللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں فریاد ہے۔ ت)

قولہ اور جوابی سیر و مغازی بیان کرتے ہیں اخ

اقول: غالباً عنیزوں کے کان ایسی باتوں سے تو آشنا ہوئے مگر ائمہ عالیشان کے مکالمات اور جوابی کلمات سے کچھ نہ سنا اور بے راہ گھوڑا دوڑایا،

فی مدخله ذکراہ فی ضمن حدیث طویل و کفی بذلک سند المثلہ فانہ لیس ممایا تعلق بالاحکام<sup>۱</sup>

عنیزا! چشم انصاف از رمد تعصب صاف بکشا، و شیوه ائمہ دین، پس از تصحیح عقیدت ہیں کہ دریں چنیں مسائل چگونہ را رفتہ اند، و کدامیں سیر پیش گرفته، سپید میگویند کہ ازیں خبر در کتب الاشر لا خبر ولا اثر، باز بزر محمد ذکر بعض اعتماد و استناد روایے دارند، و حدیث راز پایہ تکمیل ساقط نہی پندراند، مگر پایہ تکمیلہ دانی، و ترک توانی، و دروغ فلانی، برتد تدقیق و تحقیق، و احتیاط اینیق، ایں سادہ کرام، و قادر عظام، نیز چربیدہ است، کہ سخن از کتب فن دامن پر چیدہ، بردازہ نگ صحاح و سنن مروجہ محصور و مقصور گرویدہ است فالی اللہ المشتکی ممن یسیع فلا یسمع ویری فلا یزی.

قولہ و آنچہ اہل سیر و مغازی بیان میکنند۔

اقول: ہما ناگوش عنیزاں گا ہے بے امثال ایں سخنان از کلمات ائمہ والا شان آشنا شدہ است و از مجال محاورہ و مجال مناظرہ

<sup>۱</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض الباب الاول. الفصل السابع، مرکز اہلسنت برکات رضا گجرات ہند ۲۳۸/۱

کسی دانایینا سے پوچھ، دراصل بات یہ ہے کہ قصہ گوا اعظموں اور جاہل مورخوں نے مجع بڑھانے اور فساد پھیلانے کے لئے اپنی کتابوں میں بے سرو پا حکایات اور فتنہ انگیز افسانے درج کر دئے، اصول ٹھکنی اور منقولات کی خلاف ورزی سے کچھ خوف نہ کیا، کبھی اور یا کا افسانہ، زیخا کی داستان، زہرہ کا قصہ اور شجرہ کا تذکرہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ عصمت انبیاء کرام و دیگر معصومین کو عیوب آلود کرتے ہیں اور کبھی جنگ جمل کا حادثہ، صفين کا واقعہ، صحابہ کرام کا اختلاف اور امہات المؤمنین کا باہمی مکالمہ ایسے طریقہ سے نمایاں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان نفوس قدسیہ کے مقام واجب الاحترام کی تتفییص کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہمہ دین، جن کو اللہ تعالیٰ نے سنن کی حمایت و نگرانی اور فساد و فتن کے محدود سرکوبی کا عظیم منصب عطا فرمایا ہے، مقام تفصیل میں ان ناشائستہ اقوال کا ضعف و عیوب ثابت کرتے ہیں اور محل اجمال میں اصول اور منقولات صحیح کو مضبوط پکڑنے اور غیر ذمہ دار نکتہ چینوں کی من گھڑت حکایات حکایات سے اجتناب کا حکم فرماتے ہیں کہ دع ما یربیک الی ما یربیک (جو تیرے کھلکھلے اس کو چھوڑ دے اور جونہ کھلکھلے اس کو اختیار کر لے) اور یہ جو ہم کہتے ہیں بطور نرم روی وار خائے

آناں بولے نشنیدہ بے راہہ اسپ دوانیدن گرفت، از خیر بصیر پرس، محل ایں کلام آنسٹ کہ قصاص واعظین، و جہاں مور خین، تو وہ حکایات بے سرو پا، و افسانہ ہائے فتنہ را تکشیراً للسواد، یا تزویجاً للفساد، و رکتب خودشان مے آرند، واز منافقۂ اصول، و معارضہ نقول، بلکے ندارند، گاہے افسانہ اور یا و داستان زیخا و صد زہرہ و تذکرہ شجرہ، به نہی تقریر کندو ساحت عصمت حضرات رسالت، و جنود صدیت، عیاذ بالله آلودہ عیسے کند، و گاہے حادثہ جمل و واقعہ صفين، و مشاجرات صحابہ، و محاورات امہات المؤمنین بہ نوعے و انہما نید کہ معاذ اللہ بہ تنقیص مقام واجب الاعظام یکے ازانہ پیلو زند، آنجائہ دین کہ خدائے ایشان را بہر حمایت سنن و نکایت فتن بر پا ساختہ است، در مقام تفصیل زبان بہ تضعیف و تنزیف آں اقوال سخیف میکشایند، و در محل اجمالی باعتماد اصول، و صحابہ نقول، پیو سنن و از خوض خانقاہ و کشاکش ایں و آں پاک بر جستن میگویم، هم بر سبیل مدارت<sup>1</sup> و اینا کہ میگویم، هم بر سبیل مدارت

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب البيوع باب تفسیر المشبهات قریبی کتب خانہ کراچی ۲۷۵/۱

عنان، خاموش کرنے کے لئے کافی ہے۔ ورنہ تم اس مسئلہ کے متعلق کیا کہو گے جس کوئہ صرف ایسے لوگ ہی اکیلے بیان کر رہے ہیں بلکہ بہت سے ٹرق و آسانید سے مردی ہے، کئی اماموں نے تخریج فرمایا ہے اور سلفاً و خلفاً ناقدین فن نے تشکیم کیا ہے اور تصدیق فرمائی ہے اور اس پر نصوصِ کچھ رہے واضح اور مضبوط دلیل قائم ہوئی۔

پھر مع ہذا خدا کی پناہ! کہ کتاب مواہب، شفاء، دلائل النبوہ، تحقیق الفزه، خصائص خیفری، روض سہیلی، خلاصۃ الوفاء، خصائص کبریٰ، سیرت شامی، سیرت حلبی ایسی کتابیں و دیگر تصنیف ائمہ دین رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس قسم کی غیر معتر کتابوں میں شمار ہوں اور محمد بنین کے نزدیک بے اعتماد و بے اعتبار ہوں۔

ان حضرات (اللہ ان کی کوشش کو سعی مشکور اور جزاً کو جزاءً کامل بنائے) نے کیسی عمر میں تنقیح و تقدیم اور تصحیح و تسویہ میں گزار دیں اور کتنی بے شمار ایسیں کتب سیرت طیبہ کی تنظیف و ترصیف اور تالیف و تصنیف میں دُودِ جران اور خون چکرہ پیا، یہی حضرات گرامی شان ہیں جنہوں نے لا عبر قبیاقال المؤرخون (مؤرخون کے قول کا کوئی اعتبار نہیں) کا حکم صادر فرمایا ہے۔

اگر مقصود اطلاق ہے جیسا کہ عزیزوں کا

عزیزاً وارخائے عنانِ کل میکند ورنہ خود چہ میکوئی ازمیلہ کہ تن تہاہمیں قسم مردمان بہ ذکر ش افراد و ارندہ طرق عدیدہ مردی آمدہ، و چند ائمہ آزادہ تخریج کر دہ، ناقدان فن سلفاً و خلفاً نے کنارِ سلمناً و آغوشِ صدق اگرفتہ، و دلیلے باہزار نصوصِ متکاشرہ برائے قیام پذیر فتہ۔

مع ہذا حاشا کہ امثال مواہب، و کتاب الشفاء، و دلائل النبوہ، و تحقیق الفزه، و خصائص خیفری، و روض سہیلی، و خلاصۃ الوفاء، و خصائص کبریٰ، و سیرت شامی، و سیرت حلبی وغیرہ کتب ائمہ دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ در خصائص و فضائل و سیر و شماکل حضور پیر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ، علیہ تصنیف کر دہ اند، در سلک ایں پنھیں کتب مختصر، و تزد مدین از پایہ اعتبار ساقط باشد۔

ایمان کہ خدا سعی اینا مشکور و جزاً آنا موفور گرداند، چہ عمر ہا کہ در تنقیح و تقدیم، و تصحیح و تسویہ، بر سر بر دہ اند، و چہ شہباک در تنظیف و ترصیف، تالیف و تصنیف، دُودِ جران و خون جگر خور دہ، و ہم ایشان دکہ ب قصیہ لا عبر قبیاقال المؤرخون لب کشادہ اند۔

اگر مقصود اطلاق است، چنانکہ خاطر

دل اسی کا مشتق ہے، یا رب! پھر تو شاندار کی ساری محبت بر باد و ضائع ہو گئی اور یہ تمام جانگداز کوششیں کوئی رنگ لائیں نہ کوئی عزت پاسکیں۔ پھر ان ائمہ کرام کو کیا نظر آیا کہ یہ سارا وقت بے سود ضائع کر دیا اور اس بے فائدہ چیز کو اپنے اوقات کا شمرہ اور حسنات کا نتیجہ شمار کر بیٹھے۔

در اصل بات یہ ہے کہ جب تو نے رخ محبوب دیکھا ہی نہیں، خوبصورت عجیب پائی ہی نہیں تو تو حسن محبوب کے متعلق یہ ہو دہ گوئی مت کرو واللہ الہادی لقمع الفساد و قلع الفتنه (اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے فتنوں اور فساد کے خاتمه کی)

قولہ پس اہل علم کے لئے چاہے کہ اس کا ثبوت از روئے سند صحیح اخ.

اقول: تمہارے سوال کے جواب سے پہلے ہم چند سوال پیش کرتے ہیں، صاحب علم خود جواب دیں۔ "لَتُبَيِّنَنَا لِلنَّاسِ وَلَا تُكْبِرُونَ" <sup>۱</sup> (کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا) اور بے علم اہل علم سے استفادہ کریں "فَسَلُّوا أَهْلَ الْكِرْبَلَةِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" <sup>۲</sup> (تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو)

سوال (۱) دو گواہوں کے سامنے زید نے ہندہ

عنیزیز اہل مشتق ست، یا رب، مگر محنت ایسا یکدست بر بادرفتہ باشد، واں ہمہ کا وکا وجہا کا رنگ نداہ آبے نہ گرفتہ، علی ہذا ایشان راچہ روئے نمود کہ باوجودنا بہبود و انعدام سودا ایں ہمہ وقت رائیگان کر دند، و آں حاصل چھاصل و طائل لاطائل راشمہ اوقات، و نجہ حسنات شمر دند۔

مگر سخن آنست کوچوں روئے سلے ندیدہ، و بوئے سلے نشیدہ، آخر در حسن سلمی چانہ بے جا مزن واللہ الہادی لقمع الفساد و قلع الفتنه۔

قولہ پس ہر کرا ازاہل علم ثبوت آں از روئے سند صحیح اخ۔

اقول: پیش از جواب سوال شما چند بجناب شہادارم ہر کہ داند خود بگوید "لَتُبَيِّنَنَا لِلنَّاسِ وَلَا تُكْبِرُونَ" <sup>۱</sup> ورنہ از دانندگان پر سد کہ "فَسَلُّوا أَهْلَ الْكِرْبَلَةِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" <sup>۲</sup>۔

(۱) زید ہندہ را بشادت دو مرد فاسق

<sup>۱</sup> القرآن الکریم / ۳ / ۱۸۷

<sup>۲</sup> القرآن الکریم / ۱۶ / ۲۱۳

<p>کے ساتھ نکاح کیا اور صحیح خلوت سے پہلے ہی اسکو چھوڑ دیا اور صاف مہر بھی نہیں دینا چاہتا، کہتا ہے کہ میرے نکاح کے لئے گواہ عادل چاہئے۔</p>	<p>بزنی گرفت، صباح نکاح خلوت ناکرده، ترک زن میگوید، و نیمہ مہر دادن نے خواہد، کہ نکاح مر اشہود عدوں مے بایسٹ۔</p>
<p>(۲) مطلع برآ لوڈ تھا ایک مرد نے روزہ کے چاند دیکھنے کی گواہی دی، صحیح کے وقت زیدہ تھے میں حقہ، منہ میں پان ڈال کر باہر آیا کہ مجھے ایک مرد کی گواہی کافی نہیں دو مردوں کی شہادت چاہے۔</p>	<p>(۲) یوم غیم مردے بہ رویت ہلال صوم گواہی داد، صبح دم زید قلیان بدست و پان در و دہان برآمد، کہ مرالا اقل شہادت دو مرد باید۔</p>
<p>(۳) عمر و زید دعوے مالے کرد، وبشادت دو عدل اثبات نمود، زید گوید نپذیرم تا چار گواہ نہاشند۔</p>	<p>(۳) گواہاں در امثال و نکاح شہادت بر تسامع دادند، زید گفت مر اشہود معاونہ در کارست۔</p>
<p>(۴) گواہوں نے وقف اور نکاح ایسے امور کے متعلق شنید پر گواہی دی، زید کہتا ہے مجھے عینی گواہ چاہے۔</p>	<p>(۴) بکر برادر زید مرد، زنش ناز نین از و خترے دارد شیریں، زید مے خواہد کہ شیریں را عروس خانہ خود نہمايد، ناز نین گفت ستمگار آخر از خدا شترے کہ برادر زادہ تست، زید مے گوید مراد چہ داناند کہ قالب شیریں ہم از نطفہ بکر تحریر یافتہ است، آخر ہر دعوی را بینہ لازم، انجا گواہ کہ بینہ کدام؟ ناز نین گفت بر بستر برادرت زائید</p>
<p>تیرے بھائی کے بستر پر پیدا ہوئی</p>	

<p>ہے الولد للفراش (بچہ فراش کے لئے ہے) اس نے کہا یہ خبر واحد ہے مجھے خبر متواتر چاہے۔</p> <p>(۶) سعید نے باجماعت نماز ادا کی مگر زید نے اقتداء نہ کی اور یہ کہتا ہوا بابر نکل گیا کہ اس امام نے صرف وضو کیا ہے، مجھے وہ امام چاہے جو ہر حدث سے غسل کرے۔</p> <p>(۷) مخصوص آیات کے خواص اور خاص سورتوں کے فضائل زید کو احادیث صحیح سے سنائے گئے کہ دیکھ یہ کیساتر و تازہ چہنستان اور خوبصورت گلستان ہے۔ اس نے کہا ایک کانٹے برادر نہیں جب تک بخاری نہ لائے یا میں نہیں مانتا جب تک میں مسلم میں نہ پڑھ لوں۔</p> <p>(۸) بطور حالہ زید کو سند مالک عن نافع عن ابن عمر گفت بہ یقین خرم گئی، اس نے کہا میں سند معفن پر اعتماد نہیں کرتا سند متصل بہ سانع ہونی چاہیے۔</p> <p>(۹) زید گوید مفتی اطراف ریاست فلانی را اجازت مداخلت میں فتویٰ دینے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کہا گیا کہ بہت بڑے عالم میں۔ اس نے کہا لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں مگر فقیر نے اس بات کو کسی کتاب میں جو لاکوٰ اعتماد ہوا اور اہل اسناد نے</p>	<p>الولد للفراش گفت آhadam نے شاید، حدیثے متواتر باید۔</p> <p>(۶) سعید با مردم ان نماز میکردا، زید اقتداء ناکردا، برے گردد، کہ او ہمیں تہاوض ضو کردا است، و من امامے خواہم کہ از ہر حدیث غسل آرد۔</p> <p>(۷) بر زید از خواص آیات معینہ و فضائل صور مخصوصہ احادیث صحاب خواندن کہ بسیں چنان چھنے ست شاداب و گلشنے با آب و تاب گفت بخارے نیر زدتا بخاری نیار دیا مسلم ندام تادر مسلم نخوانم۔</p> <p>(۸) زید را گفتند مالک عن نافع عن ابن عمر گفت بہ یقین خرم کہ معنعن سنت نہ متصل بسماع۔</p> <p>(۹) زید گوید مفتی اطراف ریاست فلانی را اجازت مداخلت در معابر ک شریعت کہ داد گفته شد علیے دارند و خلیلے بزرگو ارند، گفت مردمان چنیں و چنان گویند، اما فقیر ایں سخن را در کہتا ہے کہ لا اک اعتماد باشد و اہل اسناد</p>
---	---

<sup>۱</sup> صحیح البخاری کتاب الخصومات باب دعوی الوصی للہیت قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۳۲۶، صحیح مسلم کتاب الرضاع باب الولد للفراش قدیمی کتب خانہ کراچی ۱/۷۰۰، جامع الترمذی ابواب الرضاع باب الولد للفراش امین گپنی دہلی ۱/۱۳۸، سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق باب الولد للفراش آفتاب عالم یہ رسلاہور ۱/۳۱۰

اس کو بہ سند صحیح بیان کیا ہو، نہیں دیکھا اور نہ صحاح و سنن مروجہ میں کسی سے سنا اور جو کچھ تیرھویں صدی کے لوگ صرف زبانی دلغوی کرتے ہیں، اس کا اعتماد جس طرح اہل حدیث کو ہے معلوم ہی ہے۔

(۱۰) مناقب و فضائل کے متعلق ہزاروں حدیثیں حسن و صالح زید کو سنائی گئیں، وہ شوخ چشم کہتا ہے کہ صحت اسناد کے سوا خرط القتاد ہے (یعنی بے سود اور نقصان دہ ہے)

ان دس صورتوں کے بارے میں علمائے کرام (اللہ تعالیٰ ان کی روشن کامیابی سے مدد فرمائے) سے فتویٰ مطلوب کہ ان تمام صورتوں میں زید شرعِ مطہر کے نزدیک غلطی پر ہے یا نہیں اور اس کے مطالبات و مواخذات بے جا و فضول ہیں یا نہیں؟ بیان فرماؤ اجر پاؤ گے۔

فی الحال اگر علمائے کرام کی طرف سے حکم ملے کہ زید زیادتی کرتا ہے، شریعت پر تجاوز کرتا ہے، جوازِ نکاح کے لئے عدالت شہود ضروری نہیں۔ بادل ہوں تو ایک سے زیادہ گواہ لازم نہیں۔ مالی معاملہ میں دو سے زیادہ گواہوں کا مطالبہ درست نہیں۔ وقف و نکاح میں شہادتِ عینی کا لزوم بھی نہیں۔ فراش بثوتِ نسب کے لئے کافی ہیں، اور حلال و حرام کے لئے آحاد کافی ہیں۔ ہر حدث سے غسل کیوں ضروری ہے؟ صرف صحیحین کی احادیث میں قبول بند نہیں۔ مالک و نافع تدليس سے بری ہیں لہذا

آل رابہ بہ سند صحیح بیان کردہ باشد، ندیدہ و نہ در صحاح و سنن مروجہ از کسے شنیدہ، و آنچہ اہل صدی سیز دہم بمحبود دعوے بر زبان آرداً اعتماد آں چنانچہ اہل حدیث راست معلوم۔

(۱۰) از مناقب رجال و فضائل اعمال ہزار در ہزار احادیث حسان و صالح بر زید خواندن شوخ چشم گوید بے صحت اسناد خرط القتاد۔

دریں چُورَدہ گانہ از حضرات علماء ایدھم اللہ تعالیٰ بالغوز الہبین، استقلاء میر و کہ دریں ہر ہمہ صور زید نزد شرع مطہر برخطواں چنیں مطالبه و مواخذہ اش محض فضول و بیجاست یانہ؟ بَيَّنُوا أُثُرَجَوْا۔

حالیاً اگر از خدمت علماء فرمان رسد کہ زید فضولی میکنند، و در شرع مے افزاید، نہ جواز نکاح راعدالت شہود در کار، نہ در یوم غیم تقدّد نظار، نہ در معاملہ مال بیش از دو گواہ، نہ در وقف و نکاح شہادت نگاہ، فراش ثبت نسب فرزند، و در حلال حرام آحاد بسند، و از ہر حدث غسل چہ ضرور، و قبول در صحیحین غیر محصور، مالک و نافع از تدليس بری، پس عنعنة ایشان چوں سماع جلی، حدیث در علم

اُن کا اسنادِ معمتن سماعِ جلی کا حکمر کھتائے ہے۔ فلاں کے علم ثابت کرنے کے لئے حدیث نہیں آتی۔ مناقب و فضائل کے لئے حدیث صحیح کا موجود ہونا ضروری نہیں، پس اومردہ دل زید! یہ کیامافت کا بکواس اور جوشِ جنوں کہ توہر جگہ بے ضرورت دلیل مانگتا ہے یا قدرِ مطلوب سے زیادہ طلب کرتا ہے۔ تیرے یہ تمام مطالبات اپنے ہی مَنْ گھڑت اور نامقبول ہیں اور مجیبِ مطالب تیری خواہشات کے مطابق جواب کی مشقت برداشت کرنے سے بے نیاز ہے۔ تم الجواب واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

اے عزیز! اب اس جواب سے اپنے سوالوں کا جواب دریافت کر کے ہی مطالبات انہی مطالبات کی مثل ہیں اور ہی ناگفتنی با تین اور نالائق طلب مطالبه ایک دن تجھے زید کی جگہ بٹھائے گا۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، پچ کہنا اور بہانہ نہ بنانا، کیا تم نے کتابوں میں دیکھایا علماء سے سُنا کہ ایسے وسیع تر مقامات میں حسن و صالح حدیث بیکار ہے اور صحت کے سوا کوئی چیز درکار نہیں اور علمائے کرام کے منقولات کا کوئی درجہ و مقام نہیں؟ اور قبولِ انہم کچھ وزن نہیں رکھتا؟ ورنہ غیر لازم کا الزام اور یقین جازم کا رد، کیا مطلب؟ عجیب ذوق ہے کہ سب کو ٹھکرایا۔

(ترجمہ شعر) "اگر تو نہیں جانتا تو یہ ایک مصیبت ہے اور اگر تو جانتا ہے تو مصیبت بہت بھاری ہے۔"

فلانی نیا یہ و مناقب و فضائل راصحت نیا یہ یا زیداً ایس چہ ہرچہ زہ چاگی و جوشِ دیوائی گی ست کہ ہر جاخو استنی سے خواہی، و در قدرِ مطلوب افزائی ایس مطالیہ ہائے از پیش خود تراشید ہات، ز نہار ناپذیر فتنی، و بے چارہ مطالبان از بخش اتباع ہوایت غنی۔

تم الجواب واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

عنیزا! آنگاہ ازیں جواب، جواب سوال خودت دریاب، کہ ایں طلب عنیزاں نیز بہمیں طلبہ مانندہ واں ناگفتنی گھقتن، ونا جستنی جستن، روزے بروز زیدت شاند۔

سخن پر سمت راست گو و بہانہ مگر تو وخدائے تو درکتب دیدہ یا از علماء شنیدہ کہ در ہچھو محل و سیع المجال حسن و صلاح بکار نیا یہ، وغیر از صحت چیزے نشاید، و نقول علماء پائے ندارد، و قبول انہم بارے نیارد، ورنہ الزام غیر لازم، وردیقین جازم، چہ قیامت ذوق یافتہ کہ سر از ہمہ تافہ نہ ع

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتَلَكَ مَصِيبَةً  
وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَأَلْمَصِيبَةُ أَعْظَمٌ<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض فصل فی تفضیله بالمحبة والخلة مرکز اہلسنت گجرات ہند ۲۰۲۸/۲

اور یہ ہر گز نہ سمجھیں کہ میں نے اتنی تفصیلی گفتوگو اس لئے کی ہے کہ حدیث کو ضعیف جانتا ہوں بلکہ امام جحت سیدنا عبد اللہ بن مبارک کی تصانیف سے واقف نہیں ہوں ورنہ اس طرح مگان نہیں کہ خلاف خوش ہو۔

وزنہارندانی کہ ایں بال و پرے کہ مے فشنام از انت کہ حدیث راضیعیف میدانم بلکہ بر تصانیف امام جحت سیدنا عبد اللہ بن مبارک و قوف نیافتہ ام ورنہ گمان نہ آچنان است کہ مخالف راجائے شادی باشد۔

سیدی حضرت عبد اللہ بن مبارک عظیم ترین اماموں اور تبع تابعین سے ہیں، ان کے اکثر مشائخ یہی تابعین و صحابہ ہیں یا تبع اور ان کے کوائف و حالات کی اچھی طرح جانچ پڑتاں کی، اور جس طرح کہ تم خود جانتے ہو اس زمانہ میں عدالت غالب تھی، اسی وجہ سے ان کے استاد سیدنا امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقی بالقبول کی ہے اور ان کا یہ تلقی بالقبول کا اقدام پوری دیا نہداری اور کامل انتراخ صدر کے ساتھ ہے، اندھی تلقید نہیں ہے۔

سیدی عبد اللہ از اعظم ائمہ و تبع تابعین است، غالب مشائخ و رجاش ہمیں تابعین و صحابہ باشد، یا تبع کہ بایشان در خور و آزمودن احوال شاں کرد، و در اس زمان چنانکہ دانی غالب عدالت یود، ولہذا استاذ سیدنا امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ به اصلاح عدالت قائل شدہ است، و خود ایں ناقدین کہ تلقی بالقبول کردہ اندھی بدبی بری کہ نادیدہ را رفتہ اند۔

جان برادر! یہ جو تمام ائمہ کرام بیک زبان نفی ظل کی گواہی دیتے ہیں، اگر ان میں یا ان کے ہمسر ائمہ سے کوئی بات تو اپنے مزعموں کے مطابق پاتا تو وہ کون سا شور جو برپا نہ کرتا، بلکہ آسمان پر چڑھاتا اور پھولانہ سماتا، ہر ایک کے آگے آہ وزاری کرتا کہ ہائے یہ کیا ظلم ہے، ایسا امام نفی ظل کا قائل نہیں، نہ اس کو قبول کرتا ہے نہ اس کی طرف کان لگاتا ہے لہذا اس وقت ظلم تیری طرف سے ہے، خدار الاصاف کر اور تکبر

جان برادر! تو دایمان تو ایں ہمہ ائمہ اولی الایدی والا بصار کہ یک زبان بر نفی ظل گواہی دہند، پناہم بخداۓ اگر سخن یکے از بیان یا امثال ایشان بر طبق مزعم خودت یا بیچ غلغلا کہ عکنی وکله بر آسمان افگنی ور خویشتن بالی و پیش ہر کے نالی کہ ہے اپچہ ستم ست، امامے چنان از نفی ظل بر کر ای وفلانے تن نبی دہد، و گوش نبی نہد، حالیا کہ ستم از تست خدار ادے نصف دہ و کلاہ غرور از سر ہمنہ،

کی ٹوپی سر سے اتار، کیوں ان ائمہ کرام کی راہ پر نہیں چلتا اور اتفاق سے دور کیوں بھاگتا ہے حدیث مطلوب ہے تو حاضر، اگر نقول چاہیں تو نقول واضح ہیں، دلیل کی طلب ہے تو دلیل موجود، لیکن اگر نقیض کی خواہش ہے تو وہ معدوم ہے۔ تواب کون سا پھر راستہ میں پڑا ہے، کیوں تسلیم کا مقام خالی دیکھتا ہوں، خلاف کا چہرہ خوش، انصاف کا چہرہ شرم و حیاء سے زرد، اور کاغذ کی پیشانی شرمناک باتوں سے سیاہ، خدا کی پناہ! لیکن قادر مطلق جل و علا جس نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا اور خور شید در خشنندہ و بد بر خشنده کو ان کی سرکار کا ادنیٰ گدرا گز بنایا، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے سرو جانقرا کو بغیر سایہ کے پورش فرمائے اور وہ شاخ گل جس کے ہر رگ و برگ پر ہزاروں چمنستان قربان ہوں، پاکیزگی کہ نہر پر گل زمین لاطافت سے، ہر قسم کی کثافت سے پاک پیدا ہو۔

اور دور نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر جس قدر آپ کا حسن، جمال، مرتبہ، بزرگی، فیاضی، عطا، عزت، کمال، نعمتیں، نوازش، افعال میں رشد، اعمال میں محنت، اقوال میں سچائی، تمام خصلتوں میں حسن اور عادات میں پسندیدگی ہے، اور ہم پر بھی جو آپ کے نعلیں مبارک کو بوسہ دینے والے اور آپ کے دامن کو تحفمنے والے ہیں۔ اے معبد، برحق

کہ چاراہ ایشان نبی سپری، واز اتفاق دامن کشاں میگذری، حدیث خواہی؟ حدیث حاضر، نقول جوئی؟ نقول ظاہر، دلیل طلبی؟ دلیل موجود، نقیض جوئی؟ نقیض مفقود، باز کدامیں سنگ در رہ، و کبک در موزہ است کہ جائے تسلیم سبزے بینم، وروئے خلاف سرخ، و چہرہ انصاف زرد، و جین قرطاس زنا گھنستیسا سیاہ، عیاذ بخداۓ مگر آنکہ مصطفیٰ را صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از نور خود ش آفرید، و مہر نیم روز و ماہ نیم ماہ را کینہ گدائے سرکارش گردانید، نتواند کہ سرو جانقراۓ مارا بے سایہ پرورد، و شاخ گلے کہ ہزار چمنستان جاں فدائے ہر رگ و برگ او باد، از گل ز مین لاطافت، بر جو تبار نظافت، پاک از ہمه کثافت سر بر اور د۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آله قد رحسه و جمآلہ وجاهہ و جلالہ وجودہ و نوالہ و عزہ و کمالہ و نعمہ و افضلہ و رشده فی افعالہ و جهاد فی اعمالہ و صدقہ فی اقوالہ و حسن جمیع خصالہ و محمودیۃ فعالہ و علینا  
معشر الملثین لنعمالہ و المتعلقین باذیالہ

ہماری دعا کو قبول فرماد۔

یہ چند سطح تھے جس طرح خدا نے چاہا، غم و اندوہ کے اجتماع اور امراض و عوارض کے ازدحام کے باوجود دو جلوسوں میں تحریر کی گئیں، دل چاہتا ہے کہ زلفِ خن و سری لکھی سے سنواروں، مگر کیا کروں اس اندھی بستی میں وطن سے دور ہوں، کتابیں پاس نہیں، یہاں سوائے شفاء نسیمِ الریاض، مطالع المسرات اور بعض کتب فقہ کے کوئی کتاب موجود نہیں، ورنہ آنکھ والے دیکھتے جو دیکھتے۔

لیکن اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ فرمائے اسی قدر سے اس کا سینہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں، بے شکِ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ آسان ہے، بے شکِ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ نصف جمادی الآخری ۱۲۹۹ھ کو مکمل ہوا۔ (ت)

امین اللہ الحق امین!

این ست سطرے چند کہ با عمومِ علوم، و جوومِ ہموم، و تراکم امراض و تلاطم اعراض، یہ رنجی کہ خدائے خواست، درد و جلسہ گیسوآ راست، من فقیری خواستم کہ زلفِ خن راشانہ د گر کشم، اما چہ کشم کہ دریں کورداہ ازو طن دور، وازن کتب مہبور افقادہ ام، ایں جائز، شفاء و نسیمِ الریاض، مطالع المسرات و بعض کتب فقہ تیچک پر ستم نیست، ورنہ اولی الانتظار دیدنے آنچہ دیدنے۔

ولکن من یرد اللہ خیرہ یشرح بہذا القدر صدرۃ و ما ذلک علی اللہ بعزیز ان ذلک علی اللہ یسیر، ان اللہ علی کل شی قدری، و کان ذلک لمتصف جمادی الآخری عام تسع و تسعین بعد الالف والمائتين۔

#### رسالہ

هدی الحیران فی نفی الغی عن سید الاکوان

ختم ہوا